


www.KitaboSunnat.com

اللہ
رسول
محمد

تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ



نفس اک اُردو بازار کراچی طبعی

علامہ حفظہ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر دمشقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

وَذَكَرَهُمْ بِأَيْدِمِ اللّٰهِ اِنْ فِى ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ

تاریخ ابن کثیر

شہرہ آفاق عربی کتاب

الْبِدَاةُ اِلٰى اِنْتِهَآئِهَا

کاردر ترجمہ

جلد نمبر ۱۳

یہ حصہ ۵۸۹ھ سے ۶۹۷ھ تک کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں بنو عباس کی حکومت کے زوال کی دردناک داستان کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف نے اس عظیم حکومت کی کیسے اینٹ سے اینٹ بجادی۔ علاوہ ازیں اعیان و مشاہیر اسلام کے حالات بھی مختصر بیان کیے گئے ہیں۔

تصنیف * علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر (۷۰۱ھ-۷۷۴ھ)

ترجمہ * مولانا اختر فتح پوری

نفسِ اکیسی
اُردو بازار کراچی طبعی

البدایة والنہایة

مصنفہ علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر کے حصہ سوم چہارم کے اردو ترجمے کے
جملہ حقوق اشاعت و طباعت، تصحیح و ترتیب و تہویب قانونی بحق

طارق اقبال گاہندری

مالک نفیس اکیڈمی کراچی محفوظ ہیں

www.KitaboSunnat.com

تاریخ ابن کثیر (جلد نمبر ۱۳)	نام کتاب
علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر	مصنف
مولانا اختر فتح پوری	ترجمہ
نفیس اکیڈمی - کراچی	ناشر
جنوری ۱۹۸۹ء	طبع اول
آفسٹ	ایڈیشن
۳۰۸	صفحات
۰۲۱-۷۷۲۲۰۸۰	ٹیلیفون

تعارف جلد سیزدہم

الہدایہ والنہایہ کی تیرھویں جلد کا ترجمہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہمیں ایک گونہ مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ

اب اس کے بعد اس کی آخری جلد ہی کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے۔ www.KitaboSunnat.com

یہ جلد ۵۸۹ھ سے ۶۹۷ھ کے حالات پر مشتمل ہے اس میں بنو عباس کی حکومت کے زوال کی دردناک داستان کا بیان ہے کہ کس طرح تاتاریوں نے اسے تاخت و تاراج کیا اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات نے اس عظیم حکومت کی کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی جس کا مقابلہ روم و ایران کی سلطنتیں بھی نہ کر سکتی تھیں عروس البلاد بغداد جو دنیا بھر کے علماء شعراء خطباء حکما اور فضلاء کا مرکز تھا یوں برباد ہوا کہ گویا یہاں اس کا وجود ہی نہ تھا اس بد قسمت قوم کو جب بھی نقصان پہنچا ہے اپنوں ہی کے ہاتھ سے پہنچا ہے خلیفہ معتمد کے وزیر ابن علقمی نے اپنے چند رشتہ داروں کے معمولی سے نقصان سے برافروختہ ہو کر جس طرح بنو عباس کی چار سو سالہ مضبوط اور شاندار حکومت کا ستیاناس کروایا یہ تاریخ کا ایک عبرت ناک باب ہے۔ اور مسلمان قوم کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ غداروں سے ہوشیار رہے بہت سے لوگ بھیڑوں کے لباس میں بھیڑیوں کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ جو بظاہر صاف نظر آتے ہیں اندر سے سانپ ہوتے ہیں اور وہ جو بظاہر ہستیاں بنے ہوتے ہیں حقیقت میں پتیاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مسلمان قوم کو محفوظ فرمائے۔

علاوہ ازیں اس جلد میں اعیان و مشاہیر اسلام کے حالات کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جن کا مطالعہ واقعہ

ازدیاد ایمان کا موجب ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے قارئین کے لیے اس کا مطالعہ بڑی دلچسپی کا موجب ہوگا۔

الہدایہ والنہایہ کی یہ جلد مسلمانوں کے باہمی انتشار و خلفشار کا مرقع ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پاؤں میلے لیکن خود ہی اوج شریا سے تحت العری میں جا گرے۔

اللہ تعالیٰ اس امت کو باہمی انتشار و خلفشار سے بچا کر اتحاد و اتفاق کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین

اختر فتح پوری

۱۰-۱۲-۸۷



فہرست البدایہ والنہایہ جلد نمبر ۱۳

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۳۵	بغداد میں طالبیوں کا نقیب سید شریف	23	۲۳	آپ کا ترکہ اور مختصر حالات	1
۳۶	الست عذرا بنت شہنشاہ	24	۲۵	باب	2
۳۷	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	25	۲۶	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	3
//	العوام بن زیادہ	26	//	امیر بکتھر صاحب خلاط	4
//	قاضی ابوالحسن علی بن رجاء بن زہیر	27	//	اتابک عز الدین مسعود	5
۳۸	امیر عز الدین حرویلی	28	//	جعفر بن محمد بن فطیرا	6
//	حاکم مصر عزیز کی وفات	29	//	یحییٰ بن سعید غازی	7
۴۰	سلطان ابو محمد یعقوب بن یوسف	30	//	سیدہ زبیدہ	8
۴۱	امیر مجاہد الدین قیما ز الرومی	31	۲۷	شیخ صالحہ فاطمہ خاتون	9
۴۲	ابوالحسن محمد بن جعفر	32	۲۹	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	10
//	شیخ جمال الدین ابوالقاسم	33	//	احمد بن اسماعیل یوسف	11
۴۳	سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ	34	//	ناظم شاطبیا بن الشاطبی	12
//	نظام الدین مسعود بن علی	35	۳۱	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	13
۴۴	ابوالفرج بن عبدالمعتم بن عبد الوہاب	36	//	علی بن حسان بن سافر	14
//	محمد الدین فقیہ	37	۳۲	مؤید الدین ابوالفضل	15
//	امیر صارم الدین قایماز	38	//	الفخر محمود بن علی	16
//	امیر لؤلؤ	39	//	ابوالفتاح محمد بن علی	17
//	شیخ شہاب الدین طوسی	40	//	فقیہ ابوالحسن علی بن سعید	18
۴۵	شیخ ظہیر الدین عبدالسلام فارسی	41	//	شیخ ابوالشجاع	19
//	شیخ علامہ بدر الدین ابن عسکر	42	۳۵	سیف الاسلام طغتلکین	20
//	شاعر ابوالحسن	43	//	امیر کبیر ابوالہیجا المسین الکردی	21
//	ابوعلی عبدالرحیم بن قاضی اشرف	44		قاضی بغداد ابوطالب علی بن علی بن ہدیہ اللہ بن محمد	22
۴۹	عبدالرحمن بن علی	45	//	بخاری	

46	علاء کاتب اصہبانی	۵۲	73	ابوالقداء اسماعیل بن برتیس سخاری	//
47	امیر بہاؤ الدین قراقوش	//	74	ابوالفضل بن الیاس بن جامع اربلی	۶۶
48	مکتبہ بن عبداللہ المستجیدی	۵۳	75	ابوالسعادات اٹلی	//
49	ابومنصور بن ابی بکر شجاع	//	76	ابوعالب بن کمونہ یہودی	//
50	ابوطاہر برکات بن ابراہیم بن طاہر	۵۴	77	شرف الدین ابوالحسن	۶۷
51	قاضی ابن الزکی	//	78	القسی عیسیٰ بن یوسف	//
52	خطیب الدروئی	۵۵	79	ابوالغنائم المرکیہ بغدادی	۶۸
53	شیخ علی بن علی بن علیش	//	80	ابوالحسن علی بن سعاد الفارسی	//
54	الصدر ابوالثنا حماد بن عبداللہ	//	81	خاتون	//
55	نیفشابنت عبداللہ	۵۶	82	امیر مجیر الدین طاشکین المستجیدی	//
56	ابن المستجب شاعر ابوالسکر	//	83	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۷۰
57	ملک غیاث الدین غوری	۵۷	84	عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر	//
58	امیر علم الدین ابومنصور	//	85	ابوالحزم مکی بن زیان	//
59	قاضی الضیاء الشہر زوری	//	86	اقبال خادم	//
60	عبداللہ بن علی بن نصر بن حمزہ	//	87	اس سال وفات پانے والے اعیان	۷۴
61	ابن النجاء الواعظ	۵۸	88	امیر بنیامین بن عبداللہ	//
62	زمرہ خاتون	//	89	حنبلی بن عبداللہ	//
63	ابوالقاسم بہاؤ الدین	۶۱	90	عبدالرحمن بن عیسیٰ	۷۵
64	حافظ عبدالغنی مقدسی	//	91	امیر زین الدین قرابا الصلحی	//
65	ابوالفتوح اسعد بن محمود العجلی	۶۲	92	عبدالعزیز طیب	//
66	البنانی شاعر	۶۳	93	العقیف بن الدرعی	//
67	ابوسعید الحسن بن خالد	//	94	ابومحمد جعفر بن محمد	//
68	العراقی محمد بن العراقی	//	95	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۷۷
69	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۶۴	96	ابوالفتح محمد بن احمد بن بختیار	//
70	ابوالحسن علی بن عتیز بن ثابت اٹلی	//	97	مصر کا قاضی القضاة	//
71	ابولنصر محمد بن سعد اللہ	۶۵	98	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۷۸
72	ابوالعباس احمد بن مسعود	//	99	ابویعقوب یوسف بن اسماعیل	//

100	ابو عبداللہ محمد بن الحسن	127	تخریج عبداللہ ابن صری
101	ابو اسحاق بن سنان	128	تقاضی السلسلیہ
102	ابن حروف	129	تاج الامناء
103	ابو علی یحییٰ بن الرقیع	130	النسایہ الطبری
104	ابن اثیر مؤلف جامع الاصول والنہایہ	131	مشہور طبیب المہذب
105	المجلد المظہر زوی الخوی الخوارزمی	132	الجزوی مؤلف المقدمۃ القانون
106	الملک المعنی	133	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
107	مسعود بن صلاح الدین	134	ابراہیم بن علی
108	امام فخر الدین رازی	135	المرکن عبدالسلام بن عبدالوہاب
109	شاہ موصل نور الدین کی وفات کا بیان	136	ابو محمد عبدالعزیز بن محمود بن المبارک
110	شیخ ابو عمر	137	حافظ ابو الحسن علی بن الانجب
111	شیخ الحدیث ابن طبرزد	138	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
112	سلطان ملک عادل ارسلان شاہ	139	حافظ عبدالقادر الرہادی
113	ابن سیکینہ عبدالوہاب بن علی	140	ابو جیبہ الاعمی
114	مظفر بن ساسیر	141	ابو محمد عبدالعزیز بن ابی المعالی
115	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	142	شیخ الفقہ کمال الدین مودود
116	ابن حمدون تاج الدین	143	زید بن الحسن
117	شاہ روم خسرو شاہ	144	العز محمد بن حافظ عبدالغنی مقدسی
118	امیر فخر الدین سرکس	145	ابو الفتوح محمد بن علی بن المبارک
119	الشیخ الکبیر المعمر الرحلہ ابو القاسم ابو بکر ابو الفتح	146	شریف ابو جعفر
120	قاسم الدین ترکمانی	147	ابو علی فرید بن علی
121	نجم الدین ایوب	148	ابو الفضل رشوان بن منصور
122	فقیہ حرم شریف	149	محمد بن یحییٰ
123	ابو الفتح محمد بن سعد بن محمد بیاجی	150	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
124	شیخ صالح	151	علامہ امام شیخ عماد
125	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	152	قاضی جمال الدین ابن الحرستانی
126	وزیر معز الدین ابو المعالی	153	امیر بدر الدین محمد بن ابی القاسم

//	جلال الدین حسن	180	۱۰۷	شجاع محمود المعروف بابن الدماغ	154
۱۲۸	شیخ صالح	181	//	شیخ صالح مابدہ راہرہ	155
//	خطیب مؤفق الدین	182	۱۰۸	فرنگیوں کے دمیاط پر قبضہ کرنے کا بیان	156
//	محمد ثقی الدین ابو طاہر	183	۱۱۰	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	157
//	ابوالغیث شعیب بن ابی طاہر بن کلیب	184	//	قاضی شرف الدین	158
//	ابوالعزیز شرف بن علی	185	//	عماد الدین ابوالقاسم	159
۱۲۹	ابوسلیمان داؤد بن ابراہیم	186	۱۱۱	ابوالیمن نجاح بن عبداللہ حبشی	160
//	ابوالمظفر عبدالودود بن محمود بن المبارک	187	//	ابوالمظفر محمد بن علوان	161
۱۳۰	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	188	//	ابوالطیب رزق اللہ بن یحییٰ	162
//	عبدالقاوڑ بن داؤد	189		چنگیز خاں کا ظہور اور تاتار کا دریائے جیحوں کو عبور کرنا	163
//	ابوطالب یحییٰ بن علی	190	//		
۱۳۱	قطب الدین عادل	191	۱۱۴	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	164
//	شیخ نصر بن ابی الفرج	192	//	ست الشام	165
۱۳۲	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	193	//	ابوالبقا مؤلف الاعراب واللباب	166
//	مؤفق الدین عبداللہ بن احمد	194	۱۱۵	حافظ عماد الدین ابوالقاسم	167
	فخر الدین بن عساکر عبدالرحمن بن حسن بن ہبہ	195	//	ابن الدردای	168
۱۳۳	اللہ بن عساکر		//	ابوزکریا یحییٰ بن قاسم	169
۱۳۴	سیف الدین محمد بن عروہ موصلی	196	۱۱۶	صاحب الجواہر	170
//	شیخ ابوالحسن روز بہاری	197	۱۲۳	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	171
//	رئیس عز الدین مظفر بن اسعد	198	//	ملک فاتر	172
//	خلیفہ کا حاجب امیر کبیر	199	۱۲۴	شیخ الشیوخ صدر الدین	173
۱۳۵	ابوعلی حسن بن الحسن	200	//	صاحب حمہ	174
//	ابوعلی یحییٰ بن المبارک	201	//	صاحب آمد	175
۱۳۷	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	202	//	شیخ عبداللہ الیونینی	176
//	ابوالکرم مظفر بن المبارک	203	۱۲۶	ابوعبداللہ الحسین بن محمد بن ابی بکر	177
//	محمد بن ابی الفرج بن برکتہ	204	۱۲۷	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	178
۱۳۸	ابوبکر بن حلبیہ الموازی بنی البغدادی	205	//	یاقوت کا تب موصلی	179

۱۵۰	دمشق و حلب میں الرواحیہ کا وقف کرنے والا	230	۱۳۸	احمد بن جعفر بن احمد	206
"	ابو محمد محمد بن داؤد بن محمود	231		خلیفہ ناصر بن محمد بن اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے	207
"	یا قوت یعقوب بن عبد اللہ	232	"	الظاہر کی خلافت	
۱۵۲	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	233	۱۳۹	الظاہر بن الناصر کی خلافت	208
"	چنگیز خان	234	۱۴۱	اس سال وفات پانے والے اعیان	209
۱۵۷	سلطان ملک معظم	235	"	ابوالحسن علی، ملقب ملک افضل	210
۱۵۸	ابو المعالی اسعد بن یحییٰ	236	"	امیر سیف الدین علی	211
"	ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد	237	"	شیخ علی کردی	212
"	ابوالنجم محمد بن القاسم بن ہبہ اللہ التکرینی	238	۱۴۲	الفخر ابن تیبہ	213
۱۶۱	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	239	"	وزیر بن شکر	214
"	ملک مسعود قیس بن کامل	240	"	ابو اسحاق ابراہیم بن المظفر	215
"	محمد السبکی النجار	241	۱۴۳	ابوالحسن علی بن الحسن	216
"	ابوالحسن علی بن سالم	242	"	الہمساجری	217
"	ابو یوسف یعقوب بن صابر حرانی	243	"	عثمان بن عیسیٰ	218
۱۶۲	ابوالفتوح نصر بن علی بغدادی	244	۱۴۴	ابو محمد عبد اللہ بن احمد الرسوی	219
"	ابوالفضل جبرائیل بن منصور	245	"	ابوالفضل عبد الرحیم بن نصر اللہ	220
۱۶۳	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	246	"	ابویعلیٰ الحسن بن علی	221
"	زین الامناء شیخ صالح	247	"	ابوبکر محمد بن یوسف بن الطباخ	222
"	شیخ ہیرم المارونی	248	"	ابن یونس، شارح التنبیہ	223
۱۶۶	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	249		خلیفہ الظاہر کی وفات اور اس کے بیٹے المستنصر کی	224
"	یحییٰ بن معطلی بن عبدالنور	250	۱۴۶	خلافت	
"	الذخوار الطیب	251	۱۴۷	المستنصر باللہ عباسی کی خلافت	225
۱۶۷	قاضی ابو خانم بن الحدیم	252		خلیفہ الظاہر کے بعد اس سال میں وفات پانے	226
"	ابوالقاسم عبدالمجید بن عجمی حلبی	253	۱۴۸	والے اعیان	
"	ابو اسحاق ابراہیم بن عبدالکریم	254	"	الجمال المصری	227
"	الحجد البہسنی	255	۱۴۹	المستند والی دمشق	228
۱۶۸	جمال الدولہ	256	۱۵۰	صاحیہ کے راستے میں الشبلہ کو وقف کرنے والا	229

257	ملک امجد	1۶۸	284	شیخ علی مصری	//
258	بہرام شاہ بن فروختشاہ بن شہنشاہ	//	285	شیخ عبداللہ دارسی	//
259	جلال الدین تٹاش	۱۶۹	286	حلب کا قاضی القضاة	۱۸۲
260	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۷۰	287	ابن الفاروق	//
261	حافظ محمد بن عبدالغنی	//	288	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۸۳
262	جمال عبداللہ بن حافظ عبدالغنی المتقدسی	//	289	ابن دجیہ	//
263	ابوعلیٰ الحسین بن ابی بکر المبارک	//	290	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۸۵
264	ابوالفتح المسعودی بن اسماعیل	//	291	ملک العزیز الظاہر	//
265	ابوبکر محمد بن عبدالوہاب	//	292	شاہ روم	//
266	حسام بن غزی	۱۷۱	293	ناصح حنبلی	//
267	ابوعبداللہ محمد بن علی	//	294	کمال بن مہاجر	//
268	ابوالشامہ محمود بن رابی	//	295	شیخ حافظ ابو عمر عثمان بن دجیہ	//
269	ابن معطلیٰ انخویٰ یحییٰ	۱۷۲	296	قاضی عبدالرحمن التکرینی	//
270	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۷۳	297	ملک کامل کی وفات کا بیان	۱۸۸
271	ابوالقاسم علی بن شیخ ابو الفرج بن الجوزی	//	298	اس کے بعد ہونے والے واقعات	۱۸۹
272	وزیر صفی الدین بن شکر	//	299	الجواد	//
273	ملک ناصر الدین محمود	//	300	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۹۰
274	قاضی شرف الدین اسماعیل بن ابراہیم	۱۷۴	301	محمد بن ہبہ اللہ بن جمیل	//
275	ملک مظفر ابوسعید کوبری	//	302	قاضی شمس الدین یحییٰ بن برکات	۱۹۱
276	ابولحسن محمد بن نصر الدین بن نصر	۱۷۵	303	شیخ شمس الدین بن الحوبی	//
277	شیخ شہاب الدین سہروردی	۱۷۶	304	شیخ صالح لمعمر	//
278	اسد الغابہ اور الکامل کے مصنف ابن اثیر	۱۷۷	305	صارم الدین	//
279	ابن المستوفیٰ اربلی	//	306	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۹۲
280	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۷۹	307	جمال الدین الحصیری حنفی	//
281	ابوالحسن علی بن ابی علی	//	308	وزیر جمال الدین علی بن حدید	۱۹۳
282	واقف الرکنیہ امیر رکن الدین منکورس الفلکی	//	309	جعفر بن علی	//
283	شیخ امام عالم رضی الدین	۱۸۰	310	حافظ کبیر زکی الدین	//

311	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۹۵	338	نقیب النقباء خطیب الخطباء	//
312	شاہ محض	//	339	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۱۰
313	قاضی الجوبلی شمس الدین احمد بن خلیل	//	340	شیخ تقی الدین ابو الصلاح	//
314	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۱۹۷	341	حافظ ابن النجار مؤلف تاریخ	۲۱۱
315	حضرت محی الدین ابن عربی	//	342	حافظ ضیاء الدین المقدسی	۲۱۲
316	قاضی نجم الدین ابو العباس	//	343	شیخ علم الدین ابو الحسن سنجابی	//
317	یاقوت بن عبداللہ امین الدین الرولی	//	344	ربیعہ خاتون بنت ایوب	//
318	شمس بن الخباز	۱۹۸	345	معین الدین الحسن بن شیخ الشیوخ	۲۱۳
319	کمال بن یونس	۱۹۹	346	سیف الدین قلج	//
320	صوفی عبدالواحد	//	347	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۱۵
321	ابو الفضل احمد بن اسفندیار	//	348	ملک منصور	//
322	ابوبکر محمد بن یحییٰ	//	349	الصائغ محمد بن حسان	//
323	بنداد کے قاضی القضاة	//	350	فقیر علامہ محمد بن محمود بن عبدالمنعم	//
324	مستعصم باللہ کی خلافت	۲۰۱	351	ضیاء عبدالرحمن الغماری	//
325	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۰۳	352	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۱۶
326	خاتون بنت عز الدین مسعود	//	353	حسین بن حسین بن علی	//
327	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۰۴	354	الشلوین شعی	//
328	شیخ شمس الدین ابو الفتوح	//	355	شیخ علی المعروف بالحریری	//
329	شیخ حافظ صالح	۲۰۵	356	امیر عز الدین ایبک واقف العزیز	۲۱۷
330	واقف الکردسیہ	//	357	شہاب غازی بن عادل	//
331	ملک جواد یونس بن محمود	//	358	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۱۸
332	مسعود بن احمد بن مسعود	//	359	فضل الدین الخوجنی	//
333	ابو الحسن بن یحییٰ بن الحسن	//	360	علی بن یحییٰ جمال الدین ابو الحسن الحریمی	//
334	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	۲۰۷	361	شیخ ابو عمرو بن الحاجب	۲۱۹
335	ملک مغیث عمر بن صالح ایوب	//	362	اس سال میں قتل ہونے والے اعیان	۲۲۱
336	تاج الدین ابو عبداللہ بن عمر بن حمویہ	//	363	فخر الدین یوسف بن الشیخ بن حمویہ	//
337	دزیر نصر الدین ابو الازہر	//	364	بنی ایوب کے بعد المعز الدین ایبک ترکمانی کا	//

390	یوسف بن امیر حسام الدین	۲۲۲	مصر کا بادشاہ بننا
391	الصالحیہ کے ہسپتال کا وقف کرنے والا	365	شاہ حلب ناصر بن العزیز بن الظاہر کا دمشق پر قبضہ کرنا
392	میر الدین یعقوب بن ملک عادل ابو بکر بن ایوب	//	
393	امیر مظفر الدین ابراہیم	۲۲۳	قبر تان صالح کا وقف کرنے والا صالح اسماعیل
394	شیخ شمس الدین عبدالرحمن بن نوح	۲۲۴	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
395	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	//	ملک معظم توران شاہ بن صالح ایوب
396	شیخ تقی الدین عبدالرحمن بن ابی الفہم	//	خاتون ارغوانیہ
397	شیخ شرف الدین	//	امین الدولہ ابوالحسن غزال طبیب
398	المشد الشاعر امیر سیف الدین	۲۲۵	بہاؤ الدین علی بن ہبۃ اللہ بن سلامۃ حمیری
399	بشارہ بن عبداللہ	۲۲۶	قاضی ابوالفضل عبدالرحمن بن عبدالسلام
400	قاضی تاج الدین	//	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
401	ملک ناصر	//	جمال الدین مطروح
402	ملک المعز	۲۲۷	شمس الدین محمد بن سعد المقدسی
403	شجرۃ الدر بنت عبداللہ	//	عبدالعزیز بن علی
404	شیخ الاسعد ہبۃ اللہ بن صاعد	//	شیخ ابوعبداللہ محمد بن غانم بن کریم
405	ابن ابی الحدید الشاعر العراقي	۲۲۸	ابوالفتح نصر اللہ بن ہبۃ اللہ
406	بخدا پر تاتاریوں کا قبضہ اور اس کے اکثر باشندوں کا خلیفہ سمیت قتل ہونا اور بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ	۲۳۰	اس سال وفات پانے والے مشاہیر
407	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	//	عبدالحمید بن عیسیٰ
408	خلیفہ وقت مقتسم باللہ	//	شیخ مجد الدین بن تیمیہ مؤلف الاحکام
409	باب	//	شیخ کمال الدین بن طلحہ
410	باب	//	السید بن علان
411	الصرصری المارح رحمۃ اللہ علیہ	//	ناصح فرج بن عبداللہ حبشی
412	الہباز ہبیر صاحب الدیوان	۲۳۱	نصرت بن صلاح الدین یوسف بن ایوب
413	حافظ ذکی الدین المنذری	//	ضیاء الدین صقر بن یحییٰ بن سالم
414	النور ابو بکر بن محمد بن محمد بن عبدالعزیز	۲۳۸	ابوالمعز اسماعیل بن حامد
		//	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
			شیخ عماد الدین عبداللہ بن الحسن بن الخحاس

۲۷۰	شاہ مار دین ملک سعید	439	۲۵۶	وزیر ابن العظیمی رافضی	415
//	ملک سعید حسن بن عبدالعزیز	440	//	محمد بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن حیدرہ	416
//	عبدالرحمن بن عبدالرحیم بن الحسن بن عبدالرحمن بن	441	۲۵۷	اقرطبی مؤلف المفہم شرح مسلم	417
//	طاہر	//	//	کمال اسحاق بن احمد بن عثمان	418
//	ملک مظفر قطز بن عبداللہ	442	//	العماد داؤد بن عمر بن یحییٰ بن عمر بن کامل	419
۲۷۳	شیخ محمد الفقیہ الیونینی	443	//	شیخ علی عابد خباز	420
۲۷۵	محمد بن خلیل بن عبد الوہاب بن بدر	444		محمد بن اسماعیل بن احمد بن ابی الفرج ابو عبداللہ	421
	مستنصر باللہ ابو القاسم احمد بن امیر المؤمنین الظاہر کی	445	//	المقدس	
۲۷۷	بیعت خلافت	//	//	شاہ موصل بدر بن داؤد	422
۲۷۸	مستنصر باللہ کی خلافت ملک الظاہر کے سپرد کرنا	446	۲۵۸	ملک ناصر داؤد معظم	423
//	خلیفہ کی بغداد کی طرف روانگی	447	۲۶۰	ملک مظفر قطز کی حکومت	424
۲۸۰	الحاکم بامر اللہ عباسی کی بیعت کا بیان	448	//	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	425
۲۸۱	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	449	//	صدر الدین اسعد بن منجاق بن برکات بن موصل	426
//	خلیفہ مستنصر بن الظاہر بامر اللہ عباسی	450	//	شیخ یوسف الآقمنی	427
۲۸۲	العزاضری الخوی اللغوی	451	۲۶۱	شمس علی بن الضعیی محدث	428
//	ابن عبدالسلام	452	//	ابو عبداللہ الفاسی شارح شاطبیہ	429
//	کمال الدین بن العدیم الحنفی	453	۲۶۲	انجم خواہد المبرم مفضل	430
۲۸۳	یوسف بن یوسف بن سلامہ	454	//	سعد الدین محمد بن الشیخ محی الدین بن عربی	431
//	البدر المرانی الخلفانی	455	//	سیف الدین بن صبرہ	432
//	محمد بن داؤد یا قوت الصاری	456	//	النجیب بن شعیبہ الدمشقی	433
۲۸۴	الحاکم بامر اللہ ابی العباس کی خلافت کا بیان	457		دشمن پر قبضہ کرنے اور اس سے ان کی حکومت کے	434
	الظاہر کا انکرک پر قبضہ کرنا اور اس کے حکمران کو	458	۲۶۳	جلد زوال پذیر ہونے کا بیان	
۲۸۵	پھانسی دینا		۲۶۵	عین جالوت کا معرکہ	435
۲۸۸	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	459	۲۶۷	ملک الظاہر بھیرس البندقداری کی سلطنت کا بیان	436
//	احمد بن محمد بن عبداللہ	460	۲۶۹	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	437
//	عبدالرزاق بن عبداللہ	461		قاضی القضاة صدر الدین ابو العباس ابن سنی	438
//	محمد بن احمد بن عتیز اسلمی الدمشقی	462	//	الدولہ	

463	علم الدین ابوالقاسم بن احمد	289	489	قاضی تاج الدین ابو عبد اللہ
464	شیخ ابوبکر اندلیوری	//	490	شرف الدین ابوالحسن ماہر طبیب
465	شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی پیدائش	//	491	شیخ نسیر الدین
466	امیر کبیر مجیر الدین	//	492	شیخ ابوالحسن
467	ملک اشرف کی وفات	290	493	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
468	خطیب عماد الدین بن الحرمستانی	//	494	الصاحب زین الدین یعقوب بن عبد اللہ الرفیع
469	محمی الدین محمد بن احمد بن محمد	291	495	شیخ موفق الدین
470	شیخ صالح محمد بن منصور بن یحییٰ شیخ ابی القاسم	//	496	شیخ زین الدین احمد بن عبد الدائم
	العتباری الاسکندرانی	//	497	قاضی محی الدین ابن الزکی
471	محی الدین عبداللہ بن صفی الدین	//	498	الصاحب فخر الدین
472	خالد بن یوسف بن سعدناہلیسی	293	499	شیخ ابوالنصر بن ابی الحسن
473	شیخ ابوالقاسم الحواری	292	500	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
474	قاضی بدر الدین کردی سنجاری	//	501	ملک تقی الدین عباس بن ملک عادل
475	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	296	502	قاضی القضاة شرف الدین ابو حفص
476	ایدندی بن عبداللہ	//	503	شجاع الدین آخند مرشد المظفری الحموی
477	ہلاکو خان بن تول خان بن چنگیز خان	//	504	ابن سبعین عبدالحق بن ابراہیم بن محمد
478	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	298	505	شیخ کمال الدین
479	سلطان برک خان بن تولی بن چنگیز خان	//	506	وجیہ الدین محمد بن علی بن ابی طالب
480	دیار مصر کا قاضی القضاة	//	507	نعم الدین یحییٰ بن محمد بن عبدالواحد اللہبوی
481	امیر کبیر ناصر الدین واقف القمیریہ	//	508	شیخ علی البرکاء
482	شیخ شہاب الدین ابوشامہ	//	509	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
483	سلطان ملک الظاہر کے ہاتھوں اٹاکیہ کی فتح	300	510	شیخ تاج الدین ابوالمظفر محمد بن احمد
484	شیخ عنیف الدین یوسف بن البقال	303	511	خطیب فخر الدین ابومحمد
485	حافظ ابوبراہیم اسحاق بن عبداللہ	//	512	شیخ خضر بن ابی بکر المہرانی العدوی
486	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	305	513	”التعجیز“ کا مصنف
487	امیر عز الدین ایدمر بن عبداللہ	//	514	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
488	شرف الدین ابوالظاہر	//	515	مؤید الدین ابوالعالی الصدر الرئیس

۳۳۰	شیخ خضر الکردی ملک الظاہر کا شیخ	543	//	516	امیر کبیر فارس الدین اقطای
۳۳۱	شیخ محی الدین النووی	544	۳۱۸	517	شیخ عبداللہ بن غانم
//	علی بن علی بن اسفندیار	545	//	518	قاضی القضاة کمال الدین
۳۳۳	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	546	//	519	اسامیل بن ابراہیم بن شاکر بن عبداللہ
//	آقوش بن عبداللہ امیر کبیر جمال الدین التتیمی	547	//	520	ابن مالک مؤلف "الفیہ"
//	ابدیکین بن عبداللہ	548	۳۱۹	521	نصیر طوسی
۳۳۴	قاضی القضاة صدر الدین سلیمان بن ابی العز	549	//	522	شیخ سالم البرقی
//	طہ بن ابراہیم بن ابی بکر کمال الدین الہمدانی	550	۳۲۰	523	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
//	عبدالرحمن بن عبداللہ	551	//	524	ابن العطاء الحنفی
۳۳۵	قاضی القضاة مجد الدین عبدالرحمن بن جمال الدین	552	//	525	بہیند بن بہیند بن بہیند
//	وزیر ابن الحنا	553	۳۲۲	526	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
//	شیخ محمد ابن الظہیر اللغوی	554	//	527	شیخ امام عماد الدین عبدالعزیز بن محمد
//	ابن اسرائیل الحریری	555	//	528	مؤرخ ابن السامی
۳۳۷	مشاہد جمال بن وصل	556	۳۲۳	529	اہلبستین کا معرکہ اور قیساریہ کی فتح
//	مظاہر علویہ	557	۳۲۴	530	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
۳۳۸	مظاہر معنویہ	558	//	531	الشیخ ابو الفضل ابن الشیخ عبید بن عبدالخالق دمشقی
//	مظاہر جلالیہ	559	//	532	یمن النسبشی آختہ
//	مظاہر کمالیہ	560	//	533	الشیخ المحمّد شمس الدین ابو العباس
۳۳۹	ابن العود الرافضی	561	//	534	شہاب الدین ابو الکارم شاعر
	ملک سعید کی معزولی اور اس کے بھائی ملک عادل	562	//	535	قاضی شمس الدین
۳۴۰	سلامش کی تقرری		۳۲۵	536	شیخ صالح عالم درویش
۳۴۱	ملک منصور قلا دون الصالحی کی بیعت	563	//	537	شیخ صالح جنول بن محمد المنینی
//	دمشق میں سفیر الاشقر کی سلطنت	564	//	538	محمد بن عبدالرحمن بن محمد
۳۴۲	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	565	//	539	محمد بن عبدالوہاب بن منصور
//	عز الدین بن غانم الواعظ	566	۳۲۹	540	اس سال میں وفات پانے والے اعیان
//	ملک سعید بن ملک الظاہر	567	//	541	امیر کبیر بدر الدین بیلک بن عبداللہ
۳۴۵	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	568	۳۳۰	542	قاضی القضاة شمس الدین حنبلی

۳۵۷	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	596	۳۴۵	امیر کبیر جمال الدین آقاوش الترمسی	569
//	شیخ صالح الرفاعی	597	//	شیخ صالح واؤدین حاتم	570
//	قاضی امام محمد الدین ابوالمنذر	598	//	امیر کبیر	571
//	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	599	//	جزائر شام	572
//	ملک سعید فتح الدین	600	۳۵۰	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	573
//	قاضی نجم الدین عمر بن نصر بن منصور	601	//	شاور تاتار الباق بن بلاکوخان	574
۳۵۸	ملک منصور ناصر الدین	602	//	قاضی القضاة صدر الدین عمر	575
//	قاضی جمال الدین ابویعقوب	603	//	شیخ ابراہیم بن سعید الشافعی	576
۳۵۹	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	604	۳۵۲	ملک اشرف	577
//	شیخ عز الدین محمد بن علی	605	//	شیخ جمال الدین اسکندری	578
//	البندقداری	606	//	شیخ علم الدین ابوالحسن	579
//	شیخ صالح عابد زہد	607	//	صدر کبیر ابوالغنائم المسلم	580
//	ابن عامر المقری	608	//	شیخ صفی الدین	581
//	قاضی عماد الدین	609	۳۵۳	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	582
//	شیخ حسن الرومی	610	//	شیخ صالح بقیۃ السلف	583
۳۶۰	ابوالقاسم علی بن بلبان بن عبداللہ	611	//	قاضی امین الدین الاشرقی	584
//	امیر کبیر الدین	612	//	شیخ برہان الدین ابوالثناء	585
//	شیخ عارف شرف الدین	613	//	قاضی امام علامہ شیخ القراء زین الدین	586
۳۶۱	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	614	۳۵۴	شیخ صلاح الدین	587
//	احمد بن شیبان	615	//	قاضی القضاة ابن خلکان	588
//	یکتا فاضل	616	۳۵۵	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	589
۳۶۲	قاضی القضاة	617	//	صدر کبیر عماد الدین ابوالفضل	590
//	شیخ محمد الدین	618	//	شیخ الجبل شیخ علامہ شیخ الاسلام	591
//	شاعر اور ادیب	619	//	ابن ابی ہفوان	592
//	الحاج شرف الدین	620	//	خطیب محی الدین	593
//	یعقوب بن عبدالحق	621	۳۵۶	امیر کبیر ملک عرب ال مغزی	594
//	قاضی بیضاوی	622	//	شیخ امام عالم شہاب الدین	595

۳۷۴	عکا اور سواہل کے بقیہ علاقے کی فتح	650	۳۶۴	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	623
۳۷۸	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	651	"	علامہ قطب الدین	624
"	شیخ تاج الدین بن ابی	652	"	بن الدین	625
"	امیر المعز بن صالح	653	"	قاضی القضاة برہان الدین	626
۳۷۹	شیخ تاج الدین الغزالی	654	"	شرف الدین سلیمان بن عثمان	627
۳۸۰	ماہر طبیب عز الدین ابراہیم بن محمد بن طرخان	655	"	شیخ صالح عز الدین	628
"	علامہ علاؤ الدین	656	۳۶۵	حافظ ابوالکین	629
"	شیخ امام ابو حفص عمر و بن یحییٰ بن عمر کرفی	657	۳۶۶	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	630
"	ملک عادل بدر الدین سلاش بن الظاہر	658	"	قطب الدین خطیب	631
"	عقیف تلمسانی	659	"	شیخ ابراہیم بن معصود	632
۳۸۱	قلعہ روم کی فتح	660	"	شیخ لیس بن عبداللہ	633
۳۸۵	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	661	"	الخوندہ غازیہ خاتون	634
"	خطیب بن زین الدین ابو حفص	662	۳۶۷	شیخ بدر الدین	635
"	شیخ عز الدین الغاروثی	663	۳۶۸	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	636
"	الصاحب فتح الدین ابو عبداللہ	664	"	شیخہ فاطمہ بنت شیخ ابراہیم	637
"	یوسف بن علی بن رضوان بن برقتش	665	"	العالم ابن الصاحب	638
۳۸۶	جلال الدین الخبازی	666	۳۶۹	شمس الدین اصہبانی	639
"	ملک مظفر	667	"	شمس محمد بن العقیف	640
۳۸۷	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	668	"	ملک منصور شہاب الدین	641
"	شیخ ارموی	669	"	شیخ فخر الدین ابو محمد	642
"	ابن الاغلی صاحب المقامہ	670	۳۷۰	ملک منصور قلاوون کی وفات	643
"	ملک الزاہر مجیر الدین	671	۳۷۲	امیر حسام الدین طرقتائی	644
۳۸۸	شیخ تقی الدین الواسطی	672	"	علامہ رشید الدین	645
"	ابن صاحب حماة ملک افضل	673	"	خطیب جمال الدین ابو محمد	646
"	ابن عبد الظاہر	674	"	فخر الدین ابو الظاہر اسماعیل	647
"	امیر علم الدین سبجری	675	۳۷۳	الحاج طہیر بن عبداللہ	648
۳۹۰	عساف نصرانی کا واقعہ	676	"	قاضی القضاة نجم الدین	649

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۵۸۹ھ

www.KitaboSunnat.com

اس سال سلطان ملک ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

یہ سال شروع ہوا تو آپ کی صحت بہت اچھی تھی اور آپ اپنے بھائی عادل کے ساتھ دمشق کے مشرق میں شکار کو گئے اور آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان یہ طے پایا کہ وہ فرنگیوں کے معاملے سے فراغت کے بعد بلا دروم کی طرف چلے جائیں گے اور اپنے بھائی کو بغداد بھیج دیں گے اور جب دونوں اپنے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو دونوں بلاوا ذر بائیجان کی طرف روزانہ ہو جائیں گے جو غمی علاقہ ہے کیونکہ اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں اور جب ۱۱ صفر کو سوموار کے روز حاجی آئے تو سلطان ان کے استقبال کو باہر نکلا اور اس کے ساتھ اس کا بھتیجا سیف الاسلام بھی تھا جو یمن کا امیر تھا پس اس نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا اور قلعہ کی طرف واپس آ کر اس میں باب الجدید سے داخل ہو گیا اور یہ دنیا میں اس کی آخری سواری تھی پھر ۱۶ صفر کو ہفتہ کی شب اسے صفاوی بخار ہو گیا اور جب صبح ہوئی تو قاضی فاضل ابن شداد اور اس کا بیٹا افضل اس کے پاس آئے اور وہ اپنے گزشتہ شام کے شدید قلق کی ان کے پاس شکایت کرنے لگا اور گفتگو سے اچھی لگی اور اس کے پاس ان کی نشست طویل ہو گئی پھر اس کے مرض میں اضافہ اور شدت ہو گئی اور چوتھے دن اطباء اس کے پاس گئے اور پھر اسے خشکی ہو گئی اور اسے اس قدر سخت پسینہ آ گیا کہ وہ زمین پر پکے لگا پھر خشکی بڑھ گئی تو اس نے امراء اور اکابر کو بلایا اور اپنے بیٹے افضل نور الدین علی کے لیے بیعت لی جو دمشق کا نائب تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب شدید کمزوری اور بعض اوقات ذہن کے کام نہ کرنے کی علامات ظاہر ہوئیں اور اس حالت میں فاضل ابن شداد اور قاضی شہرا بن الزکی اس کے پاس آتے رہے پھر ستائیس صفر بدھ کی رات کو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور اس نے امام الکلاسا ابو جعفر کو بلایا تاکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے رات اس کے پاس گزارے اور جب اس کا معاملہ سنگین صورت اختیار کر جائے تو وہ اسے شہادت کی تلقین کرے ابو جعفر نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے پاس قرآن پڑھتا رہا اور وہ بے ہوش تھا اور جب اس نے ہُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغُیْبِ وَالشَّهَادَةِ پڑھا تو اس نے کہا یہ اس طرح صحیح ہے اور جب اس نے صبح کی اذان دی تو قاضی فاضل اس کے پاس آیا اور وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا اور جب قاری نے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ پڑھا تو وہ مجسم ہوا اور اس کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی اور وہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اس کا اچھا ٹھکانہ بنائے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس کی عمر ۵۷ سال تھی کیونکہ اس کی پیدائش ۵۳۲ھ کے مہینوں میں مکریت میں ہوئی تھی۔

بلاشبہ وہ اسلام کا مددگار اور کمینے کفار کی تدابیر کے مقابلہ میں اس کی پناہ گاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی توفیق دی تھی اور

۴۰۰	المسعودی	699	۳۹۱	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	677
//	شیخ خالدی	700	//	علامہ شیخ تاج الدین موی	678
//	الشرف حسین المقدسی	701	//	خاتون موافق بنت سلطان عادل ابی بکر بن ایوب	679
۴۰۱	شیخ ابو محمد	702	//	ملک حافظ غیاث الدین بن محمد	680
//	الصاحب محی الدین بن النحاس	703	//	قاضی القضاة شہاب الدین بن الخولی	681
//	قاضی القضاة تقی الدین	704	۳۹۲	امیر علاء الدین نابینا	682
۴۰۳	ملک منصور لاجین السجداری کی سلطنت	705	//	وزیر شمس الدین محمد بن عثمان	683
۴۰۵	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	706	۳۹۳	ملک عادل کتبغا کی سلطنت	684
//	مصر کے حنا بلد کا قاضی القضاة	707	۳۹۵	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	685
//	شیخ امام حافظ عقیف الدین	708	//	شیخ ابوالرجال المتیمی	686
//	شیخ شیت بن شیخ علی الحریری	709	//	شیخ جمال الدین	687
//	الشیخ الصالح المقری	710	//	شیخ محبت الدین طبری مکی	688
//	واقف السامریہ	711	//	ملک مظفر حاکم بکین	689
۴۰۶	رصیف میں النقیبہ کا وقف کرنے والا	712	۳۹۶	شرف الدین المقدسی	690
//	شیخ ابوالحسن المعروف بالساروب الدمشقی	713	//	صدر نجم الدین واقف الجوبریہ	691
۴۰۷	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	714	//	شیخ مجد الدین	692
//	شیخ حسن بن شیخ علی الحریری	715	۳۹۷	شیخ الغاروثی	693
۴۰۸	صدر کبیر شہاب الدین	716	//	محقق جمال	694
//	شیخ شمس الدین الایکی	717	//	الست خاتون بنت ملک اشرف	695
//	صدر بن عقبہ	718	۳۹۸	صدر جمال الدین	696
//	الشہاب العابر	719	۴۰۰	اس سال میں وفات پانے والے اعیان	697
	☆☆☆☆		//	شیخ زین الدین بن نجی	698

اہل دمشق کو اس کی موت جیسا دکھ کبھی نہیں پہنچا اور ان میں سے ہر ایک نے چاہا کہ کاش وہ اپنے احباب و اصحاب اور اولاد سمیت اس پر قربان ہو جاتا پس بازار بند ہو گئے اور ذخائر کی گمرانی کی گئی پھر وہ اس کی چہیز میں تہمت ہو گئے اور اس نے سب بچے اور اہل آگے اور خطیب شہر فقیہ الدولی نے اسے غسل دیا اور قاضی فاضل نے اپنے صلیبی حلال مال سے چہیز و تکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے چھوٹے بڑے بچے گریہ و زاری کر رہے تھے اور لوگ بھی گریہ و زاری اور اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے پھر نماز ظہر کے بعد تابوت میں اس کی نعش کو نکالا گیا اور قاضی ابن الزکی نے اس کی نماز جنازہ میں لوگوں کی امامت کی پھر اسے اس کے گھر قلعہ منصورہ میں دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کا بیٹا اس کی قبر بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس نے اس کی قدیم وصیت کے مطابق مسجد القدم کے نزدیک شافعیہ کے لیے ایک مدرسہ بھی بنایا مگر اس کی تعمیر مکمل نہ ہوئی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس کا بیٹا عزیز آیا جس نے اپنے بھائی افضل کا محاصرہ کیا ہوا تھا اس کی تفصیل ۵۹۰ھ میں بیان ہوگی، پھر افضل نے کلدسہ کے شمال میں وزان میں اس کے لیے ایک گھر خریدا جس کا قاضی فاضل نے کلاسد میں اضافہ کیا تھا اور اس نے اسے قبر بنا دیا اس پر رحمت کی موسلا دھار بارشیں اور مہربانیاں ہوں۔

اور اسے عاشورہ ۵۹۲ھ کو اس جگہ منتقل کیا گیا اور افضل کی اجازت سے قاضی القضاة محمد بن علی القرابی ابن الزکی نے نسر کے نیچے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی لحد میں اس کا بیٹا افضل اترا اور اس نے خود اسے دفن کیا ان دنوں وہ شام کا حکمران تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی اس تلوار کو بھی دفن کیا گیا جسے وہ جہاد میں ساتھ لے جایا کرتا تھا اور یہ کام قاضی فاضل کے حکم سے کیا گیا اور انہوں نے اس سے یہ فال لی کہ وہ قیامت کے روز اس کے پاس ہوگی اور وہ اس پر ٹیک لگائے گا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، پھر تین دن تک جامع اموی میں اس کی تعزیت ہوئی جس میں خاص و عام اور رعیت و حکام حاضر ہوئے اور شعراء نے اس کے بارے میں مرثیے بنائے اور سب سے بہترین مرثیہ وہ تھا جسے عماد کاتب نے اپنی کتاب ”البرق السامی“ کے آخر میں بیان کیا ہے اور اس کے دوسو اشعار ہیں اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے اسے الروضتین میں بیان کیا ہے جس کے کچھ اشعار یہ ہیں۔

”اس نے ہدایت اور حکومت کو جمع کیا جس کی وسعت عام ہے اور زمانے نے دکھ دیا اور اس کی نیکیاں جاتی رہیں، وہ کہاں ہے جو ہمیشہ سے قابل خوف رہا ہے اور اس کے خوف اور بخشش کی امید ہوتی ہے وہ کہاں ہے جو اپنے رب کا مطیع تھا اور ہم اس کے مطیع تھے، قسم بخدا وہ ناصر شاہ کہاں ہے جس کی نیت اللہ کے لیے خالص اور صاف تھی، وہ کہاں ہے جو ہمیشہ ہمارا بادشاہ رہا، جس کی بخشش کی امید کی جاتی تھی اور جس کے حملوں سے خوف کھایا جاتا تھا، وہ کہاں ہے جس کی خوبیوں سے زمانے نے شرف حاصل کیا اور فضلاء پر اس کی بزرگیاں رفعت حاصل کر گئیں، وہ کہاں ہے جس کی جنگ سے ذلیل ہو کر فرنگی عاجز ہو گئے اور اس نے ان سے بدلے لیے اس کی تلواریں دشمنوں کی گردنوں کے طوق ہیں اور اس کے احسانات مخلوق کے گھوڑوں کے بار ہیں۔“

نیز اس نے کہا۔

”بلندیوں، پناہ اور ہدایت کے لیے کون ہے جو اس کی حفاظت کرے؟ جنگ اور سخاوت کے لیے کون ہے اس نے لہجے عرصے میں اپنی حکومت کی بقا چاہی جبکہ جلد باز بادشاہ کی بقا کوئی بھروسہ نہ تھا وہ ایک سمندر تھا جس نے اپنی نیکیوں سے

ننگنی کو دوبارہ سمندر بنا دیا اور اس کی تلوار سے بلا وساحل کو فتح کیا گیا اس کے زمانے میں جو اہل حق تھے وہ اس کے اقبال سے اہل بائیں نے پاس جاتے تھے اس کی فتوحات اور فتوحات اور قدس اس کا آثار تھا انہوں نے بلا مقابلہ اس کے فضل کو باقی رکھا ہے میں تیری قبر کے واسطے بارش کا جو یاں نہیں میں نے تیری سخاوت سے بارش کو شرمسار ہوتے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی تجھے میرا ب کرے میں موسلا دھار برسنے والے بادلوں کی میرا بی کو پسند نہیں کرتا۔“

آپ کا ترکہ اور مختصر حالات:

عماد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے خزانے میں صرف ایک سنہری دینار اور ۳۶ درہم چھوڑے اور دوسروں نے ۴۷ درہم بیان کیے ہیں اور آپ نے کوئی گھر، کوئی جاگیر، کوئی کھیت اور نہ ہی کوئی باغ اور نہ کسی قسم کی املاک ترکہ میں چھوڑی ہیں۔ آپ کے ۷ بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور ان کے سوا دوسرے بچے آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اور جو آپ کے بعد پیچھے رہے وہ سولہ لڑکے تھے جن میں سے سب سے بڑا ملک افضل نور الدین علی تھا جو ۵۶۵ھ میں عید الفطر کی شب کو مصر میں پیدا ہوا، پھر عزیز عماد الدین ابوالفتح عثمان بھی جمادی الاولیٰ ۵۶۷ھ میں مصر میں پیدا ہوا، پھر ظاہر غیاث الدین ابو منصور غازی ۱۵ رمضان ۵۶۸ھ میں مصر میں پیدا ہوا اور یہ افضل کا سگا بھائی تھا، پھر ظاہر غیاث الدین ابو منصور غازی ۱۵ رمضان ۵۶۸ھ میں مصر میں پیدا ہوا، پھر عزیز فتح الدین ابو یعقوب اسحاق ربیع الاول ۵۷۰ھ میں دمشق میں پیدا ہوا، پھر نجم الدین ابوالفتح مسعود دمشق میں ۵۷۱ھ میں پیدا ہوا، یہ عزیز کا سگا بھائی تھا، پھر اعز شرف الدین ابو یوسف یعقوب، مصر میں ۵۷۲ھ میں پیدا ہوا، یہ بھی عزیز کا سگا بھائی تھا، پھر زاہر نجم الدین ابوسلیمان داؤد ۵۷۳ھ میں مصر میں پیدا ہوا، یہ ظاہر کا سگا بھائی تھا، پھر ابو الفضل قطب الدین موسیٰ ۵۷۳ھ میں مصر میں پیدا ہوا، یہ افضل کا سگا بھائی تھا، پھر اس نے بھی مظفر کا لقب رکھ لیا، پھر اشرف معز الدین ابو عبداللہ محمد ۵۷۵ھ میں شام میں پیدا ہوا، پھر حسن ظہیر الدین ابوالعباس احمد ۵۷۷ھ میں مصر میں پیدا ہوا اور یہ اپنے سے پہلے کا سگا بھائی تھا، پھر معظم فخر الدین ابو منصور توران شاہ ربیع الاول ۵۷۷ھ میں مصر میں پیدا ہوا اور ۶۵۸ھ میں اس کی وفات ہوئی، پھر جوال رکن الدین ابوسعید ایوب ۵۷۸ھ میں پیدا ہوا، یہ معز کا سگا بھائی تھا، پھر غالب نصیر الدین ابوالفتح ملک شاہ ۵۷۸ھ میں پیدا ہوا، یہ معظم کا سگا بھائی تھا، پھر منصور ابو بکر جو ماں باپ سے معظم کا سگا بھائی تھا، سلطان کی وفات کے بعد حران میں پیدا ہوا، پھر عماد الدین شادی ام ولد سے پیدا ہوا اور اسی طرح نصیر الدین مروان بھی ام ولد سے پیدا ہوا اور بیٹی کا نام مونسہ خاتون تھا جس سے اس کے عمزاد ملک کامل محمد بن عادل ابی بکر بن ایوب نے نکاح کیا۔ رحمہم اللہ

اور اس نے اپنے امراء وغیرہم سے حسن سلوک کرنے اور جو دو سخاوت کرنے کی وجہ سے اموال و املاک پیچھے نہیں چھوڑے حتیٰ کہ اس نے اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا اور قبل ازیں اس کے متعلق کافی کچھ بیان ہو چکا ہے اور وہ بہت کم لباس کھانے اور سواریاں استعمال کرتا تھا اور وہ صرف سوتی، کتان اور اونی لباس پہنتا تھا، اور کسی ناپسندیدہ کام کے ارتکاب کی طرف اس کا جانا معلوم نہیں ہوا، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے اس پر بادشاہت کی نوازش کی، اس کا سب سے بڑا مقصد خدمت اسلام اور دشمنان اسلام کو شکست دینا تھا اور وہ شب و روز اس بارے میں اکیلا بھی اور اپنے قابل اعتماد ساتھیوں سے بھی مشورے کرتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے فضائل اور نعمتیں بھی حاصل تھیں اور لغت ادب اور تاریخ کے بارے میں فوائد فراہم بھی حاصل تھے حتیٰ کہ بیان کیا گیا

ہے کہ اسے مکمل حماسہ یاد تھا، اور وہ بالالتزام پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ وفات سے قبل ایک لمبا زمانہ اس کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی تھی کہ مرض الموت میں بھی اس کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی، امام آکر اسے نماز پڑھایا کرتا تھا اور وہ کمزوری کے باوجود قیام کی مشقت برداشت کرتا تھا اور جو کچھ اس کے سامنے بحث و مناظرہ ہوتا وہ اسے سمجھتا تھا اور اس میں نہایت اچھے انداز میں مختصراً مشارکت کرتا تھا، خواہ اصطلاحی مفہوم میں اس پر مشارکت کا لفظ نہ اطلاق پاتا ہو اور قطب نیشاپوری نے اس کے لیے عقیدے کی ایک کتاب تالیف کی تھی جسے وہ یاد کرتا تھا اور اس کے بیٹوں میں سے جو بیٹے عاقل تھے وہ بھی اسے یاد کرتے تھے، اور وہ قرآن و حدیث اور علم کے سماع کو پسند کرتا تھا اور سماع حدیث پر مواظبت کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو صفوں کے درمیان میدان کارزار میں بھی قرآن کریم کا کچھ حصہ سنتا تھا اور اس سے خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا اس قسم کے موقف میں کسی نے حدیث نہیں سنی اور یہ عماد کا تب کے اشارے سے ہوتا تھا، اور وہ سماع حدیث کے وقت رقیق القلب اور جلد اشکبار ہونے والا تھا اور قوانین شریعت کی بہت تعظیم کرنے والا تھا۔

اور حلب میں اس کے بیٹے الظاہر نے شہاب سہروردی نام ایک جوان کی صحبت اختیار کی، جو کیمیاگری شعبہ بازی اور کچھ نیرنگیات بھی جانتا تھا جس سے سلطان کا بیٹا الظاہر فتنے میں پڑ گیا اور اس نے اسے قریب کیا اور اس سے محبت کرنے لگا اور اس نے اس میں حاملین شریعت کی مخالفت کی تو اس نے اسے خط لکھا کہ اسے لامحالہ قتل کر دو اور اس نے اپنے والد کے حکم سے اسے صلیب دیا۔ اور اس کی تشہیر کی۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے دود یواروں کے درمیان قید کر دیا حتیٰ کہ وہ غم سے مر گیا، یہ ۵۸۶ھ کا واقعہ ہے اور وہ قلب و بدن کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ طاقتور اور شجاع تھا، باوجودیکہ اس کا جسم امراض و اسقام کی آماجگاہ تھا، خصوصاً عکاکے محاصرہ میں ان کی فوج کی کثرت نے اس کی قوت و شجاعت میں اضافہ کر دیا اور ان کی فوج کی تعداد پانچ لاکھ جانبازوں تک پہنچی ہوئی تھی، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چھ لاکھ تھی اور اس نے ان میں سے ایک لاکھ جانبازوں کو قتل کر دیا اور جب جنگ رُک گئی اور انہوں نے عکاکو لے لیا اور وہاں جو مسلمان موجود تھے انہوں نے انہیں قتل کر دیا اور وہ سب کے سب قدس کی طرف روانہ ہو گئے تو یہ بھی منزل بہ منزل ان کے ساتھ چلے لگا اور اس کی ساتھی فوج مقابلہ میں ان کی افواج سے کئی گنا زیادہ تھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور یہ ان سے پہلے قدس پہنچ گیا اور اس نے اسے ان سے بچایا اور محفوظ کیا اور یہ مسلسل وہاں مقیم رہ کر انہیں خوفزدہ کرنے لگا اور ان پر غلبہ پانے لگا اور ان سے علاقوں کو پھیننے لگا حتیٰ کہ وہ اس کے آگے جھک گئے اور عاجز ہو گئے اور صلح کے لیے اس کے پاس آئے اور یہ کہ ان کے اور اس کے درمیان جنگ ختم ہو جائے۔ اور اس نے ان کے سوال کا جواب اپنی مرضی کے مطابق دیا نہ کہ ان کی مرضی کے مطابق اور اس کا وجود اللہ کی رحمت تھی جس سے اللہ نے مومنین پر رحم فرمایا اور ابھی یہ سال نہیں گزرے تھے کہ اس کے بھائی عادل نے شہروں پر قبضہ کر لیا جس سے مسلمان معزز اور کفار ذلیل ہو گئے، اور وہ بڑا سخی، ہنس کھ کھ کشادہ رُو تھا۔ اور نیکی کرنے سے ملول نہیں ہوتا تھا اور اچھے اور رضا کارانہ کاموں میں بڑا مستقل مزاج تھا اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے اس کی میرت و تاریخ اور اس کے ظاہر و باطن کے ایک ہونے اور احکام کے بارے میں بہت اچھے واقعات بیان کیے ہیں۔

باب

اس نے علاقوں کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا دیا ر مضر اس کے بیٹے عزیز عماد الدین ابوالفتح کو اور دمشق اس کے ارد گرد کے علاقے اس کے بڑے بیٹے افضل نور الدین علی کو اور حلب کی مملکت اس کے بیٹے الظاہر غازی غیاث الدین کو اور کرک اور شوبک اس کے بھائی عادل کو اور بلاد بھر اور فرات کے علاقے کے بہت سے شہر اور اس کی رکھ اور اس کے ساتھ ایک اور صوبہ سلطان کے بھتیجے ملک منصور محمد بن تقی الدین عمر کو اور حمص اور کوفہ اسد الدین بن شیر کوہ بن ناصر الدین بن محمد بن اسد الدین شیر کوہ کبیر کو، نجم الدین نجم الدین ایوب کے باپ کا بھائی ہے، اور یمن اپنے قلعوں اور تمام صوبوں سمیت سلطان صلاح الدین کے بھائی سلطان ظہیر الدین سیف الاسلام طفئکین بن ایوب کو اور بعلبک اور اس کے مضافات امجد بہرام شاہ بن فروخ شاہ کو اور بصری اور اس کے مضافات، ظافر بن ناصر کو ملے، پھر صلاح الدین کی وفات کے بعد ان تمام ممالک میں حالات خراب ہو گئے، حتیٰ کہ ملک عادل ابو بکر صلاح الدین پر ان ممالک کا اتفاق ہو گیا، اور اس کے لڑکوں میں حکومت چل پڑی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔ لَا شَيْكَ اللَّهُ

اس سال خلیفہ ناصر الدین اللہ نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی کتب کی نئی لائبریری بنائی اور اس میں ہزار ہا خوبصورت قیمتی کتب لایا۔

اور اس سال کے محرم میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک تاجر کی بیٹی طحسین میں اپنے باپ کے غلام پر عاشق ہو گئی، اور جب اس کے باپ کو اس کے معاملے کا علم ہوا تو اس نے غلام کو اپنے گھر سے نکال دیا، ایک شب لڑکی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس آئے، وہ پوشیدہ طور پر اس کے پاس آیا تو اس نے اسے گھر کے ایک حصے میں چھوڑ دیا اور جب رات کو اس کا باپ آیا تو لڑکی نے غلام کو اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس نے آ کر اسے قتل کر دیا اور اس نے اسے اپنی حاملہ ماں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور لڑکی نے اسے دو ہزار دینار کے زیورات دیئے، صبح کو اس کا معاملہ پولیس کے ہاں پیش ہوا تو پکڑا گیا اور قتل ہوا، اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ حالانکہ اس کا آقا نیک لوگوں میں سے تھا اور بہت صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔

اور اس سال اس نے معروف کرنفی شیخ ابو علی ایونانی کی قبر کے پاس مدرسہ جدیدہ میں درس دیا اور قضاة داعیان اس کے پاس آئے اور وہاں اس نے ایک بھر پور دعوت کی۔



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

سلطان صالح:

یوسف بن ایوب ابن شاذلی آپ کی وفات کے مبسوط حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

امیر بکتھر صاحب خلاط:

اسے اس سال قتل کیا گیا، اور یہ نیک، شجاع اور اچھی سیرت والے بادشاہوں میں سے تھا۔

اتا بک عز الدین مسعود:

ابن مودود بن زنگی یہ تقریباً ۱۳ سال موصل کا حاکم رہا اور نیک بادشاہوں میں سے تھا اور قربت و رشتہ میں نور الدین شہید

اس کا چچا تھا اور اسے موصل میں اس کے تعمیر کردہ مدرسہ کے پاس اس کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

جعفر بن محمد بن فطیرا:

ابو الحسن عراق میں ایک کاتب تھا اور تشیع کی طرف منسوب تھا اور شیعیان علاقوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اللہ ان کو زیادہ

نہ کرے، ایک روز ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا میں نے آج شب خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور آپ

نے مجھے فرمایا ہے کہ ابن فطیرا سے جا کر کہو وہ تجھے دس دینار دے گا، فطیرا نے اس سے پوچھا تو نے انہیں کب دیکھا ہے؟ اس نے کہا

رات کے پہلے حصے میں ابن فطیرا نے کہا میں نے آپ کو رات کے آخری حصہ میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ جب اس

اس حلیے کا آدمی تمہارے پاس آئے اور تجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو وہ اسے نہ دینا، پس وہ شخص پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو اس نے اسے

بلایا اور اسے کچھ دیا، اور اس کے بعض اشعار کو ابن الساعی نے بیان کیا ہے اور قبل ازیں یہ اشعار کسی اور کے بیان ہوئے ہیں۔

”اور جب میں نے شہداء کے لائق ہونے پر لوگوں کو آزما یا کہ میں ان میں سے کسی قابل اعتماد شخص کو تلاش کروں اور

میں نے اپنی خوشی اور سختی کے دونوں دنوں میں سوچ بچار کی اور میں نے قبائل میں اعلان کیا کہ کیا کوئی مددگار ہے؟ تو مجھے

مصیبت پر ہنسنے والے کے سوا کسی نے دکھ نہ دیا اور حاسد کے سوا مجھے کسی نے خوش نہ کیا۔“

یحییٰ بن سعید عازی:

ابو العباس بصری، نجرانی، مؤلف مقامات، یہ شاعر ادیب اور بڑا فاضل آدمی تھا اور اسے لغت و نظم میں بڑی مہارت حاصل تھی

اس کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”خوبصورت عورت کا گانا بلا مشقت میرے کان میں لطف کو کھینچ لاتا ہے کان کے دروازے نے کبھی اسے واپس نہیں کیا

اور نہ وہ ملاقاتی کے پاس اجازت سے آتا ہے۔“

سیدہ زبیدہ:

امام مہدی لامر اللہ کی دختر، المستحجہ کی ہمیشہ اور المستحی کی پھوپھی، اس نے طویل عمر پائی اور اس کے صدقات بہت چکر

لگاتے تھے اور سلطان کے زمانے میں مسعود نے اس سے ایک لاکھ دینار مہر پر اس سے نکاح کیا اور وہ اسے گھر لانے سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور یہ اسے ناپسند کرتی تھی پس اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔

شیخ صالح فاطمہ خاتون:

دنتر محمد بن الحسن الممدیہ عابدہ صالحہ خاتون تھی اس نے ۱۰۶ سال عمر پائی ایک وقت سالار فوج مصر نے بہتہ یہ فوجان تھی اس سے نکاح کیا اور یہ اس کے پاس رہتی تھی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا اور اس نے اس کے بعد نکاح نہیں کیا بلکہ ذکر الہی اور عبادت میں مصروف ہو گئی۔

اور اس سال خلیفہ ناصر عباسی نے شیخ ابوالفرج بن الجوزی کو حکم دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ عدی بن زید کے مشہور اشعار پر اس کے مناسب حال اضافہ کرے خواہ یہ اشعار دس جلدوں تک پہنچ جائیں، اور وہ اشعار یہ ہیں۔

”اے مصیبت پر ہنسنے والے اور زمانے پر عیب لگانے والے کیا تو مکمل اور پاک ہے یا تیرے پاس زمانے کا کوئی پختہ عہد ہے بلکہ تو جاہل اور فریب خوردہ ہے، تو نے کس پر موتوں کو ہمیشہ دیکھا ہے یا وہ کون ہے کہ اس پر چوکیدار کی طرف سے ظلم ہو وہ کسریٰ ابوسان کہاں ہے جس نے بادشاہوں کو شکست دی ہے؟ یا اس سے پہلے کا سا بور کہاں ہے؟ اور بنو اصغر شاہان روم میں سے کوئی قابل ذکر آدمی باقی نہیں رہا اور جب مسافر نے اس محل کو تعمیر کیا جس کی طرف دجلہ اور خابور چیزیں لاتے تھے اس نے اسے سنگ مرمر سے بلند کیا اور اس پر چونا چڑھایا اور اس کی چوٹیوں پر پرندوں کے گھونسلے ہیں، گردش زمانہ نے اسے خوفزدہ نہیں کیا اور اس کی بادشاہت جاتی رہی اور اس کا دروازہ متروک ہو چکا ہے اور خورنق کے مالک کو یاد کر جب وہ ایک روز کھڑا ہوا اور ہندی تلواریں اسے ڈھانپے ہوئے تھیں اس کے حال اور اس کی بکثرت مملو کات نے اسے خوش کیا اور سمندر اور سدیر چوڑائی میں تھے اس کا دل باز آ گیا اور اس نے کہا زندہ شخص کا رشک موت کی طرف جانے والے پر نہیں ہوتا، پھر آسودگی حکومت، عقل مندی اور حکم کے بعد قبروں نے انہیں چھپایا پھر وہ راکھ بن گئے اور انہیں صبا اور پچھوئی ہوا اڑا لے گئی ہاں زمانہ آدمی کے ساتھ مخصوص ہے اور میری زندگی کی قسم اس میں نصائح اور سوچ و بچار کی باتیں پائی جاتی ہیں۔“

۵۹۰ھ

جب ملک افضل بن صلاح الدین دمشق میں اپنے باپ کی جگہ پر نک گیا تو اس نے خلیفہ ناصر کے دروازے کی طرف تین تمانف بھجوائے، جن میں اس کے باپ کے ہتھیار اور وہ گھوڑا بھی تھا، جس پر سوار ہو کر وہ جنگوں میں شامل ہوا کرتا تھا اور ان میں وہ صلیب الصلوات بھی تھی جسے اس کے باپ نے جنگ حطین میں فرنگیوں سے چھینا تھا اور اس میں بیس رطل سے زیادہ سونا تھا، جو قیمتی جواہرات سے مرصع تھا اور چار لونڈیاں تھیں جو شاہان فرنگ کی بیٹیاں تھیں، اور عماد کاتب نے اسے ایک بھر پور خط لکھا جس میں اس کے باپ کی تعزیت کا بیان تھا، نیز خلیفہ سے یہ سوال بھی تھا کہ وہ اس کے بعد حکومت میں رہے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا۔

اور جب جمادی الاولیٰ کا مہینہ آیا تو حاکم مصر عزیز دمشق آیا تاکہ وہ اسے اپنے بھائی افضل سے چھین لے اور چھ جمادی الاولیٰ کو ہفت کے روز 'الکسوة' پر خیمہ زن ہو گیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بھائی نے اسے روکا اور اسے دمشق سے دور ہٹایا اور شہروں کو کاٹ لیا اور پھلوں کو لوٹ لیا اور حالت خراب ہو گئی اور یہ حالت مسلسل ایسی ہی رہی حتیٰ کہ ان دونوں کے چچا عادل نے آ کر دونوں کے درمیان صلح کرادی اور قسم کے بعد دوبارہ ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ کہ قدس اور اس کے قریب کا فلسطینی علاقہ عزیز کے لیے ہوگا اور جلد اور لازقیہ کا علاقہ حلب کے حکمران الظاہر کا ہوگا اور ان دونوں کے چچا عادل کے لیے شام اور بزیہ کے علاقے جیسے حران، الرہا، بصر اور اس کے نزدیکی علاقے کے علاوہ بلاد مصر میں اس کا پہلا علاقہ بھی ہوگا، پس انھوں نے اس پر اتفاق کر لیا اور عزیز نے اپنے چچا عادل کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور بیمار ہو گیا، پھر صحت یاب ہو گیا اور وہ مرج الصفر میں خیمہ زن تھا اور بادشاہ اسے صحت یاب ہونے، نکاح کرنے اور صلح کرنے کی مبارکباد دینے آئے، پھر وہ اپنے اہل و اولاد کی محبت کی وجہ سے واپس مصر آ گیا اور افضل نے اپنے باپ کی وفات کے بعد بری تدبیریں کیں اور اپنے باپ کے امراء اور خواص کو ڈور کر دیا اور اجانب کو قریب کر لیا اور نشہ آور چیزوں کے پینے اور لہو و لعب میں مشغول ہو گیا اور اس کا وزیر ضیاء الدین ابن الاثیر جذری اس پر حاوی ہو گیا اور وہی اسے ان باتوں کی طرف لایا، پس وہ خود ہلاک ہوا اور اسے بھی ہلاک کر دیا اور خود بھی گمراہ ہوا اور اسے بھی گمراہ کر دیا اور ان دونوں کی آسودگی جاتی رہی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اس سال شاہ غزنی شہاب الدین اور کفار ہند کے درمیان عظیم معرکہ ہوا اور وہ ایک کروڑ جاننازوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آئے اور ان کے پاس سات سو ہاتھی بھی تھے، جن میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا، جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی، پس انہوں نے ہڈ بھینڈ کر کے باہم شدید جنگ کی جس کی مثل نہیں دیکھی گئی اور شہاب الدین نے انہیں بڑے دریا کے پاس شکست دی جسے ملاحون کہا جاتا ہے اور ان کے بادشاہ کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ذخائر اور اس کے ملک کے ذخائر پر قابض ہو گیا اور ان کے ہاتھی کو غنیمت میں حاصل کیا اور حکومت کے بڑے شہر میں داخل ہو گیا اور اس کے خزانے سے سونے وغیرہ کو چودہ سو اونٹوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے ملک کی طرف مظفر و منصور ہو کر واپس آ گیا۔

اور اس سال سلطان خوارزم شاہ تکش نے جسے ابن الاصباعی کہا جاتا تھا بلا داری وغیرہ پر قبضہ کر لیا اور سلطان طغرل بیگ سلجوقی کے ساتھ صلح کر لی اور اس نے بلا داری اور بقیہ مملکت کو اپنے بھائی سلطان شاہ سے حاصل کر لیا اور اس کے خزانے بھی لے لیے اور اس کی شان بڑھ گئی، پھر اس نے اور سلطان طغرل بیگ نے اس سال کے ربیع الاول میں جنگ کی اور سلطان طغرل بیگ قتل ہو گیا اور اس کے سر کو خلیفہ کے پاس بھیجا گیا اور اس نے اسے کئی دن تک باب نوہ پر لٹکا دیا اور خلیفہ نے سلطان خوارزم شاہ کی طرف خلعت اور احکام بھیجے اور ہمدان وغیرہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔

اور اس سال خلیفہ شیخ ابوالفرج بن الجوزی پر ناراض ہو گیا اور اسے واسط کی طرف جلا وطن کر دیا اور وہ وہاں بغیر کھانا کھا۔ پانچ دن ٹھہرا رہا اور اس نے وہاں اپنے نفس کی خدمت کرتے اور اپنے لیے پانی حاصل کرتے پانچ سال قیام کیا اور وہ ۸۰۰ سالہ بوڑھا تھا اور وہ روزانہ ایک دن رات میں قرآن ختم کرتا تھا، راوی کا بیان ہے اور میں نے اپنے بیٹے یوسف کے غم میں سورہ یوسف کو نذر پڑھا تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے کشمکش پیدا کر دی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا انشاء اللہ۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

احمد بن اسماعیل بن یوسف:

ابوالخیر قزوینی شافعی مفسر آپ نے بغداداً کر نظامیہ میں وعظ کیا اور اصول میں آپ اشعری کے قول کے قائل تھے آپ عاشورہ کے روز بیٹھے تو آپ سے کہا گیا یزید بن معاویہ پر لعنت کیجیے آپ نے کہا وہ مجتہد امام تھا تو لوگوں نے آپ کو اینٹیں ماریں تو آپ رُوپوش ہو گئے پھر قزوین کی طرف بھاگ گئے۔

ناظم شاطبیہ ابن الشاطبی:

ابوالقاسم بن قسیرۃ ابی القاسم خلف بن احمد الریمینی الشاطبی ناینا، قرآۃ سبعہ کے متعلق شاطبیہ کا مصنف نہ ان کی طرف کسی نے سبقت کی ہے اور نہ ان میں کوئی لگا کھا سکتا ہے اور اس میں رموز کے ایسے خزانے ہیں جن کی طرف ناقد بصیر ہی راہ پاسکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ناینا بھی تھا اس کی پیدائش ۵۳۸ھ میں ہوئی اور آپ کا شہر شاطبیہ ہے یہ اندلس کے مشرق میں ایک بستی ہے آپ محتاج شخص تھے آپ سے خواہش کی گئی کہ آپ اپنے شہر کی خطابت سنبھال لیں تو آپ نے منابر پر بادشاہوں کے متعلق خطباء کے مبالغہ کرنے کے باعث اس سے انکار کر دیا شاطبی جج کو نکلے تو ۵۷۲ھ میں اسکندریہ آئے اور سلفی کو سماع کرایا اور قاضی فاضل نے آپ کو اپنے مدرسے میں فصیح قاریوں کا شیخ بنا دیا اور آپ نے قدس کی زیارت کی اور وہیں ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر آپ قاہرہ واپس آ گئے اور یہیں پر اس سال کے جمادی الآخر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو فاضلیہ کے قبرستان کے قریب قرافہ میں دفن کیا گیا آپ دیندار فروتنی کرنے والے زاہد اور بہت باوقار شخص تھے اور بے مطلب بات نہیں کرتے تھے اور آپ اکثر ان اشعار کو بطور مثال پڑھا کرتے تھے اور یہ تابوت کے بارے میں ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں۔

”کیا تو آسمان میں کسی چیز کو اڑتے پچھانتا ہے اور جب وہ چیز چلتی ہے تو لوگ بھی وہیں جوش و حرکت میں آتے ہیں جہاں وہ چلتی ہے تو اسے سوار اور سواری پائے گا اور جو امیر اس پر چڑھتا ہے قیدی ہو جاتا ہے وہ تقویٰ کی ترغیب دیتی ہے اور اس کے قرب کو پسند نہیں کیا جاتا اور نفس اس سے بھاگتا ہے حالانکہ وہ انتہا کرنے والی ہے اور اس کی زیارت کی رغبت سے اس کی زیارت نہیں کی جاتی بلکہ زیارت کیے جانے والے کی منشا کے خلاف وہ زیارت کرتا ہے۔“

۵۹۱ھ

اس سال بلاڈ اندلس میں قرطبہ کے شمال میں مرج الحدید مقام پر زلزلہ کا معرکہ ہوا اور یہ ایک عظیم معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور پرستاران صلیب کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ بلاڈ اندلس میں فرنگیوں کے بادشاہ القیش کا دار الخلافہ طلیطلہ میں تھا اس نے شاہ مغرب امیر یعقوب بن یوسف بن عبدالمومن کو اس کی تعریف کرتے ہوئے اور اسے بہلاتے ہوئے اور اسے اپنے پاس آنے کے لیے برا بھیجتے کرتے ہوئے خط لکھا تا کہ وہ اس کی خامیوں اور قتال میں اس کی فرمانبرداری کرنے

دلوں میں شامل ہو اور اس نے شدید وعید و تہدید بھی کی سو سلطان یعقوب بن یوسف نے اپنے خط کے سر پر لکھا: (اِذْ جَعَلْنَا لَهُمْ يَمِينًا وَبَحْلًا وَيَأْتِيهِمْ بِالْغَيْبِ لَا يُظَلُّونَ لَهَا شَيْئًا وَهُمْ بِهَا كَانِبِينَ) ان کی طرف واپس جاؤ ہم ضرور ان کے پاس ایسی فوجوں کے ساتھ آئیں گے جن کا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے باہر نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے) پھر وہ فوراً اپنی افواج و عساکر کے ساتھ اٹھا اور اس نے اندلس تک اپنا نئے جبر الکرکوع قطع کر دیا اور انہوں نے مذکورہ جگہ پر مدبھیڑ کی آغاز کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان میں سے بیس ہزار آدمی قتل ہو گئے پھر بالآخر کفار کو شکست ہو گئی، پس اللہ نے انہیں نہایت بری طرح شکست دی اور ان میں سے ایک لاکھ ۴۳ ہزار آدمی قتل ہو گئے اور تیرہ ہزار ان میں سے قید ہو گئے اور مسلمانوں نے ان سے بہت سی غنیمت حاصل کی جس میں ایک لاکھ ۴۳ ہزار خیمے ۴۶ ہزار گھوڑے ایک لاکھ خچر اتنے ہی گدھے اور ستر ہزار مکمل ہتھیار اور بہت سا سامان شامل تھا اور اس نے ان کے بہت سے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا اور اس نے مدت تک ان کے شہر طلیطلہ کا محاصرہ جاری رکھا اور اسے فتح نہ کر سکا۔ پھر اسے چھوڑ کر اپنے ملک کو واپس آ گیا اور جب قیش کو وہ چیز حاصل ہو گئی جو اسے حاصل ہونی تھی تو اس نے اپنی دائرگی اور سرمنڈا دیا اور اپنی صلیب کو اٹا کر لیا اور گدھے پر سوار ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ نہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور نہ کھانے کا مزہ چکھے گا اور نہ بیوی کے پاس سوئے گا، حتیٰ کہ نصرا نیت اس کی مدد کرے، پھر اس نے شاہان فرنگ کے پاس چکر لگایا اور اس قدر فوجیں جمع کیں جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پس سلطان یعقوب نے اس کے لیے تیاری کی اور دونوں کی مدبھیڑ ہوئی اور دونوں نے باہم شدید جنگ کی جس کی مثل نہیں سنی گئی، پس فرنگیوں نے پہلے سے بھی بری شکست کھائی اور انہوں نے ان سے پہلے سے بھی زیادہ غنیمت حاصل کی اور سلطان نے ان کی بہت سی عملداریوں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ واللہ الحمد۔

کہتے ہیں کہ ایک قیدی ایک درہم میں اور ایک گھوڑا پانچ درہم میں اور ایک خیمہ ایک درہم میں اور تلو اور اس سے بھی کم قیمت میں فروخت ہوئی، پھر سلطان نے ان غنائم کو قانون شریعت کے مطابق تقسیم کیا اور مجاہدین ابد تک مستغنی ہو گئے، پھر فرنگیوں نے سلطان سے امان طلب کی اور اس نے پانچ سال تک جنگ ساقط کرنے پر ان سے مصالحت کی اور اس بات پر اسے علی بن اسحاق توزی نامی ایک شخص نے جسے المنکلثم کہا جاتا تھا آمادہ کیا، اس نے بلاد افریقہ میں نمودار ہو کر سلطان کی غیر حاضری اور فرنگیوں کے ساتھ تین سال تک مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے کئی فوج امور پیدا کر لیے اور اس توزی خارجی نے صحراء میں کئی واقعات کیے اور زمین میں فساد برپا کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔

اس سال اور اس سے پہلے سال خلیفہ کی فوج نے بلاد رومی، اصبہان، ہمدان اور خوزستان وغیرہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ملوک و ممالک کے مقابلہ میں خلافت کا پہلو مضبوط ہو گیا اور اس سال عزیز مصر سے دمشق گیا تاکہ اسے اپنے بھائی افضل کے ہاتھ سے جبین لے اور افضل نے شراب اور لہو و لعب سے توبہ و انابت اختیار کر لی اور اسے چھوڑ دیا اور صوم و صلوة کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع کر دیا اور اس کی روش بہت اچھی ہو گئی، مگر اس کا وزیر ضیا جزری اس کی حکومت کو خراب کرتا رہا اور اس کی صفائی کو کمدر کرتا رہا اور جب افضل کو اطلاع ملی کہ اس کا بھائی اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ جلدی سے اپنے چچا عادل کے پاس جعبر چلا گیا

اور اس سے مدد مانگی، پس وہ اس کے ساتھ روانہ ہوا اور اس سے پہلے دمشق پہنچ گیا اور اسی طرح افضل اپنے بھائی الظاہر کے پاس حلب گیا اور دونوں اکٹھے دمشق کی جانب روانہ ہوئے اور جب عزیز نے یہ بات سنی اور اس وقت وہ دمشق سے نزدیک آچکا تھا، تو وہ جلد مصر کی طرف واپس آ گیا اور عامل اور افضل اس کے پیچھے گئے تاکہ اس سے مصر کو چھین لیں اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ مصر کا ۱/۳ عادل کے لیے ہوگا اور ۲/۳ افضل کے لیے ہوگا، پھر عادل کو اس بارے میں ایک بات سوجھی تو اس نے اسے موکد کرنے کے لیے عزیز کو بھیج دیا اور افضل کو اس سے روکنے آیا اور ان دونوں نے بسمیس میں کئی روز قیام کیا، پھر عزیز کی جانب سے قاضی فاضل ان دونوں کے پاس گیا، اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ وہ قدس کو واپس کر دے اور اس کا صوبہ افضل کے پاس ہوگا اور عادل مصر میں اپنے قدیم علاقے میں مقیم رہے گا، پس عادل نے اس کے طمع میں وہیں اقامت اختیار کر لی اور جب عزیز اسے چھوڑنے کے لیے گیا تو اس کے بعد عادل دمشق واپس آ گیا اور یہ دھوکے پر صلح اور تنکے پر صلح تھی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

علی بن حسان بن سافر:

ابوالحسن کا تب بغدادی، یہ شاعر اور ادیب تھا اور اس کے اشعار میں سے یہ شعر بھی ہیں۔

اس نے میری نیند دور کر دی اور چلا گیا، سلع میں بجلی چمکی اور وہ یوں نظر آئی جیسے سیاہ ہاتھ سفید تلوار کھینچتا ہے، گویا وہ غبار میں دوڑتا ہوا سیاہی مائل سفید رنگ گھوڑا ہے وہ یوں نمایاں ہوتا ہے جیسے جنڈ کے انگاروں پر ہوا چلتی ہے، تو ہوا کو دیکھے یا آنکھ بند کرے یا آگ کا شعلہ بلند ہوا ہے یا نیچے چلا گیا ہے ہائے وہ چمکنے والی چیز جو چمکنے والی چیز پر چمکی کیا اس نے مجھے گذشتہ عہد یاد دلایا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے میرے دل نے مجھے کہا کیا تو کسی حاجت کی وصیت کرتا ہے اور اس نے منہ پھیر لیا، جس نے اسے بیمار کیا ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اس بیمار کرنے والے پر قربان ہوا، اے دل کے نشانے تو نے میرے دل کو تیروں کا نشانہ بنا دیا ہے، گویا انہیں قضا کی گردش بھیجتی ہے، پس میں نے رات گزار لی اور مجھے اس میں کچھ شبہ نہ تھا، کہ میری نیند ختم ہوگئی ہے، حتیٰ کہ رات پیچھے پیچھے آگئی اور قریب تھا کہ رات ختم ہو جائے اور تاریکی کے اطراف میں روشن صبح آگئی اور مشرق میں مغرب پر روشنی غالب آگئی ہے اور ختم ہوگئی ہے۔

۵۹۲ھ

اس سال کے رجب میں عزیز، مصر سے آیا اور اس کے ساتھ اس کا چچا بھی فوجوں کے ساتھ آیا اور وہ دونوں دمشق میں زبردستی داخل ہو گئے اور دونوں نے وہاں سے افضل اور اس کے اس وزیر کو نکال دیا جس نے بد تدبیری کی تھی اور عزیز نے اپنے والد صلاح الدین کی قبر کے پاس نماز پڑھی اور دمشق میں اس کے لیے خطبہ دیا اور ایک روز قلعہ منصورہ میں داخل ہو گیا اور کمرہ عدالت میں فیصلے کے لیے بیٹھا اور یہ سب اور اس کا بھائی افضل اس کی خدمت میں حاضر تھے اور قاضی محی الدین ابن الزکی نے اس کے باپ کی قبر کے پہلو میں مدرسہ عزیزیہ کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا اور وہ امیر عزالدین شامہ کا گھر تھا، پھر اس نے اپنے چچا ملک عادل کو دمشق پر

نائب مقرر کیا اور ۹ ر شوال بروز سوموار مصر کو واپس آ گیا اور دمشق میں خطبہ اور سکہ اسی کا چلتا تھا اور افضل سے صرخہ پر صلح کی گئی اور اس کا وزیر ابن الاثیر جزری اپنے جزیرہ کی طرف بھاگ گیا اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو تباہ کر دیا اور اپنے کناہوں سے اپنی حکومت برباد کر دی اور افضل اپنے اہل و اولاد اور اپنے بھائی قطب الدین کے ساتھ صرخہ منتقل ہو گیا۔ اور اس سال سرزمین عراق میں شدید سیاحہ آندھی چلی اور اس کے ساتھ صرخہ ریت بھی تھی حتیٰ کہ لوگوں کو دن میں چرانگوں کی ضرورت پڑی۔

اور اس سال قوام الدین ابوطالب یحییٰ بن سعد بن زیادہ نے بغداد میں کتاب الانشاء کو سنجالا اور وہ فصیح و بلیغ آدمی تھا، مگر وہ فاضل کی طرح نہ تھا، اور اس سال محی الدین ابوالقاسم محمود بن مبارک نے نظامیہ میں درس دیا اور وہ فاضل اور مناظر آدمی تھا اور اس سال اصہبان میں شافعیہ کا رئیس محمود بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت بخندی قتل ہو گیا، اسے ملک الدین سنقر الطویل نے قتل کیا اور یہ رجسٹرے اصہبان کی حکومت کے زوال کا سبب بن گیا۔

مؤید الدین ابوالفضل:

اور اس سال وزیر خلافت مؤید الدین ابوالفضل محمد بن علی بن قصاب نے وفات پائی، اس کا باپ بغداد کے ایک بازار میں گوشت فروخت کرتا تھا اس کا بیٹا آگے بڑھا اور اپنے زمانے کے لوگوں کا سردار بن گیا اس نے ہمدان میں وفات پائی اور اس نے بلاد عراق و خراسان وغیرہ سے بہت سے رسالتیں دیوان خلافت کو واپس کر دیئے اور وہ نوخیز اور بڑی ہمت والا اور بہادر تھا اور وہ اچھے اشعار کہتا تھا۔
الفخر محمود بن علی:

اس سال فخر محمود بن علی نے التوقانی شافعی نے حج سے واپسی پر وفات پائی۔

ابوالغنائم محمد بن علی:

ابن المعلم الہرثی شاعر نے ۹۱ سال کی عمر میں وفات پائی، الہرث واسط کی ایک ہستی ہے اور وہ ایک فصیح شاعر تھا اور ابن جوزی اپنی مجالس میں اس کے لطیف اشعار سے استشہاد پیش کیا کرتے تھے اور ابن السامی نے اس کے شاندار اشعار میں سے ایک اچھا قطعہ بیان کیا ہے۔
فقیہ ابوالحسن علی بن سعید:

ابن الحسن بغدادی نے جو ابن العریف کے نام سے مشہور ہے اس سال وفات پائی اور ان کا لقب المبع الفاسد تھا یہ جنلی تھے پھر ابوالقاسم بن فضلان کے ذریعے امام شافعی سے اہتمعال کرنے لگے اور اسی نے اس مسئلہ پر شافعیہ اور حنفیہ کے درمیان آپ کے بکثرت تکرار کرنے پر آپ کو یہ لقب دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کے بعد امامیہ کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔
شیخ ابوشجاع:

اس سال شیخ ابوشجاع محمد بن علی بن مغیث بن الدھان الفرضی الحاسب المؤرخ بغدادی نے وفات پائی، یہ دمشق آیا اور کندی

ابوالیمن زید بن حسن کی تعریف کی اور کہا:

”اے زید! میرا رب تجھے اپنی بخششوں سے زیادہ نعمتیں دے جن کے پانے سے امید کو تباہ رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کے حال اس وقت تک نہ بدلے جب تک نجات کے درمیان حال اور بدل کا چکر چلتا رہتا ہے تو عالمین سے نحو کا زیادہ حق دار ہے کیا اس میں تیرے نام کی مثالیں بیان نہیں کی جاتیں؟“

۵۹۳ھ

اس سال قاضی فاضل کا ایک خط ابن الرزی کی طرف آیا جس میں اس نے اسے بتایا کہ ۹ جمادی الآخر جمعہ کی رات کو ایک بادل آیا جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرے اچھ لینے والی بجلیاں اور تند ہوا کیں تھیں جن سے فضاء طاقتور ہو گئی اور اس کے چلنے میں سختی آ گئی اور اس نے اس کی لگا میں کھلی چھوڑ دیں اور اس کی تالیوں کی آواز بلند ہو گئی جس سے دیواریں کا پنے اور لرز نے لگیں اور دُوری کے باوجود ایک دوسرے سے مل گئیں اور زمین و آسمان غبار ہو گئے حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ آسمان زمین پر منطبق ہو جائے گا یہی معلوم ہوتا تھا کہ جہنم کی ایک وادی بہہ پڑی ہے اور اس سے کوئی دوڑنے والا ڈوڑ پڑا ہے اور ہوا کی تیزی اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ستاروں کے چراغوں کو گل کر دیا اور آسمان کی کھال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے اوپر جو نقوش تھے اس نے مٹا دیئے اور ہماری حالت اللہ تعالیٰ کے اس قول (وہ بجلیوں کے خوف سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں) کے مطابق ہو گئی اور وہ بجلیوں کے خوف سے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھنے لگے آنکھوں کو اچکنے سے کوئی بچانے والا نہ تھا اور صرف استغفار کے قلعے مصائب سے بچنے کی پناہ گاہ تھے اور مرد عورتیں اور بچے بھاگ گئے اور ہلکے یا جو بھل ہو کر اپنے گھروں سے نکل گئے وہ کسی حیلے کی سکت نہ پاتے تھے اور نہ انہیں کوئی راہ سوجھتی تھی انہوں نے جامع مسجدوں کی پناہ لے لی اور مشقت برداشت کرنے والے چہروں اور اہل دمال کو بھول جانے والے دلوں سے نازل ہونے والی مصیبت کے لیے گردنیں جھکا دیں وہ نیم باز آنکھوں سے دیکھتے تھے اور کسی بڑی مصیبت کی توقع رکھتے تھے زندگی سے ان کا تعلق منقطع ہو چکا تھا اور نجات سے ان کے راستے بے نشان ہو چکے تھے اور جس طرف وہ آرہے تھے اس کا فکر انہیں دامگیر تھا اور وہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرنے لگے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش وہ ان کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہوتے یہاں تک کہ اسے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا اور تہجد گزاروں نے جاگنے کی کوشش کی اور صبح کو ہر مسلمان اپنے دوست کو سلامتی کی مبارکباد دینے لگا اور وہ سمجھتا تھا کہ اسے صور اسرافیل کی پھونک کے بعد اٹھایا گیا ہے اور اسے شور و پکار کے بعد ہوش آیا ہے اور یہ کہ اللہ نے اُسے واپس لوٹایا ہے اور اسے تقریباً اچانک پکڑ لینے کے بعد زندہ کیا ہے۔

اور واقعات میں بیان ہوا ہے کہ اس نے سمندروں میں کشتیوں کو اور جنگلات میں درختوں کو توڑ دیا اور بہت سے مسافروں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان میں سے کچھ بھاگ پڑے جنہیں بھاگنے نے فائدہ نہ دیا۔ اور اس نے یہاں تک کہا کہ مجلس یہ خیال نہ کرے کہ میں نے قلم کو میز پر چھوڑ دیا ہے اور علم کھوکھلا ہے معاملہ بڑا تھا لیکن اللہ نے بچالیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بات سے بیدار کیا ہے جس کی اس نے ہمیں نصیحت کی ہے اور ہم جن باتوں کے شیفتہ ہیں ان سے ہمیں اس نے ہوشیار کیا ہے اس کے ہر بندے نے قیامت کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے قیامت کے لیے کوئی دلیل تلاش نہیں کی ہاں ہمارے شہر کے باشندوں کی مثال پہلے لوگوں نے مثالوں میں بیان نہیں کی اور نہ مشکلات میں پہلے اس کی کوئی مثال بیان ہوئی ہے اور اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کے متعلق خبر دینے والا بنایا اور وہ ہمارے بارے میں خبر نہیں دیتا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے حرص و غرور کے بادل کو دور کرے اور ہمیں تباہ و برباد ہونے والوں میں نہ بنائے۔

اور اس سال قاضی فاضل نے مصر سے ملک عادل کو دمشق خط لکھا اور اسے فرنگیوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور جو وہ ان سے جنگ کرنے اور حریم اسلام کو بچانے کی تک و دو کر رہا تھا اس پر اس کا شکر یہ ادا کیا اور اس نے ایک خط میں لکھا جن اوقات میں تم ہو یہ اوقات عمروں کی دہلیزیں ہیں اور یہ جو تمہارا ہے ہاتھوں خرابات ہو رہے ہیں یہ جنت میں خوروں کے مہر ہیں اور وہ شخص کیا ہی سعادت مند ہے کہ جو اس کے ہاتھوں میں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ اللہ کا اس پر احسان ہے اور یہ وہ توفیق ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی اور ان معرکوں میں غبار کی سیاہی باطن میں گناہوں سے سیاہ کیے ہوئے صحائف ہیں اور یہ گھڑیاں کس قدر سعادت مند ہیں اور یہ واپسی کس قدر تسلی دینے والی ہے۔

نیز اس نے لکھا اللہ تعالیٰ اس نام کو منابر اور صحائف کی مانگ پر ہمیشہ تاج بنا کر رکھے اور دنیا کے نفوس و اجساد کو مبارک دے اور مملوک نے اس بات کو پہچان لیا ہے جس کا اقتضاء مشاہدہ نے کیا ہے اور عافیت اسے سرور میں کھینچ لائے اور حال اس کی بارش پر اضافہ نہ کرے۔

کیا تو دیکھتا نہیں کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کا علاج کرتا ہے اور اسے عمداً کاٹ دیتا ہے تاکہ اس کا باقی جسم سلامت رہے۔ اور اگر اس میں کوئی تدبیر کی بات ہوتی تو ہمارے مولانا اس کی طرف سبقت کرتے اور جو شخص انگلی سے ناخن کاٹے تو وہ اپنے فعل سے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس سے ضرر کو دور کرتا ہے اور ناپسندیدہ بات کی تکلیف برداشت کرنا اس وقت نقصان دہ نہیں ہوتا جب اس سے قابل تعریف کام تک پہنچنا ہو اور اس کی چمک کا آخری حصہ اس کی ہر جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے مولانا پڑاؤ کے ارادے اور اس کے فعل سے ملول نہیں ہوتے اور اس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور جب وہ صرف خدائے واحد کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں تو وہ سب چہروں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے (جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور بلاشبہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے)۔

اور اس سال اس صلح کی مدت ختم ہو گئی جسے ملک صلاح الدین نے فرنگیوں سے طے کیا تھا اور وہ اپنی تیزی اور آہنی ہتھیاروں کے ساتھ آئے تو ملک عادل نے مرج عکا میں ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دی اور ان سے غنیمت حاصل کی اور پافاکو بزرگ قوت فتح کر لیا اور انہوں نے شاہ جرمنی کو فتح بیت المقدس کے لیے براہیغینہ کرتے ہوئے خط لکھا تو اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی موت مقدر کر دی اور فرنگیوں نے اس سال بیروت کو اس کے نائب عز الدین شامہ سے بغیر کسی مقابلہ و جنگ کے حاصل کر لیا اسی لیے ایک شاعر نے امیر شامہ کے متعلق کہا ہے۔

اس نے قلعے کو سپرد کر دیا تجھ پر کوئی ملامت نہیں اور جو سلامتی کا خواہاں ہو اسے ملامت نہیں کی جاتی تو جنگ کے بغیر قلعے عطا کرتا ہے یہ سنت شامہ نے بیروت میں جاری کی ہے۔

اور اس سال شاہ فرنگ کندھری نے وفات پائی وہ ایک بلند چوٹی سے گرا اور مر گیا اور فرنگی بھیسروں کی طرح کسی چرواہے کے بغیر رہ گئے حتیٰ کہ انہوں نے حاکم قبرص کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور ملکہ سے جو کندھری کی بیوی تھی اس کا نکاح کر دیا، ملک عادل اور ان کے درمیان بہت سے ناپسندیدہ واقعات ہوئے اور وہ ان سب معاملات میں ان پر غالب رہا اور انہیں شکست دیتا رہا اور ان کے

جاننازوں میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کرتا رہا اور یہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ اسی حالت میں رہے حتیٰ کہ انہوں نے مصالحت کا مطالبہ کیا اور اس نے آئندہ سال ان سے سح کا معاہدہ کیا۔

سیف الاسلام طغتگین:

اس سال سلطان صلاح الدین کے بھائی سیف الاسلام طغتگین نے وفات پائی جو یمن کا بادشاہ تھا اور اس نے بہت سے اموال جمع کیے تھے۔ وہ سونے کو چکیوں کی طرح گھسلا لیتا تھا اور اس طرح اسے ذخیرہ کر لیتا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل بادشاہ بنا اور وہ بہادر اور بے تدبیر شخص تھا اس کی جہالت نے اسے قرشی اموی ہونے کا دعویٰ کرنے پر آمادہ کر دیا اور اس نے ہادی کا لقب اختیار کر لیا اس کے چچا عادل نے اسے خط لکھا کہ وہ اس سے باز آ جائے اور اس وجہ سے اس نے اسے دھمکی بھی دی مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور نہ اس کی بات کو قبول کیا بلکہ امراء اور رعیت سے مسلسل بری تدبیریں کرتا رہا اور قتل ہو گیا اور اس کے بعد اس کے باپ کے غلاموں میں سے ایک غلام نے حکومت سنبھال لی۔

امیر کبیر ابوالہیجاء السمین الکرودی:

یہ صلاح الدین کے اکابر امراء میں سے تھا اور یہی عکا کا نائب تھا اور فرنگیوں کے چھین لینے سے پہلے یہ وہاں سے نکل آیا پھر المصطوب کے بعد اس میں داخل ہوا اور اسے اس سے چھین لیا۔ اور صلاح الدین نے اسے قدس پر نائب مقرر کیا پھر جب عزیز نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس نے اسے وہاں سے معزول کر دیا اور اسے بغداد طلب کر کے اس کا بہت اکرام کیا اور خلیفہ نے اسے فوج کا امیر بنا کر ہمدان کی طرف بھیجا اور یہ وہیں فوت ہو گیا۔

قاضی بغداد ابوطالب علی بن علی بن ہبیب اللہ بن محمد بخاری:

اس نے ابوالوقت وغیرہ سے حدیث کا سماع کیا اور ابوالقاسم بن فضلان سے فقہ سیکھی اور بغداد میں الحکم کی نیابت سنبھالی پھر باختیار منصب والا ہو گیا۔ اور ایک وقت اسے وزارت کی نیابت بھی دے دی گئی اور پھر اسے قضاء سے معزول کر دیا گیا پھر دوبارہ اسے قضا کا کام دیا گیا اور یہ حاکم ہونے کی حالت میں ہی فوت ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں اور یہ فقہ و عدالت کے گھرانے کا ایک ماہر اور فاضل انسان تھا اور اس کے شعر ہیں۔

”فتیح کام سے ایک طرف ہو جا اور اس کا ارادہ بھی نہ کر اور جس سے تو نے نیکی کی ہے اس سے مزید نیکی کر تیرے دشمن

کی ہر تدبیر کے مقابلے میں جب وہ تدبیر کرے تیرا تدبیر نہ کرنا ہی تجھے کفایت کرے گا۔“

بغداد میں طالبیوں کا نقیب سید شریف:

ابو محمد حسن بن علی بن حمزہ بن محمد بن حسن بن محمد بن علی بن یحییٰ بن حسین بن یزید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علوی حسینی جو ابن الاقاسی کے نام سے مشہور ہے جو مولد و مرزبوم کے لحاظ سے کوئی تھا اور زبردست شاعر تھا اس نے خلفاء اور امراء کی مدح کی ہے اور ادب و ریاست اور جوان مردی کے مشہور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا یہ بغداد آیا اور اس نے المقتدی، المستجد اور اس کے بیٹے المقتدی اور الناصر کی مدح کی تو اس نے اسے نقیب مقرر کر دیا اور یہ بارعب شیخ تھا جو اسی (۸۰) سال سے زیادہ عمر کا

تھا اور ابن السامی نے اس کے بہت سے قصائد بیان کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ
 ”زمانے کی تدبیروں پر صبر کروہ ایک طریق پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، فضاء سبقت کر گئی ہے اور تو اس سے راسخی ہو جا اور
 حقیقت کا جو یانہ بن گئی، فعدہ وہ مغلوب ہوا ہے اور اس نے تجھ تنگی اور وسعت دکھائی ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں میں اسی
 طریق کے مطابق چلتا ہے۔“

السبت عذرا بنت شاہنشاہ:

ابن ایوب سے باب النصر کے اندر اس کے مدرسہ میں دفن کیا گیا اور السبت خاتون ملک عادل کی والدہ ہے اور اسے دمشق
 میں اس کے گھر میں جو اسد الدین شیرکوه کے گھر کے پڑوس میں ہے دفن کیا گیا۔

۵۹۳ھ

اس سال فرنگیوں نے اپنی افواج کو جمع کیا اور انہوں نے آ کر تینین کا محاصرہ کر لیا اور عادل نے اپنے بھتیجوں کو ان سے جنگ
 کرنے کے لیے بلایا تو عزیز، مصر سے اور افضل، سرخند سے اس کے پاس آئے اور فرنگیوں نے قلعہ کو چھوڑ دیا اور انہیں شاہ جرمی کی
 وفات کی خبر ملی تو انہوں نے عادل سے مصالحت کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے مصالحت کر لی اور بادشاہ اپنی اپنی جگہوں کی طرف
 واپس آ گئے اور اس دفعہ معظم عیسیٰ بن العادل نے بڑی پوزیشن حاصل کر لی اور اس کے باپ نے اسے دمشق پر نائب مقرر کیا اور خود
 وہ جزیرہ میں اپنی حکومت کی طرف روانہ ہو گیا اور ان سے بہت اچھی روش اختیار کی اور اس سال سلطان نے وفات پائی جو سنجاو وغیرہ
 بڑے بڑے شہروں کا حاکم تھا اور وہ عماد الدین زنگی بن مودود بن زنگی اتا کی تھا جو بہترین بادشاہوں میں سے تھا اور صورت و سیرت
 کے لحاظ سے بھی ان سے بہت اچھا تھا اور باطنی لحاظ سے بھی ان سے اچھا تھا مگر بخیل تھا اور علماء سے بڑی محبت کرتا تھا، خصوصاً حنفی
 علماء سے اور اس نے ان کے لیے سنجاو میں ایک مدرسہ تعمیر کیا اور اس نے ان پر کھانے کی شرط کو لازم کیا کہ ان میں سے ہر ایک ہر روز
 سب کے لیے کھانا پکائے اور یہ ایک اچھا نظریہ ہے اور فقیہ فقیر کی نسبت اس نیکی کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ فقیہ خوراک کے ذریعے
 تکرار و مطالعہ میں مشغول رہتا ہے۔

پس اس کے عمزاد حاکم موصل نے اس کے بچوں پر حملہ کر دیا اور ان سے بادشاہت چھین لی اور اس کے بیٹوں نے ملک عادل
 سے مدد مانگی تو اس نے ان کی حکومت ان کو واپس دلائی اور ظلم کو ان سے دور کر دیا اور اس کے بیٹے قطب الدین محمد کے لیے حکومت
 مستحکم ہو گئی، پھر بادشاہ نے مار دین کی طرف جا کر ماہ رمضان میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس کے سبزہ زاروں اور کارگا ہوں پر قابض
 ہو گیا اور اس کے قلعے نے اسے در ماندہ کر دیا پس اس نے اس کے گرد چکر لگایا اور کسی کو خیال بھی نہ تھا کہ وہ اس پر قابض ہو جائے گا
 اس لیے کہ وہ مستقل مزاج اور طاقتور نہ تھا۔

اور اس سال خزر یوں نے بلخ شہر پر قبضہ کر لیا اور الخطا کو شکست دی اور ان کو مغلوب کر لیا، اور خلیفہ نے انہیں پیغام ارسال کیا
 کہ وہ خوارزم شاہ کو عراق میں داخل ہونے سے روکیں، وہ چاہتا تھا کہ بغداد میں اس کا خطبہ ہو۔

اور اس سال خوارزم شاہ نے بخارا شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایک مدت کے بعد اسے فتح کر لیا اور ایک زمانے تک وہ اس کے لیے رکاوٹ بنا رہا اور اٹھانے ان کی مدد کی تو اس نے ان سب کو مغلوب کر لیا اور بزور قوت اسے پھینک لیا اور اس کے باشندوں سے غنمو درگنڈزین اور انہوں نے ایک ایک چشم کتے کو قبا پہنا کر اس کا نام خوارزم شاہ رکھا تھا اور اسے منجیق کے ذریعے خوارزمیہ کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگے یہ تمہارا مال ہے اور خوارزم شاہ یک چشم تھا اور جب اس نے ان پر قابو پایا تو انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اسے جزائے خیر دے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

العوام بن زیادہ:

باب خلافت کا کاتب انشاء ابوطالب یحییٰ بن سعید بن ہبہ اللہ بن علی بن زیادہ اس کے زمانے میں عراق میں رساںک و انشاء اور فصاحت و بلاغت کی سرداری اس پر منتہی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اسے شافعی مذہب کے مطابق فقہ و غیرہ کے بہت سے علوم حاصل تھے اس نے شافعی مذہب کو ابن فضلان سے سیکھا اور اسے حساب و لغت میں بڑی معرفت حاصل تھی اور اس کے اشعار بھی ہیں اور اس نے کئی مناصب سنبھالے جن سب میں وہ قابل تعریف شخص ہے اور اس کے اچھے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

جس دشمن کو تو حقیر سمجھتا ہے اسے حقیر نہ سمجھ کتنے ہی خوش نصیبوں کی خوش نصیبی کو کھیل کے ساتھ زمانے نے ہلاک کر دیا یہ سورج ہے جس کی جلالت کے باوجود کسوف سر اور دم کے ساتھ اس پر چھا جاتا ہے نیز وہ کہتا ہے:

زمانے کی حرکت سے اس میں عیوب کے اٹھنے سے مصیبت عام ہو جاتی ہے جیسے کھڑے پانی کو حرکت دی جائے تو اس کی تہ سے تنکے اٹھ پڑتے ہیں۔

نیز وہ کہتا ہے:

میں نے دنیا کو بھلا دیا ہے اور اس شخص نے اسے نہیں بھلایا جس کی امیدوں اور آرزوں کے ساتھ وہ چمٹی ہوئی ہے اور جب میں اس سے روگردانی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنے جوش زن سمندر میں پھینک دیتی ہے وہ مجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور میں اکیلا ہی ہلاک ہوتا ہوں گویا میں چراغ میں قہیلہ ہوں۔ اس نے ماہ ذوالحجہ میں ۲۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے جنازے میں بہت سے لوگوں نے شمولیت کی اور اسے موسیٰ بن جعفر کے نزدیک دفن کیا گیا۔

قاضی ابوالحسن علی بن رجاہ بن زہیر:

ابن علی البطالچی یہ بغداد آئے اور وہاں فقہ سبکی اور حدیث کا سماع کیا اور مالک بن طوق کے صحن میں مدت تک قیام کیا اور ابو عبد اللہ بن النبیہ الفرضی سے اشتغال کیا پھر مدت تک عراق کی قضا سنبھالی اور آپ ادیب تھے اور آپ نے اپنے شیخ ابو عبد اللہ بن النبیہ سے بھی سماع کیا ہے حریری کا معارضہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں دو شعر کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ کوئی تیسرا ان دونوں سے نسبت نہیں رکھتا اور وہ شعر یہ ہیں:

ایسا نشان لگا جس کے آثار کی تعریف کی جائے اور جو عطا کرے اس کا شکر یہ ادا کر خواہ وہ تل ہی ہو اور خواہ تو فریب کی کس قدر قوت رکھے فریب نہ کرتا کہ تو سرداری اور عزت حاصل کرے۔

ابن النبی نے کہا۔

مخلوق کے درمیان حقیر لوٹڈی ملامت کرنے والے شریف آدمی سے اچھی نہیں اور جب تجھ سے سخاوت طلب کی جائے تو تو نہیں کہنے سے رک جا شریف آدمی اس سے اپنا منہ نہیں بھرتا۔

امیر عزالدین حرطلی:

نورالدین کے زمانے میں یہ اکابر امراء میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے شاد کے قتل میں شمولیت کی تھی اس نے صلاح الدین کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کیا اور جب اس نے قدس کو فتح کیا تو اسے قدس پر نائب مقرر کیا اور وہ بڑے بڑے اہم امور میں اس سے مدد طلب کرتا تھا اور یہ اپنی جان اور بہادری کے ذریعے انہیں درست کر دیتا تھا اور جب افضل حکمران بنا تو اس نے اسے قدس سے معزول کر دیا اور یہ بلاؤشام کو چھوڑ کر موصل آ گیا اور اس سال یہیں پر فوت ہو گیا۔

۵۹۵ھ

حاکم مصر، عزیز کی وفات:

اس کی وفات کا واقعہ یوں ہے کہ یہ ۲۱ محرم کی رات کو شکار کے لیے نکلا اور ایک بھڑیے کے پیچھے لگ گیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور یہ اس کے اوپر سے گر پڑا اور کچھ دن بعد مر گیا اور اپنے گھر ہی میں دفن ہوا پھر اسے حضرت امام شافعیؒ کی قبر کے نزدیک منتقل کر دیا گیا اور اس کی عمر ۲۷، ۲۸ سال تھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس سال حنابلہ کو اپنے شہر سے نکال دینے کا عزم کیا تھا اور اس نے اپنے بقیہ بھائیوں کو بھی خطوط لکھے کہ وہ انہیں اپنے اپنے شہروں سے نکال باہر کریں اور یہ بات اس کے متعلق مشہور ہو چکی تھی اور اس نے اس کی صراحت کی اور یہ سب کچھ اس کے ان معلمین اور میل جول رکھنے والوں کا شاخسانہ تھا جو جمیہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے نیز اس کے علم حدیث کی کمی بھی اس کا باعث بنی اور جب اس نے یہ برا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اور اسے جلد ہی تباہ و برباد کر دیا اور مصر و شام میں خاص و عام کے نزدیک حنابلہ کی عزت بڑھ گئی اور بعض کا قول ہے کہ حنابلہ کے بعض صالحین نے اس کے خلاف بددعا کی اور جو نہی وہ شکار کو نکلا تو جلد ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔

اور فاضل نے عزیز کے بارے میں اس کے چچا کو تعزیتی خط لکھا اور ماردین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ افواج بھی تھیں اور اس کا بیٹا محمد کامل بھی اس کے ساتھ تھا جو جزیرہ کے ان شہروں پر اس کا نائب تھا جو بلاد حیرہ کے قریب تھے اور خط کا مضمون یہ تھا۔

”اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ملک عادل کے اقتدار کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس کی عمر میں برکت دے اور اپنے امر سے اس کے امر کو بلند کرے اور اس کی مدد سے اسلام کی مدد کرے اور جانیں اس کی نخی جان پر قربان ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے عظیم احسانات سے عظیم

امور کو چھوٹا کر دے اور اسے حیات طیبہ دے اور وہ اور اسلام بڑی بڑی فتوحات کے اوقات میں اکٹھے ہوں اور وہ ان فتوحات سے عاقبتی کے امور اور عواقب طیبہ کے ساتھ پلٹے اور اسے جوانوں کی کمی نہ ہو اور وہ کسی جان کو اور بچے کو نہ بھولے اور نہ اس کے لیے دامن اور ہاتھ کوتاہ ہو۔ اور نہ اس کے لیے آنکھ دکھے اور نہ اس کے لیے جگر کو تکلیف ہو اور نہ اس کے لیے دل اور گھٹاں مگدرا ہو اور جب اللہ تعالیٰ نے ملک عزیز کی موت متدرک کی تو اس کی زندگی اس کے لیے مگدرا اور بیکار تھی اور جب اس کی موت آئی تو مصیبت کا آغاز بڑا تھا اور ناپسندیدہ امر کی آمد دردناک تھی اور اچانک چہرے کے محاسن بوسیدہ ہو گئے جو اس کے خوبصورت چہرے سے مٹی ہٹاتے تھے اور الفیوم سے واپسی کے بعد اس کی بیماری کا زمانہ دو ہفتے تھا اور اس کی وفات ۲۱ محرم کی رات کو ساتویں گھنٹے میں ہوئی اور غلام اکٹھے ہو کر جسم و دل اور ہاتھ پاؤں کی تکلیف اور جگر کی بیماری کے درمیان بے اصل باتیں کر رہے تھے اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس آقا کو اپنے والدہ کے عہد کا صدمہ اٹھانا پڑا اور ہر روز اس پر نیا غم ہوتا ہے۔“

اور جب عزیز نے وفات پائی تو اس نے اپنے پیچھے دس لڑکے چھوڑے اور اس کے امراء نے آ کر اس کے بیٹے محمد کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اور اسے منصور کا لقب دیا اور جمہور امراء در پردہ عادل کو بادشاہ بنانے کی طرف مائل تھے لیکن وہ اس کے مقام کو مستبعد خیال کرتے تھے، پس انہوں نے افضل کو صرخد میں پیغام بھیجا اور اسے جلد بلوایا اور جب وہ ان کے پاس آیا تو اس نے ان کی مدد روک دی اور انہوں نے اس پر اتفاق نہ کیا اور جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ مکمل نہ ہوا اور ناصریہ کے اکابر امراء نے اسے دھوکہ دیا اور مصر سے نکل کر بیت المقدس میں اقامت اختیار کر لی اور عادی فوجوں کو برا بیچنے کرنے والے پیغامات بھیجے، پس اس نے اپنے بھتیجے کو سلطنت پر قائم کیا اور دیگر مصری شہروں میں سکھ اور خطبہ میں اس کے نام کو بلند کیا، لیکن افضل نے اپنے اس سفر میں یہ فائدہ حاصل کیا کہ اس نے مصریوں سے ایک بہت بڑی فوج لی اور اس کے ساتھ اپنے چچا کی غیر حاضری میں دمشق کو واپس لینے کے لیے آیا اور اس نے یہ کام اپنے بھائی اسد الدین کے مشورے سے کیا جو حلب کا حکمران اور محض کا بادشاہ تھا اور جب یہ دمشق پہنچا اور اس کے ارد گرد اترتا تو اس نے اس کی نہروں کو بند کر دیا اور اس کے درختوں کو کاٹ دیا اور ان کے پھلوں کو کھا گیا اور مسجد القدم میں اپنے خیمہ میں اترتا اور اس کا بھائی الظاہر اور اس کا عمزاد اسدالکاسر اور اس کی حامی فوج بھی اس کے پاس آئی، پس اس کی فوج طاقتور ہو گئی اور اس کی جنگ سخت ہو گئی اور اس کی فوج شہر میں آ گئی اور انہوں نے اپنے شعاع کا اعلان کیا، تو عوام میں سے کسی نے ان کی موافقت نہ کی اور عادل مار دین سے اپنی فوجوں کے ساتھ آیا اور اس کے بھائی کے امراء اور اس کے بھتیجوں کی ایک پارٹی بھی اس کے گرد جمع ہو گئی اور ہر شہر نے اپنے اکابر کے ذریعے اسے مدد دی اور فاضل دوروز پہلے دمشق پہنچ گیا اور اس نے اسے محفوظ کر لیا اور اس نے اپنے بیٹے محمد کامل کو مار دین پر نائب مقرر کیا اور جب وہ دمشق آیا تو اکثر مصری امراء وغیرہ نے اس سے دھوکہ کیا اور افضل کا معاملہ کمزور پڑ گیا اور وہ ان کی بھلائی اور حسن سلوک سے ناامید ہو گیا، پس اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے رکھا، حتیٰ کہ ایک سال گزر گیا پھر آئندہ سال حالت بدل گئی، جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، اور اس سال اس نے بغداد کی فصیلوں کو اینٹوں اور چونے سے تعمیر کرنا شروع کیا اور اس نے یہ کام امراء میں تقسیم کر دیا اور اسی سال کے بعد اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور بغداد غرق و حصار سے محفوظ ہو گیا اور اس سے پہلے اس کی فصیلیں نہیں تھیں۔

سلطان ابو محمد یعقوب بن یوسف:

ابن عبدالمومن جو مغرب اور اندلس کا حکمران تھا اور اس نے اندلس کے قریب ایک شاندار شہر تعمیر کیا جس کا نام اس نے مہدیہ رکھا اور یہ بڑا دیندار نیک سیرت اور نیک دل شخص تھا اور مالکی المذہب تھا پھر ظاہری حزمی ہو گیا پھر شافعی مذہب کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے بعض شہروں میں ان سے قاضی بھی بنائے اور اس کی مدت حکومت ۷۵ سال تھی اور یہ بہت بہادر کرنے والا تھا رحمہ اللہ اور یہ پانچوں نمازوں میں لوگوں کی امامت کرتا تھا اور عورت اور کمزور کا مددگار تھا اور یہی وہ شخص ہے جسے صلاح الدین نے خط لکھا کہ وہ اسے فرنگ کے مقابلہ میں مدد دے اور جب اس نے اسے امیر المومنین کے نام سے مخاطب نہ کیا تو وہ اس وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے جو مطالبہ اس سے کیا تھا اس کا جواب نہ دیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے محمد نے حکومت سنبھالی اور اس نے بھی اپنے والد کی روش اختیار کی اور جن بہت سے شہروں نے اس کے باپ کی نافرمانی کی تھی وہ دوبارہ اس کے پاس آگئے پھر اس کے بعد ان کی خواہشات نے ان کو متفرق کر دیا اور ملک یعقوب کے بعد یہ گھر برباد ہو گیا۔

اس سال ایک عجمی شخص نے دمشق میں دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے، پس قلعہ کے نائب امیر صارم الدین برغش نے عماد کاتب کے حمام کے پاس باب الفرج سے باہر اس چکی کے سامنے جو دونوں دروازوں کے درمیان ہے اسے صلیب دینے کا حکم دیا اور یہ حمام قدیم مدت سے برباد ہو چکا ہے اور اسے صلیب دیئے جانے کے دو دن بعد عوام نے روافض پر حملہ کر دیا اور وہ باب الصغیر میں ان کے ایک شخص کی قبر کے پاس گئے جسے وثاب کہا جاتا تھا اور انہوں نے اس کی قبر کو کھودا اور اسے دو کتوں کے ساتھ صلیب دے دیا یہ اس سال کے ربیع الآخر کا واقعہ ہے۔

اور اس سال بلاد خراسان میں بڑا فتنہ پیدا ہوا اور اس کا سبب یہ تھا کہ فخر الدین محمد بن عمر رازی، حاکم غزنی، ملک غیاث الدین غوری کے پاس گئے اور اس نے آپ کی عزت کی اور ان کے لیے ہرات میں ایک مدرسہ بنایا اور غوریوں کی اکثریت کرامیہ ہے انہوں نے رازی سے نفرت کی اور اسے بادشاہ سے دور کرنا چاہا سوانہوں نے آپ کے لیے حنفی اور کرامی فقہاء کی ایک جماعت اور شافعیہ کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ابن القدرہ بھی حاضر ہوا جو لوگوں میں معظم شیخ تھا اور وہ ابن کرام اور ابن الہیسم کے مذہب پر تھا پس امام رازی اور اس نے باہم مناظرہ کیا اور دونوں مناظرہ کو چھوڑ کر سب و شتم میں لگ گئے اور جب دوسرا دن ہوا تو لوگ جامع مسجد میں جمع ہوئے اور ایک واعظ نے کھڑے ہو کر گفتگو کی اور اپنی تقریر میں کہا اے لوگو ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر مروی ہے اور ہم ارسطو کے علم، ابن سینا کی کفریات، فارابی کے فلسفہ اور رازی کی تلبیسات کو نہیں جانتے اور نہ ہم انہیں بیان کرتے ہیں اور وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور گذشتہ کل ایک شیخ الاسلام کو جو اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کا دفاع کر رہا تھا، کس لیے ایک متکلم کی زبان سے گالیاں دی گئی حالانکہ جو وہ کہہ رہا تھا اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ تھی راوی کا بیان ہے کہ لوگ گریہ کیاں ہو گئے اور چیخیں مارنے لگے اور کرامیہ بھی روپڑے اور مدد مانگنے لگے اور اس بارے میں خاص لوگوں نے ان کی مدد کی اور بادشاہ تک صورت حال کو پہنچایا تو اس نے امام رازی کو اپنے ملک سے اخراج کا حکم دے دیا اور آپ ہرات واپس آگئے اسی وجہ سے امام رازی کے دل میں کرامیہ کی نفرت رچ بس گئی اور آپ اپنی گفتگو

میں ہر مقام اور ہر جگہ پر ان سے الجھنے لگے۔

اور اس سال خلیفہ شیخ ابوالفضل ابو الفرج ابن الجوزی سے راضی ہو گیا، اس نے آپ کو بغدادت واسط کی طرف بھیج دیا اور آپ نے وہاں پانچ سال قیام کیا اور وہاں کے باشندوں نے آپ سے انتفاع و استفادہ کیا اور جب آپ بغداد واپس آئے تو خلیفہ نے آپ کو خلعت دیا اور آپ کو حضرت معروف کرمی کی قبر کے پاس قبرستان میں حسب دستور و عظم کرنے کی اجازت دے دی، آپ بہت بڑا کٹھ ہو گیا اور خلیفہ بھی آ گیا اور اس روز آپ نے خلیفہ کو مخاطب کر کے یہ اشعار پڑھے۔

”اس باغ کو اپنے انعامات کی بارش سے پیسا سا نہ رکھ جسے تو نے خود لگا یا ہے اس لکڑی کو نہ چھیل جس پر تو نے پانی چھڑکا ہے، بانی مجد کی بزرگی کے ختم ہونے سے بچ، اگر میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو از سر نو معاف کر اور مجھے خوشی بخش دے، میں تجھ سے خواہشات کے حصول کی امید رکھتا تھا اور آج میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔“

اور اس روز آپ نے یہ اشعار بھی سنائے۔

”ہم ایک زمانے تک جدائی سے بد بخت ہوئے اور جب ہم نے ملاقات کی تو یوں معلوم ہوا کہ ہم بد بخت نہیں ہوئے، جب راتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا تو ہم ناراض ہو گئے اور راتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں کہ ہم راضی ہو گئے، اور وہ کون ہے جو موت کے بعد ایک روز بھی زندہ نہیں ہوا، ہم تو مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔“

اس سال خلیفہ ناصر نے موصل کے قاضی ضیاء الدین ابن الشہر زردی کو بلا کر اسے بغداد کا قاضی القضاۃ بنا دیا اور اس سال حافظ عبدالغنی مقدسی کے باعث دمشق میں فتنہ برپا ہوا، اس لیے کہ وہ جامع اموی میں حنابلہ کے حجرے میں گفتگو کرتا تھا، ایک روز اس نے عقاید کے متعلق کچھ بیان کیا تو قاضی ابن الزکی ضیاء الدین خطیب الدولعی اور امیر صارم الدین برغش نے سلطان معظم سے ملاقات کی تو اس نے استواء علی العرش نزول اور حرف و صوت کے مسئلہ کے متعلق ایک مجلس منعقد کی تو نجم حنبلی نے بقیہ فقہاء سے اتفاق کیا اور حافظ اپنی بات پر قائم رہا اور اس سے رجوع نہ کیا اور بقیہ فقہاء نے اس پر اتفاق کر لیا اور اس پر شنیع الزامات لگائے، جو اس نے نہیں کیے تھے حتیٰ کہ امیر برغش نے اسے کہا یہ سب لوگ گمراہی پر ہیں اور تو اکیلا حق پر ہے؟ اس نے کہا ہاں! پس امیر نے ناراض ہو کر اسے شہر سے جلا وطن کر دینے کا حکم دیا، اس نے امیر سے تین دن کی مہلت مانگی تو اس نے اسے مہلت دے دی اور برغش نے قلعہ سے قیدیوں کو بھیجا تو انہوں نے حنابلہ کے منبر کو توڑ دیا اور اس روز حنابلہ کے محراب میں ظہر کی نماز ضائع ہو گئی اور وہاں جو خزانے اور صندوق تھے انہیں باہر نکالا گیا اور بڑی دیوانگی پیدا ہو گئی اور ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

اور مجلس کا انعقاد ۲۴ ذوالحجہ کو سوموار کے روز ہوا تھا، پس حافظ عبدالغنی بعلبک کی طرف کوچ کر گیا، پھر مصر چلا گیا تو محدثین نے اسے پناہ دی اور اس پر مہربان ہو گئے اور اس کی عزت کی۔

امیر مجاہد الدین قیماز الرومی:

موصل کا نائب جو اپنے استاد نور الدین ارسلان کے بیٹے کے زمانے میں موصل کی حکومت پر قابض ہو گیا اور یہ عقل مند ذہین اور حنفی فقیہ تھا اور بعض کا قول ہے کہ شافعی فقیہ تھا جسے تواریخ و حکایات کا بہت سا حصہ یاد تھا اور اس نے متعدد جوامع مدارس

خانقاہیں اور سرزمین بنائی ہیں اور اس کے بہت سے صدقات گردش کرتے رہتے تھے اور وہ دنیا کی ایک خوبصورتی تھا۔
ابوالحسن محمد بن جعفر:

ابن احمد بن محمد بن عبدالعزیز العباسی البہاشمی جو ابن التجاری کے بعد بغداد کا قاضی القضاة تھا اور شافعی تھا اس نے ابوالحسن بن اہل غیرہ سے فقہ سنی اور مکہ میں قضا اور خطابت سنی اور اصلاً یہ مکہ ہی کا ہے لیکن یہ بغداد کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے دنیا سے جو حاصل کرنا تھا کیا اور جو اس کا انجام ہونا تھا ہوا پھر اسے ایک دستاویز کے باعث جسے اس نے اپنے خط میں لکھا تھا معزول کر دیا گیا اور بعض کا قول ہے کہ وہ جھوٹی دستاویز بنائی گئی تھی واللہ اعلم اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ مر گیا۔

شیخ جمال الدین ابوالقاسم:

یحییٰ بن علی بن الفضل بن برکت بن فضلان بغداد کے شافعیہ کا شیخ سب سے پہلے اس نے نظامیہ کے مدرس سعید بن محمد الزرار سے فقہ سنی پھر خراسان چلا گیا اور غزالی کے شاگرد شیخ محمد الزبیدی سے علم حاصل کیا اور بغداد واپس آ گیا اور اس نے مناظرہ اور اصلین کا علم بھی حاصل کیا اور اہل بغداد کا سردار بن گیا اور طلبہ اور فقہاء نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور اس کے لیے ایک مدرسہ بنایا گیا جس میں اس نے درس دیا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور اس کے شاگرد بہت ہو گئے اور یہ بہت تلاوت کرنے والا اور سماع حدیث کرنے والا تھا اور یہ عظیم مہربان اور خوبصورت شیخ تھا اور اس کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”جب تو اشرف کے مقام کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو تجھ پر مدد کرنا اور انصاف کرنا واجب ہے اور جب کوئی سرکش تجھ پر سرکشی کرے تو اسے چھوڑ دے زمانہ اسے کافی بدلہ دینے والا ہے۔“

۵۹۶ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو ملک افضل مصری فوج کے ساتھ اپنے چچا عادل کے لیے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اس نے دمشق کی نہروں اور غلہ کو بند کر دیا پس تھوڑی سی روٹی اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا اور حالت خراب ہو چکی تھی اور انہوں نے اللوان کے علاقے سے لے کر دمشق کھودی ہوئی تھی تاکہ دمشق فوج ان تک نہ پہنچ پائے اور موسم سرما آ گیا اور بارشیں اور کچھ زیادہ ہو گئے اور جب ماہ صفر آیا تو ملک کامل محمد بن عادل ترکمانوں کے بہت سے لوگوں اور بلاذیرہ الرہا اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنے باپ کے پاس آیا اس موقع پر مصری افواج واپس چلی گئیں اور سب کے ایادی منتشر ہو گئے اور لظاہر حلب کی طرف اور اسد حمص کی طرف اور افضل مصر کو واپس چلے گئے اور عادل شہر کو سپرد کر دینے کے عزم کے بعد دشمنوں کی تدبیر سے محفوظ ہو گیا اور ناصری امراء افضل کے پیچھے روانہ ہو گئے کہ اسے قاہرہ جانے سے روکیں اور انہوں نے عادل سے خط و کتابت کی کہ وہ جلد ان کے پاس آئے۔ پس وہ جلدی سے ان کی طرف گیا اور افضل مصر میں داخل ہو کر قلعہ جبل میں قلعہ بند ہو گیا اور کمزوری اور بزدلی اس پر چھا گئی اور عادل ایک تالاب پر اترے اور مصر کی حکومت لے لی اور اس کا بھتیجا افضل اس کے پاس ذلیل و عاجز ہو کر آیا اور اس نے جزیرہ کے کچھ شہر اسے جاگیر میں دیئے اور اس کی بدسیرتی کی وجہ سے اسے شام سے جلا وطن کر دیا اور عادل قلعہ میں داخل ہوا اور اس نے صدر الدین

عبدالملک بن درباس الماردانی المکردی کو دوبارہ قاضی بنا دیا اور خطبہ اور سکھ اپنے بھتیجے منصور کے نام پر باقی رکھا اور عادل امور میں خود مختار تھا اور اس نے الصاحب منعی اندین بن شکر کو اس کی بہادری اور فہمی اور سیادت و دیانت کی وجہ سے وزیر بنایا اور عادل نے اپنے بیٹے کامل کو بلاد جزیرہ سے خط لکھ کر بلایا کہ وہ اسے مصر کا بادشاہ بنادے سو وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور اس سے معاف کیا اور بادشاہ نے فقہاء کو بلایا اور ان سے اپنے بھتیجے منصور بن عزیز کی حکومت کے درت ہونے کے بارے میں فتویٰ پوچھا اس کی عمر دس سال تھی انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کی حکومت درست نہیں کیونکہ اس پر متولی مقرر کیا گیا ہے اس موقع پر اس نے امراء کو طلب کیا اور انہیں اس کی بیعت کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس نے انہیں ترغیب دی اور ڈرایا اور جو کچھ کہا اس میں یہ بات بھی کہی علماء نے جو فتویٰ دیا تم نے سن لیا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت چھوٹے بچے نہیں کر سکتے اور ان کی حفاظت بڑے بڑے بادشاہ کرتے ہیں اس موقع پر انہوں نے اطاعت اختیار کر کے اس کی بیعت کر لی پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کامل کی بھی بیعت کر لی اور ان دونوں کے بعد خطباء نے ان دونوں کے حق میں تقاریر کیں اور ان دونوں کے نام پر کرنسی بنائی گئی اور عیسیٰ بن عادل کے معظم نام سے دمشق اور کامل کے نام سے مصر سکون پذیر ہو گیا۔

اور شوال میں امیر ملک الدین ابو منصور سلمان بن مسرور بن جلدک دمشق واپس آ گیا جو ملک عادل کا ماں جایا بھائی تھا اور وہی باب الفردیس کے اندر فلکیات کا سمجھنے والا تھا اور اس کی قبر بھی وہیں ہے وہ وہاں پر بڑے احترام و اکرام کے ساتھ قیام پذیر رہا حتیٰ کہ اس سال میں فوت ہو گیا۔

اور اس سال اور اس کے بعد والے سال میں دیا مصر میں بہت گرانی ہو گئی جس کے باعث سرمایہ دار اور فقیر مر گئے اور لوگ وہاں سے شام کی طرف بھاگ گئے مگر وہاں تک تھوڑے لوگ ہی پہنچ پائے البتہ عراق کے علاقے ارزاں تھے ابن السامی نے بیان کیا ہے کہ اس سال بغداد میں ایک مرغ نے انڈا دیا اور ایک جماعت نے اس کی تحقیق کی اور انہوں نے مجھے بھی یہ بات بتائی۔

سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ:

نکش بن الپ ارسلان جو طاہر بن الحسین کی اولاد میں سے تھا اور وہ خوارزم اور خراسان کے بعض شہروں اور ری وغیرہ کے وسیع علاقوں کا حکمران تھا اس نے سلاجقہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا اور یہ عادل اور اچھی سیرت والا تھا اور اسے موسیقی اور حسن معاشرت سے بہت اچھی واقفیت تھی اور یہ حضرت امام ابوحنیفہ کے مذہب کا فقیہ تھا اور اصول کو جانتا تھا اور اس نے احناف کے لیے ایک عظیم مدرسہ تعمیر کیا اور خوارزم میں اس نے جو قبر بنائی تھی اس میں اسے دفن کیا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین بادشاہ بنا اور اس سے قبل اس کا لقب قطب الدین تھا اور اس سال خوارزم شاہ مذکور کا وزیر قتل ہو گیا۔

نظام الدین مسعود بن علی:

آپ نیک سیرت شافعی المذہب تھے خوارزم میں آپ کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور بڑی جامع مسجد ہے اور آپ نے مرو میں شافعیہ کے لیے ایک عظیم جامع مسجد تعمیر کی ہے پس حنابلہ^۱ نے ان سے حسد کیا اور ان کے شیخ کو وہاں شیخ اسلام کہا جاتا ہے۔

① شاید یہ حنفیہ ہے کیونکہ مرو میں حنابلہ موجود نہیں واللہ اعلم لیکن ابن اثیر نے مؤلف سے اتفاق کیا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے جلادیا اور یہ بات دین و عقل کی کمی پر محمول ہو گئی، پس سلطان خوارزم شاہ نے انہیں تادان
کا جیسا کہ وزیر نے اپنی مہارت کا تادان ڈالا تھا۔

ابوالفرج بن عبدالمنعم بن عبدالوہاب:

ابن صدقہ بن انھضر بن کلب جو اصلاً حالی اور پیدائش گھر اور وفات کے لحاظ سے بغدادی ہیں، آپ نے ۹۶ سال کی عمر
میں وفات پائی اور بہت سے لوگوں سے سماع کیا اور کروایا آپ مشائخ کی ایک جماعت سے روایت میں منفرد ہیں اور آپ بڑے
تاجروں اور صاحب دولت لوگوں میں سے تھے۔

مجدالدین فقیہ:

ابو محمد طاہر بن نصر بن جمیل مدرس قدس آپ نے سب سے پہلے الصلاحیہ میں درس دیا آپ بنو جمیل الدین کے فقہاء کے
والد ہیں جو مدرسہ جازوہیہ میں تھے پھر وہ ہمارے اس زمانے میں العمادیہ اور الدماعیہ کی طرف آگئے، پھر وہ مرگئے اور صرف ان کی
شرح ہی باقی رہ گئی۔

امیر صارم الدین قایماز:

ابن عہد اللہ النجفی، آپ حکومت صلاحیہ کے اکابر میں سے تھے اور صلاح الدین کے ہاں آپ کا مرتبہ استاد کا تھا، اور آپ ہی
نے العاضد کی موت کے وقت محل کی سپرد داری لی اور آپ کو بہت سے اموال حاصل ہوئے، آپ بہت صدقات و اوقاف والے تھے،
ایک روز آپ نے سات ہزار شہری دینار صدقہ دے دیے اور آپ مدرسہ قیمازیہ کے جو قلعہ کے مشرق میں ہے وقف کرنے والے تھے،
اور دارالحدیث اشرفیہ اس امیر کا گھر تھا، اور وہاں اس کا حمام بھی تھا، جسے بعد میں ملک اشرف نے خرید لیا اور اسے دارالحدیث بنا دیا
اور حمام کو برباد کر دیا اور اسے وہاں کے شیخ المدرس کا مسکن بنا دیا اور جب قیماز فوت ہو گیا اور اپنی قبر میں دفن ہو گیا تو اس کے گھروں
اور ذخائر کو کھودا گیا اور اس پر بہت سے مال کا اتہام تھا اور اس کے جمع شدہ مال سے ایک لاکھ دینار ملے اور اس کے متعلق گمان تھا کہ
اس کے پاس اس سے زیادہ مال تھا، اور وہ اپنے اموال کو اپنی جاگیروں اور بستیوں کے دیرانوں میں دفن کر دیا کرتا تھا اللہ سے
معاف کرے۔

امیر لؤلؤ:

یہ دیار مصر کا ایک حاجب تھا اور صلاح الدین کے زمانے میں اکابر امراء میں سے تھا اور اسی نے سمندر میں بحری بیڑے کی
سپرد داری لی تھی اور اس نے کتنے ہی بہادروں کو قیدی بنایا اور کتنی ہی کشتیوں کو توڑا اور یہ کثرت جہاد کے ساتھ ساتھ ہر روز بہت
صدقہ کرنے والا اور اخراجات کرنے والا تھا، مصر میں گرانی ہوئی تو اس نے بارہ ہزار روٹیاں بارہ ہزار نفوس کے لیے صدقہ کیں۔

شیخ شہاب الدین طوسی:

آپ دیار مصر میں شافعیہ کے ایک شیخ ہیں اور جو مدرسہ تقی الدین شہنشاہ بن ایوب کی طرف منسوب ہے، اس کے شیخ ہیں، اس
مدرسے کو منافل العز کہا جاتا ہے اور آپ غزالی کے شاگرد محمد بن یحییٰ کے اصحاب میں سے ہیں اور ملوک مصر کے ہاں آپ کی بڑی قدر

ومنزلت تھی آپ انہیں امر بالمعروف اور حرمی عن المنکر کرتے تھے آپ نے اس سال وفات پائی اور لوگوں نے آپ کے جنازے پر اڑدھام لیا اور آپ پر افسوس کیا۔

شیخ ظہیر الدین عبدالسلام فارسی:

آپ حلب کے شیخ الشافعیہ ہیں آپ نے امام غزالی نے شاعر محمد بن یحییٰ سے فقہ سنی اور رازی کے شاگرد بنے اور مصر کی طرف کوچ کر گئے آپ کو امام شافعی کی قبر پر درس دینے کی پیشکش کی گئی جسے آپ نے قبول نہ کیا پھر آپ نے واپس حلب آ کر وہیں اقامت اختیار کر لی یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔

شیخ علامہ بدر الدین ابن عسکر:

احناف دمشق کے سردار ابو شامہ نے بیان کیا ہے آپ ابن العقاوہ کے نام سے مشہور ہیں۔

شاعر ابو الحسن:

علی بن نصر بن عقیل بن احمد بغدادی آپ ۵۹۵ھ میں دمشق آئے اور آپ کا ایک شعروں کا دیوان بھی ہے جس میں خوبصورت موتی ہیں اور آپ نے ملک امجد حاکم بعلبک کی مدح کی ہے۔

”لوگ کامل نصیبے والے ناقص اور دوسرے ناقص نصیبے والے کامل ہیں اور میں بہترین عقیف لوگوں میں ثروت والا ہوں

اگرچہ میرے پاس کامل مال نہیں اور اس سال قاضی فاضل نے وفات پائی جو امام علامہ اور نصحاء اور بلغاء کے شیخ تھے۔“

ابو علی عبدالرحیم بن قاضی اشرف:

ابی المجد علی بن حسن شیبانی المولیٰ الاجل القاضی الفاضل آپ کا باپ عسقلان میں قاضی تھا آپ نے اپنے بیٹے کو حکومت

فاطمیہ میں دیار مصر کی طرف بھیجا اور وہاں ابوالفتح قادوس وغیرہ کے ہاں کتابت انشاء میں مصروف ہو گیا اور وہ اہل شہر حتیٰ کہ بغداد

والوں کا سردار بن گیا اور اس کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر موجود نہ تھی اور نہ اس کے بعد ہمارے آج کے زمانے تک اس کا کوئی مثل

موجود ہے اور جب ملک صلاح الدین مصر میں نک گیا تو اس نے آپ کو اپنا کاتب ساتھی وزیر ہمنشین اور انیس بنا لیا اور آپ اسے

اپنے اہل و اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی حتیٰ کہ اس نے اقلیم و بلاد کو فتح کیا اس نے اپنی

سیف و سنان سے اور آپ نے اپنے قلم اور زبان و بیان سے اور فاضل اپنے کثرت اموال سے صدقات و عطیات دیتا تھا اور بہت

نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا تھا اور وہ روزانہ رات دن میں ایک مکمل قرآن ختم کرتا تھا اور اس کے ساتھ مزید نوافل بھی پڑھتا تھا

اور وہ رحم دل خوش سیرت اور پاک دل اور پاک باطن شخص تھا دیار مصر میں شافعیہ اور مالکیہ کے مقابلے میں آپ کا ایک مدرسہ تھا اور

اوقاف بھی تھا جو نصاریٰ کے ہاتھوں سے قیدی کو چھڑانے کے لیے تھا اور آپ نے تقریباً ایک لاکھ کتابیں جمع کیں اور یہ وہ چیز ہے

جس سے کوئی ایک وزیر اور عالم اور بادشاہ خوش نہ تھا آپ ۵۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور اس روز فوت ہوئے جس روز عادل قصر مصر

میں آپ کے مدرسے میں اچانک ۶ ربیع الآخر کو منگل کے روز آیا اور لوگ آپ کے جنازے کے لیے اکٹھے ہوئے اور دوسرے دن

ملک عادل نے آپ کی قبر کی زیارت کی اور متاسف ہوا پھر عادل نے صفی الدین بن شکر کو وزیر بنایا اور جب فاضل نے یہ بات سنی تو

اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس حکومت تک زندہ نہ رکھے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ پایا جاتا تھا، پس آپ فوت ہو گئے اور آپ کو کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچا سکا اور حکومت میں اس کی کوئی رائے نہیں ہوئی جو اس سے بڑا ہو اور شعرا نے بڑے اچھے اشعار میں آپ کے مرثیے کہے ہیں جن میں سے قاضی حبیب اللہ بن نادر الملک کے اشعار یہ ہیں۔

”عبدالرحیم مخلوق پر ایک رحمت ہے جس کی مصاحبت طول عذاب سے مامون ہے، اے وہ شخص جو مجھ سے اس کے اور اس کے اسباب کے بارے میں دریافت کرتا ہے وہ آسمان پر پہنچ چکا ہے، اس سے اس کے اسباب کے بارے میں دریافت کر۔ وزارت اس کے پاس اس سے خطاب کرتے ہوئے آئی اور بہت دفعہ وہ اس سے خطاب کرنے سے درماندہ ہو گئی، بادشاہ اپنے چہروں کو اس کے چہرے کے آگے جھکاتے ہیں نہیں نہیں! بلکہ انہیں گردنوں سے پکڑ کر اس کے دروازے پر لایا جاتا ہے، بادشاہوں کے اشغال زائل ہو جائیں گے اور اس کا دل محراب میں ذکر الہی میں مشغول ہے اس نے صوم و صلوة میں اپنے نفس کو تھکا دیا ہے اور اس کی ہتھیلی کی کفالت بھی اسے تھکائے ہوئے ہے اس نے حسن انجام پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی لذات کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کو چاہیے کہ اپنی حکومت کے منتظم پر فخر کرے اور اس کے علم اور کتاب کے پڑھانے والے پر بھی فخر کرے اور اس کے روزے دار نگران جاننے والے، عمال، خرچ کرنے والے اور بخشنے والے پر بھی فخر کرے۔“

اور یہ عجیب بات ہے کہ مہارت کے باوجود فاضل کا کوئی طویل قصیدہ نہیں ہے اور اس کے رسائل میں صرف اس کے ایک دو اشعار ہیں اور دوسری باتیں بہت سی ہیں اور اس کے یہ اشعار بھی ہیں۔

”تم نے صحیح نیکی کرنے کے لیے ازراہ کرم سبقت کی ہے اور بیان کرنے والوں میں تمہاری کوئی مثل نہیں، میرا خیال تھا کہ میں اس میں تمہارا سبقت میں مقابلہ کروں گا لیکن وہ مجھ سے پہلے بوسیدہ ہو گئی اور اس نے میرے رونے کو بھی برا سمجھنا کیا، اور میرا ایک دوست ہے اور جب بھی میں زمانے کے کسی ظالم حادثے سے ڈرتا ہوں تو وہ میرا پشت پناہ ہوتا ہے اور جب زمانے کی گردش مجھے کاٹی ہے تو میں اس کے جھنڈوں کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہوں۔“

اور آپ نے اپنے معاملے کے آغاز میں کہا۔

”میں تمام کاتبوں کو ایسے ارزاق کے ساتھ دیکھتا ہوں جو سالوں پر حاوی ہیں اور میرے لیے ان کے درمیان کوئی رزق نہیں، گویا میں کرانا کاتبین سے پیدا ہوا ہوں۔“

اور آپ کے النحلہ اور زلقطہ کے بارے میں یہ اشعار ہیں۔

”اور دو گانے والوں نے ایک مجلس میں ایک دوسرے کو جواب دیا اور لوگوں نے ان دونوں کو تکلیف دینے سے روک دیا، یہ اپنے فعل کے برعکس سخاوت کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے اور اسے ملامت کی جاتی ہے۔“

اور آپ نے کہا۔

”ہم نے ایسے حال میں شب بسر کی جو محبت کو چھپاتی تھی لیکن اس کی شرح کرنا ممکن نہیں رات ہماری دربان تھی اور ہم نے اسے کہا، اگر تو ہم سے غائب ہو گئی تو صبح حملہ کر دے گی۔“

ملک عزیز کی ایک لوٹری نے ملک عزیز کو سونے کا ایک ٹن بھیجا جس پر سیاہ عنبر لگا ہوا تھا، ملک فاضل نے اس سے اس کے بھینے کا مطلب پوچھا اور کہنے لگا۔

اس نے تجھے عنبر تحفہ دیا ہے جس کے درمیان میں پتلے سونے کا ٹن ہے، عنبر میں بن کا مضمون یہ ہے کہ تو اندھیرے میں چھپ کر ملاقات کیا کر۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کے لقب کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض نے محی الدین بیان کیا ہے اور بعض نے مجیر الدین بیان کیا ہے، اور عمارۃ یمنی سے روایت ہے کہ جمیل نے بیان کیا کہ عادل بلکہ صالح نے اسکندر یہ سے اس کے آنے کی خواہش کی اور یہ بات اس کی نیکیوں میں شمار ہوگی، اور ابن خلکان نے آپ کے حالات کو تفصیل کے ساتھ ہماری طرح بیان کیا ہے اور اس میں بہت اضافہ پایا جاتا ہے۔

۵۹۷ھ

اس سال سرزمین مصر میں بہت گرانی ہوگئی اور فقراء اور اغنیاء میں سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، پھر اس کے بعد بڑی تباہی آئی، حتیٰ کہ شیخ ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ عادل نے اس سال کے ایک مہینے میں اپنے مال سے تقریباً دو لاکھ بیس ہزار مردوں کو کفن دیئے اور کتوں نے مصر میں مردوں کو کھایا اور بہت سے لوگوں نے چھوٹے بچوں کو کھایا، بچے کے والدین چھوٹے بچے کو بھونتے اور اسے کھاتے اور لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوگئی، حتیٰ کہ اسے ان کے درمیان برائے سمجھا جاتا اور جب بچے اور مردے ختم ہو گئے تو طاقتور کمزور پر غالب آ کر اسے ذبح کر کے کھاتا، اور ایک شخص فقیر کو حیلے سے لے آتا کہ وہ اسے کھانا کھلانے گا یا اسے کوئی چیز دے گا، پھر وہ اسے ذبح کر کے کھاتا، اور ان میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو ذبح کر کے کھاتا، اور یہ بات ان کے درمیان کسی عیب اور شکایت کے بغیر عام ہوگئی، بلکہ وہ ایک دوسرے کو معذور قرار دیتے تھے، اور ایک شخص کے پاس چار سو سرپائے گئے، اور بہت سے وہ اطباء بھی مر گئے جنہیں بیماروں کے پاس بلایا جاتا تھا انہیں ذبح کیا جاتا اور کھایا جاتا، ایک شخص طبیب کو بلاتا، پھر اسے ذبح کر کے کھاتا اور ایک شخص نے حاذق طبیب کو بلایا اور وہ شخص سر مایہ دار تھا، طبیب اس کے ساتھ خوف و ہراس کی حالت میں گیا اور راستے میں اس شخص کو جو شخص ملتا وہ اسے صدقہ دیتا اور اللہ کو یاد کرتا اور اس کی تسبیح کرتا اور وہ بکثرت یہ کام کرنے لگا، جس سے طبیب کو اس کے متعلق شک پیدا ہو گیا اس کے باوجود طمع نے اسے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا حتیٰ کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ویرانہ ہے، پس طبیب کو اسی طرح شک پیدا ہو گیا اور اس کا ساتھی باہر نکل گیا اور اس نے اسے کہا اتنی دیر کے ساتھ تو ہمارے لیے شکار لایا ہے اور جب طبیب نے یہ بات سنی تو وہ بھاگ گیا اور وہ دونوں اس کے پیچھے باہر نکلے مگر اس نے بڑی مشقت کے ساتھ ان سے نجات پائی۔

اور اس سال حجاز اور یمن کے درمیان غزہ کے علاقے میں شدید وبا پڑی اور وہ بیس بستیاں تھیں، جن میں سے اٹھارہ بستیاں تباہ ہو گئیں اور ان میں کوئی بسنے والا اور آگ پھونکنے والا نہ رہا اور ان کے چوپائے اور اموال باقی رہ گئے، جن کا اکٹھا کرنے والا کوئی

نہ تھا، اور کوئی شخص ان بستیوں میں آباد ہونے اور ان میں داخل ہونے کی سکت نہ رکھتا تھا، بلکہ جو شخص ان بستیوں کی کسی چیز کے نزدیک ہوتا اسی وقت ہلاک ہو جاتا، ہم اللہ کے عذاب و عتاب اور غضب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور جو دو بستیاں باقی رہ گئیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ مرا اور نہ ہی انہیں یہ علم تھا کہ ان کے اور کرنا کیا ہوا ہے، بلکہ وہ اپنے حال پر قائم تھے اور ان میں سے کوئی آدمی بھی نہیں مرا۔ پاک ہے وہ ذات جو حکیم و مہیم ہے۔

اس سال یمن میں ایک نہایت عجیب واقعہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن حمزہ ملوی کہا جاتا تھا وہ بہت سے بلاد یمن پر مغلب ہو گیا اور اس نے تقریباً بارہ ہزار سواروں اور بہت سی پیادہ فوج کو جمع کیا اور شاہ یمن اسماعیل بن طغتنگین بن ایوب اس سے ڈر گیا اور اس پر یہ خیال غالب آ گیا کہ اس کی حکومت کا زوال اس کے ہاتھوں ہوگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے مقابلہ میں اس کے کمزور ہونے اور مشورہ میں اس کے امراء کے اختلاف کرنے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی، پس اللہ نے ایک بجلی بھیجی جو ان پر نازل ہوئی اور ان میں سے سواروں اور پیادوں کے ایک دستہ کے سوا کوئی شخص نہ بچا اور اس کی فوج کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور المعز نے ان پر غالب آ کر ان میں سے چھ ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا اور وہ اپنی حکومت میں امن کے ساتھ ٹھہر گیا۔

اس سال بھائیوں نے باہم خط و کتابت کی، افضل نے صرخد سے اور الظاہر نے حلب سے کہ وہ دونوں حصار دمشق میں اکٹھے ہوں اور اسے معظم بن عادل سے چھین لیں اور دمشق افضل کے لیے ہو پھر وہ دونوں مصر جائیں اور اسے عادل اور اس کے بیٹے کامل سے چھین لیں جنہوں نے عہد شکنی کی ہے اور منصور کے خطبہ کو چھوڑ دیا ہے اور پختہ پیمانوں کو توڑ دیا ہے۔ اور جب وہ دونوں مصر کو چھین لیں تو وہ بھی افضل کے لیے ہو اور حلب کے ساتھ دمشق بھی الظاہر کو دے دیا جائے اور جب عادل کو اس بات کی اطلاع ملی جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی مدد کے لیے دمشق کی طرف ایک فوج روانہ کی اور وہ الظاہر اور اس کے بھائی کے پہنچنے سے پہلے دمشق پہنچ گئی اور وہ دونوں بعلبک کی طرف سے ذوالقعدہ میں وہاں پہنچے اور مسجد القدم میں اترے اور شہر کا محاصرہ سخت ہو گیا اور بہت سی فوج خان القدم کی طرف سے چڑھ آئی اور اگر رات نہ آ جاتی تو صرف شہر کا فتح کرنا ہی باقی رہ گیا تھا، پھر الظاہر کو یہ بات سوچھی کہ بجائے اس کے کہ دمشق افضل کے لیے ہو سب سے پہلے وہ اس کے لیے ہونا چاہیے، پھر جب مصر فتح ہو جائے، تو افضل اسے سنبھال لے سواس نے اس بارے میں اسے پیغام بھیجا تو افضل نے اسے قبول نہ کیا پس ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور انہوں نے دمشق کی بادشاہت کے متعلق تنازعہ کیا اور امراء ان دونوں سے الگ ہو گئے اور صلح کے بارے میں عادل سے خط و کتابت کی گئی، تو اس نے ان دونوں کو ان کے مطالبات کا جواب بھیجا اور بلاد جزیرہ میں ان کے علاقوں میں کچھ اضافہ کر دیا اور المعرہ کی عملداری میں بھی اضافہ کر دیا اور محرم ۵۹۸ھ میں فوجیں دمشق کو چھوڑ کر چلی گئیں اور دونوں ان علاقوں کی طرف چلے گئے جو اس نے انہیں دیے تھے۔ اور مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جن کی شرح طویل ہے اور الظاہر اور اس کے بھائی نے حاکم موصل نورالدین ارسلان اتاکی کو خطوط لکھے کہ وہ جزیرہ کے ان شہروں کا محاصرہ کرے جو ان دونوں کے پچا عادل کے پاس ہیں، پس وہ اپنی فوج کے ساتھ گیا اور اس نے اپنے عمزاد قطب الدین حاکم سنجا کو پیغام بھیجا اور ان دونوں کے ساتھ ماردین کا وہ حکمران بھی آ ملا جس کا عادل نے محاصرہ کیا تھا اور طویل مدت تک اس کو تنگ کیے رکھا اور فوجیں حراں چلی گئیں جہاں پر قانز بن عادل مقیم تھا پس

انہوں نے ایک عرصہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا، پھر جب انہیں صلح ہو جانے کی اطلاع ملی تو وہ بھی مصالحت کی طرف مائل ہو گئے اور یہ صلح فائز کے مطالبہ کے بعد ہوئی تھی اور سب کام درست ہوئے اور پہلے کی طرح پر سکون ہو گئے۔

اور اس سال غیاث الدین اور اس کے بھائی شہاب الدین غوری نے ان تمام شہروں، خانزادوں اور اموال پر قبضہ کر لیا جو خوارزم شاہ کے قبضے میں تھے اور ان کے درمیان طویل مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اور اس سال بلاؤں سے شروع ہو کر جزیرہ اور بلاد روم و عراق تک عظیم زلزلہ آیا اور اس کا زیادہ اثر شام میں ہوا جس سے بہت سے گھر منہدم ہو گئے، اور بہت سے مقامات برباد ہو گئے اور بصری کے علاقے میں ایک بستی زمین میں دھنس گئی، اور سواحل شام وغیرہ میں بہت سی چیزیں ہلاک ہو گئیں اور طرابلس، صور، عکا اور نابلس کے بہت سے مقامات تباہ ہو گئے اور نابلس میں سامرہ کے محلے کے سوا کچھ باقی نہ بچا اور وہاں اور اس کی بستیوں میں تیس ہزار اشخاص دیواروں کے بلے تلے آ کر مر گئے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کا بہت سا حصہ اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور الکاسہ اور مارستان نوری کا اکثر حصہ گر گیا اور لوگ میدانوں میں جا کر مدد کی دعائیں مانگنے لگے، اور قلعہ بعلبک کا اکثر حصہ باوجود اپنی تعمیری مضبوطی کے گر پڑا اور سمندر پھٹ کر قبرص کی طرف چلا گیا، اور کشتیاں ساحل کے ساتھ جا لگیں اور وہ مشرق کی جانب بڑھ گیا جس کی وجہ سے بہت سے گھر گر گئے اور بے شمار لوگ مر گئے، حتیٰ کہ مؤلف مرآة الزمان نے بیان کیا ہے کہ اس سال زلزلہ کے باعث تقریباً ایک کروڑ ایک لاکھ انسان مر گئے، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس میں مر گئے تھے کسی نے ان کو شمار نہیں کیا، واللہ اعلم

عبدالرحمن بن علی:

ابن محمد بن علی بن عبداللہ بن حمادی بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزی، بصرہ کے دریا کے دہانے کی طرف نسبت سے ابن عبداللہ بن قاسم بن نصر بن قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق شیخ حافظ واعظ جمال الدین ابوالفرج جو ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں، قرشی، تہمی، بغدادی، حنبلی ایک عالم شخص ہیں آپ نے بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی ہے اور ان میں دوسروں سے منفرد ہیں اور آپ نے چھوٹی بڑی تصنیفات کو تقریباً تین سو مصنفین سے جمع کیا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے تقریباً دو سو مجلدات تحریر کی ہیں اور آپ واعظ کے فن میں منفرد ہیں جس میں کوئی شخص آپ سے لگا نہیں کھا سکتا نہ طریق وعظ میں نہ فصاحت و بلاغت میں نہ حلاوت و شیرینی میں نہ اثر وعظ میں نہ بدیع معانی میں غوطہ لگانے میں نہ امور حسیہ کے مشاہداتی امور کو سربلغ الفہم مختصر عبارت میں بیان کرنے کے لحاظ سے جو تھوڑے الفاظ میں بہت سے معانی کے جامع ہوتے ہیں آپ کو تمام علوم میں مہارت حاصل تھی، اور علوم کی دیگر انواع مثلاً تفسیر، حدیث، تاریخ، حساب، نجوم، طب، فقہ، لغت اور نحو وغیرہ میں مشارکت حاصل ہے اور آپ کی تصانیف اس قدر ہیں جن کی تعداد کو اس جگہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اور ان میں سے آپ کی کتاب تفسیر کے بارے میں ہے جو زاد المسیر کے نام سے مشہور ہے، اور آپ کی ایک تفسیر اس سے بھی مفصل ہے مگر وہ مشہور نہیں ہے، اور ایک کتاب آپ کی جامع المسانید بھی ہے، جس میں آپ نے مسند احمد اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اکثر حصہ کو جمع کر دیا ہے اور آپ کی ایک کتاب المنتظم فی تواریخ الامم من العرب والعجم بیس جلدوں میں ہے۔ اور ہم نے اپنی اس کتاب میں اس سے بہت سے واقعات اور

حالات بیان کیے ہیں اور آپ ہمیشہ دنیا کے حالات کی تاریخ لکھتے رہے، حتیٰ کہ خود بھی تاریخ بن گئے اور کسی شاعر نے بہت سچ کہا ہے۔

”آپ ہمیشہ تاریخ میں کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو تاریخ میں لکھا ہوا دیکھا۔“

اور آپ کی تصانیف میں مقامات و خطبہ الاحادیث الموضوعہ اور العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہبہ بھی ہیں آپ ۱۰۱ھ میں پیدا ہوئے، آپ تین سال کے تھے کہ آپ کے والد وفات پا گئے، آپ کے اہل تانبے کے تاجر تھے، آپ جب جوان ہوئے تو آپ کی پھوپھی آپ کو حافظ محمد بن ناصر کی مسجد میں لے کر آئی، پس آپ شیخ کے ساتھ رہنے لگے اور اسے سنایا اور حدیث کا سماع کرایا اور ابن زغوانی سے فقہ سیکھی اور وعظ یاد کیے اور بیس سال یا اس سے کم عمر میں وعظ کیا اور ابو منصور جو اہل حق سے لغت سیکھی، آپ بچپن میں بھی دیندار تھے، کسی سے میل جول نہیں رکھتے تھے اور نہ شک و شبہ والا کھانا کھاتے تھے اور نماز جمعہ کے سوا کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہ جاتے تھے اور نہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور آپ کی مجلس وعظ میں خلفاء وزراء ملوک، امراء علماء فقراء اور دیگر اصناف کے لوگ حاضر ہوتے تھے، آپ کی مجلس وعظ میں کم سے کم جو لوگ جمع ہوتے تھے وہ دس ہزار ہوتے تھے اور بسا اوقات اس میں ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور بسا اوقات آپ فی البدیہہ نظم و نثر میں گفتگو کرتے تھے، مختصر یہ کہ آپ وعظ میں ایک منفرد استاد تھے اور آپ میں خود پسندی اور اپنے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی اور یہ بات آپ کے کلام نظم و نثر میں نمایاں ہیں۔

آپ کہتے ہیں۔

”میں ہمیشہ گراں اور بلند چیز کو پاتا رہا اور مشکل اور طویل راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتا رہا اور امیدیں مجھے اس کی دوڑوں میں لے جاتی رہیں، جیسے خوش بخت اپنی امیدوں کے میدان میں دوڑتا ہے اور توفیق نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں میرے سوا دوسرے لوگ پہنچنے سے در ماندہ ہیں اور اگر یہ علم ناطق شخص ہوتا اور میں اس سے پوچھتا کیا اس نے میرے جیسے شخص سے ملاقات کی ہے، تو وہ کہتا، نہیں کی“

اور آپ کے یہ اشعار بھی ہیں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ یہ کسی اور شخص کے ہیں۔

”جب تو تھوڑی سی خوراک پر قناعت کرے گا تو تو لوگوں کے درمیان شریف آدمی کی طرح رہے گا اور تجھ سے کوئی ناراض نہ ہوگا، میرے آج کے دن کی خوراک جب میرے حلق کو بھر دے تو میں موتیوں اور یاقوت پر افسوس نہیں کروں گا۔ اور آپ نے نظم و نثر میں بہت کچھ کہا ہے“

اور آپ کی ایک کتاب کا نام ”لقل الجمان فی کان وکان“ ہے۔ اور آپ کے لطیف کلام میں سے حدیث ”میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوں گی“ کے متعلق آپ کا یہ قول بھی ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کی عمریں صحراء کی لمبائی کی وجہ سے لمبی تھیں اور جب قافلہ اقامت کرنے والے شہر کے قریب آ جاتا تو انہیں کہا جاتا سوار یوں کو برا بیخنتہ کر دو اور آپ سے ایک شخص نے پوچھا: کونسی بات افضل ہے؟ میں بیٹھ کر تسبیح کروں یا استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا میلا کپڑا بھاپ کا زیادہ محتاج ہے، آپ سے اس

شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو مرض الموت میں وصیت کرے آپ نے فرمایا یہ مٹی ہے جس کی سطح چولہے میں ہے..... اور آپ نے وعظ میں خلیفہ اُسْتَمٰی کی جانب متوجہ ہو کر کہا اے امیر المؤمنین اگر آپ نے بات کی تو میں آپ سے ڈروں گا اور اگر آپ خاموش رہتے تو مجھے آپ کے متعلق خوف پیدا ہو جائے گا، کسی کا آپ کو یہ کہنا کہ اللہ سے، روزیہ تمہارے لیے اس کے اس قول سے بہتر ہے کہ تم اہل بیت تجھے ہوئے ہو۔

حضرت عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنے کسی عامل کے متعلق اطلاع ملتی ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور میں اسے تبدیل نہیں کرتا تو میں ظالم ہوں..... اے امیر المؤمنین حضرت یوسف قبط کے زمانے میں سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ بھوکے کو بھی نہیں بھولتے تھے..... اور عام الرمادہ میں حضرت عمر اپنے پیٹ کو مارتے تھے اور فرماتے تھے گڑ گڑ کر یا نہ کر خدا کی قسم جب تک لوگ آسودہ نہ ہوں، عمر گھی اور فریہ کرنے والی چیز کو نہیں چکھے گا..... راوی بیان کرتا ہے کہ اُسْتَمٰی روپڑا اور اس نے بہت سا مال صدقہ کیا اور قیدیوں کو رہا کیا اور بہت سے فقراء کو لباس دیا۔

ابن جوزی کی پیدائش ۵۱۰ھ کی حدود میں ہوئی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور آپ کی وفات اس سال کی ۱۲ رمضان کو جمعہ کی شب کو مغرب و عشا کے درمیان ہوئی اور آپ کی عمر ۸۷ سال تھی، اور آپ کا جنازہ لوگوں کے سروں پر اٹھایا گیا اور لوگ بہت زیادہ تھے اور آپ کو باب حرب میں آپ کے باپ کے پاس حضرت امام احمد کے نزدیک دفن کیا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا حتیٰ کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بھیر کی کثرت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی ایک جماعت نے روزہ افطار کر دیا، اور آپ نے وصیت کی کہ آپ کی قبر پر یہ اشعار لکھے جائیں۔

”اے بہت بخشنے والے، اے وہ جس کے پاس میرے بہت سے گناہ جمع ہو گئے ہیں، تیرے پاس گنہگار اپنے جرائم کی درگزر کے لیے آیا ہے، میں مہمان ہوں اور مہمان کی جزا یہ ہے کہ اس سے احسان کیا جائے۔“

آپ کے تین لڑکے تھے عبدالعزیز یہ سب سے بڑا تھا، اس نے نوجوانی میں اپنے والد کی زندگی میں ۵۵۴ھ میں وفات پائی۔ پھر ابو القاسم علی یہ اپنے باپ کا نافرمان تھا، اور آزمائش وغیرہ کے دور میں آپ کی عداوت پر قائم تھا، اور اس نے واسط میں آپ کی غیر حاضری میں آپ کی کتابوں پر قبضہ کر لیا، اور انہیں نہایت کم قیمت پر فروخت کر دیا، پھر محی الدین یوسف یہ آپ کے لڑکوں میں سب سے نجیب اور چھوٹا تھا، یہ ۵۸۰ھ میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے باپ کے بعد وعظ کیا اور کام میں لگ گیا اور مکہ اور ماہر ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کا سردار بن گیا، پھر اس نے بغداد کے احتساب کا چارج لے لیا، پھر وہ خلفاء کا اچھی بن کر اطراف کے بادشاہوں کے پاس گیا، خصوصاً شام میں بنی ایوب کے پاس اور اس نے ان سے اموال اور عطیات حاصل کیے، جس سے اس نے دمشق میں نشاہین مقام پر المدرسۃ الجوزیہ بنایا اور کچھ اموال کو اس پر وقف کر دیا، پھر اسے دیگر ملوک سے بہت سے اموال ملے، پھر وہ ۶۴۰ھ میں خلیفہ معتصم کے گھر کا استاد بن گیا اور مسلسل اس کے ساتھ رہتا آئندہ ہارون ترکی بن چنگیز خان کے سال، خلیفہ کے ساتھ قتل ہو گیا، اور ابو الفرج کی کئی بیٹیاں تھیں جن میں سے رابعہ اس کے نواسے ابوالمظفر بن عزعلی مؤلف مرآة الزمان کی والدہ تھی اور اس نے تواریخ کو جمع کیا اور زیادہ فائدہ پہنچایا اور ابن خلکان نے الوفيات میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تصانیف اور علوم کی تعریف کی ہے۔

عماد کا تب اصہبانی:

محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد اللہ بن علی بن محمود بن حبیبہ اللہ جو عماد کا تب اصہبانی کے نام سے مشہور ہے اور کتب و رسائل کا مؤلف ہے اور قاضی فاضل کا ساتھی ہے اور اس کے زمانے میں اس کی شہرت ہو گئی اور جو فاضل کے زمانے میں مشہور ہو گیا وہ فاضل ہے۔ اس کی پیدائش ۱۵۹ھ میں اصہبان میں ہوئی اور بغداد آ کر وہاں شیخ ابو منصور سعید بن الرزاز مدرس نظامیہ کے ساتھ مشغول ہو گیا اور حدیث کا سماع کیا، پھر شام کی طرف چلا گیا اور اس نے ملک نور الدین محمود بن زنگی کے پاس بڑا مرتبہ حاصل کر لیا اور اس کا کتاب بن گیا اور اس نے آپ کو اس مدرسہ کا افسر مقرر کر دیا جسے آپ نے باب الفرج کے اندر تعمیر کیا تھا اور جس کو عماد یہ کہا جاتا تھا اور اس کی نسبت آپ کی سکونت و اقامت کی طرف تھی اور آپ وہیں پڑھاتے تھے آپ نے اسے بنایا نہیں تھا بلکہ اسے نور الدین محمود نے بنایا تھا اور آپ وہاں پر پڑھانے والے پہلے مدرس نہیں تھے بلکہ آپ سے پہلے کئی لوگوں نے وہاں پڑھایا تھا جیسا کہ قبل ازیں نور الدین کے حالات میں بیان ہو چکا ہے پھر عماد حکومت صلاحیہ میں کتاب بن گیا اور فاضل آپ کی تعریف کرتا تھا، مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ کے منطوق کو جمود اور کمزوری لاحق ہو جاتی تھی اور آپ کی طبیعت بہت اچھی اور تیز تھی اور قاضی فاضل نے ایک روز اپنے اصحاب سے کہا بولو تو وہ بولے اور انہوں نے اس صفت میں اسے کئی صفات سے تشبیہ دی مگر قاضی نے انہیں قبول نہ کیا اور کہا وہ چمٹاق کی مانند ہے جس کا باہر کا حصہ ٹھنڈا اور اندرونی حصہ آگ ہے۔ اور آپ کی بے اعراب تصانیف میں سے جریدۃ النصر فی شعراء العصر الفتح القدسی اور الہرق السامی ہیں اور دیگر مسجع اور متنوع عبارات اور طویل قصائد والی تصانیف ہیں آپ نے اس سال کے رمضان کے آغاز میں ۸۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور قبرستان صوفیہ میں دفن ہوئے۔

امیر بہاؤ الدین قراوقوش:

خصی نر، آپ حکومت صلاحیہ کے امراء کے ایک بڑے کتاب تھے اور تیز فہم، فہم، فہم اور دیر تھے جب العاضد مر گیا تو آپ نے محل کی سپرد داری لے لی اور قاہرہ کی فیصل کو آباد کیا جو مصر کو محیط تھی اور آپ المقسم تک پہنچ گئے اور المقسم وہ جگہ ہے جہاں صحابہ نے اس غنیمت کو تقسیم کیا تھا جو انہیں دیار مصر سے حاصل ہوئی تھی اور آپ نے قلعہ جبل کو تعمیر کیا اور صلاح الدین نے اسے عکا کے سپرد کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی بہت سی جگہوں کو آباد کرے اور اس کی وہاں موجودگی کے دوران ہی محاصرہ ہو گیا اور جب البدل وہاں سے باہر نکلا اور وہ بھی باہر نکلنے والوں میں شامل تھا تو پھر ابن المشطوب اس میں داخل ہو گیا اور اس نے بیان کیا کہ وہ قیدی بن گیا اور اس نے دس ہزار دینار اپنا فدیہ دیا اور صلاح الدین کے پاس واپس آ گیا جس سے اسے بہت خوشی ہوئی اور جب اس سال اس نے وفات پائی تو عادل نے اس کے ترکہ کی حفاظت کی اور اس کی جاگیریں اور املاک، ملک کامل بن عادل کے پاس آ گئیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کی طرف عجیب و غریب احکام منسوب کیے گئے ہیں حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک لطیف کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام اس نے کتاب الفاشوش فی احکام قراوقوش رکھا ہے اور اس نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے اور سیرا خیال ہے کہ وہ سب باتیں جھوٹی ہیں بلاشبہ ملک صلاح الدین اس پر اعتماد کرتا تھا پس وہ ایسے شخص پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے جو اس پائے کا ہو واللہ اعلم۔

مکلبہ بن عبداللہ المستجیدی:

یہ تری عابد و راہد تھا اس نے مؤذن کو سرنے وقت مینار پر یہ اشعار پڑھتے سناے

”اے جو اتان شب کوشش کر، بہت سی آوازوں کو رد نہیں کیا جاسکتا رات کو تو اتی اٹھتا ہے جو عزم اور کوشش والا ہے“

مطلبہ رو پڑا اور اس نے مؤذن سے کہا: اے مؤذن مجھے کچھ مزید سناؤ اس نے کہا:

”رات گذرگئی اور پیٹھ پھیر گئی ہے اور میرا محبوب خلوت میں ہو گیا ہے۔“

پس مکلبہ نے ایسی چیخ ماری جس سے اس کی موت واقع ہوگئی اور صبح کو اہل شہر اس کے دروازے پر جمع ہو گئے اور سعید بھی

ان لوگوں میں سے تھا جو اس کی نعش تک پہنچ گئے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ۔

ابومنصور بن ابی بکر بن شجاع:

المرکسی بغدادی جو ابن نقطہ کے نام سے مشہور ہے یہ دن کو بغداد کے بازاروں میں چکر لگاتا تھا اور مولیا اشعار گایا کرتا تھا

اور رمضان کی راتوں میں لوگوں کو سحری کھلانا تھا اور یہ پسندیدہ، عقلمند اور بے حیا تھا اور اس کا بھائی شیخ عبدالغنی درویش اکابر صالحین

میں سے تھا آپ کا بغداد میں زادیہ تھا جس میں آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور آپ کے اتباع اور مرید بھی تھے اور فتوح^۲ سے جو چیز

آپ کو حاصل ہوتی آپ اسے ذخیرہ نہ کرتے۔ آپ نے ایک شب کو ایک ہزار دینار صدقہ دیا اور آپ کے اصحاب روزہ دار تھے

آپ نے ان کے شام کے کھانے کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہ رکھا اور خلیفہ کی ماں نے آپ کا نکاح اپنی ایک خاص لونڈی سے کر

دیا اور اس نے اسے دس ہزار دینار دے کر آپ کے پاس بھیجا اور ابھی سال نہیں گزرا تھا اور ان کے پاس سوائے ایک ہاون کے کچھ

نہ تھا پس ایک سوالی آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور اس نے مانگنے میں اصرار کیا تو آپ اس کے پاس ہاون لے آئے اور کہنے لگے

اسے لے لے اور اس کے ذریعے تیس دن کھانا کھا اور لوگوں سے سوال نہ کر اور اللہ کی برائی نہ کر یہ شخص بہترین صالحین میں سے تھا

حاصل کلام یہ کہ اس نے اپنے بھائی ابومنصور سے کہا تو ہلاک ہو جائے تو بازاروں میں گھومتا ہے اور اشعار سناتا ہے اور تیرا بھائی وہ

ہے جسے تو جانتا ہے۔

اور اس نے ان دو مولیا اشعار کا جواب فی البدیہہ اشعار میں دیا۔

”جس شخص نے چھری کے دستے کو ڈرے سے مشابہ قرار دیا وہ ناکام ہو گیا اور تجہ کو حیا دار شریف عورت پر قیاس کیا“

میں مالدار ہوں اور میرا بھائی درویش ہے اور مونہوں میں میٹھا کڑوا تراش لیا جاتا ہے۔“

اور ایک دفعہ آپ کے پاس حضرت عثمانؓ کے قتل ہونے اور حضرت علیؓ کے موجود ہونے کا ذکر ہوا تو آپ کہنے لگے جو ہوا سو

ہوا اور جس شخص کے پڑوس میں ابن عفان جیسا شخص قتل ہو جائے اور وہ عذر کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ شام میں یزید کے عذر

① ایک قسم کے اشعار جن کے آخر میں یا مولیا کہا جاتا ہے۔ مترجم

② فتوح وہ روزی جو حق تعالیٰ عنایت فرمائے۔ مترجم

کو قبول کرنے، پس روافض نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا اور اتفاق سے رمضان میں ایک شب آپ لوگوں کو سحری کھلا رہے تھے کہ آپ خلیفہ کے گھر سے پاس سے گزرے تو خلیفہ نے کنبے میں چھینک ماری تو اس پر ابو منصور نے راستے سے اسے یرمک اللہ کہا تو اس نے آپ کو ایک سو دینار بھیجا اور آپ کو روافض سے بچانے کا حکم دیا یہاں تک کہ آپ اس سال وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ

ابوطاہر برکات بن ابراہیم بن طاہر:

اس سال شام کے متنبی ابوطاہر برکات بن ابراہیم بن طاہر الخنوصی نے وفات پائی، ابن عساکر نے اپنے بہت سے مشائخ میں آپ کو بھی شامل کیا ہے اور ان کی وفات کے بعد آپ ۲۷ سال زندہ رہے، اور ان سالوں میں پوتے دادوں سے جا ملے۔

۵۹۸ھ

اس سال شیخ ابو عمر بن محمد بن قدامہ بانی مدرسہ نے قاسبون کے دامن میں جامع مسجد کی تعمیر شروع کر دی اور ایک شخص شیخ ابوداؤد حمان النعامی نے آپ سے مسجد کی تعمیر پر اتفاق کیا، حتیٰ کہ عمارت ایک آدمی کے قد کے برابر پہنچ گئی اور اس کے پاس جو کچھ مال وغیرہ تھا ختم ہو گیا، تو ملک مظفر کو کری بن زین الدین حاکم اربل نے اس کی تکمیل کے لیے بہت سا مال بھیج دیا، پس وہ مسجد مکمل ہو گئی اور اس نے ایک ہزار دینار بھیجے تاکہ ان سے اس کے پاس بردی سے پانی لایا جائے، مگر یہ کام ملک معظم حاکم دمشق سے ممکن نہ ہو سکا اور اس نے عذر کیا، کہ اس شخص نے مسلمانوں کی بہت سی قبروں کو ہموار کر دیا ہے، سو اس نے اس کے لیے ایک کنواں بنایا جس میں خچر گھومتا رہتا تھا اور اس نے اس کے لیے ایک وقف بھی کیا اور اس سال بلا دمشق میں غوریوں اور خوارزمیوں کے درمیان بہت سی طویل جنگیں ہوئیں جنہیں ابن اثیر نے تفصیل کے ساتھ اور ابن کثیر نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اور اس سال نظامیہ میں مجد الدین یحییٰ بن الربیع نے درس دیا اور اس نے اسے قیمتی سیاہ خلعت اور سرمئی چادر دی اور علماء اور اعیان اس کے پاس حاضر ہوئے اور اس سال بغداد کی قضاء ابو الحسن علی بن سلیمان الجلبلی نے سنبھالی اور اس نے اسے بھی اسی طرح خلعت دیا۔

قاضی ابن الزکی:

محمد بن علی بن محمد یحییٰ بن عبدالعزیز ابوالمعالی القرشی، محی الدین قاضی القضاة دمشق، اور آپ دونوں میں سے ہر ایک کا باپ اور دادا قاضی تھا اور اس کے دادا کا باپ یحییٰ بن علی تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے ان میں سے دمشق میں فیصلے کرنے کا کام سنبھالا اور یہ حافظ ابو القاسم بن عساکر کا ماں کی طرف سے دادا تھا، ابن عساکر نے تاریخ میں اس کے حالات بیان کیے ہیں اور قرشی کے آگے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ شیخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے اور اگر لوگوں کے خیال کے مطابق اموی عثمانی ہوتا تو ابن عساکر اس کا ذکر کرتا جبکہ اس میں اس کے دادا اور اس کے دونوں ماموں محمد اور سلطان کا شرف موجود تھا اور اگر یہ بات درست ہوتی تو ابن عساکر پر مخفی نہ رہتی، ابن الزکی، قاضی شرف الدین سعد بن عبداللہ بن محمد بن ابی عمروں کے ساتھ مشغول ہو گیا، اور فیصلوں میں اس کا قائم مقام ہو گیا

اور یہ پہلا شخص ہے جس نے نیابت ترک کی اور پہلا شخص ہے جس نے قدس فتح ہونے پر وہاں خطبہ دیا۔
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر اس نے دمشق کی لفظا سبیاں اور اس کے ساتھ اسے حب کی قضا بھی دے دی گئی اور انہیں
 الزکی طلباء کو منطق اور علم کلام میں اشتغال کرنے سے روکتا تھا اور جس کے پاس مدرسہ نور یہ میں ان علوم کی کتابیں ہوتیں انہیں پھاڑ
 دیتا اور اس عقیدہ کا تحفظ کرتا تھا جسے امام غزالی نے المصباح کے نام سے لکھا ہے اور آپ کے لڑکے بھی اس کی حفاظت کرتے تھے اور
 صلاح الدین کی قبر کے بالمقابل الکلاسیہ میں آپ تفسیر کا درس دیا کرتے تھے آپ کے اور اسماعیلیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور
 انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ نے اپنے گھر میں اپنے لیے جامع مسجد کی طرف ایک دروازہ بنایا تاکہ آپ اس سے نماز کے
 لیے جایا کریں پھر آپ محبوب الحواس ہو گئے اور آپ پر مرگی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ اس سال کے شعبان میں وفات
 پا گئے اور قاسیون کے دامن میں جو قبرستان ہے اس میں دفن ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ حافظ عبدالغنی نے آپ کے خلاف بددعا کی
 تھی جس سے آپ کو یہ عاجز کر دینے والی بیماری ہو گئی اور آپ مر گئے۔ اور اسی طرح خطیب الدولعی نے بھی اس سال وفات پائی
 اور یہی دونوں حافظ عبدالغنی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور دونوں اسی سال مر گئے اور دوسروں کے لیے عبرت بن گئے۔
خطیب الدولعی:

ضیاء الدین ابوالقاسم عبدالملک بن زید بن یاسین الدولعی موصل کی ایک بستی الدولعیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ
 سے الدولعی کہلاتے ہیں آپ وہاں ۵۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں شافعی مذہب کی فقہ سیکھی اور حدیث کا سماع کیا اور ترمذی کا
 ابوالفتح الکردجی کو اور نسائی کا ابوالحسن علی بن احمد البردی کو سماع کرایا پھر آپ دمشق آئے اور وہاں خطابت اور الغزالیہ کی تدریس کا
 کام سنبھال لیا آپ زاہد متقی نیک سیرت اور حق کے بارے میں بڑے رعب دار تھے آپ نے ۱۹ ربيع الاول کو متنگل کے روز
 وفات پائی اور باب الصغیر کے قبرستان میں شہداء کی قبور کے نزدیک دفن ہوئے اور آپ کا جنازہ جمعہ کے دن ہوا اور آپ کے بعد
 آپ کے بیٹے محمد بن ابی الفضل بن زید نے ۳۷ سال تک خطابت سنبھالے رکھی اور بعض کا قول ہے کہ آپ کے بیٹے جمال الدین محمد
 نے خطابت سنبھالی اور ابن الزکی نے اپنے بیٹے الزکی کو امیر مقرر کیا تو اس نے ایک نماز پڑھی اور جمال الدین نے عادل کے بھائی
 امیر علم الدین سے سفارش کی تو اس نے اسے نماز کا امیر مقرر کر دیا اور وہ امیر نماز قائم رہا حتیٰ کہ ۶۳۵ھ میں فوت ہو گیا۔
شیخ علی بن علی بن علیش:

آپ یمن کے عابد و زاہد تھے اور الکلاسیہ کے مشرق میں مقیم تھے اور آپ کے احوال و کرامات بھی ہیں جنہیں شیخ علم الدین
 سخاوی نے آپ سے بیان کیا ہے اور اس سے ابوشامہ نے انہیں بیان کیا ہے۔
الصدر ابوالشامہ بن عبداللہ:

ابن حماد الحرانی آپ تاجر تھے آپ نور الدین شہید کے سال ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد و مصر وغیرہ بلاد سے حدیث کا
 سماع کیا اور ذوالحجہ میں وفات پا گئے آپ کے اشعار میں سے یہ شعر بھی ہیں۔
 ”آدی کا آفاق میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسے کچھ خوبیوں سے بہرہ ور کرتا ہے جو اس کے شہر میں نہیں ہوتیں کیا

تو شطرنج کے پیادے کو نہیں دیکھتا کہ اسے حسن تنقل نے ایسا حسن دیا ہے جو اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر ہے۔“

یقیناً بنت عبد اللہ:

المستفی کی آزاد کردہ لونڈی یہ اس کی سب سے چہیتی لونڈی تھی پھر اس کے بعد علماء اور فقراء سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرنے والی بن گئی اور بغداد میں حضرت معروف کرثیؒ کی قبر کے پاس اس کی قبر کے نزدیک اس کے صدقات و خیرات کے کام موجود ہیں۔

ابن المحدثب شاعر ابوالسکر:

محمود بن سلیمان بن سعید موصلی جو ابن المحدثب کے نام سے مشہور ہے اس نے بغداد میں فقہ سیکھی پھر اس نے شہروں کی طرف سفر کیے اور ابن الشہر زوری کی صحبت اختیار کی اور اس کے ساتھ آیا اور جب وہ بغداد کا قاضی بنا تو اس نے اسے اوقاف نظامیہ کی نگرانی سپرد کر دی اور یہ شعر بھی کہتا تھا اور شراب کے متعلق بھی اس کے اشعار ہیں جن میں کچھ بھلائی نہیں میں نے ان کے گند کی وجہ سے ان سے گھن محسوس کرتے ہوئے اور ان سے بچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

۵۹۹ھ

ابن الجوزی کے نواسے نے اپنی کتاب مرآت میں بیان کیا ہے کہ محرم کے آخر میں ہفتہ کی رات کو آسمان پر ستارے متحرک ہو گئے اور شرفا غر بادوڑنے لگے اور منتشر نڈی کی طرح دائیں بائیں اڑ گئے۔

راوی کا بیان ہے اس قسم کا واقعہ صرف بعثت کے سال اور ۲۳۱ھ میں دیکھا گیا اور اس سال قلعہ دمشق کی تفصیل کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کی ابتدا اس برج سے کی گئی جو باب النصر کے قریب مغربی کونے میں قبلہ کی جانب ہے اور اس سال خلیفہ ناصر نے سخاوت کے خلعت اور شلواریں ملک عادل اور اس کے بیٹوں کو بھیجیں اور اسی سال عادل نے اپنے بیٹے موسیٰ اشرف کو مار دین کے محاصرہ کے لیے بھیجا اور بخارا اور موصل کی فوج نے اس کی مدد کی پھر الظاہر کے ہاتھوں ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ مار دین کا حکم ان ہر سال ایک لاکھ پچاس ہزار دینار دے گا اور سکہ اور خطبہ عادل کا ہوگا اور یہ کہ وہ جب اسے فوج کے ساتھ طلب کرے گا وہ اس کے پاس حاضر ہوگا۔

اور اس سال موریا نیکی خانقاہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور شیخ شہاب الدین عمر بن محمد الشہر زوری اس کا حاکم مقرر ہوا اور اس کے ساتھ صوفیاء کی ایک جماعت بھی تھی اور اس نے ان کے مناسب حال ان کے وظائف مقرر کیے اور اس سال ملک عادل نے محمد بن ملک عزیز اور اس کے بھائیوں کو روک لیا اور انہیں الرہاء کی طرف اس خوف سے نہ جانے دیا کہ وہ مصر میں آفت برپا کریں گے اور اس سال الکرچ نے دوین شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے باشندوں کو قتل کیا اور اسے لوٹ لیا، دوین آذربائیجان کا ایک شہر ہے کیونکہ وہاں کا بادشاہ فسق و شراب میں مصروف تھا، اللہ اس کا بھلا نہ کرے اور اس کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں کی گردنوں کے بارے میں فیصلہ دیا اور یہ قیامت کے روز اس کی گردن میں طوق بن کر پڑے گا۔

ملک غیاث الدین غوری:

اس سال شہاب الدین کے بھائی غیاث الدین نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمود بادشاہ بنا اور اس نے اپنے باپ کا لقب اختیار کیا اور غیاث الدین عقلمند، مستقل مزاج اور بہادر آدمی تھا اور جنگوں کی کثرت کے باوجود کسی جھنڈے نے اسے شکست نہیں دی یہ شافعی المذہب تھا اور اس نے شافعیہ کے لیے ایک عظیم مدرسہ تعمیر کیا اور اس کی سیرت نہایت عمدہ تھی۔

امیر علم الدین ابو منصور ❶

سلیمان بن شیروہ بن جندر جو ملک عادل کا باپ کی طرف سے بھائی تھا اس نے ۹۱۹ محرم کو وفات پائی اور اسے اس کے اس گھر میں دفن کیا گیا جس کی اس نے باب القرا لیس کے اندر انتراس کے محلہ میں مدرسہ کے لیے حد بندی کی تھی اور پورے حمام کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا اللہ قبول فرمائے۔

قاضی الضیاء الشہر زوری:

ابوالفضائل القاسم بن یحییٰ بن عبداللہ بن القاسم الشہر زوری الموصلیٰ یہ نور الدین کے زمانے میں بغداد کا قاضی القضاة تھا اور دمشق کے قاضی القضاة کمال الدین شہر زوری کا بھتیجا تھا اور جب اس نے صلاح الدین کے زمانے میں ۶۷۵ھ میں وفات پائی تو اس نے اپنے اس بھتیجے کو قاضی بننے کی وصیت کی تو اس نے اسے قاضی مقرر کر دیا پھر اسے معزول کر کے ابن ابی عصرون کو قاضی بنا دیا اور اس کی بجائے اسے بادشاہوں کی طرف سفیر بنا دیا پھر اس نے موصل شہر کی قضا سنبھالی پھر اسے بغداد بلایا گیا اور اس نے دو سال چار ماہ بغداد کی امارت کی پھر اس نے خلیفہ کو استعفیٰ دیا تو جو مقام اسے اس کے ہاں حاصل تھا اس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ قبول نہ کیا تو اس نے اپنی بیوی ست الملوک سے خلیفہ کی ماں کے خلاف مدد مانگی اور اس کا اس کے ہاں بڑا مقام تھا۔ تو اسے اس کا جواب دیا گیا اور اس نے اس کی محبت کی وجہ سے حماة کی قضا سنبھالی اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی اور اسے اس کے ہاں فضائل حاصل تھے اور اس کے عمدہ اشعار بھی ہیں اس نے اس سال کی ۱۵ رجب کو وفات پائی۔

عبداللہ بن علی بن نصر بن حمزہ:

ابوبکر بغدادی جو ابن المرستانیہ کے نام سے مشہور ہیں اور ایک مشہور فاضل شخص ہیں آپ نے حدیث کا سماع کیا ہے اور اسے جمع کیا ہے اور آپ طبیب اور منجم تھے اور اوائل کے علوم اور تاریخ سے واقف تھے اور آپ نے دارالسلام کی تاریخ کے بارے میں دیوان الاسلام تصنیف کیا ہے اور اسے تین سو ساٹھ ابواب میں مرتب کیا ہے مگر وہ مشہور نہیں ہوا اور آپ نے سیرت ابن ہبیرہ بھی مرتب کی ہے اور آپ کا خیال تھا کہ آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر اعتراضات کیے اور ایک نے یہ اشعار کہے ہیں۔

❶ انجوم الزاہرہ میں سلیمان بن جندر لکھا ہے۔

”انساب کو چھوڑ دے اور تیم سے معترض نہ ہو بلاشبہ سفید اونٹ بھی خالص کی اولاد ہوتے ہیں تو تیم کا لے پا لک ہو گیا ہے بیسے بیسے میں سے تیم کی طرف انساب کا دعویٰ کیا ہے۔“

ابن النجا الواعظ:

علی بن ابراہیم بن نجازین الدین ابو الحسن دمشقی الواعظ الحسنی آپ بغداد آئے اور وہاں فقہ تکھی اور حدیث کا سماع کیا پھر اپنے شہر دمشق واپس آگئے پھر آپ ۵۶۳ھ میں نور الدین کی طرف سے ایلچی بن کر اس کی طرف واپس آئے اور وہاں حدیث بیان کی۔ پھر صلاح الدین کے ہاں سے مرتبہ حاصل ہو گیا اور آپ ہی نے عمارۃ السنی اور زویہ کے خلاف جعلی کھائی اور انہیں صلیب دیا گیا اور مصر میں آپ کو بڑا مقام حاصل تھا اور آپ نے جمعہ کے روز قدس میں خطبہ دیا اور اس سے فراغت کے بعد آپ نے گفتگو کی اور یہ جمعہ کا وقت تھا اور کھانے پینے کے لحاظ سے آپ بادشاہوں سے بھی اچھی زندگی گزارتے تھے اور آپ کے پاس بیس خوبصورت ترین لونڈیاں تھیں اور ہر ایک ایک ہزار دینار کی تھی اور آپ ان کے پاس چکر لگایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ محتاج ہو کر مرے اور اپنے پیچھے کفن بھی نہ چھوڑا اور آپ نے منبر پر وزیر طالع بن زریک کو یہ اشعار سنائے۔

”تیرے بڑھاپے نے جوانی کے آغاز کا خاتمہ کر دیا ہے اور باز کوے کے گھونسلے میں اتر آیا ہے تو سوتا ہے اور حوادث کی آنکھ بیدار رہتی ہے اور مصائب کے دانت تجھ سے اچھنے والے نہیں تیری عمر کو کیسے بقا حاصل ہو سکتی ہے وہ تو خزانہ ہے جس سے تو نے بلا حساب ہی خرچ کر دیا ہے۔“

شیخ ابوالبرکات (محمد بن احمد بن سعید الشکرینی) جو المویذ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ ادیب اور شاعر تھے آپ نے وجیہ نحوی کے بارے میں اس وقت نظم کہی جب وہ ضعیلی تھے پھر وہ خنی بن گئے۔ پھر شافعی بن گئے آپ نے یہ نظم نظامیہ کے حلقہ نحو میں کہی۔

”ارے میری طرف سے وجیہ کو پیغام پہنچا دو اگرچہ پیغامات بھیجنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو نے ابن ضعیلی کے بعد نعمان کا مذہب اختیار کر لیا ہے اور یہ مذہب تو نے اس وقت اختیار کیا جب کھانے پینے کی چیزوں نے تجھے محتاج کر دیا اور تو نے شافعی کے قول کو دین کے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ تو جو چاہتا تھا یہ اسی کا حاصل ہے اور تھوڑے عرصے بعد ہی تو امام مالک کی طرف چلا جائے گا تو اس بات کی طرف نظر کر جو تو کہہ رہا ہے۔“

زمرہ خاتون:

خلیفہ ناصر لدین اللہ کی والدہ اور المستفی کی بیوی یہ بڑی نیک عبادت گزار اور احسان و عطیات اور واقف والی عورت تھی اور اس نے حضرت معروف کرخنی کے پہلو میں اپنی قبر بنائی ہے اور اس کا جنازہ بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ سے ایک ماہ تک اس کی تعزیت ہوتی رہی یہ اپنے بیٹے کی خلافت میں ۲۴ سال اس حالت میں زندہ رہی کہ اس کی بات کو پورا کیا جاتا تھا اور اس کے احکام کی اطاعت کی جاتی تھی۔

اور اسی سال شیخ شہاب الدین ابوشامہ کی ولادت ہوئی اور اس نے اس سال میں اپنی پیدائش کے تذکرہ میں اپنے طویل حالات بیان کیے ہیں جو اس کی وفات تک چلے جاتے ہیں شروع میں اس نے اپنے اشتغال اور تصانیف اور اپنے اشعار اور جو اس

نے مبشر خواب دیکھے ان کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے اور اس سال ملک چنگیز خان شاہ تاتاری کی ابتداء ہوئی اس پر اللہ کی طرف سے وہ چیز نازل ہوئی کہ وہ قتل ہے اور وہ باقی والا ہے جس نے اسے اس لیے وضع کیا تاکہ تاتار اور ان کے ساتھ جو لوگ ہمراہ تھے جو جاہلیت کا فیصلہ چاہتے تھے..... وہ اس کے پاس اپنے بھڑے لے جائیں یہ توئی خان کا والد اور اس ہلاکوں بن تول خان کا دادا ہے جس نے خلیفہ معتمد اور اہل بعد اود کو ۱۵۶ھ میں قتل کیا تھا جیسا کہ ابھی اپنے مقام پر اس کا ذکر ہوگا انشاء اللہ

۶۰۰ھ

اس سال فرنگیوں نے اپنے میں سے بہت سے لوگوں کو جمع کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو واپس لیں؛ پس اللہ نے رومیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے انہیں اس کام سے غافل کر دیا۔

اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے راستے میں قسطنطنیہ سے گزرے تو انہوں نے وہاں کے ملوک کو باہم اختلاف کرتے پایا تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اسے زبردستی فتح کر لیا اور تین روز اسے قتل کرنے اور قیدی بنانے کے لیے مباح کر دیا اور اس کے اکثر گھروں کو نذر آتش کر دیا۔ اور ان تین دنوں میں ہر رومی نے مقتول محتاج، پاجولاں اور قیدی ہونے کی حالت میں صبح کی اور عوام میں سے جو لوگ باقی بچ گئے انہوں نے اپنے بڑے کلیسا ابا صوفیاء میں پناہ لے لی فرنگیوں نے ان کا قصد کیا تو پادری اناجیل لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کے قریب ہو کر انہیں اناجیل کی تعلیمات سنائیں مگر انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا بلکہ انہوں نے ان سب کو لٹے کر کے قتل کر دیا اور کلیسا میں جو زیورات، سونا، اور بے شمار اموال تھے انہیں قابو کر لیا اور جو کچھ صلیبوں اور دیواروں پر لگا تھا وہ بھی لے لیا اور سب تعریف اس خدا کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پھر ملوک فرنگ نے قرعہ ڈالا اور وہ تین تھے دو ق البنادقہ یہ ایک نابینا شیخ تھا جس کے گھوڑے کو آگے سے کھینچا جاتا تھا اور مرکیس الافریسیس اور کندا بلند اور یہ ان سے تعداد اور سامان کے لحاظ سے بڑھ کر تھا اور تین بار اسی کے نام قرعہ نکلا تو انہوں نے اسے قسطنطنیہ کا بادشاہ بنا دیا اور دوسرے دو بادشاہوں نے کچھ شہر لے لیے اور اس سال قسطنطنیہ میں رومیوں سے حکومت منتقل ہو کر فرنگیوں کے پاس آگئی اور رومیوں کے ہاتھوں میں صرف خلیج کے پیچھے کا علاقہ رہ گیا اس پر ایک رومی شخص نے جسے لشکری کہا جاتا تھا قبضہ کر لیا اور وہ اپنی وفات تک اس طرف کا مالک رہا۔ پھر فرنگیوں نے بلاد شام کا قصد کیا اور انہوں نے اپنے شاہ قسطنطنیہ سے قوت حاصل کی اور عکا میں اترے اور غور کی طرف کے بہت سے شہروں اور ان علاقوں میں غارت گری کی اور لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا پس دمشق سے عادل نہایت سرعت کے ساتھ ان کے مقابلہ میں گیا اور اس نے مصری اور مشرقی فوجوں کو بلایا اور عکا کے قریب ان سے مقابلہ کیا اور ان کے درمیان شدید جنگ اور عظیم حصار ہوا پھر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی اور اس نے انہیں کچھ شہر دے دیئے ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

اور اس سال مشرق میں خوارزمیوں اور غوریوں کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں جن کا بیان طویل ہے اور اس سال حاکم موصل نور الدین اور حاکم سنجار قطب الدین نے باہم جنگ کی اور اشرف بن عادل نے قطب کی مدد کی پھر انہوں نے صلح کر لی اور اشرف نے نور الدین کی ہمیشہ سے نکاح کر لیا۔ اور وہ اتا بکیہ بنت عز الدین مسعود بن مودود بن زنگی تھی اور وہ من کوہ میں جو اتا بکیہ

ہے اسے وقف کرنے والی ہے اور وہیں اس کی قبر ہے۔

اور اس سال مصر شام جزیرہ اور قبرص وغیرہ شہروں میں تنظیم زلزلہ آیا۔ یہ ابن اثیر کا قول ہے جسے اس نے اکامل میں بیان کیا ہے۔

اور اس سال ایک تاج محمد بن محمد میری حضرت موت ظفار وغیرہ کے بعض شہروں پر مغلب ہو گیا۔ اور اس کا زمانہ ۱۹۱ھ اور اس کے بعد تک چلتا رہا۔

اور اس سال کے جمادی الاولیٰ میں بغداد کے قاضی القضاة ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن سلیمان الجعفی کے لیے وزیر کے گھر میں مجلس منعقد ہوئی اور دستاویزی ثبوت سے ثابت ہو گیا کہ وہ رشوت لیتا ہے، پس اس مجلس میں اسے معزول کیا گیا اور اسے فاسق قرار دیا گیا اور اس کے سر سے سبز چادر کھینچ لی گئی۔ اور اس کی مدت حکومت دو سال تین ماہ تھی۔

اور اس سال ملک رکن الدین قلع ارسلان کی وفات ہوئی، اسے فلاسفہ کے اعتقاد کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اور جو اس اعتقاد کی طرف منسوب ہوتا وہ اس کی پناہ گاہ تھا اور اس کی موت سے قبل اس سے عظیم جرم سرزد ہوا اور وہ یہ کہ اس نے اپنے سگے بھائی جو انگور کا حاکم تھا..... اور اسے انقرہ بھی کہا جاتا ہے..... کا کئی سال تک محاصرہ کیے رکھا، حتیٰ کہ اس نے اسے خوراک کی تنگی کر دی اور اس نے انقرہ کو اس شرط پر اس کے سپرد کر دیا کہ وہ اسے کچھ شہر عطا کر دے اور جب اس نے اس پر اور اس کے لڑکوں پر قابو پالیا تو اس نے ان کی طرف آدمی بھیجے جنہوں نے انہیں دھوکے اور فریب سے قتل کر دیا اور اس کے بعد اسے صرف پانچ دن کی مہلت ملی اور اللہ تعالیٰ نے سات روز تک اسے قونج کیا اور وہ مر گیا (اور زمین و آسمان ان پر اٹکبار نہ ہوئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی) اور اس کے بعد اس کے بیٹے ارفع ارسلان نے حکومت سنبھالی اور وہ چھوٹا بچہ تھا وہ ایک سال بادشاہ رہا پھر اس سے حکومت چھین گئی اور اس کے چچا کھنصر و کے پاس چلی گئی اور اس سال بہت سے باطنیوں کو واسط میں قتل کر دیا گیا۔

ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس سال کے رجب میں صوفیاء کی ایک جماعت بغداد کی خانقاہ میں سماع کے لیے اکٹھی ہوئی تو جمال حلی نے انہیں یہ اشعار سنائے۔

”اے مجھے ملامت کرنے والی بس کر میرا بڑھا پاپا ہی کافی ملامت گر ہے، جوانی کی یہ حالت ہے کہ گویا کبھی تھی ہی نہیں اور بڑھاپے کی یہ حالت ہے کہ گویا وہ ہمیشہ رہے گا اور میرا غم وصل کی راتوں پر ہے جو ان کے اول و آخر میں ہے اور غزل کے سماع کے وقت محبوب کا رنگ زرد ہے اور اگر میں دوبارہ تم سے ناراض ہوا تو میری زندگی خوشگوار اور متصل ہو جائے گی اور جو مصیبت مجھے پہنچی ہے میں اس کی پروا نہیں کرتا اور نہ ہی میں اہل اور اکتاہٹ کی پروا کرتا ہوں۔“

راوی کا بیان ہے کہ صوفیاء حسب عادت ناپنے لگے اور ان میں سے ایک شخص احمد رازی کو وجد ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، انہوں نے اسے بلایا تو وہ مرچکا تھا، راوی کا بیان ہے کہ وہ ایک صالح آدمی تھا، اور ابن السامی کا بیان ہے کہ وہ نیک شخص تھا جس نے صدر عبد الرحیم شیخ الشیوخ کی مصاحبت کی اور لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے اور اسے باب البرز میں دفن کیا گیا۔

ابوالقاسم بہاؤ الدین:

حافظ بن حافظ ابوالقاسم علی بن ہبہ اللہ بن عساکر آپ کی پیدائش ۵۲۷ھ میں ہوئی اور آپ کے باپ کثیر نے آپ کو سماع کرایا۔ اور آپ نے اپنے باپ کو اپنے اکثر مشائخ میں شریک کیا ہے اور آپ نے دوبار اپنی تحریر میں اپنے باپ کی تاریخ لکھی ہے اور کثیر نے بھی لکھا..... اور سماع کرایا ہے اور بہت کتابیں تصنیف کی ہیں اور آپ نے جامع اسوی میں حدیث سماع کرانے کے لیے اپنے باپ کی جانشینی کی اور دارالحدیث نوریہ کو پیچھے چھوڑا آپ نے ۸ صفر جمعرات کے روز وفات پائی اور آپ کو عصر کے بعد اپنے باپ کے پاس باب الصغیر میں صحابہ کی قبور کے مشرق میں احاطہ کے باہر دفن کیا گیا۔

حافظ عبد الغنی مقدسی:

ابن عبد الواحد بن علی بن سرور حافظ ابو محمد المقدسی جو مشہور تصانیف کے مؤلف ہیں جن میں الکمال فی اسماء الرجال اور الاحکام الکبریٰ والصغریٰ وغیرہ شامل ہیں آپ ربیع الآخر ۵۴۱ھ میں جماعیل میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے دونوں چچاؤں امام موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی اور شیخ ابو عمر سے چار ماہ بڑے تھے اور وہ دونوں سب سے پہلے اپنے اہل سمیت بیت المقدس سے مشرقی دروازے سے باہر مسجد ابی صالح کے پاس آئے پھر دامن کوہ میں منتقل ہو گئے اور ان کی وجہ سے محلۃ الصالحیہ مشہور ہو گیا اور اسے صالحیہ کہا جانے لگا اور انہوں نے دیر میں سکونت اختیار کر لی اور حافظ عبد الغنی نے قرآن پڑھا اور حدیث کا سماع کیا اور وہ اور موفق ۵۶۰ھ میں بغداد کی طرف کوچ کر گئے اور شیخ عبد القادر نے انہیں اپنے پاس مدرسہ میں اتارا اور آپ کسی کو اپنے ہاں اترنے نہیں دیتے تھے، لیکن آپ نے ان دونوں میں بھلائی اور نجابت و صلاح کو دیکھا اور ان کی عزت کی اور انہیں سماع کرایا۔

پھر ان دونوں کی آمد کے پچاس دن بعد آپ وفات پا گئے اور عبد الغنی کا میلان حدیث اور اسماء الرجال کی طرف تھا۔ اور موفق کا میلان فقہ کی طرف تھا اور یہ دونوں شیخ ابو الفرج ابن الجوزی اور شیخ ابو الفتح ابن ایمنی کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ پھر یہ دونوں چار سال کے بعد دمشق آئے اور عبد الغنی مصر اور اسکندریہ چلا گیا پھر دمشق کی طرف واپس آ گیا، پھر جزیرہ اور بغداد کی طرف کوچ کر گیا، پھر اصہبان کی طرف چلا گیا اور وہاں کثیر سے سماع کیا۔

اور حافظ ابو نعیم کی تصنیف جو اسماء الصحابہ کے بارے میں ہے سے واقفیت حاصل کی میں کہتا ہوں وہ تصنیف حافظ ابو نعیم کی تحریر میں میرے پاس موجود ہے اور وہ کتاب کے ایک سو نوے مقامات پر مناقشہ کرنے لگا، جس سے بنو النجندی ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے وہاں سے ایک چادر میں چھپا کر باہر نکال دیا۔ اور جب یہ اپنے راستے میں موصل آیا تو اس نے جرح و تعدیل کے بارے میں عقلمندی کی کتاب کا سماع کیا اور حنفیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کے سبب اس پر حملہ کر دیا تو یہاں سے بھی وہ ڈر سے دیکھتا ہوا نکل گیا۔

اور جب دمشق آیا تو جامع دمشق میں حنابلہ کے برآمدوں میں نماز جمعہ کے بعد حدیث پڑھتا تھا۔ پس لوگوں نے اس پر اتفاق کیا اور اس کے پاس آ گئے۔ اور یہ رفیق القلب اور جلد اشکبار ہونے والا شخص تھا اور اسے لوگوں میں بہت قبولیت حاصل ہو

گئی۔ اور بنو الزکیٰ المدیعی اور شافعیہ کے کاروبار و مباحثہ اور بعض حنا بلہ نے بھی اس سے حسد کیا، اور انھوں نے ناصح حنبلی کو تیار کیا اور اس نے قیہ النسر تلے گفتگو کی اور انہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ ممکن حد تک اپنی آواز کو بلند کرے، حتیٰ کہ اُسے پریشان کر دے، پس عبدالمعتز اپنی باری کو مصر کے بعد تک لے گیا۔ اور ایک روز اُس نے کرنی پر اپنا عقیدہ بیان کیا تو قاضی ابن الزکیٰ اور ضیاء الدین المدیعی نے اس پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے اس کے لیے قلعہ میں ۲۴ روز و القعدہ ۵۹۵ھ کو سوموار کے روز ایک مجلس منعقد کی، اور مسئلہ علو و نزول اور مسئلہ حرف و صوت کے بارے میں اس سے طویل گفتگو کی۔ اور اس نے دلیل کے ساتھ ان پر غلبہ پالیا، تو قلعہ کے نائب برغش نے اُسے کہا، یہ سب ضلالت پر ہیں اور تو حق پر ہے؟ اس نے کہا، ہاں، جس سے برغش ناراض ہو گیا، اور اس نے آپ کو شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اور آپ تین دن کے بعد بعلبک کی طرف کوچ کر گئے، پھر قاہرہ چلے گئے، تو آنا پینے والوں نے آپ کو پناہ دی، اور آپ وہاں حدیث پڑھتے تھے۔ تو فقہائے مصر نے بھی آپ پر حملہ کر دیا۔ اور انہوں نے وزیر صفی الدین شکر کو خط لکھا تو اس نے آپ کو مغرب کی طرف جلا وطن کرنے کا اقرار کیا۔ اور آپ خط کے پہنچنے سے قبل اس سال کی ۲۳ ربیع الاوّل کو سوموار کے روز وفات پا گئے۔

آپ کی عمر ۵۷ سال تھی، اور آپ کو قرآنہ میں شیخ ابو عمر بن مرزوق کے پاس دفن کیا گیا رحمہ اللہ البیہ نے بیان کیا ہے کہ عبد الغنی متقی، عابد و زاہد تھے۔ آپ حضرت امام احمد کے درد کے مطابق ہر روز تین سو رکعت نماز پڑھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، اور سال کا اکثر حصہ روزے رکھتے تھے، اور آپ شریف اور سخی آدمی تھے، اور کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ اور یتیموں اور بیواؤں پر اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا، اور آپ اپنے کپڑے کو بند لگاتے تھے اور نئے کپڑے کی قیمت کو ترجیح دیتے تھے، اور بکثرت مطالعہ کرنے اور رونے کی وجہ سے آپ کی بصارت کمزور ہو گئی تھی، اور آپ علم حدیث اور حفظ میں اپنے زمانے کے یکتا آدمی تھے۔

میں کہتا ہوں ہمارے شیخ حافظ ابوالحجاج المزنی نے آپ کی کتاب الکمال فی اسماء الرجال کی..... کتب ستہ کے رجال..... کی اپنی کتاب تہذیب سے اصلاح کی ہے اور اس سے تقریباً ایک ہزار مقامات کی غلطیاں نکالی ہیں، اور اس امام المزنی کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور آپ کی کتاب التہذیب کی مثل اس سے پہلے نہیں لکھی گئی اور نہ اس کی مشابہت کی جاسکتی ہے اور یہ دونوں شخص اسماء الرجال کے حفظ و اتقان اور سماع و اسامع اور متون اور اسماء الرجال کے بیان میں اپنے زمانے میں یکتا آدمی تھے۔ اور حاسد نہ کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

ابوالفتوح اسعد بن محمود العجلی:

تمتہ التتمۃ کا مؤلف اسعد بن ابی الفضل بن محمود بن خلف العجلی الفقیہ الشافعی الاصبہانی، واعظ اور دین کا منتخب شخص، آپ نے حدیث کا سماع کیا، اور فقہ سیکھی اور ماہر ہو گئے۔ اور آپ نے ابو سعید ہرودی کے لیے تتمۃ التتمۃ تصنیف کی، اور آپ زاہد و عابد شخص تھے، اور آپ نے الوسیط اور الوجیز کے مشکل مقامات کی شرح کی ہے۔ آپ نے صفر ۶۰۰ھ میں وفات پائی۔

البدائی شاعر:

ابوسعید اللہ محمد بن اُمّ بن شاعر بوالبدائی کے نام سے مشہور ہے اس نے خلفاء اور وزراء وغیرہ کی مدح کی اور اس نے شعر بہت

لطیف ہیں۔

یہ ظلم کی بات ہے کہ تو شیفتہ محبت کو دیکھے اور اسے ڈانٹے اور دوسرے کی محبت کا تو انکار کرے۔ اے عاشق کو ملامت کرنے والے اگر تو اس کے قاتل کو دیکھتا تو تو رخسار کی وجہ سے اسے معذور سمجھتا میں اس پر فدا ہوں جب وہ میرے قتل کے درپے ہوتا ہے تو وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سحر سے بتاتا ہے کہ میں اسے کیسے مسحور کرتا ہوں، وہ نیند میں رات سے استمتاع کرتا ہے۔ اور میں صبح تک بے خواب رکھتا ہوں، وہ مجھے بھول جاتا ہے اور میں اسے یاد کرتا ہوں۔“

ابوسعید الحسن بن خالد:

ابن المبارک نصرانی ماروانی، جس کا لقب وحید ہے یہ نو عمری میں علم الاوائل میں مشغول ہو گیا، اور اس میں پختہ ہو گیا۔ اور اسے اچھا شعر کہنے میں بڑی مہارت حاصل تھی اللہ اسے ہلاک کرے اس کے یہ اشعار بھی ہیں۔
میرے پاس ایک خط آیا ہے جسے ایسی انگلیوں نے لکھا ہے جو سمندروں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور ان کے پانی سے سمندر غرق ہو جاتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ میں اس کے لکھ کر منائے ہوئے الفاظ پر بیچ و تاب کھا رہا ہوں، حالانکہ اس کی دسوں انگلیاں پکڑنے کی عادی نہیں۔ پھر کہتا ہے۔

”اور اس کی دونوں کنپٹیوں نے اس کے رخسار کا رنگ لے لیا ہے اور وہ شیشے کے پیچھے سائے کی طرح نظر آتی ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو تو رومی فوج کو آندھی میں ایک کلڑی کی طرح دیکھے گا۔ جو جنگ کے دن کے لیے دوڑ رہی ہے یا صبح پر تاریک رات کی دھاری لگائی گئی ہے جو ہاتھی دانت کے پہلو میں آبنوس سے مشابہ ہے، اور اس کی دونوں کنپٹیاں اس کے گلابی رخسار میں گھس گئی ہیں، اور اس نے اسے اپنے اشعار کی باڑ لگا دی ہے۔“

العراقی محمد بن العراقی:

رکن الدین ابو الفضل قزوینی، پھر ہمدانی، جو طاؤوسی کے نام سے مشہور ہے یہ شخص علم الخلاف اور جدل و مناظرہ میں بڑا ماہر تھا، اس نے یہ علم رضی الدین نیشاپوری سے حاصل کیا، اور اس بارے میں تین حواشی لکھے۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے درمیانی سب سے اچھا ہے اور اس نے ہمدان کی طرف سفر کیا ہے اور ایک حاجب نے اس کے لیے وہاں ایک مدرسہ تعمیر کیا جو الحاجیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ طاؤوس بن کیسان تابعی کی طرف منسوب ہے۔ واللہ اعلم

۶۰۱ھ

اس سال خلیفہ نے اپنے بیٹے محمد کو، جس کا لقب الظاہر تھا، ۷۱ سال اس کا خطبہ دینے کے بعد اُسے ولی عہدی سے ہٹا دیا، اور اپنے دوسرے بیٹے علی کو ولی عہد بنایا اور علی جلد ہی مر گیا تو پھر الظاہر کو حکومت واپس مل گئی، اور اس کے باپ الناصر کے بعد اس کی

بیعت کی گئی جیسا کہ ابھی ۶۲ھ میں بیان ہوگا۔

اور اس سال دارالخلافہ کے میزبانوں میں زبردست آگ لگ گئی اور بہت سے ہتھیار سامان اور مسلمان حمل کئے جو تقریباً چار کروڑ دینار کی قیمت کے تھے۔ اور اس آگ کی خبر لوگوں میں پھیل گئی اور اطراف کے بادشاہوں نے اس کے عوض خلیفہ کو ہتھیاروں کے تحائف بھیجے اور اس سے بہت زیادہ بھیجے۔

اور اس سال الکرچ نے بلادِ مسلمین میں فساد پیدا کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور دوسروں کو قیدی بنا لیا۔ اور اس سال امیر مکہ قنذہ الحسینی اور امیر مدینہ سالم بن قاسم الحسینی کے درمیان جنگ ہوئی۔ اور قنذہ نے مدینہ جا کر سالم کا محاصرہ کر لیا اور سالم حجرہ کے قریب نماز ادا کرنے کے بعد اس کے مقابلہ میں آیا اور اس نے اللہ سے اس پر فتح پانے کی دعا کی۔ پھر اس کے مقابلہ میں آ کر اسے شکست دی اور اس کے پیچھے پیچھے آ کر مکہ میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر قنذہ نے سالم کے امراء کی طرف پیغام بھیج کر انہیں اس کے خلاف کر دیا اور سالم خیریت کے ساتھ واپس مدینہ آ گیا۔

اور اس سال غیاث الدین کبچر و بن قلیج ارسلان بن مسعود بن قلیج نے بلادِ روم پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بھتیجے سے چھین لیا اور خود وہاں پر ڈٹ گیا اور اس کی شان و شوکت بڑھ گئی اور اس کی فوج میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور امراء اور حکمرانان اطراف نے اس کی اطاعت کی۔ اور افضل بن صلاح الدین نے سسیاط میں اس کا خطبہ دیا اور اس کی خدمت میں چلا آیا اتفاق سے اس سال بغداد کا ایک شخص دجلہ میں تیرنے کے لیے اتر آیا اور اس نے اپنے کپڑے اپنے غلام کو دینے تو وہ پانی میں غرق ہو گیا تو اس نے اس کی پگڑی میں ایک رقم دیکھا جس میں یہ اشعار لکھے تھے۔

”اے لوگو! میری ایک آرزو تھی جس کے حصول سے مجھے اجل نے روک دیا ہے پس وہ شخص اللہ سے ڈرے جسے زندگی میں اس نے عمل کی توفیق دی ہے۔ میں گھر کے صحن میں اکیلا نہیں ہر شخص اپنے مثل کو عنقریب منتقل ہوتا دیکھے گا۔“

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابوالحسن علی بن عسکری بن ثابت الحلی:

یہ شہید کے نام سے مشہور ہے اور یہ ادیب شاعر اور ماہر لغت تھا۔ اس نے اپنے اشعار کا ایک حصہ مرتب کیا ہے جسے یہ ابوتمام کے حصہ پر فضیلت دیتا ہے۔ اور خمریات کے بارے میں بھی اس کے اشعار ہیں۔ اور اس کا خیال ہے کہ یہ اشعار ابونواس کے خمریاتی اشعار سے عمدہ ہیں اور ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ یہ احمق بے شرم بے حیا اور بے دین تھا۔ اور حصہ اور رسائل اس کی تصنیفات ہیں۔ ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد آ کر ابن الخشاب سے نحو سیکھی اور اس سے عمدہ باتیں حاصل کیں۔ اور لغت اور عربوں کے اشعار بھی حاصل کیے۔ پھر اس نے موصل میں اقامت اختیار کر لی اور وہیں وفات پائی۔ اس کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”ہر نیوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال آرزوؤں ہی میں آجال کے پھڑے کے مقامات ہیں کتنی ہی نگاہوں نے ہلاک کر دیا اور پیچھے نہ رکھا اور کتنے ہی ہاتھوں کو جنگ کے وقت بوسے دیے گئے اس نے نیک فال لی اور سلام کی اجازت نہ دی اور سلام کے طوق حیلہ بازوں کا کارنامہ ہے۔“

اور تینیس کے بارے میں اس کے شعر ہیں۔

”کاش وہ تیس جس کا قیام اور واپسی تمام میں طویل ہوئی ہے اور وہ اپنی سی واپسی کو بغداد کے لیے مقرر کرنے لیا تو
لیج رہا ہے کہ زمانہ مجھے پامال کر رہا ہے اور اس کی مٹی کی استوری بودگی ہے اور اس نے میری آنکھ کے نور کو مجھے پامال
کرتے ہوئے دکھایا اور وہ اس سے مالدار ہو گیا۔“

اور اسی طرح شراب وغیرہ کے بارے میں بھی اس کے اشعار موجود ہیں۔

ابو نصر محمد بن سعد اللہ^۱

ابن نصر بن سعید الارحامی یہ نئی خوبصورت، صلی و اعظا اور بہت اچھا شاعر تھا اس کے شعر ہیں۔

”اگر نو جوان کے دل کے احوال درست ہو جائیں تو آرزوؤں کا حصول اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر تو دیکھے
کہ اس نے اپنے اقوال کو درست کر لیا ہے تو اسے بلند یوں پر آمادہ کرنا اس کے لیے قوت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اگر
اس کے احوال پر اگندہ ہو جائیں تو اس کی قبر میں اسے بوسیدگی حاصل ہوگی۔“

ابو العباس احمد بن مسعود:

ابن محمد قرظلی خزر جی آپ تفسیر، فقہ، حساب، فرائض، نحو لغت، عروض اور طب میں امام تھے۔ آپ کی تصانیف بہت اچھی ہیں
اور آپ کے اشعار بھی عمدہ ہیں۔

”جو کچھ باغات میں ہے وہی رخساروں میں ہے۔ لیکن اس کے پھولوں کی رونق کا مفہوم عجیب ہے۔ اور میں حیران
ہوں اور اس سے کوئی حیرانی بھی نہیں کہ موج کو پھپھرا کیسے اٹھا سکتا ہے۔“

ابوالفداء اسماعیل بن برتیس سجاری:

یہ غلام تھا اس کا آقا عماد الدین زنگی بن مودود تھا اور یہ خوبصورت، شاندار نظم کہنے والا اور بہت ادیب سپاہی تھا۔ اور اس نے
اشرف موسیٰ بن عادل کو اس کے بھائی یوسف کی تعزیت کرتے ہوئے جو اشعار لکھے ان میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”بلندیوں اور اچھے کاموں کے آنسو ٹپک پڑے۔ اور تیرے مرنے سے بلندیوں کی حویلی چٹیل میدان بن گئی ہے جس
صبح کو یوسف نے اس لحد میں ٹھکانہ لیا ہے اس صبح سے نیکی اور سخاوت قبر میں ٹھکانہ بنا بیٹھی ہے موت کے ہاتھ نے کب
اس کی روح کو اچک لیا وہ تو تلوار سے روحوں کو اچک لیا کرتا تھا۔ زمانے نے اسے اپنی موت کا پیالہ پلایا اور وہ جنگ
میں موت کو بہلانے سے واقف تھا ہائے حسرت، کاش حسرت موت کو فائدہ دیتی اور ہائے افسوس کاش افسوس فائدہ
دیتا، میرا نفس مصائب پر قوی ہوتا تھا۔ لیکن اس مصیبت کے برداشت کرنے سے کمزور ہے۔“

۱ انجم الزاہرۃ میں محمد بن احمد بن حامد ابو عبد اللہ ہے۔

ابوالفضل بن الیاس بن جامع اربلی:

اس نے نظامیہ میں فقہ سیکھی اور حدیث کا سماع کیا اور تاریخ وغیرہ کو تصنیف کیا اور حسن کتابت شروط میں منفرد ہو گیا۔ اسے فنیات اور نظم حاصل ہے۔ اس کے شعر ہیں۔

”اے میرے دل کو بیمار کرنے والے! تیری جدائی کا اخیر بھی ہے؟ اور میری آنکھوں کو بے خواب رکھنے والے! کیا تیرا خیال ملاقات کرنے والا ہے؟ اور اپنی بے رخی سے تعذیب کو شیریں خیال کرنے والے! کیا شریعت محبت میں تجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں؟ اے دل تجھے مبارک ہو جسے میں نے اپنے ایام کی یاد سے مطلع کر دیا ہے، حالانکہ تو مسافر ہے اور تیری دوری کے باعث تکلیف دہ غم میرے دل سے جدا نہ ہو، حتیٰ کہ قدرت والا خدا پر اگندگی کو مجتمع کر دے اور اگر میں مرا جاؤں تو میری طرف سے تمہیں سلام ہو اور جب تک ذکر کرنے والا تکبیر کہتا ہے وہ تمہیں بار بار سلام دیتا رہے۔

ابوالسعادات اکللی:

بغدادی تاجر رافضی، یہ ہر جمعہ کو جنگ کی زرہ پہنتا، اور اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا اور دروازہ اس پر بند ہوتا اور لوگ نماز جمعہ میں مصروف ہوتے اور وہ انتظار کرتا کہ صاحب الزماں یعنی محمد بن حسن عسکری سرداب سامرا سے نکلے گا اور وہ اپنی تلوار کو مہدی کی نصرت کے لیے لوگوں میں گھمائے گا۔

ابوغالب بن کمونہ یہودی:

یہ کاتب تھا اور اپنی تحریری قوت سے ابن مقلد کی جعلی تحریر بنالیا کرتا تھا۔ اس نے واسط کے تہ خانے میں وفات پائی، اللہ اس پر لعنت کرے ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

۶۰۲ھ

اس سال حاکم غزنی شہاب الدین محمد بن سام غوری اور اصحاب جبل جو ذی بنی بوکر کے درمیان جنگ ہوئی، وہ اسلام سے مرتد ہو چکے تھے، پس اس نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی اور ان سے بے شمار مال غنیمت حاصل کیا، اور ایک شخص نے اس کا پیچھا کر کے اس سال کے آغاز میں عشاء کے بعد اسے دھوکے سے قتل کر دیا، اور شہاب الدین بادشاہوں میں بہترین سیرت کا حامل اور جنگ میں ان سے زیادہ دانش مند اور ثابت قدم تھا، اور جب یہ قتل ہوا، تو فخر الدین رازی بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ بادشاہ کے سامنے وعظ کے لیے بیٹھ کر اسے نصیحت کیا کرتے تھے، اور جب آپ اپنی مجلس کے آخر میں فرماتے اے سلطان تیری بادشاہت باقی نہیں رہے گی، اور نہ رازی باقی رہے گا، اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے تو سلطان رو پڑتا۔ اور جب سلطان قتل ہو گیا تو بعض خاصکیہ نے امام رازی پر اس کے قتل کی تہمت لگائی تو آپ ڈر گئے اور آپ نے وزیر موید الملک بن خواجہ کی پناہ لی اور وہ آپ کو ایک پرامن جگہ لے گیا اور اس کے بعد غزنی پر اس کے ایک غلام تاج الدین نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن کا بیان طویل ہے، اور ابن اثیر اور ابن الساعی نے ان کا استقصاء کیا ہے۔

اور اس سال الکرج نے مسلمانوں کے شہروں پر غارت گری کی اور اخلاط تک پہنچ گئے اور لوگوں کو قیدی بنایا اور قتل کیا اور ہانہازوں اور عوام نے ان سے جنگ کی اور اس سال حاکم ابن مظفر الدین نورنی اور اس کے ساتھ حام مراغہ حمی آذربائیجان کے بادشاہ ابوبکر بن ہمدان سے جنگ کرنے گئے اس لیے کہ اس نے الکرج کے ساتھ قتال کرنے سے پسپائی اختیار کر لی تھی اور شب و روز نشتر اور اتین استعمال کرنے لگ گیا تھا مگر یہ اس پر قابو نہ پاسکے پھر اس نے اس سال الکرج نے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح لیا تو اس کے ساتھ ان کی جنگ رک گئی۔

ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ وہ اس قول کے مطابق ہو گیا تھا کہ اس نے تلوار کو نیام میں کر لیا تھا اور اس کا پھل کھینچ لیا تھا۔ اور اس سال خلیفہ نصیر الدین ناصر بن مہدی نے ناصر علوی حسنی کو وزیر بنایا اور اُسے خلعت وزارت دیا اور اس کے سامنے اور نمازوں کے اوقات میں اس کے دروازے پر ڈھول بجائے گئے اور اس سال بلادِ ارمین کے حاکم ابن لاون نے بلادِ حلب پر غارت گری کی اور لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا اور لوٹ مار کی اور ملک الظاہر غازی بن الناصر اس کے مقابلہ میں نکلا تو ابن لاون اس کے آگے بھاگ گیا الظاہر نے وہ قلعہ گرادیا جو اس نے تعمیر کیا تھا اور اسے پیوندز میں کر دیا۔

اور اس سال کے شعبان میں بابِ مشرقی کے پاس رومانی پل گر گیا اور اس کے پتھر اٹھائے گئے تاکہ عادل کے وزیر صفی الدین بن شکر کی سفارت کے ساتھ جامع اموی کو ان کا فرش لگایا جائے اور اس کے فرش کا کام ۶۰۴ھ میں مکمل ہوا۔

شرف الدین ابوالحسن:

علی بن محمد بن علی جمال الاسلام الشہر زوری شہر زورہمحص میں ایک شہر ہے اور اُسے دمشق سے یہاں نکال دیا گیا تھا اور اس سے قبل یہ امینیہ میں مدرس تھا۔ اور جامع مسجد میں البرادہ کے بالمقابل اس کا حلقہ تھا اور اس کے پاس مذہب اور اخلاقیات کا اچھا علم تھا۔

التقی عیسیٰ بن یوسف:

ابن احمد العراقی نابینا آپ بھی امینیہ کے استاد تھے اور مغربی مینار میں رہتے تھے آپ کو دمشق سے اس کی طرف نکالا گیا تھا اور آپ کے پاس ایک نوجوان تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کے آگے آگے چلتا تھا۔ شیخ کے کچھ درام کھو گئے تو اس نوجوان پر ان کی تہمت لگائی گئی مگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ملی اور شیخ نے اس عیسیٰ پر اتہام لگایا کہ یہ اس سے لواطت کرتا ہے اور لوگوں کا خیال یہ نہ تھا کہ اس کے پاس کچھ مال بھی ہے پس مال ضائع ہو گیا اور اس کی عزت پر تہمت لگی اور ۷ ذوالقعدہ کو جمعہ کے روز اُسے اپنے گھر میں غریبی اذان گاہ پر لٹکے ہوئے پایا گیا۔ اور لوگوں نے اس کے خودکشی کرنے کے باعث اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور شیخ فخر الدین عبدالرحمن بن عسا کرنے آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور بعض لوگوں نے اس کی اقتداء کی۔

ابوشامہ کا بیان ہے کہ اس فعل پر اس کے مال کے ضائع ہونے اور اس کے بے عزت ہونے نے اُسے آمادہ کیا۔ راوی کہتا ہے اس قسم کا ایک واقعہ مجھے بھی پیش آیا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بچالیا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کے بعد امینیہ میں جمال مصری وکیل بیت المال نے پڑھایا۔

ابوالغنائم المرکیسلار بغدادی:

یہ عزالدین نجاج السرای کے ساتھ خدمت کرتا تھا اور اس نے بہت سے اموال حاصل کیے۔ اور جب اسے کوئی مال میسر آتا یا اس سے کوئی جاگد اخذ یہ لیتا اور اسے اپنے ایک قابل اہتمام دوست کے نام لکھ دیتا۔ اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اس شخص کو وصیت کی کہ ۱۰۰ اس کے بچوں کو سنبھالے۔ اور اس نے ان کے لیے جو مہراث چھوڑی ہے اس میں سے ان پر خرچ کرے اور تھوڑے عرصے بعد وہ شخص بیمار ہو گیا جسے وصیت کی گئی تھی اس نے گواہوں کو بلایا تاکہ وہ انہیں اپنے آپ پر گواہ بنائے کہ اس کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ ابوالغنائم کے وارثوں کے لیے ہے اس کے وارثوں نے گواہوں کے حاضر کرنے میں دیر کی اور مال منہول کرنے لگے اور اسے سکتہ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اور اس کے وارثوں نے ان اموال و املاک پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے اس کے متر و کہ اموال میں سے ابوالغنائم کی اولاد کو کچھ بھی نہ دیا۔

ابوالحسن علی بن سعاد الفارسی:

آپ نے بغداد میں فقہ سنی اور دوبارہ نظامیہ کو لوٹائے گئے اور اس کی تدریس کے نائب بنے۔ اور اس مدرسہ کی تدریس میں بااختیار بن گئے جسے خلیفہ کی ماں نے بنایا تھا اس پر مستزاد یہ کہ آپ کو ابوطالب بخاری کا نائب قاضی بنایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا اس نے آپ پر یہ بات واجب کی تو آپ نے تھوڑا عرصہ یہ کام کیا پھر ایک روز آپ مسجد آئے اور اپنے سر پر ادنیٰ چادر اوڑھی اور وکلاء اور سپاہیوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور اپنے متعلق قضاء کی نیابت سے معزول ہونے کی گواہی دی اور اعادہ و تدریس پر قائم ہو گئے۔

خاتون:

۲۰ ربیع الاول جمعہ کے دن ملک معظم عیسیٰ بن عادل کی والدہ خاتون نے وفات پائی۔ اور اسے قالیسون کے دامن کوہ میں مدرسہ معظمیہ کے گنبد میں دفن کیا گیا۔

امیر مجیر الدین طاہر الشاکین المستنجدی:

حاجیوں کے امیر اور بلاد خوزستان کے لیڈر آپ بہت نیک سیرت اور بہت عبادت گزار اور تشیع میں بڑا غلو کرنے والے تھے آپ نے ۲ جمادی الآخرہ کو تستر میں وفات پائی۔ اور آپ کا تابوت کوفہ لایا گیا۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ ابن السامی نے اپنی تاریخ میں آپ کے حالات ایسے ہی لکھے ہیں۔ اور ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ طاہر الشاکین بن عبد اللہ المسقتفوی حاجیوں کے امیر تھے۔ آپ نے لوگوں کو ۲۶ سال حج کروایا۔ حجاز میں آپ کی پوزیشن بادشاہ کی سی تھی اور وزیر ابن یونس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ صلاح الدین سے خط و کتابت کرتے ہیں تو خلیفہ نے آپ کو قید کر دیا پھر اسے معلوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق جھوٹی بات بیان کی گئی ہے تو اس نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ کو خوزستان عطا کیا اور دوبارہ آپ کو حج کی امارت دے دی اور شیعہ محلہ آپ کی جاگیر تھا۔ آپ شجاع، سخی، فیاض اور کم گو تھے ہفتہ گذر جاتا اور آپ کوئی بات نہ کرتے اور آپ

میں علم و بردباری پائی جاتی تھی ایک شخص نے آپ سے آپ کے ایک نائب کے خلاف مدد مانگی تو آپ نے اسے جواب نہ دیا تو مدد مانگنے والے شخص نے آپ سے کہا کیا تو کدھا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ اور آپ کے متعلق ابن التعدادی بی کہتا ہے۔

”شہروں پر ایک امیر ہے جو شکایت کرنے والے کو سکوت کے بغیر جواب نہیں دیتا اور جب کبھی وہ رفعت میں بڑھے تو اللہ ہمیں تسخیل سے بہوت تک نیچے اتار دے اور آپ نے فرانس لے آپ کا جبہ سرقہ کر لیا اور انہوں نے چاہا کہ اس سے اس کا حال معلوم کریں اور امیر طراشتکین نے اسے اس وقت دیکھ لیا تھا جب اس نے اسے کو اٹھایا تھا آپ نے کہا کسی کو سزا نہ دو اسے اس نے لیا ہے جو اُسے واپس نہیں کرے گا۔ اور جس نے اسے لیتے وقت دیکھا ہے وہ اس کے خلاف چغلی نہیں کرے گا“ آپ کی عمر نوے سال تھی اتفاق سے آپ نے وقف کے لیے تین سو سال تک زمین کرایہ پر لی اور اس بارے میں ایک مسخرے نے کہا یہ شخص موت پر یقین نہیں رکھتا اس کی عمر نوے سال ہے اور اس نے تین سو سال کے لیے زمین کرایہ پر لی ہے اور سب لوگ ہنس پڑے۔

۶۰۳ھ

اس سال مشرق میں خوارزمیوں اور غوریوں کے درمیان طویل امور کا سلسلہ شروع ہو گیا اور طالقان کے علاقے میں خوارزم شاہ بن کش اور ان کا بادشاہ تھا۔ اور اس سال خلیفہ نے عبداللہ بن الدمعانی کو بغداد کا قاضی بنایا۔ اور اس سال خلیفہ نے عبدالسلام بن عبدالوہاب بن شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس کے فسق و فجور کے باعث گرفتار کر لیا گیا اور اس سے قبل اس کی کتب اور اموال جلا دیئے گئے کیونکہ ان میں فلاسفہ اور علوم الاوائل کی کتب بھی تھیں اور وہ لوگوں سے عطیات مانگنے لگا۔ اور یہ اس کے ابو الفرج ابن الجوزی کے خلاف کھڑے ہونے کی غلطی کی وجہ سے تھا بلاشبہ اس نے وزیر ابن قصاب کے پاس اس کی شکایت کی تھی حتیٰ کہ ابن الجوزی کی بعض کتب بھی جل گئیں۔ اور بقیہ کتب پر اس نے مہر لگا دی اور آپ کو پانچ سال تک واسط کی طرف جلا وطن کر دیا اور لوگ کہنے لگے اللہ کافی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ برائی کی جزاء اس کے مطابق ہوئی ہے اور صوفیا کہنے لگے راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اور اطباء کہنے لگے طبیعت مدافعت کرنے والی ہے۔ اور اس سال فرنگیوں نے حمص سے جنگ کی اور ان کے بادشاہ اسد الدین شیرکوه نے ان سے جنگ کی۔ اور حلب کے حکمران ملک الظاہر نے فوج سے اُسے مدد دی اور اللہ نے ان کے شر کو روک دیا اور اس سال ۱۱۰۱ھ جو ان بغداد میں شراب پر اکٹھے ہو گئے اور ایک نے دوسرے کو چھری مار کر قتل کر دیا اور بھاگ گیا اُسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا تو اس کے پاس سے ایک رقعہ ملا جس میں اس کی نظم کے دو شعر تھے اور اس نے حکم دیا کہ انہیں اس کے کفن میں رکھا جائے۔

میں ایک کریم ہستی کے پاس اعمال کے زاد کے بغیر قلب سلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کریم کے پاس آنا ہو تو زاد کی تیاری سوئے ظن میں شمار ہوتی ہے۔

① ان میں سے ایک ابو القاسم احمد بن المقرئ مؤلف دیوان الحماسہ اور دوسرا واعب ابن الامیر اصہب تھا اور یہ ایک خوبصورت جوان تھا اس نے اسے چھری مار کر قتل کر دیا تو خلیفہ نے اسے اولاد اصہب کے سپرد کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ (النجوم جلد ۶ ص ۱۹۲)

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابومنصور رقیہ:

عبدالرحمن بن احسین بن العثمان النبلی، جس کا لقب اس کی ذہانت، فضل، مہارت عقل اور کمال اخلاق کی وجہ سے قاضی شریح ہے، آپ نے اپنے شہر کی قضاء سنبھالی، پھر بغداد آئے تو آپ کو بڑے بڑے مناصب کی طرف دعوت دی گئی تو آپ نے ان سے انکار کیا۔ امیر طاشکین نے آپ کو حلف دیا کہ آپ اس کے پاس کتابت کریں، تو آپ نے بیس سال اس کی خدمت کی۔ پھر وزیر ابن مہدی نے مہدی کے پاس آپ کی چغلی کی تو اس نے آپ کو طاشکین کے گھر میں قید کر دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال میں وفات پا گئے۔ پھر جلد ہی چغلی کرنے والے وزیر کو بھی وہیں قید کر دیا گیا۔ اور یہاں سے بدلہ ہے۔

عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر:

آپ ثقہ، عابد، زاہد اور متقی تھے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے آپ سے بہتر کوئی شخص نہ تھا۔ اور آپ نے ان مناصب و امارات کو قبول نہیں کیا جن کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، بلکہ آپ دنیا سے کم حصہ لینے والے اور امر آخرت کی طرف توجہ کرنے والے تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے سماع کیا، اور آپ سے بھی اسی طرح سماع کیا گیا۔

ابوالحزم کمی بن زیان:

ابن شیبہ بن صالح الماسکینی، جو سنجار کے مضافات میں ہے، پھر موصلی نجفی، آپ بغداد آئے، اور علی ابن الخشاب، ابن القصار اور کمال انباری سے علم حاصل کیا، اور آپ شام آئے تو بہت سے لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، جن میں شیخ علم الدین سخاوی وغیرہ بھی تھے، آپ ناپینا تھے، اور آپ ابو العلاء مصری کی طرف میلان رکھتے تھے، کیونکہ دونوں کے درمیان ادب اور اندھا پن قدر مشترک تھی، آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”جب بخشش، سفارشی کی محتاج ہو تو اُسے قبول نہ کر، تیری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جب بخشش کو صرف احسان کی وجہ

سے ناپسند کیا گیا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ دو احسانات کی وجہ سے اُسے ناپسند کیا جائے۔“

نیز وہ کہتا ہے۔

میری جان نازک، اندام ناز و نخرہ کرنے والے پر قربان ہو، کہ اس نے جب ہمیں الوداع کہا تو ہمیں سچ بات کہی، جو شخص کسی چیز سے اس کے قتل کے لالچ سے محبت رکھے تو اس نے چھوڑنے کے لیے ہمیں الوداع کہا ہے۔

اقبال خادم:

جمال الدین، صلاح الدین کا ایک خادم تھا، جس نے اقبالیتین دو گھروں شافعیہ اور حنفیہ کو وقف کر کے انہیں دو مدرسے بنا دیا، اور دونوں کے لیے دو وقف کیے، بڑا وقف شافعیہ کے لیے، اور چھوٹا وقف حنفیہ کے لیے، اور اس پر سہم/وقف کیا، اس نے قدس میں وفات پائی۔

۶۰۴ھ

اس سال حجاج اس تکلیف نے باعث جو انہیں صدر جہاں بخاری نسطی سے کپٹی اللہ سے دعا و شکایت کرتے ہوئے عراق واپس آئے۔ یہ شخص ایک پیغام کے سلسلہ میں بغداد آیا تو خلیفہ نے اس کی پرواہ کی اور یہ اس سال کوچ کو چلا گیا اور اس نے پانی اور غلہ کے بارے میں لوگوں کو تنگی میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے عراق کے چھ ہزار حجاج فوت ہو گئے اور انہوں نے جو باتیں بیان کیں ان میں یہ بات بھی بتائی کہ وہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا تو وہ گھاٹوں کی طرف سبقت کر جاتے اور پانی کو روک دیتے اور حجاج کی سخت گرمی میں پانی لے کر اس کے خیمے کے ارد گرد چھڑکتے اور اس سے ان سبزیوں کو سیراب کرتے جو وہ اپنے علاقے سے ساتھ لایا تھا اور لوگوں، مسافروں اور بیت اللہ کا قصد کرنے والوں سے جو اپنے رب کے فضل و رضامندی کے جو یاں تھے اس پانی کو روکتے اور جب وہ لوگوں کے ساتھ واپس آیا تو عوام نے اس پر لعنت کی۔ اور خواص نے بھی اس کی پرواہ نہ کی اور نہ خلیفہ نے اس کا اکرام کیا۔ اور نہ کسی کو اس کے پاس بھیجا وہ بغداد سے نکلا تو عوام اس کے پیچھے پیچھے اسے پتھر مارتے اور اس پر لعنت کرتے تھے اور لوگوں نے اس کا نام صدر جنم رکھ دیا، ہم بے یار و مددگار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے بندوں پر زیادہ شفقت و رحمت کرنے کی توفیق دے۔ بلاشبہ وہ اپنے رحیم بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔

اور اس سال خلیفہ نے اپنے وزیر ابن مہدی علوی کو گرفتار کر لیا۔ اس لیے کہ اس کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ وہ خلافت کا خواہاں ہے۔ اور بعض نے دیگر اس باب کے باعث اس کا گرفتار ہونا بیان کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسے طاقتکین کے گھر میں قید کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور وہ بڑا سرکش اور مخالف تھا۔ حتیٰ کہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے۔

میرے دود و ستوا! خلیفہ سے کہو اور اس کی خیر خواہی کرو تو جو کچھ کر رہا ہے۔ اس کی برائی سے تو بچایا جائے۔ تیرا یہ وزیر دو امور کے درمیان ہے، جن میں اے مخلوق کے بہترین آدمی تیرا احسان ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ فی الواقعہ حیدر کی نسل سے ہے تو یہ وزیر خلافت کی طمع رکھتا ہے۔ اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں تو اس پر جو احسانات ہوئے ہیں وہ ان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ اموال کے بارے میں پاکدامن نیک سیرت اور اچھے کام کرنے والا تھا اللہ ہی اس کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور رمضان میں خلیفہ نے بیس گھروں کو ضیافت کے لیے تیار کیا، جن میں محتاج روزہ دار افطاری کرتے اور ہر روز ان گھروں میں ان کے لیے بہت سا کھانا پکایا جاتا اور اسی طرح صاف روٹیاں اور بہت سا حلوہ وغیرہ ان کے پاس لے جایا جاتا۔ اور یہ کام زمانہ حج میں قریش کے افادہ سے مشابہت رکھتا تھا اور اس کے منتظم آپ کے چچا ابوطالب تھے۔ اور حضرت عباس سقاییہ کے منتظم تھے اور انہی میں سفارت، علم اور مشاورت تھی جیسا کہ قبل ازیں اپنے اپنے مقامات پر ان باتوں کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یہ سب مناصب مکمل صورت میں عباسی خلفاء میں پائے جاتے تھے۔

اور اسی سال خلیفہ نے شیخ شہاب الدین الشہر زوری کو سنقر السلحدار کے ساتھ قیمتی خلعت دے کر ملک عادل کے پاس بھیجا اور اس میں ہار اور دو کنگن بھی تھے اور اس کے سب لڑکوں کے لیے خلعت بھی تھے۔ اور اس سال واحد بن عادل حاکم میافارقین نے

شہر خلاط پراس کے حاکم شرف الدین کلتر کے قتل کے بعد قبضہ کر لیا۔ اور یہ نوجوان خوبصورت تھا اسے ان کے ایک غلام نے قتل کیا پھر قاتل کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا اور شہزاد شاہ سے خالی ہو گیا۔ تو اوصد بن مادل نے اس پر قبضہ کر لیا۔

اور اس سال خوارزم شاہ محمد بن تخلص نے طویل معرکوں کے بعد بلاد ماوراالنہر پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک معرکے میں عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ مسلمان خوارزم شاہ سے الگ ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کے اصحاب کی ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی اور ان میں سے انخطاء کے جو کفار قتل ہونے تھے قتل ہو گئے اور ان میں سے بہت سے قیدی بن گئے اور خوارزم شاہ بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ اسے ایک شخص نے قید کر لیا اور اسے اس کے متعلق معلوم نہ تھا کہ یہ بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ اس نے امیر مسعود کو بھی قید کر لیا اور جب یہ معرکہ ہو چکا اور اسلامی فوجیں اپنے ہیڈ کوارٹر کو واپس آئیں تو انہوں نے بادشاہ کو گم پایا۔ اور انہوں نے باہم فساد اور بہت اختلاف کیا۔ اور پورا خراسان بے چین ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے حلف اٹھایا کہ بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ اور بادشاہ اور اس امیر کا یہ معاملہ ہوا کہ امیر نے بادشاہ سے کہا، مصلحت کی بات یہ ہے کہ آپ اس حالت میں بادشاہ کے نام کو ترک کر دیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ میرے غلام ہیں بادشاہ نے اس کے مشورہ کو قبول کر لیا۔ پھر بادشاہ اس امیر کی خدمت کرنے لگا۔

وہ اسے اس کے کپڑے پہناتا اور اسے پانی پلاتا اور اس کے لیے کھانا پکا کر اس کے آگے رکھتا اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرتا۔ جس شخص نے ان دونوں کو قید کیا تھا اس نے پوچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ تیری خدمت کرتا ہے۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں امیر مسعود ہوں اور یہ میرا غلام ہے اس نے کہا خدا کی قسم! اگر امراء کو معلوم ہو کہ میں نے امیر کو قیدی بنایا ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے تو میں تجھے چھوڑ دیتا۔ اس نے اسے کہا مجھے اپنے اہل کے بارے میں خدشہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں قتل ہو گیا ہوں اور وہ مجلس ماتم منعقد کرتے ہیں۔ اور اگر تو مالی فدیہ لے کر مجھے چھوڑنا مناسب سمجھے تو کسی شخص کو بھیج کہ جو مال کو وصول کرنے اور یہ تیری نیکی ہوگی اس نے کہا بہت اچھا اس نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو مقرر کیا تو امیر مسعود نے اسے کہا میرے اہل اس شخص کو نہیں جانتے۔ اور اگر تو مناسب سمجھے تو میں اپنے اس غلام کو اس کے ساتھ بھیج دوں تاکہ وہ انہیں میرے زندہ ہونے کی بشارت دے اور وہ اسے جانتے بھی ہیں۔ پھر یہ مال کے..... حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا تو اس نے خوارزم شاہ کے شہر تک ان دونوں کی حفاظت کے لیے آدمی بھیجے اور جب وہ خوارزم شہر کے نزدیک آئے تو بادشاہ نے اس کی طرف سبقت کی اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے باقی ماندہ شہروں میں بھی خوش خبریوں کے طبل بجے گئے اور بادشاہ اپنے مرجع کی طرف واپس آ گیا اور اس کی واپسی سے بڑی خوشی ہوئی۔ اور اس کے قتل کے مشہور ہونے کے باعث اس کی مملکت میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی اس کی اس نے اصلاح کی۔ اور اس نے ہرات کا محاصرہ کر کے بزور قوت اسے حاصل کر لیا۔ اور جس شخص نے اسے قید کیا تھا اس نے ایک روز امیر مسعود سے جسے میرے بارے میں رائے سوجھی تھی کہا کہ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ خوارزم شاہ قتل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں خوارزم شاہ تو وہ تھا جو تیری قید میں تھا اس نے امیر مسعود سے کہا تو نے مجھے اس کے متعلق کیوں

① اس کا نام البر اردیناری تھا۔ (دیکھئے انجم جلد ۶ ص ۱۸۸)

۶۰۴ھ کے حالات و واقعات کے بیان میں

نہیں بتایا تاکہ میں اسے عزت و وقار کے ساتھ واپس کرتا اس نے کہا مجھے تجھ سے اس کے متعلق خوف آتا تھا اس نے کہا ہمارے ساتھ اس نے پاس چلو نہیں وہ دونوں اس کے پاس گئے تو اس نے ان سے بہت آگرم کیا اور ان دونوں کے پاس ٹوک لیا۔ اور حاکم سمرقند نے یہ خیانت کی کہ اس کی قید میں جو خوارزمی تھے اس نے انہیں قتل کر دیا حتیٰ کہ وہ ایک شخص کو دو ٹکڑے کرتا اور اسے بازار میں بھریوں کی طرح لٹکا دیتا۔ اور اس نے اپنی بیوی دختر خوارزم شاہ کے قتل کا بھی ارادہ کیا۔ لیکن پھر اس کے قتل سے باز آ گیا اور اسے قلعہ میں قید کر کے اسے تنگی دی۔ اور جب خوارزم شاہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں گیا اور اس سے جنگ کی اور سمرقند کا محاصرہ کر لیا اور اسے بزور قوت حاصل کر لیا۔ اہالیان سمرقند میں سے تقریباً دو لاکھ آدمیوں کو قتل کر دیا اور بادشاہ کو قلعہ سے اتار اور اسے اپنے سامنے باندھ کر قتل کر دیا اور اس کی نسل اور اولاد کو باقی نہ چھوڑا اور خوارزم شاہ نے وہاں جو شہر تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اور الجکا اور تاتار کے بادشاہ کشلی خاں سے جو چین کی مملکت سے ملحق ہے جنگ کی اور الجکا کے بادشاہ نے خوارزم شاہ سے تاتار کے خلاف مدد مانگتے ہوئے اسے خط لکھا کہ جب وہ ہم پر غلبہ پالیں گے تو تمہارے ملک کی طرف چلے جائیں گے۔ اور تاتار نے بھی الجکا کے خلاف مدد مانگتے ہوئے اسے لکھا یہ ہمارے اور تمہارے دشمن ہیں تم ان کے خلاف ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس نے فریقین کو وہ بات لکھی جو ان کے دل کو خوش کرتی رہی۔ اور یہ ان کے معرکہ میں بھی شامل ہوا مگر فریقین سے الگ رہا اور الجکا کو شکست ہوئی اور تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ سب ہلاک ہو گئے۔

اور تاتار نے خوارزم شاہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس میں خیانت کی اور ان کے درمیان زبردست وحشت پیدا ہو گئی۔ اور انہوں نے جنگ کے لیے وقت مقرر کیا اور خوارزم شاہ ان سے خوفزدہ ہو گیا۔ اور اس نے ان بہت سے شہروں کو جو کشلی خاں کے شہروں سے ملحق تھے اس خوف سے تباہ و برباد کر دیا کہ کہیں وہ ان پر قبضہ نہ کر لے۔ پھر چنگیز خاں نے کشلی خاں کے خلاف بغاوت کی اور وہ خوارزم شاہ سے جنگ چھوڑ کر اس سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر عجیب و غریب واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔

اور اس سال طرابلس سے فرنگیوں نے حمص پر بہت حملے کئے اور حمص کا حکمران اسد الدین شیرکوه ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تو حلب کے حکمران الظاہر نے اس کے پاس فوج روانہ کی جس نے انہیں فرنگیوں کے خلاف قوت دی اور عادل مصر سے اسلامی افواج کے ساتھ نکلا اور اس نے جزیرہ کی افواج کو پیغام بھیجا تو وہ اسے عسک میں آ لیں اور اس نے عسک کا محاصرہ کر لیا کیونکہ قبارصہ نے مسلمانوں کے بحری بیڑے کا کچھ حصہ چھین لیا تھا جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اور حاکم عسک نے قیدیوں کے واپس کر دینے کی شرط پر امان اور صلح کی پیش کش کی تو اس نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور عادل روانہ ہو کر حمص کے قریب بحیرہ قدس میں اترا پھر بلاد طرابلس کی طرف چلا گیا اور اس نے قتل کرتے قیدی بناتے اور غنیمت حاصل کرتے ہوئے بارہ دن قیام کیا حتیٰ کہ فرنگی مصالحت کی طرف مائل ہو گئے پھر وہ دمشق آ گیا۔

اور اس سال آذربائیجان کے حکمران امیر نصیر الدین ابو بکر بن بہلول نے مراغہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ وہ ملک قاہرہ سے خالی ہو چکا تھا اس لیے کہ اس کا بادشاہ مرچکا تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو چھوٹا ہی تھا حکومت سنبھالی۔ اور اس کے خادم نے

اس کے معاملے میں سوچ بچار کی اور ماہ ذوالقعدہ میں محی الدین ابو محمد یوسف بن عبدالرحمن بن الجوزی، قاضی القضاة ابو القاسم بغدادی نے پاس آیا تو اس نے اسے قبول کیا اور اسے بغدادی دونوں جانب کا اسٹیج بنا دیا اور اسے قیسی سیاہ سرسئی چادر بطور خلعت دی۔ اور دس دن کے بعد وہ اپنے باپ ابو الفرج کی جگہ پر جو درب الشریف کے دروازے پر ہے، عینا کے لیے بیٹھا اور بہت سے لوگ اس کے پاس آئے اور اس دن سے چار روز بعد حضرت امام ابو حنیفہ کی زیارت گاہ پر ضیاء الدین احمد بن مسعود الرکسانی اٹھنی نے درس دیا تو اعمیان و اکابر اس کے پاس آئے اور اس سال کے رمضان میں خلیفہ کے ایلچی عادل کے پاس خلعت لے کر پہنچے تو اس نے اور اس کے دونوں بیٹوں معظم اور اشرف نے اور اس کے وزیر صفی الدین بن شکر نے اور کئی امراء نے وہ خلعت زیب تن کیے۔ اور وہ باب الحدید سے نماز ظہر کے وقت قلعہ میں داخل ہوئے اور وزیر نے کھڑے ہو کر احکام پڑھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور اس سال شرف الدین ٹحید اللہ بن زین القضاة عبدالرحمن نے دمشق میں مدرسہ رواجیہ میں درس دیا اور اس سال شیخ الخیر بن بغدادی حنبلی مذہب سے شافعی مذہب میں آ گیا اور خلیفہ کی ماں کے مدرسہ میں درس دیا اور بقیہ مذاہب کے اکابر اس کے پاس آئے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعمیان

امیر بنیامین بن عبداللہ:

یہ خلیفہ ناصر کا ایک امیر تھا اور عقل و عفت اور پاکیزگی کے لحاظ سے سادات امراء میں سے تھا ایک عیسائی کاتب نے اسے زہر پلا دیا تو یہ مر گیا اور جس نے اسے زہر پلایا اس کا نام ابن سواد تھا۔ خلیفہ نے اس کو بنیامین کے بیٹوں کے سپرد کر دیا اور وزیر ابن مہدی نے اس کے بارے میں سفارش کی اور کہا کہ عیسائیوں نے اس کی خاطر پچاس ہزار دینار خرچ کیے ہیں۔ پس خلیفہ نے کاغذ کے سر پر لکھا۔

”بلاشبہ جنگل کے شیر شیر ہوتے ہیں جن کے ارادے جنگ کے روز سامان کے بارے میں نہیں ہوتے، بلکہ جس سے سامان چھینا جاتا ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔“

پس بنیامین کے بیٹوں نے اسے قابو کر لیا اور اسے قتل کر کے جلادیا اور اس کے بعد خلیفہ نے وزیر ابن مہدی کو گرفتار کر لیا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حنبل بن عبداللہ:

ابن الفرج بن سعاده الرصافی الحنبلی مہدی کی جامع مسجد کا مکبر اور ابن الحسین سے عن ابن المذہب عن ابی مالک عن عبداللہ عن ابیہ مسند احمد کا راوی آپ کی عمر نوے سال تھی آپ بغداد سے نکلے تو اربل میں آپ کو سماع کرایا گیا۔ اور ملوک دمشق نے آپ کو دمشق بلا یا تو لوگوں نے آپ کو وہاں مسند سنایا اور معظم آپ کی عزت کرتا تھا۔ اور آپ اس کے ہاں اس کے دسترخوان پر اچھے کھانے کھاتے تھے جس سے آپ کو بہت بد ہضمی ہو جاتی تھی اس لیے کہ آپ فقیر تھے اور کم کھانے کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں تنگ ہو گئی تھیں اور بغداد میں آپ سخت زندگی بسر کرتے تھے اور کندی جب معظم کے پاس آتا تو حنبل کے متعلق دریافت کرتا تو معظم

کہتا ہے وہ کہتا اسے مسور کھاؤ، جس سے معظم نرس پڑتا۔ پھر معظم نے آپ کو بہت سامان دے کر بغداد واپس بھیج دیا اور وہاں آپ وفات پا گئے آپ کی پیدائش ۵۱۰ھ میں ہوئی تھی۔ اور ابن طبرزانی آپ کے ساتھ تھا اور اس کی وفات آپ سے بیچھے ۶۰۷ھ میں ہوئی ہے۔

عبدالرحمن بن عیسیٰ:

ابن ابی الحسن المروری بغداد کا واعظ آپ نے ابن ابی الوقت وغیرہ سے سماع کیا اور ابن الجوزی کے ساتھ وعظ میں مصروف ہو گئے۔ پھر نفس نے آپ کو ان کی مشابہت کی بات سو جھائی، تو آپ کا نفس متکبر ہو گیا، اور باب النصیرہ کے باشندوں میں سے ایک پارٹی نے آپ پر اتفاق کیا۔ پھر آپ نے آخری عمر میں ۷۰ سال کے قریب نکاح کیا اور ایک سردن میں غسل کیا تو آپ کا آلہ تناسل پھول گیا۔ اور اس سال میں آپ وفات پا گئے۔

امیر زین الدین قریب الصلاحي:

حاکم صرخد آپ کا گھریاب الصغیر کے پاس نہر زلاق کے قریب تھا، اور آپ کی قبر دامن کوہ میں شاہراہ ابن تمیرک کی قبر کے نزدیک ایک گنبد میں ہے، اور عادل نے اس کے بیٹے یعقوب کو صرخد پر امیر مقرر کیا۔

عبدالعزیز طیب:

آپ نے اچانک وفات پائی، آپ طیب سعد الدین اشرفی کے والد ہیں اور آپ کے متعلق ابن عینین کہتا ہے۔

”میں فرار کر گیا ہوں، اور خطیب کے پیچھے کوئی جماعت نہیں اور موت آگئی ہے۔ اور عبدالعزیز طیب نہیں ہے۔“

العقیف بن الدرجمی:

جامع بنی امیہ میں غریب حجرہ حنفیہ کے امام جنہوں نے اس سال وفات پائی۔

ابو محمد جعفر بن محمد:

ابن محمود بن ہبہ اللہ بن احمد بن یوسف ارملی، آپ علوم کثیرہ، یعنی فقہ شافعی حساب، فرائض، ہندسہ، ادب، نحو اور قرآن کریم سے متعلق علوم وغیرہ کے فاضل تھے اور آپ کے یہ اشعار بھی ہیں۔

”قضا و قدر کے حکم کو آدمی رد نہیں کر سکتا۔ اور جب تو مصائب میں غور و فکر کرے گا تو تجھے عبرت حاصل ہوگی۔ اور جب قضا و قدر نازل ہو تو رائے و انائی، خوف اور احتیاط اس سے نجات نہیں دلا سکتی، پس تو سب باتوں میں صبر کر اور کسی چیز کے لیے گھبراہٹ کا اظہار نہ کر، تیرے صبر کا انجام کامیابی ہے۔ ہمیں کتنی تنگیاں آئی ہیں، اور اللہ نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے ہمیں آسائش دی ہے، اور اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس نہیں ہوتا، اور اس سے صرف کافر گروہ ہی مایوس ہوتا ہے۔ اور مجھے علم ہے کہ زمانہ گردشوں والا ہے، اور اس کے دو دن ہیں، ایک امن والا اور دوسرا خطرے والا۔“

۶۰۵ھ

اس سال کے محرم میں بغداد میں اس مہمان خانے کی تعمیر مکمل ہو گئی جسے ناصر الدین اللہ نے اس کی غربی جانب حجاج اور مسافروں کے لیے بنایا تھا جب تک وہ وہاں فروش رہیں گے ان کی ضیافت ہوتی رہے گی۔ اور جب ان میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرتا تو اسے زاد دیا جاتا اور اس کے بعد اسے دینا ردیا جاتا جزاہ اللہ خیراً۔

اور اس سال ابو الخطاب ابن دجیہ کلبی اپنے عراقی سفر سے واپسی پر شام سے گزرا، تو صفی وزیر کی مجلس میں آپ کی شیخ اللغۃ والحديث شیخ تاج الدین ابوالیسین کندی کی ملاقات ہوئی تو ابن دجیہ نے اپنی گفتگو کی حدیث شفاعت کو پیش کیا، حتیٰ کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ”انما کنت خلیلاً من وراء وراء“ تک پہنچے، دونوں لفظوں کی زبر کے ساتھ کندی نے من وراء وراء دونوں لفظوں کو پیش کے ساتھ کہا تو ابن دجیہ نے وزیر ابن شکر سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا ابوالیسین کندی، تو ابن دجیہ نے اسے دشنام دی اور آپ جری آدمی تھے کندی نے کہا یہ کلب قبیلے سے ہے اور کتبے کی طرح بھونکتا ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں زیر بھی بیان ہوئی ہے۔ اور اس سال خطیب فخر الدین ابن تیمیہ حران سے حج کر کے بغداد واپس آیا اور باب بدر میں محی الدین یوسف بن الجوزی کی جگہ وعظ کے لیے بیٹھا اور آپ نے اپنی گفتگو میں کہا۔

”جب ابن لبون کورسی سے باندھ دیا جائے تو وہ پہاڑی بکرے کی طرح حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آپ نے ابن الجوزی یوسف پر تعریض کی ہے کیونکہ وہ ۲۵ سالہ نوجوان تھا۔ واللہ اعلم۔“

اور ۹ محرم بروز جمعہ ایک فرنگی غلام نشہ کی حالت میں ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار لیے جامع دمشق کے حجرے کے دروازے سے داخل ہوا اور لوگ بیٹھ کر نماز فجر کا انتظار کر رہے تھے اس نے تلوار سے لوگوں پر حملہ کر دیا اور دو تین آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اور اس نے منبر پر اپنی تلوار ماری تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور اسے پکڑ کر شفا خانے میں رکھا گیا اور اسی روز اسے اللہ بادین کے پل پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔

اور اس سال شیخ شہاب الدین سہوردی، ملک عادل کے تحائف کے ساتھ دمشق سے واپس لوٹے، تو فوج نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے پاس بہت سے اموال تھے اور اس سے پہلے آپ محتاج اور درویش تھے آپ جب واپس آئے تو آپ کو وعظ کرنے سے روک دیا گیا۔ اور آپ سے آپ کی خاتقاہ بھی لی گئی اور جو اموال آپ کے پاس تھے آپ کو انہی کے سپرد کر دیا گیا۔ پس آپ ان اموال کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے لگے اور بہت سے لوگ اس سے فنی ہو گئے۔ اور محی الدین ابن الجوزی نے اپنے وعظ کی مجلس میں کہا اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں جو ناحق مال لے کر انہیں مستحقین میں خرچ کرتا ہے اور اگر وہ انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیتا تو ان کا چھوڑ دینا ان کے لینے سے زیادہ مناسب ہوتا اور اس نے ان کے خرچ کرنے سے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہا ہے۔ اور وہ ان کو لے کر خرچ کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے گا۔ پس بندے کو دنیا سے محتاط رہنا چاہیے یہ

دھوکہ باز اور فریب کار ہے جو بڑے بڑے علماء اور عبادت گزاروں کو غلام بنا لیتی ہے۔

اور ہردی نے ابن الجوزی پر جو سب لگانے تھے ابن الجوزی نے بعد ازاں اس پر اس سے بھی بڑھ کر سب لگے۔ اس سال فرنگیوں نے حمص کا قصد کیا اور پل کو پار کر آئے۔ اور جب فوجوں نے انہیں پہچانا تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہ ڈر کر ان سے بھاگ گئے اور انہوں نے ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اور مسلمانوں نے ان سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔

اور اس سال جزیرہ کا حمران قتل ہو گیا اور یہ بڑا بد باطن اور بد سیرت تھا۔ اور وہ ملک سمر شاہ بن غازی بن مودود بن زنگی بن آقسقر اتا کی تھا جو حاکم موصل نور الدین کا عم زاد تھا۔ اور اس کے بیٹے غازی نے اسے قتل کیا تھا اس نے اس تک پہنچنے کا حیلہ کیا حتیٰ کہ اس تک پہنچ گیا اور وہ بیت الخلاء میں مدہوش پڑا تھا تو اس نے چھری کے ساتھ اسے چودہ ضربیں لگائیں پھر اسے قتل کر دیا۔ اور اس نے یہ سب کچھ اس کے بعد حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے محروم کر دیا۔ اور اس کے بھائی محمود کی بطور بادشاہ بیعت ہوئی اور اس نے قاتل غازی کو پکڑ کر اسی روز قتل کر دیا۔ سو اللہ نے اس سے بادشاہت اور زندگی بھی سلب کر لی لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے باپ کے ظلم و غضب اور فسق سے راحت دی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابوالفتح محمد بن احمد بن مختار:

ابن علی واسطی جو ابن السنای کے نام سے مشہور ہیں آپ احمد بن الحسین سے سند کو روایت کرنے والے آخری شخص ہیں۔ آپ فقیہ قاضی اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ثقہ عادل اور نقل میں متورع شخص تھے اور آپ نے اپنی یادداشت سے یہ اشعار سنائے۔

اور اگر مطلع آفتاب لیلیٰ سے ورے ہوتا اور جب وہ غروب ہو جاتا تو یہ آفتاب کے پیچھے ہوتی تو میں اپنے دل کو اس کی بخشش کے انتظار کی بات کہتا اور امید نے مجھے کہا کہ وہ قریب ہی ہے۔

مصر کا قاضی القضاة:

صدر الدین عبدالملک بن درباس الماردانی الکردی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۶۰۶ھ

شیخ الحنفیہ نجم الدین خلیل محرم میں عادل کے ایلچیوں کے ساتھ دمشق سے بغداد آیا اور اس کے پاس بہت سے تحائف بھی تھے۔ اور اس نے اور شیخ النظامیہ مجد الدین یحییٰ بن الربیع نے یتیم اور مجنون کے مال میں وجوب زکوٰۃ کے بارے میں مناظرہ کیا۔ اور حنفی اس کے عدم وجوب پر استدلال کرنے لگا تو شافعی نے اس پر اعتراض کیا۔ اور دونوں میں سے ہر ایک نے بہت اچھا بیان دیا پھر حنفی اور اس کے اصحاب کو پیغامبری کے باعث خلعت دیئے گئے۔ اور مناظرہ نائب وزیر ابن شکر کی موجودگی میں ہوا۔ اور

جمادی الاولیٰ کو بفتہ کے روز دمشق کے رئیس الشافعیہ جمال یونس بن مہران مصری عادل کے اہلپویوں کے ساتھ بغداد پہنچے اور فوج نے سب الحجاب کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ساتھ حکمراں بلنظر الدین کوٹری پہنچے تھے۔ اور یہاں سے عاکم اربل کے نائب سے معذرت پر مشتمل تھا اور اس کی رسنا مندی کے بارے میں سوال تھا تو اسے اس کا جواب دیا گیا۔ اور اس سال عادل نے خابور اور ہسینین پر قبضہ کر لیا اور مدت تک سنجا شہر کا محاصرہ کیے رکھا مگر اسے فتح نہ کر سکا پھر اس کے حکمراں نے صلح کر لی اور یہاں سے چھوڑ کر واپس آ گیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابوالکارم اسد بن الخظیر ابی سعید مہذب بن مینا بن زکریا الاسعد بن مہدی بن ابی قدامہ ابن ابی ملیح مصری، کاتب اور شاعر اس نے حکومت صلیبیہ میں اسلام قبول کیا اور مدت تک مصر میں کچھ یوں کا نگران رہا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بہت سے فضائل اور متعدد تصانیف ہیں اور آپ نے سیرت صلاح الدین اور کلیلہ دمنہ کو مرتب کیا ہے۔ اور آپ کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے اور جب ابن شکر وزیر بنا تو آپ اس کے خوف سے حلب بھاگ گئے اور وہیں ۶۲ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اور ثقیل کے بارے میں آپ کے اشعار ہیں جس نے دمشق میں آپ سے ملاقات کی تھی اس نے دو دریاؤں کی حکایت بیان کی۔ اور زمین میں کوئی شخص موجود نہیں جو کبھی ان کے متعلق بیان کر سکے۔ اس نے بیان کیا کہ اس کی پیدائش میں جوش ہے اور اس کے اخلاق میں ٹھنڈک ہے۔

ابو یعقوب یوسف بن اسماعیل:

ابن عبدالرحمن بن عبدالسلام اللمعانی، آپ بغداد کے احناف کے ایک سردار ہیں آپ نے حدیث کا سماع کیا اور جامع سلطان میں پڑھا، آپ اصول میں معتزلی تھے اور فروع میں ماہر تھے آپ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ مصروف رہے اور خلافت اور علم مناظرہ میں پختگی حاصل کی اور نوے سال کے قریب عمر پائی۔

ابو عبداللہ محمد بن الحسن:

جو ابن الخراسانی کے نام سے مشہور ہیں اور کتابوں کو نقل کرنے والے محدث ہیں آپ نے بہت سی احادیث لکھی ہیں۔ اور آپ نے اپنے اور دوسروں کے خطبات کو جمع کیا ہے آپ کا خط اچھا اور مشہور ہے۔

ابوالمواہب معشوق بن منیع:

ابن مواہب الخظیب، آپ نے نحو اور لغت ابن الخطاب سے حاصل کی اور آپ نے خطبات کو جمع کیا جن سے آپ خطبہ دیتے تھے اور آپ ایک فاضل شیخ تھے۔ اور آپ کا ایک اشعار کا دیوان بھی ہے آپ کا شعر ہے۔

”دشمن سے دوستی کی امید نہ رکھ جو خفیہ اور اعلانیہ اپنے سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اگر انتفاع کے لیے اس کی محبت نئی ہو

جائے تو اس کا نفع اس کے پاس اجر بن کر آئے گا۔“

ابن حروف:

شارح بیویہ سی بن محمد بن یوسف ابوالحسن ابن حروف اندلی نحوی آپ نے سیویہ کی شہس کر کے استامغرب کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے آپ کو ایک ہزار دینار دیئے۔ اور آپ نے جمل الزجائی کی بھی شہس کی ہے۔ آپ شہروں میں پھرتے رہتے تھے اور صرف سراؤں میں ٹھہرتے تھے۔ آپ نے نہ نکاح کیا ہے اور نہ لونڈی رکھی ہے اس لیے بیماروں کی فطرت پر غالب آجاتی ہے آخری عمر میں آپ کی عقل خراب ہوگئی اور آپ بازاروں میں ننگے سر پھرتے تھے آپ نے ۸۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔

ابوعلیٰ یحییٰ بن الربیع:

ابن سلیمان بن حرار الواسطی القنادی آپ نے نظامیہ میں فضلان سے اشتغال کیا اور اس سے دہرائی کی اور محمد بن یحییٰ کی طرف سفر کیا اور اس سے خلافت میں اس کا طریقہ سیکھا پھر بغداد واپس آ کر نظامیہ میں مدرس اور اس کے اوقات کے نگران بن گئے اور آپ نے حدیث کا سماع کیا۔ اور آپ کے پاس بہت سے علوم تھے۔ نیز مذہب کے بارے میں آپ کو اچھی واقفیت تھی آپ کی تفسیر چار جلدوں میں ہے آپ اس سے درس دیا کرتے تھے آپ نے تاریخ الخطیب اور اس پر ابن السمعانی نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کا اختصار کیا ہے آپ نے تقریباً ۸۰ سال عمر پائی۔

ابن اشیر مؤلف جامع الاصول اور النہایہ:

البارک بن محمد بن محمد بن عبدالمکریم بن عبدالواحد مجد الدین ابوالسعادات شیبانی جزری شافعی جو ابن اشیر کے نام سے مشہور ہیں اور آپ افضل کے وزیر ضیاء الدین نصر اللہ کے بھائی ہیں اور اکامل فی التاریخ کے مؤلف حافظ عز الدین ابوالحسن کے بھائی ہیں یہ ابوالسعادات ۵۴۴ھ کے ایک ربیع میں پیدا ہوئے اور حدیث کا بہت سماع کیا اور قرآن پڑھا اور اس کے علوم کو پختہ کیا اور انہیں لکھا آپ کا قیام موصل میں تھا اور آپ نے بقیہ علوم کی بھی مفید کتابوں کو جمع کیا جن میں جامع الاصول الستہ المؤمنین صحیحین سنن ابی داؤد نسائی اور ترمذی شامل ہیں اور آپ نے اس میں ابن ماجہ کا ذکر نہیں کیا اور غریب احادیث کے بارے میں آپ کی ایک کتاب النہایہ ہے اور آپ کی مسند الشافعی کی شرح اور تفسیر کی چار مجلدات بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف فنون میں بھی کتابیں ہیں اور ملوک کے ہاں بڑے معظم تھے۔ اور جب نور الدین ارسلان شاہ کو حکومت ملی تو اس نے اپنے غلام لولو کو آپ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کو وزیر بنا نا چاہتا ہے مگر آپ نے انکار کر دیا تو خود سلطان آپ کے پاس آیا مگر پھر بھی آپ نے انکار کیا اور آپ نے اسے کہا میں عمر سیدہ ہو گیا ہوں اور علم کے پھیلانے میں مشہور ہو چکا ہوں مگر اس کام میں کچھ ظلم و جور کرنا پڑتا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں تو سلطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔

ابوالسعادات نے بیان کیا ہے کہ میں علم عربیہ کو سعید بن الدھان کو سنایا کرتا تھا۔ اور وہ مجھے شعر بنانے کا حکم دیتا تھا اور میں شعر نہیں بنا سکتا تھا۔ اور جب شیخ فوت ہو گیا تو میں نے ایک شب آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مجھے شعر بنانے کا حکم دیا۔ میں نے آپ سے کہا مجھے کوئی مثال دیجئے تاکہ میں اس کے مطابق شعر بناؤں آپ نے کہا۔

”اگر تجھے کامیابی نہ ہو تو بلند یوں سے ہمیشہ محبت رکھ..... میں نے کہا اور زمین کے لڑھے کو کھود جب رات تاریک ہو جائے اور رات کام نرگوزوں کی پشت پر ہے اور بزرگی شب رونی اور بیداری سے پیدا ہوتی ہے۔“

آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا شعر کہا ہے پھر میں بیدار ہو گیا اور میں نے اس پر تقریباً بیس شعر بنائے آپ کی وفات ذوالحجہ کے آخر میں ۶۲ برس کی عمر میں ہوئی اور آپ کے بھائی نے الذیل میں آپ کے حالات بیان لیے ہیں آپ متعدد علوم کے عالم تھے یعنی فقہ، علم الاصول، نحو، حدیث اور لغت کے اور تفسیر، حدیث، فقہ، حساب اور حدیث کے غریب الفاظ کے بارے میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ اور آپ کے مدون رسائل بھی ہیں اور آپ مطلق آدمی تھے اور مضبوط دین آدمی کے لیے آپ کی مثال بیان کی جاتی ہے آپ صراط مستقیم کے پابند رہے رحمہ اللہ آپ زمانے کی ایک اچھائی تھے۔

المجلد المطرزى النخوى الخوارزمي:

ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس سال المجلد المطرزى النخوى الخوارزمي نے وفات پائی ہے آپ امام نحو تھے۔ اور علم نحو میں آپ کی تصانیف بہت عمدہ ہیں۔

الملک المغیث:

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال الملک المغیث فتح الدین عمر بن الملک العادل نے وفات پائی اور اسے قاسیون کے دامن کوہ میں اس کے بھائی معظم کی قبر میں دفن کیا گیا۔

مسعود بن صلاح الدین:

الملک المؤید مسعود بن صلاح الدین کو مدرسہ راس العین میں دفن کیا گیا اور وہاں سے حلب لا کر دفن کیا گیا۔

امام فخر الدین رازی:

اس سال فخر الدین رازی متکلم صاحب التیسیر والتصنیف نے وفات پائی، آپ ابن خطیب الری کے نام سے مشہور ہیں اور آپ کا نام محمد بن عمر بن الحسین ابن علی القرشی التیمی البکری ابوالمعالی اور عبد اللہ ہے اور آپ فخر رازی کے نام سے مشہور ہیں آپ کو ابن خطیب الری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان فقہائے شافعیہ میں سے ایک ہیں جو چھوٹی بڑی تصانیف کے باعث مشہور ہیں۔ آپ کی تقریباً دو سو تصانیف ہیں جن میں التفسیر الحافل، المطالب العالیہ، المباحث الشرقیہ، الربعین، اصول الفقہ اور الحصول وغیرہ شامل ہیں۔ اور آپ نے ایک مفید جلد میں حضرت امام شافعی کے حالات لکھے ہیں اور اس میں ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کی طرف عجیب باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ اور میں نے طبقات الشافعیہ میں آپ کے حالات لکھے ہیں اور آپ ملوک خوارزم وغیرہ کے ہاں معظم تھے۔ اور مختلف شہروں میں آپ کے مدارس بنائے گئے ہیں اور آپ ۸۰ ہزار دینار کے عمدہ سونے کے مالک تھے اور اس کے علاوہ آپ ساز و سامان، سوار یوں، اثاث البیت اور لمبوسات کے بھی مالک تھے۔ آپ کے پاس پچاس ترکی غلام تھے اور آپ کی مجلس وعظ میں بادشاہ و نداء علماء، امراء، فقراء اور عوام شامل ہوتے تھے۔ اور آپ عبادات و اوراد بھی پڑھتے تھے۔ اور آپ کے اور کرامیہ کے درمیان ایک وقت سب دشمن ہوا۔ اور آپ ان سے اور وہ آپ سے نفرت کرتے تھے۔ اور وہ آپ

کی شان کو گرانے میں مبالغہ کرتے ہیں اور آپ بھی ان کی مذمت میں مبالغہ کرتے ہیں۔ اور قبل ازیں ہم اس میں کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ نے کلام میں بشارت تم رکھنے کے باوجود فرماتے ہیں جو دین العجا ز کا پابند رہے گا وہیں کامیاب ہوگا اور میں نے آپ کی وفات کے موقع پر آپ کی وصیت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے متکلمین کے مذہب کو چھوڑ کر سلف کا طریق اختیار کر لیا تھا اور جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے وہ بات مراد لی ہے جو اللہ جل جلالہ کی شان کے لائق ہے۔

اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے الذیل میں آپ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ آپ وعظ کرتے تھے اور کرامیہ کو سب و شتم کرتے تھے اور وہ بھی آپ کو سب و شتم کرتے تھے اور کبار کے باعث آپ کی تکفیر کرتے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی موت پر خوشی منائی اور وہ غلاموں وغیرہ کے ساتھ آپ پر معاصی کے ارتکاب کی تہمت لگاتے ہیں۔

راوی کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ذوالحجہ میں ہوئی اور آپ کی فضیلت میں کوئی کلام نہیں اور نہ ہی ان کاموں میں جو آپ کیا کرتے تھے آپ سلطان کی مصاحبت کرتے تھے اور دنیا سے محبت کرتے تھے اور اس میں بڑی وسعت چاہتے تھے اور یہ علماء کی صفت نہیں ہے۔ اس قسم کی باتوں کی وجہ سے آپ کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے اور ان کلمات کی وجہ سے آپ کی بہت برائی ہوئی ہے جو آپ بیان کیا کرتے تھے کہ..... محمد البادی نے بیان کیا ہے یعنی..... عربی نے اور اس سے آپ کی مراد حضور نبی کریم ﷺ ہوتے تھے اور بادیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ ایسا کہتے تھے اور محمد الرازی نے بیان کیا ہے اس سے مراد آپ کی اپنی ذات ہوتی تھی۔ اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ مد مقابل کی جانب سے شبہ کو بہت سی عبارات میں بیان کرتے تھے اور ادنیٰ اشارہ سے اس کا جواب دیتے تھے۔

راوی کا بیان ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے موبیشیوں، کپڑوں، جاگیروں اور آلات کے علاوہ ایک ہزار دینار کا عمدہ سونا چھوڑا ہے اور آپ نے اپنے پیچھے دو لڑکے بھی چھوڑے ہیں جن میں سے ہر ایک نے چالیس ہزار دینار لیے۔ اور آپ کا بڑا بیٹا سیاہی بن گیا اور اس نے سلطان محمد بن تکتش کی خدمت کی۔

ابن اثیر نے الکامل میں بیان کیا ہے کہ اس سال فخر الدین رازی محمد بن عمر بن خطیب الرمی، شافعی فقیہ اور اصول کے بارے میں مشہور تصانیف کے مولف نے وفات پائی۔ آپ اپنے زمانے میں امام الدین تھے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۴۳ھ میں ہوئی ہے۔ آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اے مخلوق کے معبود میرا چہرہ اور میری توجہ تیری طرف ہے اور تو ہی ہے جس سے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دعائیں کرتا ہوں۔ اور ہر مصیبت کے وقت تو میرا مددگار رہے اور میری زندگی اور میری قبر میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔“

ابن الساعی نے یاقوت حموی سے بحوالہ ابن فخر الدین رازی آپ سے بیان کیا ہے کہ:

”مخلوق کے لیے ابواب سعادت کا تہہ خدائے واحد کا ذکر کرنا ہے وہ تمام ممکنات کا مدبر ہے۔ اور انہیں عدل و اعتدال اور صدق کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی عظمت مخلوق کی مشابہت سے بہت بڑی ہے۔ اور میں ہی مشرق و مغرب میں اس دین کی مدد کرتا ہوں وہ معبود بڑے فضل و عدل اور بلندی والا ہے اور وہ گمراہ کی راہنمائی کرنے والا اور بد بخت

کو سعادت مند بنانے والا ہے۔“

اور آپ یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔

”ہماری ارواح ہمارے اجسام میں خوفزدہ ہیں اور ہماری دنیا کا حاصل تکلیف اور وبال ہے۔ اور ہم نے اپنی ماری عمر کی بحث سے صرف یہی حاصل کیا ہے کہ اس میں کچھ قیل وقال کو جمع کر لیا ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا..... میں نے طریق کلامیہ اور مناہج فلسفیہ کا جائزہ لیا ہے اور میں نے انہیں پیاسے کو سیراب کرتے اور بیمار کو شفا دیتے نہیں پایا۔ اور میں نے سب سے آسان طریق قرآن کے طریق کو پایا ہے میں اثبات میں (الرحمن علی العرش استوی) اور (الیہ یصعد الکلم الطیب) پڑھتا ہوں اور نفی میں (لیس کمثلہ شیء) اور (هل تعلم له سمیا) پڑھتا ہوں۔

۶۰۷ھ

شیخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال جزیرہ کے ملوک، شاہ موصل، شاہ سنجا، شاہ اربل، شاہ حلب، الظاہر اور شاہ روم نے عادل کی مخالفت کرنے اور اس سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے اور اس کے ہاتھ سے حکومت چھیننے کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کی اور یہ کہ شاہ روم کنجر بن قلیج ارسلان کا خطبہ ہو اور انہوں نے الکرچ کو پیغام بھیجا کہ وہ حصار خلاط کے لیے آئیں۔

اور اس سال ملک اوحد بن عادل نے بھی اس کے خلاف مدد دینے کا وعدہ کیا۔ میں کہتا ہوں یہ سرکشی اور ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اور الکرچ اپنے بادشاہ ایوانی کے ساتھ آئے اور انہوں نے خلاط کا محاصرہ کر لیا۔ اور اوحد نے ان کا دل تنگ کر دیا اور کہنے لگا، یہ سخت دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے ۱۹ ربیع الآخر کو سوموار کے روز انہوں نے شہر کا سخت محاصرہ کر لیا اور ان کا بادشاہ ایوانی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور وہ مدہوش تھا اس کے گھوڑے نے اسے ایک گڑھے میں ڈال دیا جو شہر کے ارد گرد جنگلی حکمت عملی کے ماتحت تیار کیا گیا تھا۔ اور شہر کے لوگوں نے جلدی سے جا کر اسے پکڑ کر حقیر قیدی بنا دیا اور وہ الکرچ کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ اور جب اسے اوحد کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اسے رہا کر دیا اور اس پر حسان کیا اور اس سے حسن سلوک کیا۔ اور اسے دو لاکھ دینار اور دو ہزار مسلمان قیدیوں اور اوحد کے علاقے سے ملحقہ ۲۱ قلعوں کے دینے کے بدلے میں رہا کر دیا۔ اور یہ کہ وہ اپنی بیٹی کا اس کے بھائی اشرف موسیٰ سے نکاح کر دے۔ نیز وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے مقابلہ میں اس کا مددگار ہو اس نے اس کی یہ سب باتیں قبول کر لیں اور اس نے اس کے متعلق اس سے قسمیں لیں اور اوحد نے اپنے باپ کی طرف ان سب باتوں کے بارے میں اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا اور اس کا باپ حراب کے باہر اس قبیح امر کی وجہ سے جس سے اچانک اسے پالا پڑا تھا غضبناک حالت میں اترا ہوا تھا۔

اسی حالت کے دوران ان کی قوت و طاقت سے نہیں اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خیال تھا بلکہ خدائے حکیم کی طرف سے اسے یہ عظیم خبر ملی۔ قریب تھا کہ وہ خوشی و مسرت کی شدت سے غافل ہو جاتا۔ پھر جو اس کے بیٹے نے شرائط مقرر کی تھیں اس نے ان سب کی اجازت دے دی۔ اور بادشاہوں کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی خبریں مشہور ہو گئیں اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے اور ان میں

سے ہر ایک نے اپنی طرف منسوب کردہ بات پر معذرت بھیجی اور وہ اسے ایک دوسرے کی طرف منسوب کرنے لگے اس نے ان کے اعتراضات کو قبول کیا اور ان سے پختہ صلح کی اور بادشاہ نے عصر جدید کا استقبال کیا۔ اور اس کے بادشاہ نے اوصد کی تمام شرط کو پورا کیا اور اشرف نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اور اس واقعہ میں ابو شامہ نے جو عجیب و غریب بات بیان کی ہے وہ یہ کہ بادشاہ کا پادری نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اس روز سے ایک دن پہلے کہا یا درکنہ کل تم عصر کی اذان کے وقت قلعہ نلاط میں داخل ہو گے لیکن کسی اور لباس میں اور اتفاق سے عصر کی اذان کے وقت وہ قلعہ میں قیدی ہو کر داخل ہو گیا۔

شاہ موصل نور الدین کی وفات کا بیان:

ملک نور الدین شاہ بن عز الدین مسعود بن قطب الدین مودود بن زنگی شاہ موصل نے سلطان ملک عادل کی بیٹی کو پیغام نکاح دینے کے لیے آدمی بھیجا اور اس نے اپنے وکیل کو تیس ہزار دینار پر قبول عقد کے لیے بھیجا۔ اتفاق سے نور الدین کی وفات ہو گئی اور اس کا وکیل راستے ہی میں تھا۔ پس اس نے اس کی وفات کے بعد عقد کیا۔

اور ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اور اس کی تیز فہمی اور عدل کی بھی تعریف کی ہے اور آپ دوسروں کی نسبت اسے بہتر جانتے ہیں اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کی مدت حکومت ۷۷ سال گیارہ ماہ ہے۔ اور ابوالمظفر السبط کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ وہ سرکش، ظالم، بخیل اور خونریز تھا، اللہ ہی اسے بہتر جانتا ہے اور اس کے بیٹے القاہر عز الدین مسعود نے حکومت سنبھالی اور اس نے اپنی مملکت کا انتظام اپنے غلام بدر الدین لؤلؤ کے سپرد کر دیا جسے بعد ازاں حکومت مل گئی۔

ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ ۷۷ شوال کو اس نے عید گاہ کی تعمیر شروع کی اور اس کی چار بلند دیواریں بنائیں اور خوراک لانے والوں اور قاتلوں کی آمد سے اس کے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے چار دروازے بنائے اور اس کے قبلہ میں پتھروں سے ایک محراب اور منبر بنایا اور اس کے اوپر ایک گنبد بنایا پھر ۶۱۳ھ میں اس کے قبلہ میں دو دروازے بنائے۔ اور ایک چوٹی منبر بنایا اور اس کے لیے ایک خطیب اور ایک امام تنخواہ پر رکھے اور عادل فوت ہو گیا اور وہ دوسرا برآمدہ مکمل نہ کر سکا۔

یہ سارا کام وزیر صفی ابن شکر کے ہاتھوں ہوا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سال ۲ شوال کو باب البرید کی جانب سے جامع اموی کے دروازوں کو از سر نو زرد تانبے سے بنایا گیا۔ اور اسی طرح شوال میں اس نے فوارے، تالاب اور راستوں کو درست کرنا شروع کرایا۔ اور اس کے نزدیک ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے لیے تنخواہ دار امام مقرر کیا اور سب سے پہلے جس نے امامت سنبھالی اسے نفیس مسعری کہا جاتا تھا۔ اور اس کے خوش آواز ہونے کی وجہ سے اسے مسجد کا بگل کہا جاتا تھا۔

اور جب وہ شیخ ابو منصور چوڑے سینے والے نایاب کو ستا تا تو بہت سے لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ اور اس سال ذوالحجہ میں سواریاں عکاسے سمندر کی طرف دمیاط کی سرحد تک گئیں اور اس سال قبرص پر الپان نے قبضہ کر لیا اور اس نے رات کو سرحد میں داخل ہو کر بعض شہروں پر غارت گری کی اور قتل عام کیا اور قیدی بنائے اور واپس لوٹ آیا اور اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو گیا اور اسے تلاش کرنے والے نہ پاسکے۔ اور اس سے قبل اس کے اس قسم کے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ اور اس بات کا اتفاق کسی دوسرے کو نہیں ہوا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔

۶۰۷ھ کے حالات و واقعات کے بیان میں

اور اس سال فرنگیوں نے قدس کے نواح میں فساد اور خرابی کی، اور ملک معظم ان کے مقابلہ میں نکلا۔ اور شیخ شمس الدین ابوالمظفر ابن قرعلی اٹھنی جو ابن جوزی کا نواسہ اور اس کی بیٹی رابعہ کا بیٹا ہے بیٹھا اور یہی مرآة الزمان کا مؤلف ہے۔ اور یہ بہت سے علوم کا فاضل تھا۔ بڑا خوبصورت اور خوش آواز تھا وہ بہت اچھا واعظ کرتا تھا۔ اور اس کے دادا کی شہرت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور وہ بغداد سے کوچ کر کے دمشق اترا اور وہاں کے ملوک نے اس کی عزت کی اور اس نے وہاں تدریس کا کام سنبھال لیا۔ اور وہ ہر ہفتہ کے دن علی بن حسین زین العابدین کی زیارت گاہ کے دروازے کے نزدیک اس ستون کے پاس بیٹھتا تھا جس کے پاس ہمارے اس زمانے کے واعظ بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے پاس بہت اکٹھ ہو جاتا تھا حتیٰ کہ وہ باب الناطفین سے لے کر باب المشہد سے باب الساعات تک ہوتا تھا۔ اور یہ کھڑے ہونے والوں کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے اکٹھ کا تخمینہ لگایا تو وہ تیس ہزار مردوزن تھے۔ اور ہفتے کی رات لوگ مسجد میں بسر کرتے تھے اور باغات کو چھوڑ دیتے تھے اور وہ ختم و اذکار پڑھتے رات گزارتے تھے تاکہ بھیر کی شدت سے انہیں جگمل جائے۔ اور جب وہ اپنے وعظ سے فارغ ہو جاتا تو وہ اپنی جگہوں کی طرف چلے جاتے اور وہ سب صرف وہی بات کرتے جو اس نے اس دن کی ہوتی۔ اور وہ کہتے کہ شیخ نے بیان کیا اور ہم نے شیخ سے سنا اور وہ انہیں اعمال صالحہ کے بجالانے اور برائیوں سے رکنے کی ترغیب دیتا اور اکابر بھی اس کے پاس آتے حتیٰ کہ شیخ تاج الدین ابوالسین کندی بھی آتا۔ اور وہ اور والی شہر معتمد اور والی البراہن نمیرک وغیرہ اس گنبد میں بیٹھے تھے جو باب المشہد کے پاس ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جب وہ ۵ ربيع الاول کو ہفتہ کے روز بیٹھا تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اور اس نے تائبین کے بالوں کو لانے کا حکم دیا اور اس نے ان سے آدمیوں کو اٹھانے کے لیے بندھن بنائے۔ اور جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے یکبارگی شور مچا دیا اور بہت روئے اور انہوں نے اپنے بالوں کو ان کی مانند کاٹا اور جب مجلس ختم ہو گئی اور وہ منبر سے اترا تو والی مبارز الدین معتمد بن ابراہیم نے اس کا استقبال کیا اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا اور وہ اس کے آگے آگے باب الناطفین تک اس کی مدد کرتے ہوئے چلا حتیٰ کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لوگ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو گئے اور وہ باب الفرج سے باہر نکلا اور اس نے عید گاہ میں رات بسر کی پھر کل کو لوگوں کے ساتھ الکوہ تک گیا اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جو جہاد کی نیت سے بلاد القدس کو گئے۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں تین سوزمکا کی جانب سے پورے ساز و سامان کے ساتھ تھے۔

راوی بیان کرتا ہے ہم انیس کی گھاٹی پر آئے تو پرندے فرنگیوں کے خوف سے پرواز کی جسارت نہ کرتے تھے۔ اور جب ہم نابلس پہنچے تو معظم ہمیں ملا۔ راوی کا بیان ہے میں نے اس سے قبل اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اور جب اس نے تائبین کے بالوں کے بندھنوں کو دیکھا تو انہیں چومنے لگا۔ اور انہیں اپنی آنکھوں اور چہرے پر ملنے لگا اور رونے لگا۔ اور ابوالمظفر نے نابلس میں ایک وقت مقرر کیا اور جہاد کی ترغیب دی اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر وہ اور اس کے ساتھی چل پڑے۔ اور معظم نے بھی فرنگیوں کی طرف جانے میں اس کی مصاحبت کی اور انہوں نے بہت لوگوں کو قتل کیا اور بہت سی جگہوں کو ویران کیا اور غنیمت حاصل کی اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اور معظم جبل طور کے مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اور اس نے اس میں ایک قلعہ تعمیر کیا تاکہ وہ فرنگیوں کے خلاف

متحد ہونے کی جگہ بنے اور اس نے اس میں بہت اموال ضائع کیے۔ اور فرنگیوں کے عادل کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سے امان اور مصالحت کے طلب کار ہیں تو اس نے ان سے صلح کرنی اور یہ عمارت بیکار ہوئی اور زحمت نے جو کچھ اس پر مشقت اٹھائی تھی وہ سب ضائع ہوئی۔ واللہ اعلم
شیخ ابو عمر:

قاسیون کے دامن کوہ میں قرآن پڑھنے والے فقراء کے مدرسہ کا بانی، محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ، شیخ صالح ابو عمر المقدسی، اس مدرسہ کا بانی جو دامن کوہ میں ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ شیخ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ کا بھائی ہے اور ابو عمر اس سے بڑی عمر کا تھا کیونکہ اس کی پیدائش ۵۲۸ھ میں السادیا بستی میں ہوئی اور بعض نے جماعیل بستی بیان کیا ہے۔ اور شیخ ابو عمر نے شیخ موفق الدین کی پرورش کی اور اس سے حسن سلوک کیا اور اس کا کناح کیا اور وہ اس کے مصالحوں کا ذمہ دار تھا۔ اور جب یہ ارض مقدسہ سے آئے تو مشرقی دروازے کے باہر ابو صالح کی مسجد میں اترے پھر وہاں سے دامن کوہ میں آگئے۔ اور دریا الحورانی کے سوا وہاں کوئی عمارت نہ تھی۔

راوی بیان کرتا ہے ہمیں ابو صالح کی مسجد کی نسبت سے صالحین کہا جانے لگا، نہ یہ کہ ہم صالح تھے۔ اور اس وقت سے ہماری نسبت کی وجہ سے اس خطہ کو صالحیہ کا نام دیا گیا ہے۔ پس شیخ ابو عمر نے ابو عمر کی روایت کے مطابق قرآن پڑھا اور فقہ کی کتاب مختصر الحزنی کو حفظ کیا پھر اس کے بھائی موفق نے بعد ازاں اس کی شرح کی اور اپنی شرح کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور تفسیر بغوی حلیہ ابو نعیم اور ابن بطہ کی الابانہ کو لکھا۔ اور بہت سے مصاحف اپنے ہاتھ سے اپنے اہل کے لیے اور لوگوں کے لیے لکھے۔ اور آپ بڑے عابد زاہد اور تہجد گزار تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے اور روز ظہر و عصر کے درمیان سات سو مرتبے پڑھتے تھے اور آٹھ رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے جن میں ایک ہزار مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے اور ہر سوموار اور جمعرات کو مغفارة الدم کی زیارت کرتے تھے۔ اور اپنے راستے سے شیخ گھاس کو اکٹھا کر کے بیوگان اور مساکین کو دیتے اور جب کبھی آپ کو کوئی عطیہ میسر آتا تو اپنے اہل اور مساکین کو ترجیح دیتے اور آپ بہت کم لباس پہنتے تھے۔ اور بسا اوقات مدت گذر جاتی اور آپ شلواری قمیص نہ پہنتے اور اپنے عمامہ کے ٹکڑے کر کے انہیں صدقہ کر دیتے۔ یا کسی میت کے کفن کی تکمیل کے لیے دے دیتے اور آپ کا بھائی اور ان کا ماموں کا بیٹا عبدالغنی اور اس کا بھائی شیخ عمار اس جنگ سے نہڑکتے جس میں ملک صلاح الدین بلاد فرنگ کو جاتا۔ اور یہ لوگ فتح قدس اور سواحل وغیرہ۔ میں بھی اس کے ساتھ تھے اور ایک روز ملک عادل خاص طور پر ابو عمر کی ملاقات کو آیا تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے پس آپ نے نہ نماز توڑی اور نہ مختصر کی۔ سلطان بیٹھ گیا اور ابو عمر مسلسل اپنی نماز پڑھتے رہے اور اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ نے اپنی نماز ادا کر لی اور شیخ ابو عمر نے سب سے پہلے جامع مسجد کو ایک فامی شخص کے مال سے تعمیر کرنا شروع کیا تو اس کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور عمارت ایک شخص کے قد کے برابر بلند ہوئی تھی پس شاہ اربل ملک مظفر الدین کو کوری نے مال بھیجا تو اس سے وہ مسجد مکمل ہوئی۔ اور اس کی خطابت شیخ ابو عمر نے سنبھالی آپ خطبہ دیتے تو آپ کمزور سالباں زیب تن کیے ہوتے۔ اور آپ پر خشیت و تقویٰ اور خوفِ الہی کے انوار ہوتے، مشک آنت کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید۔ اور اس وقت جو منبر تھا اس

میں تین زینے تھے اور چوتھا زین بیٹھنے کے لیے تھا جیسا کہ منبر نبوی تھا۔

اور ابوالمظفر نے بیان کیا ہے کہ ایک روز جمعہ کو وہ آپ کے پاس آیا اور شیخ عبداللہ یونانی حضور جمعہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے تھے اور جب آپ خطبہ میں سنا ان کے لیے دعا تک پہنچے تو آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے بندے ملک عادل سیف الدین ابوبکر بن ایوب کی اصلاح کر جب آپ نے یہ بات کہی تو شیخ عبداللہ یونانی اٹھے اور اپنا جوتا لیا اور جامع مسجد سے باہر نکل گئے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی پس جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے یونانی کے پاس جا کر اسے کہا آپ اس کی کس بات پر ناراض ہوئے ہیں؟ اس نے کہا یہ اس ظالم کو عادل کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔

راوی بیان کرتا ہے ہم باتوں میں مصروف تھے کہ شیخ ابوبکر آگئے اور آپ کے پاس ایک روٹی اور دو کھیرے تھے آپ نے اس روٹی کو توڑا اور فرمایا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر بیان کیا حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں عدل گستر بادشاہ کسریٰ کے زمانے میں مبعوث ہوا ہوں تو شیخ عبداللہ یونانی مسکرا پڑے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر کھانا کھایا اور جب وہ فارغ ہوئے تو شیخ ابو عمر اٹھ کر چلے گئے اور جب وہ چلے گئے تو یونانی نے مجھے کہا اے ہمارے آقا یہ ایک صالح آدمی ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ یونانی کبار صالحین میں سے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ نے ابو عمر کے دس سال بعد وفات پائی۔ اور باوجود ابو عمر کے تقویٰ کے انہیں تساہل کرنے میں معاف نہیں کیا اور شاید آپ مسافر تھے اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ اور شیخ ابو عمر کا یہ عذر کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑے آدمیوں کو عادل، کامل اور اشرف وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یا جیسے سالم غانم، محمود، مسعود کہا جاتا ہے اور ان ناموں کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ سالم غانم، محمود اور مسعود نہیں ہوتا۔ اسی طرح عادل کا نام ہے۔ یا بادشاہوں کے دیگر اسماء والقباب ہیں یا نجار وغیرہ کے نام ہیں یا جیسے کسش الدین بدر الدین اور تاج الدین وغیرہ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ اس کے الٹ ہوتا ہے اور اسی طرح شافعی اور حنبلی وغیرہم ہیں۔ اور اس کے اعمال اپنے امام اول کے زہد و عبادت وغیرہ کے مخالف ہوتے ہیں اسی طرح عادل کا اطلاق مشترک ہوگا۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں جس حدیث سے شیخ ابو عمر نے حجت پکڑی ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی یہ کتب مشہور میں بیان ہوئی ہے۔ اور آپ پر اور ابوالمظفر پر اور پھر ابوشامہ پر اس قسم کی حدیث کے قبول کرنے پر تعجب ہے۔ واللہ اعلم

پھر ابوالمظفر نے ابو عمر کے فضائل و مناقب اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ اور جو اس نے اور دوسروں نے آپ کے احوال صالحہ دیکھے تھے انہیں بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے آپ راستے اور ہدایت کی رو سے سلف صالح کے مذہب پر تھے آپ کا عقیدہ اچھا تھا اور آپ کتاب و سنت اور آثار مرویہ سے متمسک تھے اور آئمہ دین اور علمائے مسلمین پر طعن کیے بغیر انہیں اسی طرح مانتے تھے جیسے کہ وہ بیان ہوئے ہیں اور آپ مبتدعین کی صحبت سے روکتے تھے۔ اور ان صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے جو سید المرسلین، خاتم النبیین کو کی سنت پر قائم تھے۔ اور بسا اوقات آپ نے خود مجھے یہ اشعار سنائے۔

”میں تمہیں اہل حق اور اہل توکل کے قول کے مطابق قرآن کریم کے قول کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہ مخلوق

ہے نہ فنا ہونے والا ہے بلکہ وہ جزا سزا دینے والے بادشاہ کا کلام ہے اس کی آیات کا مفہوم روشن ہے جنہیں خدا کی

۶۷۷ھ کے حالات و واقعات کے بیان میں

رضامندی کی خاطر زبان سے بڑھا جاتا ہے جو سینہ و دل میں محفوظ ہیں اور کاغذات میں انگلیوں سے لکھی ہوئی ہیں۔
اے میرے بھائیو! صفات کے بارے میں بات کرنا ذات اور علم کے بارے میں بیان کرنے کی مانند ہے۔ انہیں کفر و
تشیبہ کے بغیر اور انکار صفات کے بغیر، ہرانا چاہیے۔

راوی کا بیان ہے کہ آپ نے خود مجھے یہ اشعار سنائے۔

”کیا بھولوب سے غافل کرنے والی کوئی چیز نہیں، سر کی سفیدی، کمزوری اور تکلیف میرے شامل حال ہوگی اور مجھ پر وہ
مصیبت آئی کہ اگر میں عمر بھراس پر روتا تو آنسو خشک ہو جاتے اور مجھے تکلیف نہ ہوتی۔“

راوی کا بیان ہے آپ بیمار ہو گئے، لیکن معمول کے مطابق آپ جو اوراد کرتے تھے انہیں ترک نہ کیا، حتیٰ کہ ۱۹ ربیع الاول
مشکل کی شب کو سحری کے وقت آپ فوت ہو گئے، اور آپ کو دیر میں غسل دے کر بہت سے لوگوں کے ساتھ جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی
نہیں جانتا، اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا اور حکومت کے تمام امراء، علماء اور قضاة وغیرہ آپ کے جنازہ میں شامل ہوئے اور وہ جمعہ کا
دن تھا اور گرمی سخت تھی، تو ایک بدلی نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے سایہ کر دیا، اور اس سے شہد کی مکھوں کی بھینھناہٹ کی طرح
گونج سنائی دیتی تھی اور لوگ آپ کے اتفاق کی طرف سبقت کرتے تھے، اور آپ کے کپڑوں کو گراں تر قیمت پر فروخت کیا گیا، اور
شعراء نے آپ کے بہت اچھے مرثیے کہے، اور آپ کے بارے میں روایات صالحہ دیکھی گئیں، آپ نے تین لڑکے چھوڑے، ایک کا
نام عمر تھا، اور اسی سے آپ کنیت کرتے تھے، دوسرا شرف عبداللہ، اس نے اپنے باپ کے بعد خطابت سنبھالی، جو العزراحمہ کا والد ہے،
تیسرا عبدالرحمن، اور جب شرف عبداللہ فوت ہو گیا تو اس کے بھائی شمس الدین عبدالرحمن بن ابی عمر نے خطابت سنبھال لی۔ اور یہ اس
کے باپ کے لڑکوں میں سے تھا، اور آپ نے قول الہی (مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَ
اَبْكَارًا) کے مطابق بیٹیاں بھی چھوڑیں۔ راوی بیان کرتا ہے، آپ کی قبر مفاراة الجوع کے راستے میں تنگ گلی میں دیر حورانی کے سامنے
ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر رحم فرمائے۔

شیخ الحدیث ابن طبرزد:

عمر بن محمد بن معمر بن یحییٰ، جو ابو حفص بن طبرزد بغدادی درازقزی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ۵۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔
اور کثیر سے سماع کیا اور سماع کرایا۔ آپ عیاش، خوش شکل اور ظریف تھے، اور دارالقرظ میں بچوں کی تربیت کرتے تھے، آپ ضنبل بن
عبداللہ مکمر کے ساتھ دمشق آئے، اور دمشق کے باشندوں نے ان سے سماع کیا، اور انہیں اموال حاصل ہوئے، اور دونوں بغداد کو
واپس چلے گئے، اور ضنبل ۶۰۳ھ میں فوت ہو گئے، اور آپ نے بعد ازاں اس سال ۹۷ھ میں وفات پائی۔ وفات کے قریب آپ کی
عمر ۹۷ سال تھی، آپ نے بہت مال چھوڑا، اور بیت المال کے سوا، آپ کا کوئی وارث نہ تھا۔ اور آپ کو باب حرب میں دفن کیا گیا۔

سلطان ملک العادل ارسلان شاہ:

نور الدین شاہ موصل، نور الدین شہید کے بھتیجے تھے۔ ہم نے آپ کی سیرت کا کچھ حصہ حوادث میں بیان کیا ہے، آپ شافعی
المذہب تھے، اور آپ کے سوا، ان میں سے اور کوئی شافعی نہ تھا، آپ نے موصل میں شافعیہ کے لیے ایک بڑا مدرسہ بنایا، اور وہیں

آپ کی قبر بھی ہے آپ نے اس سال صفر میں اتوار کی رات کو وفات پائی۔

ابن سلیمان عبدالوہاب بن علی:

ضیاء الدین جو ابن سلیمان صوفی کے نام سے مشہور ہیں آپ کو ابدال میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے کثرت حدیث کا سماع کیا اور مختلف شہروں میں اس کا سماع کرایا۔ آپ ۵۱۹ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابو الفرج ابن جوزی کے دوست اور ہم مجلس تھے اور کثرت مخلوق اور کثرت عوام و خواص کی وجہ سے آپ کے جنازے کا دن جمعہ کا دن معلوم ہوتا تھا۔

مظفر بن ساسیر:

واعظ صوفی بغدادی آپ ۵۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماع کیا آپ اغریہ مساجد اور بستوں میں وعظ کرتے تھے۔ آپ ظریف مزاج تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو اس نے اس گفتگو میں جو آپ کے اور اس کے درمیان ہوئی آپ سے کہا میں بھوکا مریض ہوں آپ نے کہا اپنے رب کی تعریف کر تو صحت یاب ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آپ ایک قصاب کے پاس سے گزرے جو ناکارہ گوشت فروخت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ کہاں ہے جس نے قسم کھائی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا تو آپ نے اسے کہا حتی کہ اس نے اسے ترک کر دیا۔

راوی بیان کرتا ہے ایک دفعہ میں نے یعقوباً میں مجلس منعقد کی تو ایک شخص کہنے لگا میرے پاس شیخ کی نصفیہ ہے۔ اور دوسرا کہنے لگا میرے پاس بھی شیخ کی نصفیہ ہے اور تیسرے نے بھی اس قسم کی بات کہی حتی کہ وہ پچاس نصفیہ سے بھی تجاوز کر گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا آج شب میں مستغنی ہو جاؤں گا اور تاجربن کرشہر کو واپس جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو کا ایک ڈھیر مسجد میں پڑا ہے اور مجھے بتایا گیا یہ وہ نصابی ہیں جن کا ذکر لوگوں کی ایک جماعت نے کیا تھا اور وہ ماپنے کا ایک برتن ہے جسے نصفیہ کہتے ہیں جیسے زبدیہ۔

اور ایک دفعہ میں نے باصرہ میں مجلس منعقد کی تو انہوں نے میرے لیے ایک چیز جمع کی جس کے متعلق مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے اور جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بھینس کے بالوں اور سینگوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے اور ایک شخص کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگا کہ تمہارے پاس شیخ کے بالوں اور سینگوں کی جو چیز ہے وہ لے آؤ تو میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں اور تم میری طرف سے آزاد ہو اسے ابوشامہ نے بیان کیا ہے۔

۶۰۸ھ

یہ سال شروع ہوا تو عادل اپنے قلعے کی تعمیر کے لیے پہاڑ پر مقیم تھا اور بلاد مغرب سے یہ اطلاعات آئیں کہ عبدالملک نے طلیطلہ میں فرنگیوں کو زبردست شکست دی ہے اور کئی دفعہ اس نے شہر کو بزور قوت فتح کیا ہے۔ اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس سال مصر اور قاہرہ میں زبردست زلزلہ آیا جس سے بہت سے گھر گر گئے۔ اور اسی طرح کرک اور شوبک میں بھی اس کے قلعے کے برج گر گئے اور بہت سے بچے اور عورتیں دیواروں کے نیچے آ کر مر گئے۔ اور دمشق کے مغرب میں عاتکہ کی قبر کے پاس مغرب اور عشاء کے درمیان آسمان سے دھواں اترتا دکھائی دیا۔ اور اس سال باطنیہ نے اظہار اسلام کیا اور حرام کاموں کے مرتکبین

یہ حدود قائم کیں۔ اور جو امع مساجد بنائیں اور انہوں نے شام میں مضامہ وغیرہ میں بھی اپنے بھائیوں کو ان باتوں کے متعلق لکھا اور ان کے لیڈر جلال الدین نے خلیفہ کو اطلاع دیتے ہوئے یہ بات لکھی اور ان کی ایک جماعت حج کے لیے بغداد آئی اور انہوں نے اس کی وجہ سے ان کا اعزاز و اکرام کیا لیکن جب وہ عرفات میں تھے تو ان میں سے ایک شخص امیر مکہ قنادر الحسینی کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے اس قنادر خیال کرتے ہوئے قتل کر دیا۔

پس مکہ کے حبشیوں اور عراقی قافلے کے درمیان جنگ بھڑک اٹھی اور قافلہ لٹ گیا اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اور اس سال ملک اشرف نے النیرب سے جو الظاہر کا عمراذ حضرت بن صلاح الدین تھا الریس کا محل خریدنا اور اس کو بہت اچھی طرح تعمیر کیا۔ ہمارے زمانے میں اس کا نام الدہشتہ ہے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

محمد بن یونس فقہیہ شافعی موصلی، مؤلف تصانیف و فنون کثیرہ، آپ موصل میں شافعیہ کے سردار تھے اور نور الدین کی وفات کے بعد آپ کو اپیلچی بنا کر بغداد بھیجا گیا۔ آپ کو طہارت میں بہت وسوسہ پیدا ہوتا تھا اور آپ اموال میں مسئلہ العینہ^۱ کے مطابق لین دین کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھی نگلنا اور مچھر چھاننا اور اگر یہ بات اس کے الٹ ہوتی تو بہتر ہوتا اور ایک روز اسے قضیب البان الموکہ ملا تو اس نے آپ سے کہا اے شیخ مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کو ایک لوٹے پانی سے دھوتے ہیں اور اس لئے کو آپ نہیں دھوتے جسے کھاتے ہیں تاکہ آپ کا دل اور باطن صاف ہو جائے؟ پس شیخ اس کے مقصد کو سمجھ گیا۔ اور اس عادت کو چھوڑ دیا آپ نے رجب میں ۳۷ سال کی عمر میں موصل میں وفات پائی۔

ابن حمدون تاج الدین:

ابوسعبد الحسن بن محمد بن حمدون، مؤلف الذکرہ الحمدونیہ، آپ ماہر فاضل تھے آپ نے غزلیات کی کتب وغیرہ کو جمع کرنے کا اہتمام کیا اور خلیفہ نے آپ کو عضدی شفا خانے کا افسر مقرر کیا، آپ نے مدائن میں وفات پائی اور آپ کو قریش کے قبرستان میں لاکر دفن کیا گیا۔

شاہ روم خسرو شاہ:

ابن فلج ارسلان نے اس سال وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا کیاؤس بادشاہ بنا۔ اور جب وہ ۶۱۵ھ میں فوت ہوا تو اس کا بھائی کیلیکباد صرام الدین برغش العادلی قلعد دمشق کا نائب بادشاہ بن گیا اس نے صفر میں وفات پائی اور جامع مظفری کے مغرب میں دفن ہوا یہ وہ شخص ہے جس نے حافظ عبدالغنی المقدسی کو مصر جلاوطن کیا تھا۔ اور اس کے سامنے مجلس کا انعقاد ہوا۔ اور یہ ان لوگوں میں شامل تھا جو ابن الزکی اور خطیب الدوعی کے نگران تھے یہ چاروں اور جن کی یہ نگرانی کرتا تھا فوت ہو چکے ہیں اور اپنے حاکم

۱ العینہ: کسی چیز کو اصلی قیمت سے زیادہ قیمت پر ادھار فروخت کرنا۔ مترجم

و عادل رب کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں۔

امیر فخر الدین سرکس

اور اس کو جہارکس بھی کہا جاتا ہے یہ حکومت صلاحیہ کا ایک امیر تھا۔ اور دامن کوہ میں خاتون کی قبر کے بالمقابل سرکس کے گنبد اسی کی طرف منسوب ہیں اور وہیں اس کی قبر بھی ہے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے اسی نے قاہرہ میں میناریہ کبرئی کو تعمیر کیا ہے جو اس کی طرف منسوب ہے۔ اور اس نے اس کے اوپر ایک معلق مسجد اور گھر بھی بنایا ہے اور تاجروں کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کسی ملک میں حسن و عظمت اور پختگی تعمیر کے لحاظ سے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتا ہے جہارکس کا مفہوم چارکس ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شخص بانیاں، نینیں اور ہوئیں پر عادل کا نائب تھا۔ اور جب یہ فوت ہوا تو اس نے ایک چھوٹا سا لڑکا پیچھے چھوڑا تو عادل نے اسے اس کے باپ کی جگہ والی بنا دیا اور اسے منتظم مقرر کر دیا اور وہی امیر صارم الدین قطلباگینی ہے پھر وہ بچے کی وفات کے بعد وہاں ۶۱۵ھ تک با اختیار رہا۔

الشیخ الکبیر المعمر الرحلہ ابوالقاسم ابوبکر ابوالفتح:

منصور بن عبدالمعزم بن عبداللہ بن محمد بن الفضل الفراوی نیشاپوری اس نے اپنے باپ اور اپنے باپ کے دادے وغیرہ سے سماع کیا اور اس سے ابن الصلاح وغیرہ نے سماع کیا اور اس نے اس سال کے شعبان میں ۸۵ سال کی عمر میں نیشاپور میں وفات پائی۔

قاسم الدین ترکمانی:

العقیمی، والی شہر کا والد اس کی وفات اس سال کے شوال میں ہوئی۔ واللہ اعلم

۶۰۹ھ

اس سال عادل اور اس کے بیٹے، کامل، معظم اور فائز، بلاد مصر میں دمیاط مقام پرفرنٹیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اور ایک امیر کبیر سامتہ الجبلی نے ان کی غیر حاضری کو غنیمت جانا، قلعہ عجلون اور کوب اس کے قبضے میں تھے وہ سرعت کے ساتھ دونوں شہروں کو حاصل کرنے کے لیے دمشق گیا عادل نے اپنے بیٹے معظم کو اس کے پیچھے روانہ کیا تو یہ قدس کی طرف اس سے سبقت کر گیا اور اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اور کلیسا صیہون میں اس سے اس پر نشان لگایا اور یہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو نقرس کا مریض تھا۔ پس اس نے اس کے ذخائر و اموال و املاک پر قبضہ کر لیا۔ اور اسے قلعہ کرک کی طرف بھیج کر وہاں قید کر دیا۔ اور اس نے جو کچھ اس سے چھینا اس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ دینار تھی۔ اس میں اس کا گھر اور وہ حمام جو باب السلامہ کے اندر تھا۔ اور وہ گھر جسے البادرائی نے شافعیہ کے لیے مدرسہ بنا دیا تھا شامل تھے۔ اور اس نے قلعہ کوب کو تباہ کر دیا اور اس کے ذخائر قلعہ طور میں منتقل کر دیئے گئے جسے عادل اور اس کے بیٹے نے از سر نو تعمیر کیا تھا اور اس سال اس نے وزیر ابن شکر کو معزول کر دیا اور اس کے اموال کی نگرانی کی۔ اسے مشرق کی طرف جلاوطن کیا گیا، اسی نے دیار مصر کو حافظ عبدالغنی کو شام سے جلاوطن کرنے کے بعد دیار مصر سے جلاوطن کرنے کا خط لکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ اور حافظ عبدالغنی خط پہنچنے سے قبل ہی وفات پا

گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف وزیر کی جلا وطنی واجب کر دی، جو زلازل و فتن اور شر کی جگہ ہے اور اس نے پوری جزا کے طور پر اسے ارض مقدس سے جلا وطن کر دیا۔ اور جب شاہ قبرص نے انطاکیہ شہر پر قبضہ کیا تو اس کے باعث بڑا شر پہنچا۔ اس نے مسلمانوں کے شہروں پر غارت گری کی قوت حاصل کر لی، خصوصاً ان ترکمانوں پر جو انطاکیہ کے ارد گرد رہتے تھے اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ اور ان کی بہت سی بکریوں کو غنیمت میں حاصل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں ایک وادی میں اس پر قابو دے دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے سر کو ان شہروں میں لے کر چکر لگایا۔ پھر انہوں نے اس کے سر کو ملک عادل کے پاس مہربھج دیا، اور وہاں بھی اسے گھمایا گیا۔ اور اسی شخص نے دمیاط کی سرحد سے دو بار بلاد مصر پر غارت گری کی تھی، اور لوگوں کو قتل کیا، اور قیدی بنایا تھا، اور بادشاہ اس سے عاجز آ گئے تھے۔

نجم الدین ایوب:

اس سال کے ربیع الاول میں ملک اوجہ نجم الدین ایوب بن عادل حاکم خلاط نے وفات پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے خونریزی کی اور بدسیرتی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا خاتمہ کر دیا، اور اس کا بھائی ملک اشرف موسیٰ خلاط کا امیر بنا۔ اور یہ نیک سیرت اور پاک باطن آدمی تھا، اس نے خلاط کے باشندوں سے حسن سلوک کیا، اور انہوں نے اس سے بہت محبت کی۔

فقیر حرم شریف:

اس سال اعیان میں سے حرم شریف کے فقیر محمد بن اسماعیل بن ابی الصیف الحسینی نے، اور ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن ابی بکر القفصی المقری محدث نے وفات پائی آپ نے بہت کچھ لکھا۔ اور کثیر سے سماع کیا۔ اور صوفیا کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

ابوالفتح محمد بن سعد بن محمد دیباجی:

آپ مرو کے باشندے تھے، آپ نے زمخشری کی ایک کتاب کی جو علم نحو کے متعلق ہے، شرح لکھی ہے اور اس کا نام ہے کتاب المحصل فی شرح المفصل، آپ ثقہ عالم تھے، آپ نے حدیث کا سماع کیا ہے، آپ نے اس سال ۹۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

شیخ صالح:

ابوالہقا محمود بن عثمان بن مکارم النعمانی الحسینی، آپ نے عبادات و مجاہدات اور سیاحت کی ہے اور باب الازح میں ایک خانقاہ بنائی ہے جس کی طرف مقادسہ سے اہل علم آتے ہیں اور آپ انہیں ترجیح دیتے، اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ نے سماع حدیث کیا ہے اور قرآن پڑھا ہے اور آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، آپ نے ۸۰ سال سے زیادہ عمر پا کر وفات پائی۔

۶۱۰ھ

اس سال عادل نے حکم دیا، کہ جمعہ کے روز جامع مسجد کی طرف آنے والے راستوں کے ناکوں پر زنجیریں رکھی جائیں تاکہ گھوڑے جامع مسجد کے نزدیک نہ پہنچ جائیں۔ اس نے یہ حکم مسلمانوں کو ان کی ایذاء سے بچانے کے لیے دیا، نیز اس لیے بھی کہ وہ نماز کے لیے گزرنے والوں پر تنگی نہ کریں اور اس سال شاہ حلب الظاہر غازی کے ہاں ملک عزیز پیدا ہوا، جو حاکم دمشق ملک ناصر کا

باپ ہے۔ اور دمشق کے اندر ناصریتین کو وقف کرنے والا ہے۔ اور ان میں سے ایک باب الفردیس کے اندر ہے اور دوسری دامن کوہ میں ہے۔ جو بڑی بڑی دیواروں اور پختہ تعمیراتی ہے جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی نظیر تم ہی ملتی ہے۔ اور اسی کو ان تاریخوں نے قیدی بنالیا تھا جو شاہ تاتار بلا کو خان کے ساتھ تھے اور اس سال مصر سے ایک ہاتھی لاکر شاہ الکرج کی خدمت پر بطور تحفہ پیش کیا گیا جس سے لوگ بہت متعجب ہوئے۔ اور اس کی انوکھی بناوٹ سے بھی حیران ہوئے۔ اور اس سال ملک الظاہر خضر بن سلطان صلاح الدین حلب سے حج کے ارادے سے آیا تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اور اس کے عم زاد معظم نے اس کا اکرام کیا۔ جب اس کے اور مکہ کے درمیان چند مراحل باقی رہ گئے تو شاہ مصر اکمل کے خواص اسے آٹے اور انہوں نے اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہنے لگے تو صرف یمن کو حاصل کرنے آیا ہے اس نے انہیں کہا مجھے بیڑیاں ڈال دو اور مجھے مناسک حج ادا کرنے دو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی سرکاری حکم نہیں ہے۔ اس نے ہمیں صرف واپس لانے اور روکنے کا حکم دیا ہے۔ اور لوگوں کی ایک جماعت نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ جنگ کے برپا ہونے سے ڈر گیا۔ اور اپنے حج سے حلال ہو کر شام واپس آ گیا اور جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا اس پر لوگوں نے افسوس کیا۔

اور جب اس نے انہیں الوداع کہا تو وہ رو پڑے اللہ اس سے قبول فرمائے اور اس سال خراسان کے ایک حنفی فقیہ کی جانب سے شیخ تاج الدین ابوالین کنڈی کو ایک خط ملا جس میں اس نے اسے بتایا کہ سلطان خوازم شاہ محمد بن تکتش اپنے تین اصحاب کے ساتھ بھیس بدل کرتا تاریخوں کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے تاکہ خود ان کے حالات کو معلوم کرے۔ اور انہوں نے انہیں اجنبی سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے۔ اور انہوں نے ان میں سے دو آدمیوں کو مارا ہے اور وہ مر گئے ہیں۔ اور انہوں نے بادشاہ سے عہد و پیمانہ کر لیا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی قید ہے۔ اور ایک رات کو وہ بھاگ آیا۔ اور سلطان اپنی حکومت کی طرف واپس آ گیا اور گرفتاری کا یہ واقعہ نو بہ کی گرفتاری کے علاوہ ہے جس میں امیر مسعود کے ساتھ اسے میدان کارزار میں قیدی بنایا گیا تھا۔

اور اس سال حلب میں خندق کھودتے ہوئے ایک چوکور پتھر نمودار ہوا جس کے نیچے سے ۷۵ رطل سونا اور ۲۵ رطل چاندی ملی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ الحنفیہ:

بعد ازیں حضرت امام ابوحنیفہؒ کی زیارت گاہ کے مدرس شیخ ابو الفضل احمد بن مسعود بن علی الرسانی نے اس سال وفات پائی۔ آپ نا انصافیوں کے فیصلوں کے ناظم تھے اور آپ کو مذکورہ زیارت گاہ میں ہی دفن کیا گیا۔
شیخ ابو الفضل بن اسماعیل:

ابن علی بن الحسین، فخر الدین حنبلی جو ابن ماشط کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو فخر غلام ابن انسی بھی کہا جاتا ہے، اخلاقیات کے بارے میں آپ کا ایک حاشیہ بھی ہے اور جامع خلیفہ میں آپ کا ایک حلقہ بھی ہے۔ آپ خلیفہ کی لائٹیوں کے نگران تھے پھر اس نے

آپ کو معزول کر دیا اور آپ محتاج ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔ اور آپ کا بیٹا محمد بن شیطان سرکش بہت بھولو اور لوگوں کے متعلق حکمرانوں کے پاس جھوٹی چغلیاں کرنے والا تھا۔ پس اس کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے قید کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔

وزیر معز الدین ابوالمعالی:

سعید بن علی بن احمد بن حدیدہ آپ قطبہ بن عامر بن حدیدہ انصاری کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے ۵۸۳ھ میں نامصر کی وزارت سنبالی پھر اس نے آپ کو ابن مہدی کی سفارت سے معزول کر دیا، تو آپ مرانہ کی طرف بھاگ گئے، پھر ابن مہدی کی موت کے بعد واپس آ گئے۔ اور معظم و محترم ہو کر بغداد میں اقامت اختیار کر لی، آپ بہت صدقات دینے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

سنجر بن عبداللہ الناصری:

اخلفی، اس کے پاس بہت سے اموال و املاک اور وسیع جاگیریں تھیں اور اس کے باوجود بخیل، ذلیل اور کمینہ شخص تھا، اتفاق سے یہ ۵۸۹ھ میں امیر الحجاز بن کر نکلا، تو ایک بدو نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اسے روکا اور سنجر کے پاس پانچ سو سوار تھے اسے بدو سے ذلت حاصل ہوئی اور بدو نے اس سے پچاس ہزار دینار طلب کیے، تو سنجر نے انہیں حاجیوں سے جمع کر کے اسے دیا اور جب یہ واپس بغداد آیا تو خلیفہ نے اس کے پچاس ہزار دینار لے کر ان لوگوں کو واپس کیے، اور اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ طاشکین کو امیر مقرر کیا۔

قاضی اسلامیہ:

ظہر الدین ابواسحاق ابراہیم بن نصر بن عسکر شافعی حنفیہ اور ادیب، عمار نے الجریدہ میں، اور ابن خلکان نے الوفیات میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔ اور ایک خانقاہی شیخ اور اس کے اصحاب کے بارے میں آپ کے شعر بھی بیان کیے ہیں۔ آپ شیخ کوئی کہا جاتا ہے۔

”ارے کمی سے خیر خواہ کی بات کہہ دو، اور نصیحت کا حق یہ ہے کہ اسے سنا جائے، لوگوں نے اپنے دین میں یہ بات کب سنی ہے کہ گانا قابل اتباع سنت ہے، اور یہ کہ انسان اونٹ کی طرح کھائے اور مجمع میں رقص کرتا کرتا گر پڑے۔ کاش خالی پیٹ شخص بھوکا ہوتا تو وہ خوشی سے چکر نہ لگاتا اور نہ ہی اسے سنا جاتا۔ انہوں نے کہا، ہم محبت الہی میں مدہوش ہوئے ہیں، اور لوگوں کو صرف پیالوں نے مدہوش کیا ہے، اسی طرح جب گدھے آسودہ ہو جاتے ہیں تو ان کی سیری اور سیرابی انہیں خوشی دلا دیتی ہے۔ تو دیکھے گا کہ جب ان کو بدعتوں پر چلانے والا ترنم سے گاتا ہے تو وہ اپنی داڑھیوں کو ہلاتے ہیں، ایک چنچتا ہے اور دوسرا روتا ہے، اور اگر خشک چیز نرم ہو جائے تو وہ نہیں ٹوٹی۔“

تاج الامناء:

ابوالفضل احمد بن محمد بن الحسن بن ہبہ اللہ بن عساکر، حدیث و روایت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی

زین انحر سے بڑے ہیں۔ امناء نے اپنے دونوں چچوں، حافظ ابوالقاسم اور الصائغ سے سماع کیا ہے اور آپ کندی کے دوست تھے۔ آپ نے ۲۱ھ میں کوفہ کو لوٹنے کے روز وفات پائی اور مسجد القدم کی حراب کے سامنے دفن ہوئے۔

النسابة الکلبی

آپ کو تاج العلیٰ الحسینی بھی کہا جاتا ہے آپ نے امد میں ابن دحیہ سے ملاقات کی اور آپ دحیہ کلبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور دحیہ کلبی کی کوئی اولاد نہیں، ابن دحیہ نے آپ کے مسائل موصلیہ میں آپ پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے۔ مشہور طبیب المہذب:

ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس سال کے محرم میں مشہور طبیب المہذب نے وفات پائی ہے آپ کا نام علی بن احمد بن مقبل الموصلی ہے آپ نے سماع حدیث کیا اور آپ اپنے زمانے کے لوگوں سے زیادہ طب جانتے تھے اور طب کے بارے میں آپ کی ایک اچھی تصنیف بھی ہے اور آپ بہت صدقہ دینے والے اور حسن اخلاق والے تھے۔

الجزولی مؤلف المقدمة القانون:

ابو موسیٰ عیسیٰ بن عبدالعزیز الجزولی۔ یہ بربر کا ایک بطن ہے پھر البردکینی نحوی مصری، مشہور اور شاندار مقدمہ کے مؤلف، آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے اس کی شرح لکھی ہے اور سب نے اعتراف کیا ہے کہ بہت سے مقامات پر وہ آپ کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ آپ مصر آئے اور ابن بری سے علم حاصل کیا، پھر اپنے ملک کو واپس چلے گئے اور مراکش کی خطابت سنبالی۔ آپ نے اس سال وفات پائی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے پہلے سال وفات پائی ہے۔ واللہ اعلم

۱۱ھ

اس سال ملک خوارزم شاہ نے اپنے خاص امراء میں سے ایک امیر کو بھیجا اور قبل ازیں وہ سیردانی تھا، اور وہ خاص امیر بن گیا، اس نے اسے ایک فوج کے ساتھ بھیجا، اور اس نے اس کے لیے کرمان، مکران کو حدود سندھ تک فتح کر لیا، اور ان شہروں میں اس کا خطبہ دیا۔ اور خوارزم شاہ تاتار اور کشلی خان کے خوف سے کہ کہیں وہ ان کی بلحقتہ سرحد کے شہروں پر حملہ نہ کر دے۔ سمرقند کے نواح میں موسم گرما گذارتا تھا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال اس نے جامع اموی کے اندر فرش لگانا شروع کیا۔ اور انہوں نے البیع الکبیر کی جگہ سے اس کا آغاز کیا۔ اور جامع مسجد کی زمین اس سے قبل کج اور گڑھا تھی، سو لوگوں نے اس کے فرش ہونے سے آرام پایا۔ اور اس سال اس نے اس خندق کو وسیع کیا جو القیمازیہ کے پاس ہے، اور بہت سے گھر اور حمام قائم اور روٹی پکانے کی جگہیں برباد ہو گئیں، اور وہاں دار الحدیث نوریہ کا وقف بھی تھا۔

اور اس سال معظم نے باب الجابیہ سے باہر عاتکہ کی قبر کی جانب ایک سرائے بنائی، جو اس کی طرف منسوب ہے، اور اس سال معظم نے ابن قرجا سے صرخد کا قلعہ لے لیا، اور اسے اس کا معاوضہ دے کر اسے اپنے غلام عزالدین ابیک المعظمی کے سپرد کر دیا، اور وہ اسی کے قبضہ میں رہا، حتیٰ کہ ۶۴۴ھ میں نجم الدین ایوب نے اسے اس سے چھین لیا، اور اس سال ملک معظم ابن العادل نے حج کیا،

اور اربز والقعدہ کو ابن موسک اور اپنے باپ کے غلام اور عز الدین جو اس کے گھرانے کا استاذ تھا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ الکرک سے اونٹوں پر سوار ہو کر تھوک اور العلاء کے راستے روانہ ہوا اور اس نے ایک تالاب بنایا جو اس کی طرف منسوب ہے اور دیگر کارخانے بھی بنائے اور جب وہ مدینہ نبویہ آیا تو اس کے حاکم سالم نے اس کا استقبال کیا اور اس کی چابیاں اسے دے دیں۔ اور اس کی بہت خدمت کی۔ اور حاکم مکہ قدادہ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اس لیے جب وہ مناسک حج ادا کر چکا اور وہ قارن تھا تو اس نے مجاورین میں وہ صدقات تقسیم کیے جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور واپس چلا گیا۔ اور حاکم مدینہ سالم نے بھی اس کی مصاحبت اختیار کی۔ اور جب وہ اس الماء پہنچا تو اس نے اپنے باپ کے پاس اس تکلیف کی شکایت کی جو اسے حاکم سے پہنچی تھی تو عادل نے سالم کے ساتھ حاکم مکہ کو دھتکارنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ ان سے خوفزدہ ہو کر وادیوں پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگ گیا۔ اور معظم نے اپنے اس حج میں حجاز کے راستے میں بہت اچھے آثار چھوڑے۔ اللہ اسے اس کا بدلہ دے۔

اور اس سال اہل دمشق نے سیاہ عادل کی کاغذات کا لین دین کیا پھر وہ بعد ازاں بیکار ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور اس سال حاکم یمن نے وفات پائی اور امراء کے اتفاق سے سلیمان بن شہنشاہ بن تقی الدین عمر بن شہنشاہ بن ایوب نے یمن کی حکومت سنبھالی اور عادل نے اپنے بیٹے الکامل کو اطلاع بھیجی کہ وہ یمن کی طرف اپنے بیٹے انیس کو بھیجے اس نے اسے بھیجا تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں ظلم کیا اور قتل و غصب کیا۔ اور اس نے تقریباً آٹھ سو اشراف کو قتل کر دیا۔ اور جو ان کے علاوہ قتل ہوئے وہ بہت زیادہ تھے اور یہ بڑا فاجر و فاسق و بے حیاء اور بے دین بادشاہ تھا۔ اور مورخین نے اس کے متعلق وہ باتیں بیان کیں جن سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل انہیں ناپسند کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابراہیم بن علی:

بن محمد بن بکروں حنبلی فقیہ آپ نے فتوے دیئے مناظرے کیے اور حکمرانوں کے پاس انصاف کیا۔ پھر آپ ان سب باتوں کو چھوڑ کر باب النوی کے سپاہی بن گئے اور لوگوں کو مارنے لگے اور نہایت سخت ایذا میں دینے لگے پھر اس کے بعد آپ کو مار پڑی حتیٰ کہ آپ کی موت واقع ہو گئی اور آپ کو دجلہ میں پھینک دیا گیا اور لوگ آپ کی وفات سے بڑے خوش ہوئے اور آپ کا باپ ایک صالح شخص تھا۔

الکرکن عبدالسلام بن عبدالوہاب:

ابن الشیخ عبدالقادر آپ کا باپ صالح شخص تھا اور اس پر فلسفہ اور نجوم سے مخاطبت کی تہمت تھی اور اس کی کتابیں بھی آپ کے پاس پائی گئیں۔ آپ متعدد ریاستوں کے والی بنے۔ آپ کے اور آپ کے امثال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اجداد کیا اچھے تھے لیکن ان کی نسل کیسی بری ہے۔ ایک روز آپ کے باپ نے آپ پر بخاری کپڑا دیکھا تو کہا ہم نے بخاری اور مسلم

کے متعلق سنائے بخاری تو کافر تھا اور یہ عجیب چیز ہے۔ اور یہ ابوالقاسم بن شیخ ابوالفرج بن الجوزی کا مصاحب تھا اور دوسرا حیلہ باز فاسق تھا اور دونوں شراب نوشی اور امر و پرستی پر اکٹھے ہوتے تھے اللہ ان کا برا کرے۔

ابو محمد عبدالعزیز بن محمود بن المبارک:

الہزار جہ ابن الاخضر بغدادی محدث مالدار حافظ مصنف اور مقرر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی کتابیں مفید اور اعلیٰ ہیں آپ صالحین میں سے تھے اور آپ کے جنازے کا دن جمعہ کا دن تھا۔

حافظ ابوالحسن علی بن الانجب:

ابی الکارم المفضل بن ابی الحسن علی بن ابی المغیث مفرج بن حاتم بن الحسن بن جعفر بن ابراہیم بن الحسن اللخمی المقدسی پھر اسکندری مالکی آپ نے سلفی اور عبدالرحیم المنذری سے سماع کیا۔ آپ اسکندریہ میں مالکیہ کے مدرس تھے اور وہاں کے نائب الحکم بھی تھے آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اے نفس جو باتیں خیر المرسلین اور آپ کے اصحاب اور تابعین کی مسلمہ ہیں ان سے تمسک کرو اور جب تو آپ کے دین کی نشرو اشاعت میں بلیغ کوشش کرے گا۔ تو جو باتیں عرف میں اچھی ہیں ان سے لازم رہ اور ان سے تمسک کرو اور کل کے یوم حساب کے جہنم سے جب اس کی آگ جھلس دے گی ڈر جا۔“

ابن خلکان کے قول کے مطابق آپ نے اس سال قاہرہ میں وفات پائی۔

۶۱۲ھ

اس نے اس سال دمشق میں مدرسہ عادلہ کبیرہ کی تعمیر شروع کی۔ اور قاضی ابن الزکی کو معزول کر کے قاضی جمال الدین بن الحرستانی کو فیصلے کرنے کا کام دے دیا اس کی عمر ۸۰ یا ۹۰ سال تھی۔ اس نے حق و انصاف کے مطابق فیصلے کیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ باب القواسم کے پاس نوریہ کے قریب مدرسہ مجاہدہ میں فیصلے کیا کرتا تھا اور اس سال عادل نے شراب اور گلوکارہ لونڈیوں کی کفالت باطل کر دی۔ جزاء اللہ خیرا۔ اور اس چیز کے لوگوں سے دور ہونے کے باعث بہت سا شر دور ہو گیا اور اس سال امیر قوادہ امیر مکہ نے مدینہ اور اس کے باشندوں کا محاصرہ کر لیا اور بہت سے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا۔ اور اہل مدینہ نے اس کے ساتھ جنگ کی۔ اور وہ خانہ و خاسر اور در ماندہ ہو کر واپس لوٹ آیا اور حاکم مدینہ شام میں تھا اس نے عادل سے امیر مکہ کے خلاف مدد طلب کی تو اس نے اس کے ساتھ فوج بھیجی اور اس نے واپسی میں جلدی کی اور راستے ہی میں مر گیا۔ اور فوج نے اس کے بھتیجے جہاز پر اتفاق کر لیا۔ اور اس نے مکہ کا قصد کیا۔ اور امیر مکہ نے الصفراء میں اس سے مدد بھیڑ کی اور انہوں نے باہم سخت جنگ کی اور کئی بھاگ گئے۔ اور جہاز نے ان سے بہت سی غنیمت حاصل کی اور قوادہ بیخ کی طرف بھاگ گیا۔ اور انہوں نے وہاں جا کر اس کا محاصرہ کر لیا اور اس پر تنگی کر دی اور اس سال فرنگیوں نے بلاد اسماعیلیہ پر غارت گری کی اور قتل عام و لوٹ مار کی۔ اور اس سال شاہ روم یکاؤس نے فرنگیوں کے ہاتھ سے انطاکیہ شہر کو چھین لیا پھر اس سے شاہ ارمن ابن لاون نے چھین لیا۔ پھر اس سے طرابلس کے اپرلیس نے چھین لیا۔ اور اس سال خوارزم شاہ محمد بن تگش نے غزنی شہر پر بغیر جنگ کیے قبضہ کر لیا۔

اور اس سال ولی عبدالوہاب بن علی بن امیر المومنین الناصر الدین اللہ نے وفات پائی اور جب وہ فوت ہوا تو خلیفہ کو اس پر بہت غم ہوا۔ اور اسی طرح خواص و عوام کو بھی اس کا بہت غم ہوا کیونکہ وہ بہت صدقات دیتا تھا اور لوگوں سے بہن سلوک کرتا تھا۔ اسی کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغداد کے ہر گھر نے اس پر غم کیا اور اس کے جنازے کا دن جمعہ کا دن تھا اور اہل شہر نے رات دن اس پر نوحہ کیا۔ اور اسے اس کی دادی نے یاں حضرت معروف کرمی کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا۔ اس نے ۲۰ روز و القعدہ کو جمعہ کے روز وفات پائی اور نماز عصر کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور اس دن منکفی کے سر کو بغداد لایا گیا جس نے خلیفہ اور اپنے استاد کی نافرمانی کی تھی، پس اس کے سر کو گھمایا گیا۔ اور اس کے ولی عہد بیٹے کی وفات کی وجہ اس روز اس کی خوشی پوری نہ ہوئی اور دنیا جتنی تکلیف دیتی ہے اتنی خوشی نہیں دیتی اور اس نے دو بچے چھوڑے ایک ابو عبد اللہ الحسین اور دوسرا ابوالموفق ابو الفضل بیٹی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

حافظ عبدالقادر الراہوی:

ابن عبدالقادر بن عبداللہ بن عبدالرحمن ابو محمد حافظ محدث مخرج مفید پختہ کار محرز ماہر مصنف آپ ایک موصلی کے غلام تھے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ ایک جوانی کے غلام تھے آپ دارالحدیث موصل میں مشغول ہوئے۔ پھر آپ حران کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور آپ نے مختلف شہروں کی طرف سفر کیا اور بہت سے مشائخ سے سماع کیا اور حران میں قیام کیا حتیٰ کہ وہیں وفات پا گئے۔ اور آپ کی پیدائش ۵۳۶ھ میں ہوئی۔ آپ ایک دیندار اور صالح شخص تھے۔
الوجیہ الاعلیٰ:

ابوالمبارک بن سعید بن الدھان النجفی الواسطی، جس کا لقب الوجیہیہ واسط میں پیدا ہوا اور بغداد آیا اور علم عربی میں مشغول ہو گیا۔ اور اس نے اس میں مہارت حاصل کی اور عربوں کے بہت سے اشعار کو حفظ کر لیا اور حدیث کا سماع کیا یہ جنلی تھا پھر ابوحنیفہ کے مذہب کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر شافعی ہو گیا اور نظامیہ میں نحو پڑھانے لگا اور اس کے متعلق ایک شاعر لکھتا ہے۔
میری طرف سے الوجیہ کو کون پیغام پہنچانے والا ہے اگرچہ پیغامات اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے تو نے ابن ضنبل کے بعد نعمان کا مذہب اختیار کر لیا ہے اور یہ کام تو نے اس وقت کیا جب کھانے نے تجھے محتاج کر دیا اور تو نے امام شافعی کی رائے کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا، لیکن تو جو چاہتا ہے وہی اس کا حاصل ہے۔ اور تھوڑے عرصے بعد ہی تو مالکی ہو جائے گا پس تو اسے دیکھ جو تو کہہ رہا ہے اور اسے بہت سی حکایات امثال اور ظریفانہ باتیں یاد تھیں اور وہ عربی ترکی، عجمی، رومی، حبشی اور زنگی زبانیں جانتا تھا اور اسے شعر کے نظم کرنے میں کمال حاصل تھا وہ کہتا ہے۔

اگر سمندر کی گہرائی میں کسی روز بارش کا قطرہ ٹھہر جائے پھر چاہے تو وہ اسے الگ کرے اور اگر وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے تو دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب میں اس کے غلام بن جائیں تو وہ اسے الگ کرے اور وہ تجنیس کے بارے میں کہتا ہے۔
تو نے مجھے کمینوں کے گروہ سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بہت ملامت کی ہے جن کی سخاوت کی امید نہیں کی جاتی۔ انہوں

نے اپنے مال کو بچا لیا ہے اور ان کا دین اور عزت مباح ہے انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کون عیب لگاتا ہے یا بھجھ کرتا ہے، جب تخی سخاوت کے ایک راستے میں ٹک جاتے ہیں تو وہ نخل میں ستر راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی مداح خوبصورت اور اشعار شادمانہ اور عالی فائق ہیں اور بس اوقات اس نے سحری کا ایسے اشعار سے معارف کیا ہے جو اس کا اگا کھاتے ہیں۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ ابو جیہ بھی غصے نہیں ہوتا تھا۔ ایک جماعت نے ایک شخص کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر ۱۰۰ سے غصے کر دے تو اسے فلاں چیز دی جائے گی، اس نے اس کے پاس آ کر عربی زبان کے بارے میں سوال پوچھا تو اس نے اسے اس کا جواب دیا، سائل نے اسے کہا، اے شیخ، آپ نے غلطی کی ہے تو اس نے دوسری عبارت میں اسے اس کا جواب دیا تو اس نے کہا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تجھے نحو بھول گئی ہے، ابو جیہ نے کہا، اے شخص شاید میں جو کچھ تجھے کہہ رہا ہوں تو اسے نہیں سمجھا، اس نے کہا بے شک، لیکن تو جواب میں غلطی کر رہا ہے، اس نے اسے کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے بیان کرنا کہ ہم تجھ سے مستفید ہوں تو سائل نے اس سے سخت کلامی کی تو اس نے مسکرا کر اسے کہا، اگر تو نے شرط لگائی ہے تو تو مغلوب ہو گیا ہے، اور تیری مثال ایک مچھر کی سی ہے جو ہاتھی کی پشت پر گرا، اور جب اس نے اڑنے کا اشارہ کیا تو ہاتھی سے کہنے لگا، نرک جا میں اترنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے اسے کہا، جب تو گرا تو مجھے تیرا احساس نہیں ہو اور جب تو اڑے گا تو مجھے رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی وفات اس سال کے شعبان میں ہوئی اور الوردیہ میں اسے دفن کیا گیا۔

ابو محمد عبدالعزیز بن ابی المعالی:

ابن غنیمہ جو ابن منینا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش ۵۱۵ھ میں ہوئی، اور آپ نے کثیر سے سماع کیا اور اسے سماع کرایا، آپ کی وفات اس سال کے ذوالحجہ میں ۹۷ سال کی عمر میں ہوئی۔
شیخ الفقه کمال الدین مودود:

ابن الشافعی الشافعی آپ جامعہ اموی میں طلبہ کو فقہ اور شرح التبیہ پڑھاتے تھے اور انہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھاتے، تاکہ وہ حجرے کے سامنے احتساب کو سمجھ جائیں، آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں شہداء کی قبور کے شمال میں دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر پر ایک شعر ہے جس کا ذکر ابوشامہ نے کیا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

۶۱۳ھ

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال چاروں چوٹی کیل قبۃ النسر کی وجہ سے لائے گئے، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی بڑھی کے ۳۲ باتھ تھے۔ اور اس سال اس نے بانپاس کی جانب قدیم دارالطعم کے بالمقابل باب السر کی خندق کی تجدید کا کام شروع کیا۔ میں کہتا ہوں یہ وہی خندق ہے جسے آج کل سلطان کا اصطبل کہا جاتا ہے۔ اور سلطان نے بنفس نفیس مٹی اٹھائی، اور اس کے غلام اس کے سامنے چھوٹی زینوں کے اگلے حصے پر مٹی اٹھاتے اور انہیں میدانِ اخضر میں الٹ دیتے۔ اور اسی طرح اس کے بھائی صالح اور اس کے غلام کرتے، اور دوسرے روز وہ کرتے۔

اور اس سال اہل شام اور اہل عقبہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور انہوں نے باہم کھلی جگہ پر جنگ کی، اور فوج ان کی طرف

زر ہیں پہن کر گئی اور معظم خود آیا اور اس نے ان کے سرداروں کو پکڑا اور انہیں قید کر دیا۔ اور اس سال اس نے عید گاہ میں تنخواہ دار خطیب رکھا اور سب سے صدر معید الغلیہ نے یہ کام کیا پھر اس نے بعد بہاؤ الدین بن ابی الیسر نے خطبہ دیا پھر جو حسان نے خطبہ دیا اور اب تک وہی خطبہ دیتے آتے ہیں۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک الظاہر ابو منصور:

غازی بن صلاح الدین یوسف بن ایوب یہ بہترین بادشاہ اور ان میں سے بہترین سیرت والا تھا لیکن اس میں ظلم پایا جاتا تھا اور معمولی سے گناہ پر بہت سزا دیتا تھا اور علماء، شعراء اور فقراء کی عزت کرتا تھا اس نے تیس سال حکومت کی اور اپنے باپ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک ہوا۔ یہ بڑا صاحب الرائے صحیح البیان اور اچھا سمجھدار تھا۔ اس کی عمر ۴۴ سال تھی اور اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے عبدالعزیز غیاث الدین محمد کو بادشاہ مقرر کیا اس وقت اس کی عمر تین سال تھی اس کے بڑے بیٹے بھی تھے۔ لیکن اس کا یہ چھوٹا بیٹا جسے اس نے ولی عہد بنایا اس کے چچا عادل کی بیٹی سے تھا اور اس کے ماموں اشرف معظم اور کامل تھے اور اس کا نانا اور اس کے ماموں اس سے کشاکش نہیں کرتے تھے۔ اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور بیٹے کو ولی عہد مقرر کرتا تو وہ اس سے حکومت چھین لیتے اور اس طرح برابر ہی ہو گئی اور اس کے نانا عادل اور اس کے ماموں نے اس کی بیعت کر لی۔ معظم نے اس عہد کے توڑنے اور اس سے حکومت چھیننے کا ارادہ کیا مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اور اس کی حکومت کے انتظام کی ذمہ داری شہاب الدین ظفر بیگ رومی خصی نے سنبھال لی۔ اور وہ عقلمند اور دیندار شخص تھا۔

زید بن الحسن:

ابن زید بن الحسن بن سعید بن عصمۃ الشیخ الامام وحید عصر تاج الدین ابوالیمین کندی بغداد میں پیدا ہوئے وہیں پروان چڑھے۔ اور علم میں مشغول ہو کر علم حاصل کیا پھر دمشق آئے اور وہاں اقامت اختیار کی۔ اور مشرق و مغرب میں اپنے زمانے کے لوگوں سے لغت، نحو اور دیگر فنون علم، علو اسناد، حسن سیرت اور حسن عقیدہ میں فوقیت لے گئے۔ اور اس کے زمانے کے علماء نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور آپ کی تعریف کی اور آپ کے مطبوع ہو گئے آپ جنلی تھے پھر حنفی ہو گئے۔

آپ ۲۵ شعبان ۵۲۰ھ کو پیدا ہوئے اور دس سال کی عمر میں قرآن کو روایات کے ساتھ پڑھا اور کثیر سے شیوخ تک پہنچنے والی احادیث کا سماع کیا اور اس میں مشغول ہو گئے اور عربی اور لغت سیکھی اور اس میں مشہور ہو گئے۔ پھر ۵۶۳ھ میں شام میں آئے پھر مصر میں سکونت اختیار کی اور قاضی فاضل سے ملاقات کی پھر دمشق چلے گئے اور وہاں کے دارالعلم میں ٹھہرے۔ اور ملوک و وزراء اور امراء کے ہاں رتبہ حاصل کیا۔ اور آپ کے پاس علماء ملوک اور ان کے بیٹے آئے۔ اور افضل ابن صلاح الدین حاکم دمشق آپ کے گھر آیا کرتا تھا اور اسی طرح اس کا بھائی محسن اور معظم شاہ دمشق بھی آیا کرتے تھے معظم و رب العجم میں آپ کے پاس آکر زمخشری کی المفصل سنایا کرتا تھا اور معظم اس شخص کو جو المفصل کو حفظ کیا کرتا تھا تمیں دینار انعام دیا کرتا تھا اور جامع مسجد میں سب کام کرنے

والے ورب العجم میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ علم الدین سخاوی، یحییٰ بن معطلی الوجیبی، المغوی اور فخری وغیرہم اور قاضی فاضل بھی آپ کی تعریف کیا کرتا تھا۔ سخاوی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ علوم تھے جو کسی دوسرے کے پاس نہ تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہودیہ نے آپ کی کتاب کی شرت کی ہے اور ان کا نام عمرو ہے اور آپ کا نام زید ہے۔ اور میں نے اس بارے میں کہا ہے

www.KitaboSunnat.com

”عمرو کے زمانے میں کوئی شخص اس کی مثل نہ تھا اور اسی طرح آخری زمانے میں کنڈی کا حال تھا۔ اور یہ دونوں زید اور

عمرو ہیں اور نحو کی بنیاد زید اور عمرو پر ہے۔“

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے ابن الدھان مذکور نے ۵۹۲ھ میں اس کے بارے میں کہی تھی، اے زید میرا رب اپنی بخششوں میں سے تجھ کو مزید نعمتیں دے، جن کے ادراک سے امید کرتا رہے تو عالمین سے نحو کا زیادہ حقدار ہے۔ کیا اس میں تیرے نام کی مثال بیان نہیں کی جاتی۔

اور سخاوی نے ایک عمدہ قصیدے میں آپ کی مدح کی ہے اور ابن الجوزی کے نواسے ابوالمظفر نے بھی آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے، آپ خوش عقیدہ اور خوش اخلاق انسان تھے انسان اپنی ہمنشین سے ملول نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی باتیں عجیب، حطیح اور اشعار عمدہ تھے۔ اور آپ کے اشعار کا ایک بڑا دیوان بھی ہے۔ آپ کی وفات اس سال ۶ ر شوال کو سوموار کے روز ۹۳ سال ایک ماہ ۷ دن کی عمر میں ہوئی، اور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ پھر آپ کو الصالحیہ لاکر دفن کر دیا گیا۔ اور آپ نے اپنی ۶۱۱ نفیس کتب کو اپنے آزاد کنندہ نجیب الدین یاقوت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر فقہ حدیث اور لغت وغیرہ کے علماء کے لیے وقف کر دیا۔ اور ان کتب کو ایک بہت بڑی الماری میں ابن سنان کے طلحی حجرے میں جو علی بن زین العابدین کے مزار کے پاس ہے رکھ دیا گیا۔ پھر یہ کتب متفرق ہو گئیں اور ان میں سے بہت سی کتب کو فروخت کر دیا گیا۔ اور مذکورہ الماری میں صرف تھوڑی سی بوسیدہ کتب باقی رہ گئیں اور وہ الماری طلحی حجرے میں تھی اور قدیم زمانے میں اسے ابن سنان کا حجرہ کہا جاتا تھا۔ اور آپ نے وافر نعمتیں بہت سے اموال اور متعدد خوبصورت ترک غلام چھوڑے۔ آپ پاکیزہ صحبت اور خوش اخلاق تھے اور طلبہ کی کھڑے ہو کر تعظیم کرتے تھے اور جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ نے ان کے لیے قیام کرنا ترک کر دیا اور فرمانے لگے۔

”میں نے ملاقات کے لیے آنے والے دوست کے لیے قیام کرنا ترک کر دیا ہے اور اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، صرف

طوالت عمر کے باعث ایسا کرتا ہوں اور اگر وہ نوے کے دہے کے نصف میں پہنچ گئے تو انھیں معلوم ہو جائے گا کہ میں

ان کے لیے قیام کے ترک کرنے میں معذور تھا۔“

اور آپ نے جن اشعار میں ملک مظفر شاہ کی مدح کی ہے۔ ابن السامی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

خوبصورت عورتوں کا وصال پوشیدہ اور مؤخر تھا۔ اور قرب کا زمانہ روشن اور خوش تھا ایسا زمانہ بھی تھا جس میں عمر بہترین سفارشی تھی۔ وہ زمانہ گیا تو کھیل کود کا راستہ واضح تھا بڑھا پانمودار ہوا تو عشق کی آرزوئیں چھٹ گئیں اور جس بات کو عقل مستحسن قرار دیتی تھی وہ میرے لیے بڑی ہو گئی وہ مہینہ سے منہ پھیر گئی، گویا میں وہاں موجود نہ تھا۔ میں وہاں چراغ جلا کر آسودگی کے چہرے کو

دیکھتا تھا۔ اور میں نے شبانی چادروں میں اپنے دامنوں کو گھسیٹتے ہوئے کسی خود پسندی اور فیشن کا خیال نہیں کیا، کیا مجھے جھکے ہوئے پہنوں وانی اور سرم نازک ثبیب نے عار دلائی ہے جو تیریں دہن اور سیاہ آنکھ وانی ہے اس نے اپنی راتیں خونئی سے مذاہریں ہیں گویا ان کی کوتاہی سے تاریکی کو اچھ لیا گیا ہے۔ اور اس کا دل پریشان اور غمگین ہے تو وہ عشق کے دودھ سے ہمیشہ راستے پر گامزن رہتا ہے۔ میں اکیلا ہی سرگردان عاشق ہوں اور سخت دشمنوں سے خوفزدہ ہوں اور کئی دفعہ میں اپنے دین سے خوش ہوا ہوں اور اس نے بھی مجھے خوش کیا ہے۔ اور میں نے اسے اعمال صالحہ سے خوش کیا ہے۔ اور میں کتنی ہی مجالس میں حاضر ہوا اور کتنے ہی بزرگوں سے ملا اور میں اس کی دعوت میں حاضر ہوا اور جلدی سے اس میں شامل ہو گیا، میں نے اپنی فضیلت سے اس کے نقص کا اظہار کیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس کے دل میں غم اور حلق میں بھی غم تھا، گویا میری تعریف میرے حاسدوں کے کانوں میں اچھوتے معافی کو لیے ہوئے ہے۔ تقی الدین کی تلوار ہر خارجی کے معاملے میں مسلح بہادر کو چیر کر زمین کی طرف لے آتی ہے۔

اور آپ نے اس کے بھائی معز الدین فروغ شاہ بن شہنشاہ بن ایوب کی مدح کرتے ہوئے کہا ہے۔

کیا تو سرگشتہ اور اشک ریز پر رحم کرنے والا اور عاشق کو اس وقت پناہ دینے والا ہے جب اس کا دامن کمزور پڑ جائے یہ بات بہت بعید ہے کہ قاتل اپنے مقتول پر رحم کرے اور اس کا نیزہ مضبوطی سے گھسا ہوا ہو۔ جب سے میں اس کے عشق سے تر ہوا ہوں اور جب سے مجھے مرض عشق ہوا ہے میں فریب نہیں ہوا۔ میں ایک نازک اندام جادوگر کی محبت میں بوسیدہ ہو گیا ہوں اس کی نگاہوں سے انگلی نے اس کے فخر و غرور کو کم کیا ہے۔ میں اپنی سرگشتگی کی شفا دلدادہ سے چاہتا ہوں۔ اور فخر و ناز والا کب اپنے سرگشتہ پر ترس کھاتا ہے اور اس کے عشق میں کتنی آہ و بکا کرتا ہوں۔ کاش میرا آپ ہیں بھرنا مجھے کچھ فائدہ دیتا، اور اس کے وصل میں کچھ ضروریات ہیں اگر وہ پوری ہوتیں تو اس کے شیریں لبوں کے پاس ہوتیں۔ اے یگانہ حسن تو ایسے ہی حسن کے انتہاء میں ہے جیسے میں عشق کے انتہاء پر ہوں تیرے بارے میں مجھے کئی لوگوں نے ملامت کی ہے تاکہ میں ملامت سے زندگی کی محبت سے باز آ جاؤں اور وہ زندگی تو ہی ہے میں اس کے پاس گر یہ کناں ہوں پس اگر وہ سوزش عشق اور رونے کی آواز کو محسوس کرے تو میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھوں۔ اے وہ شخص جس کے محاسن اور میرا حال اس کے پاس ہے اور میں تفکر اور سوال نہ کرنے کے درمیان حیران ہوں۔ اور مخالف چیزیں ایک لفظ میں جمع ہو گئی ہیں۔ اور میرے اس کے عشق میں دو مفہوم ہیں۔ کیا تو فضائل والا نہیں اور اگر ان میں سے ادنیٰ فضیلت کو مخصوص کر لیا جائے تو میرا غیر ان پر کوئی فخر نہ کرنا۔

اور وہ اشعار جو تاج الدین کنڈی نے عمارۃ السیسی کے قتل کے بارے میں اس وقت سنائے جب اس نے ملک صلاح الدین کے قتل کے بارے میں کفار و ملحدین کی مدد کی تھی اور انہوں نے دوبارہ فاطمی حکومت کو قائم کرنا چاہا پس وہ اپنے معاملے میں مدد دی اور اسے ۵۹۹ھ میں صلیب دیئے جانے والے لوگوں کے ساتھ صلیب دی گئی۔

عمارہ نے اسلام میں خیانت کی اور اس میں کلیسا اور صلیب سے معاہدہ کیا اور وہ احمد کے بغض میں شرک کا شریک ہو گیا اور صلیب کی محبت میں سخت ہو گیا۔ اور وہ مقام ملاقات کا طیب تھا۔ اور اگر تو اسے چبائے تو تو اسے نفاق میں سخت لکڑی پائے گا۔ نیز آپ نے کہا۔

ہم اچھے دنوں میں زمانے کے ساتھ رہے اور ان میں ہم لذات میں تیرتے رہے۔ اور جب وہ دن گزر گئے تو میں یوں ہو گیا کہ یوں خواب اور نیند میں ہوں بڑھاپے نے مجھے بھگا دیا ہے اور کوئی چارائیں رہا خواہ تو اس قدر ناراض ہو اور ملامت کرنے... مسافر ہے اور ہمیشہ بربادی سے کام لیتا ہے اور ان دن بلاکت کی طرف چلا جاتا ہے اور میں سال بہ سال اپنے لیے شاکر کرتا تھا اور اب میں دن بدن اپنے لیے ہمارا کرتا ہوں۔

العز محمد بن حافظ عبدالغنی مقدسی:

آپ ۵۶۶ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد نے آپ کو کثیر سے سماع کرایا اور آپ نے خود بغداد جا کر وہاں مسند احمد کو پڑھا اور جامع دمشق میں آپ کا ایک حلقہ تھا اور آپ معظم کے اصحاب میں سے تھے اور بڑے دیندار متقی اور حافظ تھے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے باپ پر رحم فرمائے۔

ابوالفتوح محمد بن علی بن المبارک:

الخلافی البغدادی آپ نے کثیر سے سماع کیا۔ آپ خلیفہ اور ملک اشرف بن عادل کے درمیان اہل بیوں میں آیا جایا کرتے تھے اور آپ عقلمند دیندار ثقہ اور راستباز تھے۔

شریف ابو جعفر:

یحییٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علی العلوی الحسینی جو اپنے باپ کے بعد بصرہ میں طالبیوں کے نقیب تھے اور آپ ادیب فاضل اور بہت سے فنون کے عالم تھے۔ خصوصاً علم الانساب، عربوں کی جنگوں اور ان کے اشعار کے عالم تھے اور بہت سے اشعار کے حافظ تھے اور آپ خلیفہ ناصر کے ہم نشینوں میں سے تھے۔ آپ کے لطیف اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

تھے وہ کان مبارک ہو جسے ملامت راس نہیں آتی اور وہ زخمی دل مبارک ہو جو نہ اکتاتا ہے اور نہ تسلی پاتا ہے گویا محبت مجھ پر فرض ہے۔ اور میرے دل کو اس کے سوا کوئی شغل نہیں اور میں اس جدائی کا دلدادہ ہوں جس کی اصل نخرہ ہو۔ اور اگر جدائی نہ ہوتی تو وصل شیرین نہ ہوتا اور جب بے زخمی ملامت سے ہو تو محبوب کے لیے قتل کا ارادہ کرنا سب سے آسان ہوتا۔

ابوعلی فرید بن علی:

ابن فرید جو ابن الجشکری کے نام سے مشہور ہے اور اہل نعمانیہ کا مشہور شاعر ہے اس نے اپنا ایک دیوان جمع کیا جس کے اشعار کا ایک کچھ حصہ ابن السامی نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے۔

میں نے جدائی کے روز تجھ سے ایک نظر کی درخواست کی جسے تو نے گوارا نہ کیا جس سے اطاعت کرنا مشکل ہو گیا میں حیران ہوں کہ تو کیسے نہ کرتی ہے حالانکہ تیرے چہرے پر ہاں لکھا ہوا ہے ارے نون سے مراد ابرو اور عین سے مراد آنکھ اور میم سے مراد منہ ہے۔

ابوالفضل رشوان بن منصور:

ابن رشوان الکردی جو الحقف کے نام سے مشہور ہے یہ اربل میں پیدا ہوا اور ایک سپاہی کا خادم بن گیا۔ اور یہ ادیب و شاعر

تھا۔ اور یہ ملک عادل کے ساتھ خادم رہا کہتا ہے۔

تواریخ اور بیرونیوں سے ہمارے میں ۱۰۰ سے پونچھ اور ان گھوڑوں سے ہمارے میں کئی جو چوبانکی جانوروں سے جنت کرجاتے ہیں۔ اور ان شیروں نے متعلق پونچھ ہنس کا وقت شدہ مال گندم آؤں نیز سے ہیں۔ جب شیر جنگ کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ جب کوئی جنگ میں آوار دیتا ہے تو میری عقل لکھنے نے رزق ہے اور میں اپنی جان کوسوتوں کے گہرے پانی میں جب وہ ہوجیں مارنے لگتا ہے داخل کر دیتا ہوں اور میں زخموں سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اور کتنی ہی راتیں میں بے خواب رہا اور میں نے صبح کے انتظار میں تاروں کو دیکھتے رات گذاری۔ اور کتنی ہی ویرانوں میں میرا گھوڑا دو پہر کو آیا اور گیا، غبار میں تیری آنکھ کے لیے میں مصائب برداشت کرتا رہا ہوں۔ اور میں جنگ میں لاچار ہو کر ثابت قدم رہتا ہوں۔

محمد بن یحییٰ:

ابن ہبۃ اللہ ابو نصر النحاس واسطی اس نے البسط کی طرف یہ اشعار لکھے:

”جب میری عمر ۸۰ سال ہو گئی تو کتنی ہی عورتوں نے مجھے کہا، یونہی زندہ اور سلامت رہ اور ہمیشہ رہ اور زندگی کی روح کو سونگھ بلاشبہ وہ صدہ مقام کے تاریک گھر سے اچھی ہے میں نے کہا، یاد رکھ تیرے ہاں میرا عذر زہیر کے گھر میں تیار کیا گیا ہے۔ میں زندگی کی تکالیف سے اکتا گیا ہوں۔ اور جو شخص ۸۰ سال زندہ رہے، لامحالہ وہ اکتا جائے گا۔“

۱۱۴ھ

اس سال کی ۳ محرم کو جامع امویہ کے اندر کافر ش مکمل ہو گیا۔ اور معتمد مبارز الدین ابراہیم متولی دمشق آیا۔ اور اس خوشی میں اس نے آخری چوکور پتھر باب الزیارة کے پاس اپنے ہاتھ سے رکھا اور اس سال بغداد میں دجلہ میں بڑا پانی آ گیا۔ اور پانی کی سطح بلند ہو کر قبور کے برابر ہو گئی۔ صرف دو انگلیوں کا فرق رہ گیا، پھر پانی اس کے اوپر سے تیر گیا اور لوگوں کو موت کا یقین ہو گیا۔ اور یہ منحوس کیفیت مسلسل سات راتیں آٹھ دن رہی۔ پھر اللہ نے احسان فرمایا، اور پانی کم ہو گیا اور اس کی فراوانی ختم ہو گئی، اور بغداد ایک ٹیلے کی طرح رہ گیا اور اکثر عمارتیں گر گئیں، اور اس سال نظامیہ میں محمد بن یحییٰ بن فضلان نے درس دیا، اور آپ کے پاس اعیان اور قضا آئے۔ اور اس سال صدر بن حمویہ عادل کی طرف سے ایلچی بن کر خلیفہ کے پاس آ گیا۔ اور اس سال اس کا بیٹا، فخر بن کامل معظم کے پاس اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے افسیس حاکم یمن کی منگنی کرنے آیا، اور دمشق میں بہت بڑے مہر پر نکاح ہو گیا۔ اور اس سال سلطان ملاء الدین خوارزم شاہ محمد بن تکلش ہمدان سے چار لاکھ جان بازوں کے ساتھ بغداد آیا۔ اور بعض نے چھ لاکھ بیان کیا ہے، تو خلیفہ نے اس کے لیے تیاری کی اور فوجیں مانگیں، اور اس نے خلیفہ کی طرف پیغام بھیج کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دستور کے مطابق اس کے آگے ہو۔ جیسا کہ ملوک سلاطین کے آگے ہونے کا دستور ہے۔ اور یہ کہ بغداد میں اس کا خطبہ ہو، مگر خلیفہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی کو اس کے پاس بھیجا، اور جب وہ پہنچا تو اس نے اس کی عظمت کو دیکھا، اور یہ کہ بکثرت بادشاہ اس کے آگے کھڑے ہیں۔ اور وہ سونے کی ایک گاڑی میں ساکھو کے ایک تخت پر بیٹھا ہے، اور اس پر پانچ دراہم کی ایک نجاری قباہ ہے، اور اس کے سر پر ایک درہم کا چہرا ہے، اس نے اسے سلام کیا، تو اس نے بڑھاپے کے باعث اسے سلام کا جواب نہ دیا، اور نہ

اسے بیٹھنے کی اجازت دی، سو اس نے تخت کے ایک جانب کھڑے ہو کر ایک عظیم خطبہ دیا۔ جس میں بنو عباس کے فضل و شرف کا ذکر کیا اور ایک حدیث بیان کی جس میں انہیں ایذا دینے سے روکا گیا ہے۔

ترجمان ان باتوں کو بادشاہ، پیرا شاہ، ہیرا شاہ، ہاشم شاہ نے کہا تو نے جو خلیفہ کی فضیلت بیان کی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن جب میں بغداد آؤں گا تو میں اسے لٹرا کروں گا جو اس صفت کا حامل ہوگا اور یہ جو تو نے اس لی ایذا سے رکنے کا ذکر کیا ہے تو میں نے ان میں سے کسی کو ایذا نہیں دی، لیکن خلیفہ کے قید خانوں میں انہی کے بہت سے لوگ ہیں جو قید خانوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اسی نے بنو عباس کو ایذا دی ہے، پھر اس نے اسے چھوڑ دیا اور بعد ازاں اسے کوئی جواب نہ دیا اور سہروردی واپس چلا آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور اس کی فوج پر تین دن تک بڑی برفباری کی، حتیٰ کہ خیمے بھر گئے، اور وہ سرکردہ لوگوں کے سروں تک پہنچ گئی، اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اور ناقابل بیان حد تک مصیبت نے انہیں آلیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد واپس کر دیا۔

اور اس سال وہ صلح، جو عادل اور فرنگیوں کے درمیان ہوئی تھی، ٹوٹ گئی۔ اتفاق سے عادل مصر سے آیا اور بیسان مقام پر اس کی اور اس کے بیٹے کی ملاقات ہو گئی، اور فرنگی عکا سے روانہ ہوئے اور سب ملوک سواصل ان کے ساتھ ہو لیے۔ اور سب کے سب عادل سے کشتی لڑنے آئے۔ اور جب اس نے انہیں دیکھا، تو ان کی فوجوں کی کثرت، اور اپنی قلت کو دیکھ کر بھاگ گیا، اور اس کے بیٹے معظم نے پوچھا، اے میرے باپ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے عجمی زبان میں اسے سب و شتم کیا۔ اور اسے کہنے لگا، تو نے اپنے غلاموں کو شام، جاگیر میں دے دیا ہے اور لوگوں کے بیٹوں کو چھوڑ دیا ہے پھر عادل دمشق گیا۔ اور اس کے والی معتمد کو خط لکھا، کہ وہ اسے فرنگیوں سے بچائے، اور دار یا سے قلعہ کی طرف غلہ جات کو منتقل کرے۔ اور دار یا قصر حجاج اور شاغور کی زمینوں میں پانی چھوڑ دے تو اس بات سے لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی۔ اور جامع مسجد میں بڑی چیخ و پکار ہوئی، اور سلطان آ کر مرج الصفر میں اترا، اور اس نے ملوک شرق کو پیغام بھیجا، کہ وہ فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کریں۔ اور سب سے پہلے شاہ حمص اسد الدین آیا، اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اور وہ باب الفرج سے داخل ہوا اور اس نے ست الشام کو شفا خانے کے نزدیک اس کے گھر میں سلام کیا، پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور جب اسد الدین آیا تو لوگوں سے غصہ زائل ہو گیا، اور صبح کو عادل کے پاس مرج الصفر کو گیا، اور فرنگی و بیسان میں آئے، اور وہاں جو غلہ جات اور چوپائے موجود تھے، انہوں نے لوٹ لیے۔ اور لوگوں کو قتل کیا، اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا، پھر انہوں نے قتل کرتے ہوئے لوٹتے ہوئے۔ اور بیسان اور بانیاں کے درمیان فساد کرتے ہوئے زمین میں خرابی پیدا کر دی، اور جولان کی اراضی سے نوی وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ اور ملک معظم روانہ ہو کر قدس اور نابلس کے درمیان اترا، کیونکہ اسے ان سے قدس کے بارے میں خوف تھا۔ اس لیے کہ وہ بہت اہم تھا۔ پھر فرنگیوں نے قلعہ طور کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ اور اس کا دفاع کرنے والے بہادروں نے اس کا زبردست دفاع کیا۔ پھر فرنگی واپس عکا چلے گئے، اور ان کے پاس مسلمان قیدی بھی تھے۔ اور ملک معظم نے طور آ کر وہاں کے امراء کو خلعت دیئے، اور ان کے دلوں کو خوش کیا۔ پھر اس نے اور اس کے باپ نے اس کے گرائے پر اتفاق کر لیا، جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

علامہ امام شیخ عماد.

حافظ عبدالغنی کا بھائی ابو اسحاق ابراہیم بن عبدالواحد بن علی بن سرور مقدسی شیخ عماد اپنے بھائی حافظ عبدالغنی سے دو سال چھوٹے تھے۔ اور آپ ایک جماعت کے ساتھ ۵۵۵ھ میں دمشق آئے اور دو دفعہ بغداد آئے۔ اور حدیث کا سماع کیا۔ آپ عابد زاہد متقی اور بہت روزے رکھنے والے تھے۔ آپ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز افطار کرتے تھے اور فقیہ اور متقی تھے۔ آپ کی کتاب الفروع بھی ہے اور آپ نے احکام بھی تصنیف کی، لیکن اسے پورا نہ کر سکے۔ آپ حنابلہ کے محراب میں شیخ موفیق کے ساتھ امامت کرتے تھے اور وہ بغیر محراب کے نماز پڑھتے تھے۔

پھر ۶۱۷ھ میں محراب بنایا گیا اور آپ اسی طرح فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی امامت کرتے رہے اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک روز آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور آپ روزہ دار تھے پھر دمشق میں اپنے گھر کو واپس آ گئے اور روزہ افطار کیا اور اچانک فوت ہو گئے اور جامع امویہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور شیخ موفیق نے ان کے مصلیٰ کے نزدیک آپ کی نماز جنازہ پڑھائی پھر وہ اسے دامن کوہ میں لے گئے اور لوگوں کی کثرت سے آپ کی وفات کا دن جمعہ کا دن تھا۔ سبط ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ لوگ کہف سے مفارۃ الدم تک اور وہاں سے المنصور تک تھے اور اگر ایک تل بھی پھینکا جاتا تو وہ لوگوں کے سروں پر ہی گرتا۔

راوی بیان کرتا ہے جب میں اس شب واپس لوٹا تو میں نے آپ کے متعلق اور آپ کے جنازے کے متعلق اور جو لوگ آپ کے جنازہ میں بکثرت شامل ہوئے تھے ان کے متعلق سوچ بچار کی میں کہتا ہوں یہ صالح شخص تھے اور شاید جب آپ کو اپنی قبر میں رکھا گیا ہو تو آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہو اور میرے ذہن میں ثوری کے وہ شعر گھومنے لگے جنہیں آپ نے اپنی موت کے بعد خواب میں سنایا تھا۔

میں نے اپنے رب کو آمنے سامنے دیکھا تو اس نے مجھے کہا اے ابن سعید تجھے میری رضا مبارک ہو جب تار کی چھا جاتی تھی تو تو عاشقانہ آنسوؤں اور شکستہ دل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا تو جو گل چاہتا ہے لے لے اور میری ملاقات کر میں تجھ سے دور نہیں ہوں پھر میں نے کہا مجھے امید ہے کہ عماد نے اپنے رب کو ثوری کی طرح دیکھا ہوگا میں سوچتا ہوں نے شیخ عماد کو خواب میں سبز حلہ اور سبز عمامہ پہنے دیکھا اور وہ ایک باغ کی طرح وسیع مکان میں تھے اور ایک لمبی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا اے عماد الدین آپ نے کیسے رات گزاری ہے۔ قسم بخدا میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں تو آپ میری طرف دیکھ کر حسب عادت مسکرائے جیسا کہ میں اس مسکراہٹ کو دنیا میں جانتا تھا پھر آپ نے فرمایا:

جب مجھے میری قبر میں اتارا گیا تو میں نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ اور میں اپنے اصحاب اہل اور پڑوسیوں سے جدا ہو گیا اور اس

نے فرمایا، تجھے میری طرف سے جزائے خیر ہو، میں راضی ہو گیا ہوں اور یہ میرا عنق و رحمت تیرے پاس ہے، تو نے عنق و رضا کی امید پر ایک زمانہ تک مسلسل پیش قدمی کی اور تو میری دوزخ سے بچ گیا، اور میری دست میں داخل کیا گیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے میں خوفزدہ ہو کر بیدار ہو گیا اور میں نے یہ اشعار لکھ لیے۔ واللہ اعلم

قاضی جمال الدین ابن الحرماتی:

عبد الصمد بن محمد بن ابی الفضل ابوالقاسم الانصاری ابن الحرمستانی، دمشق کے قاضی القضاة آپ ۵۲۰ھ میں پیدا ہوئے آپ کا باپ اہل حرستان میں سے تھا وہ باب تو ما کے اندر اترا اور مسجد الزینبی کی امامت کرنے لگا، اور اس کے اس بیٹے نے بڑی اچھی پرورش پائی، آپ نے حدیث کا بہت سماع کیا، اور حافظ ابن عساکر کو اپنے بہت سے شیوخ میں شریک کیا۔ اور آپ خضر کے حجرہ میں سماع کروانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور وہیں آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے اور جامع مسجد میں آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہوتی تھی، اور آپ کا گھر انجور یہ میں تھا، اور آپ نے الجملہ یہ میں درس دیا۔ اور اس نیک اذیت پر آپ نے لمبازمانہ گزارا۔ واللہ اعلم اور آپ نے فیصلوں میں ابن ابی عسرون کی نیابت کی، پھر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، اور اپنے گھر کے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے ہو رہے۔ پھر عادل نے قاضی ابن الزکی کو معزول کر دیا، اور آپ کو قضاء سونپ دی اور آپ کی عمر ۹۲ سال تھی، اور اس نے العزیزیہ کی تدریس بھی آپ کے سپرد کی، اور اسی طرح اس نے ابن الزکی سے التقویہ کا کام لے کر فخر الدین ابن عساکر کے سپرد کر دیا۔

ابن عبد السلام نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن الحرمستانی سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، آپ کو امام غزالی کی الوسیطہ حفظ تھی، اور کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ قاضیوں میں بڑے انصاف پسند اور حق پر قائم رہنے والے قاضی تھے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پردا نہ کرتے تھے، اور آپ کا بیٹا عماد الدین جامع دمشق میں خطیب تھا۔ اور اس نے مشیخہ اشرفیہ کو اپنی نیابت دے دی، اور قاضی جمال الدین فیصلوں کے لیے آپ کے مدرسہ مجاہدہ میں بیٹھا کرتے تھے، اور سلطان نے آپ کے بڑھاپے کے پیش نظر آپ کو چادر اور تکیہ بھیجا۔ اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، اور جب اس کا باپ اٹھ جاتا، تو وہ اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو کسی بات پر جو آپ کو اس کے متعلق معلوم ہوئی، اپنی نیابت سے معزول کر دیا، اور شمس الدین بن الشیرازی کو نائب مقرر کیا، اور وہ آپ کے سامنے مشرقی ایوان میں بیٹھا کرتا تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ شمس الدین ابن سناء الدولہ اور شرف الدین ابن الموصلی حنفی کو بھی نائب مقرر کیا، اور وہ مدرسہ کی محراب میں بیٹھتے تھے، اور آپ دو سال چار ماہ مسلسل فیصلے کرتے رہے۔ پھر ۴۷۰ھ ذوالحجہ کو ہفتہ کے روز ۹۵ سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ پھر آپ کو قاسیون کے دامن کوہ میں دفن کر دیا گیا۔

امیر بدر الدین محمد بن ابی القاسم:

الہکاری بانی مدرسہ قدس، آپ بہترین امراء میں سے تھے، اور ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، فرنگیوں نے آپ کو طور کے قلعے میں قتل کر دیا، اور آپ کو قدس میں اپنی تیار کردہ قبر میں دفن کیا گیا، جس کی آج تک زیارت کی جاتی ہے۔

شجاع محمود المعروف بابن الدماغ:

یہ عادل سے دوستوں میں سے تھا اور اسے جسیا کرتا تھا اور اس نے اس سے بہت سے اموال حاصل کیے اور اس کا گھرباب الفرج کے اندر تھا جسے اس کی بیوی عائشہ نے شافعیہ حنفیہ کے لیے مدرسہ بنا دیا اور اس پر واقع زمین وقف کی۔

شیخ صالحہ عابدہ زابہہ:

دمشق کی عالمہ عورتوں کی شیخہ اس نے وہ بن اللوز کا لقب اختیار کیا دختر نورنجان اور یہ اس کی آخر میں وفات پانے والی بیٹی تھی اور اس نے اپنے اموال کو اپنی مشہور بہن بنت العصبہ کی قبر پر وقف کر دیا۔

۶۱۵ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو عادل فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے مرج الصفر میں مقیم تھا اور اس نے اپنے بیٹے معظم کو قلعہ طورکو ویران کر دینے کا حکم دیا اور اس نے اسے ویران کر دیا۔ اور جو کچھ اس میں جنگی ہتھیار وغیرہ تھے انہیں فرنگیوں کے خوف سے شہروں کی طرف اٹھالایا اور ربیع الاول میں فرنگی و میاط آگئے۔ اور انہوں نے جمادی الاول میں برج السلسلہ پر قبضہ کر لیا اور وہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور وہ بلاد مصر کا قفل تھا۔ اور اس سال معظم اور فرنگیوں نے القیون پر ٹڈ بھیر کی تو اس نے انہیں شکست دی۔ اور ان میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا اور ایک سوا لداویہ کو قیدی بنا لیا۔ اور ان کے سرداروں کو سرنگوں کر کے قدس لے گیا۔

اور اس سال موصل شہر میں اس کے بادشاہوں کے یکے بعد دیگرے مرنے کی وجہ سے بڑے مصائب آئے۔ یہ ملوک قرا ارسلان کے بیٹے تھے اور ان کے باپ کا غلام بدرالدین لؤلؤ تمام امور پر مغلوب ہو گیا۔ واللہ اعلم

اور اس سال شاہ روم کی کارلیس شجر حلب کی مملکت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ اور شاہ سمیساٹ افضل بن صلاح الدین نے اس معاملے میں اس کی مدد کی۔ تو ملک اشرف موسیٰ بن عادل نے اسے اس بات سے روک دیا۔ اور اس نے شاہ روم کو مغلوب کر لیا اور اس کی فوج کو شکست دی اور اسے ناکام و نامراد واپس کر دیا۔ اور اس سال اشرف نے اپنے مقبوضہ ممالک کے علاوہ سنجاہ شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔

اور اس سال سلطان ملک عادل ابو بکر بن ایوب نے وفات پائی اور فرنگیوں نے دمیاط پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ دمیاط کی سرحد سے بلاد مصر کو گئے اور چار ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا اور ملک کامل ان سے جنگ کرتا رہا اور انہیں روکتا رہا۔ پس انہوں نے برج السلسلہ پر قبضہ کر لیا اور وہ دیا مصر کے لیے قفل کی طرح ہے اور وہ نیل میں جہاں وہ سمندر میں جا پڑتا ہے جزیرہ کے وسط میں ہے اور وہاں سے وہ دمیاط کی طرف چلا جاتا ہے اور دمیاط سمندر کے کنارے پر ہے اور اس سلسلے کا کنارہ دوسری جانب ہے اور اس پر پل بنا ہوا ہے اور ایک دوسرا سلسلہ سمندر میں سے نیل میں کشتیوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہے۔ اور داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب فرنگیوں نے اس برج پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کو یہ بات بہت شاق گذری اور جب مرج الصفر میں ملک عادل کو یہ خبر ملی تو اس نے ایک سخت آہ بھری اور مسلمانوں اور ان کے شہروں پر غم و افسوس کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور منٹائے الہی کے مطابق اسی وقت مرض الموت نے اسے آلیا۔

اور جب ۷ ہجری کے آخری روز آیا تو غائبین کی ہستی میں فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا معظم سرعت کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے ڈھانڈھا لیا اور اسے اسٹریپر پر ایک خادم نے ساتھ لیا تو سلطان بیمار ہے۔ اور جب کوئی امیر اسے سلام کرنے آتا تو کسی اس کی طرف سے انہیں سلام پہنچاتا، گویا وہ سلام کا جواب دینے سے عاجز ہے اور جب وہ اسے قلعہ میں لے گیا تو اس نے ایک مدت تک اسے وہاں ڈن کر دیا پھر اسے عادلہ کبیرہ میں اس کی قبر میں منتقل کر دیا اور ملک سیف الدین ابو بکر بن ایوب بن شادی، بہترین نیک سیرت دیندار، غلند صابرا اور باوقار بادشاہوں میں سے تھا، اس نے محرمات شراب اور گانے بجانے کے آلات کو اپنی تمام مملکت سے ختم کر دیا جو مصر کے دور دراز شہروں سے یمن، شام، جزیرہ اور تمام میدان تک پھیلی ہوئی تھی اس نے حلب کے سوا اسے اپنے بھائی صلاح الدین کے بعد حاصل کیا۔ اور اس نے حلب کو اپنے پیچھے اظہر غازی کے پاس رہنے دیا، اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی صفیہ الست خاتون کا اس سے نکاح کیا تھا۔ اور عادل، حلم، گذر کرنے والا اور مصیبت پر صبر کرنے والا تھا اور خود اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بہت جہاد کرنے والا تھا، وہ اس کے ساتھ تمام معرکوں میں حاضر ہوا یا اکثر معرکوں میں شامل ہوا جو فرنگیوں کے ساتھ ہوئے اور اسے اس میں بڑی شہرت حاصل تھی اور وہ بخیل شخص تھا۔ لیکن اس نے مصر میں گرانی کے سال فقراء پر بڑا مال خرچ کیا اور حاجتمندوں کو بہت صدقہ دیا۔ پھر اس نے گرانی کے سال کے بعد دوسرے سال ایک لاکھ مسافروں اور فقراء کے فوت ہو جانے پر انہیں کفن دیئے اور وہ اپنی بیماری کے ایام میں بہت صدقہ دینے والا تھا۔ حتیٰ کہ جو کچھ اس کے جسم پر ہوتا اسے بھی اتار کر دے دیتا اور اس نے اپنی سواروں کو بھی صدقہ کر دیا اور وہ بہت کھانے والا تھا۔ اور بکثرت روزے رکھنے کے باوجود صحت مند تھا اور وہ ایک دن میں اچھے کھانے کھاتا تھا، پھر اس کے بعد نیند کے وقت ایک رطل دمشق خشک میٹھا حلوہ کھاتا اور بخار کے زمانے میں اس کے ناک میں ایک بیماری تھی اور دمشق میں جب تک بخار کا زمانہ ختم نہ ہو جائے وہ کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اور مرج الصفر میں اس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ پھر وہ بعد از اس شہر میں داخل ہوتا تھا۔

اس نے ۷۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے بہت لڑکے تھے۔ محمد اکامل حاکم مصر، عیسیٰ المعظم حاکم دمشق، موسیٰ اشرف حاکم جزیرہ و خلاط و حران، اور اوحدا یوب اس سے پہلے فوت ہو گیا تھا اور فائز ابراہیم اور مظفر غازی حاکم الرہا، عزیز عثمان اور امجد حسن، معظم کے حقیقی بھائی تھے۔ مغیث محمود اور حافظ ارسلان حاکم جبیر، صالح اسماعیل، قاہر اسحاق، مجیر الدین یعقوب، قطب الدین احمد اور خلیل یہ سب سے چھوٹا تھا۔ تقی الدین عباس یہ سب سے آخر میں وفات پانے والا تھا جو ۶۶۰ھ تک زندہ رہا اور اس کی بیٹیاں بھی تھیں جن میں سے زیادہ مشہور الست صفیہ خاتون تھی جو حاکم حلب اظہر غازی کی بیوی تھی اور ملک عزیز کی والدہ تھی جو ناصر یوسف کا باپ تھا جس نے دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اسی کی طرف ناصر تیان منسوب ہیں ایک دمشق میں ہے اور دوسری دامن کوہ میں ہے اور اس کو ہلاکو خان نے قتل کیا تھا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

فرنگیوں کے دمیاط پر قبضہ کرنے کا بیان:

جب عادل کی موت کی خبر مشہور ہوئی اور اس کے بیٹے کامل کو پہنچی تو وہ دمیاط کی سرحد پر فرنگیوں کے مقابل پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس خبر نے مسلمانوں کے اعضاء کو کمزور کر دیا اور وہ بزدل ہو گئے۔ پھر کامل کو دوسری خبر ملی کہ امیر ابن المشطوب جو مصر کا سب

سے بڑا امیر تھا نے کامل کی بجائے فائز کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ اگلا ہی سواروں کا رسالہ لے کر مصر میں داخل ہو گیا۔ تاکہ وہ اس بڑی مصیبت کی تلافی کرے۔ اور جب فوج نے اس اپنے درمیان میں نہ پایا تو اس کا نظام بگڑ گیا اور انہوں نے خیال کیا کہ عادل کی موت سے بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے پس وہ اس کے پیچھے گئے اور فرنگی بسن و لمان کے ساتھ دیا مصر میں داخل ہو گئے۔ اور انہوں نے کامل کی چھاؤنی اور اس کے برجون پر قبضہ کر لیا اور بڑی کڑ بڑھ پیدا ہو گئی اور یہ عزیز و عظیم خدا کی تقدیر ہے۔ اور جب کامل مصر میں داخل ہوا تو جو کچھ اس نے خیال کیا تھا اس میں سے کچھ بھی واقع نہ ہوا تھا اور یہ فرنگیوں کی ایک چال تھی اور ابن المشطوب اس سے ڈر کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر وہ فوراً فوج کے ساتھ سوار ہو کر فرنگیوں کی طرف گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ معاملہ بڑھ گیا ہے اور انہوں نے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے اور بہت سی غنیمت حاصل کی ہے۔ اور وہاں جو بدو تھے انہوں نے لوگوں کے اموال میں خرابی کی ہے اور وہ ان کے لیے فرنگیوں سے بھی زیادہ نقصان دہ تھے۔ اور کامل فرنگیوں کے بالمقابل اترا اور ان کو قاہرہ میں داخل ہونے سے روکنے لگا اور اس سے قبل وہ انہیں سرحد میں داخل ہونے سے روکتا تھا اور اس نے اپنے بھائیوں سے مدد مانگتے ہوئے انہیں لکھا کہ جلدی کرو جلدی کرو۔

فرنگیوں کے سارے مصری علاقے پر قبضہ کرنے سے قبل مسلمانوں کی مدد کو پہنچو اور ہر جگہ سے اسلامی فوجیں اس کے پاس آ گئیں اور سب سے پہلے اس کا بھائی اشرف اس کے پاس آیا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے پھر معظم آیا اور فرنگیوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا اسے ہم ابھی اس سال کے بعد بیان کریں گے۔

اور اس سال بغداد کا احتساب صاحب محی الدین یوسف بن ابی الفرج ابن الجوزی نے سنبھالا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت مقررہ پر اپنے باپ کے دستور کے مطابق وعظ بھی کرتا تھا۔ اور اس نے احتساب کے ملنے پر شکر ادا کیا۔ اور اس سال اس نے معظم کو بدری علاقے کی نگرانی سپرد کر دی جو الشبیلہ کے سامنے اس پل کے پاس ہے جو ثور پر واقع ہے اور جسے جسر کھیل کہا جاتا ہے۔ اور وہ حسن بن الدایہ کی طرف منسوب ہے وہ اور اس کا بھائی نور الدین محمود بن زنگی کے اکابر امراء میں سے تھا اور اس نے ۶۲۰ھ کے دوران ایک جامع مسجد تعمیر کی جس میں وہ جمعہ کے روز خطبہ دیتا تھا۔

اور اس سال سلطان علاء الدین محمد بن تکتش نے ملک عادل کی طرف ایلیچی بھیجا اور وہ مرج الصفر میں خیمہ زن تھا تو اس نے ایلیچی کے ساتھ اس کی طرف خطیب دمشق جمال الدین محمد بن عبد الملک الدولعی کو واپس بھیجا اور شیخ الموفق عمر بن یوسف خطیب بیت الابار نے خطابت میں اس کی نیابت کی اور اس نے اس کی طرف کام سنبھالتے ہوئے العزیز یہ میں اقامت اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ وہ آ گیا اور عادل فوت ہو چکا تھا۔

اور اس سال شاہ موصل ملک قاہر نے وفات پائی اور اس کے چھوٹے بیٹے کو اس کی جگہ کھڑا کیا گیا پھر وہ قتل ہو گیا۔ اور اتا بکی گھرانے کی جمعیت پریشان ہو گئی اور امور پر اس کے باپ کا غلام بدر الدین لؤلؤ مغلوب ہو گیا۔ اور اس سال عادل کی موت کے بعد بلا و مشرق سے وزیر صفی الدین عبد اللہ ابن علی بن شکر کی واپسی ہوئی۔ اور اس بارے میں علم الدین نے اس کی مدح میں ایک خطبہ تیار کیا۔ اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ وہ متواضع اور فقراء اور فقہاء سے محبت رکھتا تھا۔ اور جب وہ اپنی وزارت کی شان و شوکت

کے ساتھ سوار ہو کر لوگوں کے پاس سے گذرتا تو انہیں سلام کہتا۔ پھر اس سال اسے مصیبت پہنچی اور وہ یوں کہ کامل ہی اس کے دھتکارنے اور دور کرنے کا سبب تھا اس نے اپنے بھائی معظم کو اس کے متعلق لکھا تو اس نے اس کے اموال و ذخائر کی محافظت کی اور اپنے بیٹے کو پھر یوں کی گمرانی سے معزول کر دیا اور وہ اپنے باپ کی غیر حاضری میں اس کی نیابت کرتا تھا۔

اور اس سال کے رجب میں معظم نے کلوکارہ لونڈیوں، شراب اور دیگر فواحش، منکرات کی دوبارہ کفالت دے دی جنہیں اس کے باپ نے ختم کر دیا تھا اور کوئی شخص جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ خفیہ جیلہ کے بغیر ایک کف بھر شراب دمشق لے جا سکے اللہ تعالیٰ عادل کو جزائے خیر دے اور معظم نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کی جزائے خیر نہ دے اور معظم نے اس بارے میں یہ عذر کیا ہے کہ اس نے یہ ناپسندیدہ فعل سپاہیوں کے لیے مال کی کمی اور فرنگیوں کے ساتھ جنگی اخراجات کی ضرورت کے لیے کیا ہے۔ اور یہ اس کی جہالت اور دینی کمی اور معاملات کے نہ جاننے کی بات ہے۔ بلاشبہ یہ فعل دشمنوں کو ان پر غالب کرے گا اور انہیں ان پر فتح دے گا اور بیماری کو ان پر قابو دے دے گا۔ اور سپاہیوں کو جنگ سے روک دے گا اور وہ اس کے سبب پیٹھ پھیر جائیں گے۔ اور یہ وہ بات ہے جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے اور حکومتوں کو تبدیل کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جب مجھے پہچاننے والا میری نافرمانی کرے گا تو میں اس پر اس شخص کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں پہچانتا۔ اور یہ بات کسی سمجھدار آدمی پر مخفی نہیں۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

قاضی شرف الدین:

ابو طالب عبداللہ بن زین القضاة عبدالرحمن بن سلطان بن یحییٰ النخعی بغدادی نابینا، آپ علم الاوائل کی طرف منسوب ہوئے تھے۔ لیکن ظاہر یہ مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔

ابن السائبی نے آپ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ داؤدی المذہب تھے اور ادب و اعتقاد کی رو سے معری تھے۔ اس کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”میں جو تکلیف برداشت کر رہا ہوں اس کی شکایت میں خدائے رحمان کے پاس کروں گا۔ اس روز وہ صبح کو تیز رفتار اونٹنیوں پر بھاگ گئے میں نے تم سے پوچھا ہے کہ سوار یوں کو کس نے باندھا ہے اور تمہارا گذرنا فراق سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ اور کیا دوری سے بھی کوئی بڑی ذلت ہے اور کیا ملاقات سے بڑھ کر بھی کوئی لذیذ عیش ہے“۔

عماد الدین ابوالقاسم:

عبداللہ بن الحسین بن الدامغانی الحنفی بغداد کے قاضی القضاة تھے آپ نے حدیث کا سماع کیا اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے فقیہ تھے اور آپ تقریباً ۱۴ سال بغداد میں قاضی رہے آپ قابل تعریف سیرت اور حساب و فرائض اور ترکات کی تقسیم کے ماہر تھے۔

① مصری نسخے میں تقریباً سترہ سال ہے۔

ابو الیسٰ بن نجاح بن عبد اللہ حبشی:

اسودانی خلیفہ مصر کا غلام اسے دارالخلافہ کا مسلمان مہی تھے اور یہ خلیفہ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ اور جب یہ فوت ہوا تو خلیفہ کو اس کا برکت نامہ ملا اور اس کے جنازہ کا وہ ان اجماع کا وہ تھا اور اس کی غسل کے آگے ایک سگائے ایک ہزار بھری اور کھجوروں اور روٹیوں کے بوجہ تھے۔ اور خلیفہ نے تاج لے لیجے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس کی طرف سے دس ہزار دینار مزارات کو صدقہ دیا اور اتنے ہی دینار حرمین کے بجا وروں کو دیئے اور اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور اس کی طرف سے پانچ سو مجلدات وقف کیں۔

ابوالمظفر محمد بن علوان:

ابن مہاجر بن علی بن مہاجر مصلیٰ آپ نظامیہ میں فقیہ بنے اور حدیث کا سماع کیا پھر موصل کی طرف واپس آئے اور وہاں اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار بن گئے۔ اور بدرالدین لؤلؤ وغیرہ کے مدرسہ میں فتویٰ و تدریس میں آگے بڑھ گئے اور آپ صالح اور دیندار شخص تھے۔

ابوالطیب رزق اللہ بن یحییٰ:

ابن رزق اللہ بن یحییٰ بن خلیفہ بن سلیمان بن رزق اللہ بن غانم بن غنائم التاضری محدث جہاں گرد مسافر ثقہ حافظ ادیب شاعر ابوالعباس احمد بن برکش بن عبداللہ عمادی آپ سنجار کے امراء میں سے تھے اور آپ کا باپ ملک عماد الدین زنگی کے غلاموں میں سے تھا اور یہ احمد دیندار شاعر بہت مالدار اور بہت املاک کا مالک تھا۔ اور قطب الدین محمد بن عماد الدین زنگی نے اس کے اموال کی محافظت کی اور اسے قید خانے میں ڈال کر بھول گیا۔ اور یہ غم سے مر گیا اس کے اشعار میں سے یہ شعر بھی ہیں۔

”میں نے اسے الوداع کہا تو اس کے آنسو جدائی کے خوف سے اس کے رخساروں پر مل رہے تھے۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ عمر کا زیادہ فائدہ بخش حصہ تو گذر چکا ہے، آہنگی اختیار کر اور جو عمر باقی رہ گئی ہے اس میں نیک عمل کر لے۔“

۱۱۶ھ

اس سال شیخ محی الدین ابن الجوزی محتسب بغداد نے معظم کے حکم کے برعکس ناپسندیدہ امور کے ازالہ کرنے اور لہو و لعب کے سامان کو توڑنے کا حکم دے دیا اور اس نے یہ حکم اس سال کے آغاز میں دیا۔

چنگیز خان کا ظہور اور تاتار کا دریاے جیحون کو عبور کرنا:

اس سال تاتاریوں نے اپنے بادشاہ چنگیز خان کی صحبت میں اپنے ملک سے دریاے جیحون کو عبور کر لیا۔ اور یہ لوگ چین کے علاقے میں طمغاج کے پہاڑوں میں رہتے تھے اور ان کی زبان بقیہ تاتاریوں کی زبان سے مختلف تھی۔ اور یہ جنگ میں بڑے شجاع اور بڑے صبر و استقلال والے تھے۔ اور دریاے جیحون میں ان کے دخول کا سبب یہ ہوا کہ چنگیز خان نے اپنے تاجروں کو کثیر اموال کے ساتھ خوارزم شاہ کے علاقے کی طرف بھیجا وہ اس کے پہنچنے کے لیے کپڑوں کی پونجی بناتے تھے۔ اور اس کے نائب نے خوارزم شاہ کو خط لکھا جس میں اس نے اسے ان اموال کے متعلق بتایا جو ان کے پاس تھے تو اس نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ انہیں قتل

کردے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسے چھین لے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔

اور جب چنگیز خان کو ان کی اطلاع ملی تو اس نے خوارزم شاہ کو دعوای دی اور جو کچھ خوارزم شاہ نے کیا وہ کوئی اچھا فعل نہ تھا۔ اور جب اس نے اسے ہتھیاری تو اس نے خوارزم شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ان کے مقابلہ میں جائے۔ تو وہ ان کی طرف روانہ ہو گیا اور وہ کشمیں حال لے ساتھ جنگ میں معروف تھے پس خوارزم نے ان کے اموال لوٹ لیے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اور وہ لٹ پٹ کر اس کے مقابلہ میں آئے اور چار دن اس سے ایسی جنگ کی جس کی مثال نہیں سنی گئی۔ وہ اپنے حریم کے بچاؤ کے لیے جنگ کرتے تھے۔ اور مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے مصروف پیکار تھے۔ اور جانتے تھے کہ جب وہ حکمران بن گئے تو وہ ان کی تیغ کشی کر دیں گے۔ پس فریقین کے بہت سے آدمی مارے گئے حتیٰ کہ گھوڑے خون میں پھسلتے پھرتے تھے اور تقریباً بیس ہزار مسلمان قتل ہو گئے۔ اور تاریخوں کے منتقلین کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی پھر فریقین نے ایک دوسرے کو روکا اور دونوں اپنے اپنے علاقے کی طرف واپس آ گئے اور خوارزم شاہ اور اس کے اصحاب نے بخارہ اور سمرقند کی پناہ لے لی اور سمرقند کو مضبوط کیا۔

اور جن جاننازوں کو وہ وہاں چھوڑ گیا تھا ان کی کثرت میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑی اور اپنے ملک کو لوٹ آیا تاکہ بہت سی افواج کو تیار کرے۔ اور تاریخوں نے بخارا کا قصد کیا جہاں بیس ہزار جانناز موجود تھے چنگیز خان نے تین دن اس کا محاصرہ کیا تو بخارہ کے باشندوں نے اس سے امان طلب کی تو اس نے انہیں امان دے دی اور اس میں داخل ہو گیا۔ اور کمر و فریب سے ان سے اچھا سلوک کیا اور قلعہ اس کے لیے رکاوٹ بن گیا تو اس نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس نے اہل شہر کو اس کی خندق بھرنے کو کہا۔ اور تاریخوں نے منابر اور اونٹنیوں کے بچوں کو لاکر انہیں خندق بھرنے کے لیے اس میں پھینک دیتے۔ اور انہوں نے دس دنوں میں اسے بزور قوت فتح کر لیا۔ اور جو لوگ اس قلعہ میں موجود تھے انہیں قتل کر دیا پھر وہ شہر کی طرف واپس آیا اور اس نے شہر کے تاجروں کے مال کو چن لیا اور اسے اپنے سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا اور انہوں نے شہر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اور ان کے اہل کی موجودگی میں ان کے ساتھ فواحش کا ارتکاب کیا۔ اور کچھ لوگ تو اپنی بیویوں کا تحفظ کرتے ہوئے قتل ہو گئے۔ اور کچھ کو انہوں نے قیدی بنا لیا اور انہیں طرح طرح کے عذاب دیئے۔ اور شہر میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی بہت آہ و بکا ہو گئی۔ پھر تاریخوں نے بخارہ کے گھروں، مدارس اور مساجد میں آگ پھینکی اور وہ جل کر ویران ہو گیا اور اپنی چھتوں سمیت منہدم ہو گیا۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر سمرقند کو پلٹے اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے ہم آئندہ سال میں بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ

اور اس سال کے آغاز میں اس نے بیت المقدس کی فصیل گرا دی اور معظم نے اس خوف سے کہ کہیں فرنگی اس پر قابض نہ ہو جائیں مشورہ کے بعد اس کے گرانے کا حکم دے دیا بلاشبہ جب فرنگی اس پر قبضہ کر لیں گے تو وہ اسے سارے شام پر قبضہ کرنے کا وسیلہ بنا لیں گے۔ سو اس نے یکم محرم کو فصیل کو گرانے شروع کر دیا۔ اور وہاں کے باشندے فرنگیوں کے خوف سے کہ وہ رات اور دن کو ان پر حملہ کر دیں گے ڈر کر بھاگ گئے اور اپنے اموال اور اثاثے بھی چھوڑ گئے اور تمام شہروں میں بکھر گئے۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ تیل کا ایک قطرا درہم میں اور تانبے کا رطل نصف درہم میں فروخت ہوا۔ اور لوگوں نے صخرہ کے پاس اور مسجد اقصیٰ میں

اللہ کے حضور آہ و بکا کی اور یہ بھی معظم کا ایک برا فعل تھا۔ علاوہ ازیں اس نے گذشتہ سال اسلامیہ فوجوں کا ارتکاب کیا تھا اور ایک نماز کے عظیم جوارتے بنے۔

اس نے رجب میں شراب کو جائز کیا اور حرم میں قدموں کو میراں کیا۔ اور اس سال فرنگیوں نے دمیاط شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور انہوں نے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور اس کے باشندوں کے ساتھ نیابت کی اور اس کے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اور عورتوں کے ساتھ زنا کاری لی اور جامع مسجد کے منبر بچے ہائے تتر اور مقتولین کے سروں کو الجزائری طرف بھیج دیا اور جامع مسجد کو گر جائنا دیا۔

اور اس سال معظم قاضی زکی الدین بن الزکی سے ناراض ہو گیا اور اس کا سبب یہ ہوا کہ اس کی پھوپھی ست الشام بنت ایوب اپنے اس گھر میں جسے اس نے اپنے بعد مدرسہ بنا دیا تھا بیمار ہو گئی اور اس نے قاضی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے وصیت کرنا چاہتی ہے۔ وہ گواہوں کے ساتھ اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے کہنے کے مطابق وصیت لکھی، معظم نے کہا وہ میری پھوپھی کے پاس میری اجازت کے بغیر جاتا ہے۔ اور وہ اور گواہ اس کی گفتگو سنتے ہیں؟

اتفاق سے قاضی نے العزیز یہ کے خزانچی سے اس کا حساب مانگا اور اسے اپنے سامنے کوڑوں سے مارا۔ اور معظم اپنے باپ کے زمانے سے اس قاضی سے بغض رکھتا تھا۔ اس موقع پر معظم نے قاضی کی طرف ایک بقیہ بھیجا جس میں قبا اور ٹوپی تھی۔ قبا سفید اور ٹوپی زرد تھی۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں سرخ اور میلے تھے۔ اور ایلچی نے سلطان کی طرف سے حلف اٹھایا کہ وہ ضرور ان دونوں کو پہن کر جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور یہ اللہ کا خاص فضل ہوا کہ یہ پیغام اسے اس وقت ملا جب وہ اپنے باب البرید والے گھر کی ڈیوڑھی میں تھا اور وہ فیصلے کے لیے کھڑا تھا۔ اور اس نے ان دونوں کے پہننے اور ان میں فیصلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اور اسے مرض الموت نے آ لیا اور اس کی وفات آئندہ سال صفر میں ہوئی۔ اور شرف بن عنین الزری شاعر نے درویشی اور عبادت کا اظہار کیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح جامع مسجد میں معکف تھا کہ معظم نے اس کے پاس شراب اور زرد بھیجی تاکہ وہ ان سے شغل کرے تو ابن عنین نے اسے لکھا۔

”اے ملک معظم، آپ نے جو بدعت ایجاد کی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی اور بادشاہ آپ کے طریق پر چلیں گے۔ اور قاضیوں کو خلعت اور درویشوں کو تمنغے دیں گے۔“

یہ بھی اس کا نتیجہ ترین فعل ہے اور ابن الزکی کے چار نائب تھے، شمس الدین بن الشیرازی امام مزار علی، آپ مزار پر کھڑکی میں فیصلے کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی سیاہ فرش کے سامنے برآمدے میں بھی آ جاتے تھے، شمس الدین ابن سنی الدولہ، آپ الکلاسیہ والی کھڑکی میں فیصلے کرتے تھے جو الغزالیہ کے پاس صلاح الدین کی قبر کے سامنے ہے، کمال الدین مصری وکیل بیت المال، آپ مزار عثمان پر کمالی کھڑکی میں فیصلے کرتے تھے، شرف الدین موصلی حنفی، آپ جبرون میں مدرسہ طرخانیہ میں فیصلے کرتے تھے۔ واللہ اعلم

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ست الشام:

خاتون ست الشام بنت ایوب بن شادی دو مدرسوں البرانیہ اور الجوانیہ کو وقف کرنے والی اور بادشاہوں کی بہن اور ان کے بچوں کی پھوپھی اور بادشاہوں کی ماں ہے۔ اس کے محارم بلوک میں سے ۳۵ بادشاہ تھے جن میں اس کا سگا بھائی معظم توران شاہ بن ایوب شاہ بن بھی تھا۔ اور وہ تین قبروں میں سے سامنے کی قبر میں اس کے پاس مدفون ہے۔ اور درمیان قبر میں اس کا خاوند اور عمزاد ناصر الدین محمد بن اسد الدین شیرکوہ بن شادی شاہ حمص دفن ہے اور اس نے اپنے بیٹے حسام الدین عمر بن لاجین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر تیسری قبر میں دفن ہے اور وہی درس کی جگہ کے نزدیک ہے۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قبرستان اور مدرسہ حسامیہ کی نسبت اس کے اسی بیٹے حسام الدین عمر بن لاجین کی طرف ہے۔ اور وہ اپنے ماموں صلاح الدین کے پاس اکابر علماء میں سے تھا۔ اور ست الشام بہت صدقہ کرنے والی اور فقراء اور محتاجوں سے بہت حسن سلوک کرنے والی عورت تھی۔ اور وہ ہر سال اپنے گھر میں ہزاروں روپے کے سونے سے، مشروبات ادویات اور بوٹیاں وغیرہ تیار کر کے انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور اس کی وفات اس سال ۱۶ رذوالقعدہ جمعہ کے روز دن کے آخر میں اپنے اس گھر میں ہوئی جسے اس نے مدرسہ بنا دیا ہے اور وہ شفا خانے کے پاس ہے۔ اور وہ شامیہ جوانیہ شفا خانہ ہے۔ اور اسے وہاں سے اٹھا کر شامیہ برانیہ میں اس کی قبر میں لایا گیا اور اس کا جنازہ بڑا بھر پور تھا۔

ابوالبقاء مؤلف الاعراب واللباب:

عبداللہ بن الحسین بن عبداللہ شیخ ابوالبقاء البکری نابینا نحوی حنبلی، اعراب القرآن العزیز اور نحوی کتاب اللباب کا مؤلف ہے آپ نے مقامات اور زمخشری کی المفصل اور متنی کے دیوان پر حاشیے لکھے ہیں اور حساب کے بارے میں بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ آپ صالح اور دیندار شخص تھے آپ نے تقریباً ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی ہے آپ لغت کے امام تھے۔ فقیہ مناظر اصلین اور فقہ کے ماہر تھے۔

قاضی ابن خلکان نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے مقامات کی شرح میں بیان کیا ہے کہ عنقائے مغرب اصحاب الرس کے پاس ایک بلند پہاڑ پر آیا کرتا تھا اور بسا اوقات ان کے بچوں کو بھی اچک کر لے جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی حنظلہ بن صفوان کے پاس شکایت کی تو اس نے اس کے خلاف بددعا کی تو وہ مر گیا۔

راوی بیان کرتا ہے اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا اور اس میں ہر پرندے کی مثل پائی جاتی تھی۔ اور زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں بیان کیا ہے کہ عنقائے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا جس کے ہر جانب پر تھے۔ اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا۔ اور دیگر حیوانات کی مثل بھی اس میں بہت کچھ پایا جاتا تھا۔ اور وہ خالد بن سنان عصبی کے زمانے تک رہا۔ جو

فترت کے زمانے میں ہوا ہے اس نے اس کے خلاف بددعا کی، تو وہ مر گیا۔ واللہ اعلم

اور ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ المعون طبری کے پانچ اصعبیہ سے ایک شیبہ دمریب قش کا پتہ دیا گیا کہ اسے شتائے قمریہ کہا جاتا تھا میں کہتا ہوں، خالد بن سنان اور حنظلہ بن صفوان دونوں زمانہ فترت میں ہوئے ہیں۔ حنظلہ ایک نیک آدمی تھے مگر نبی نہیں تھے۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ میں اوگوں سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زیادہ نزدیک ہوں اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور یہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حافظ عماد الدین ابوالقاسم:

علی بن حافظ بہاؤ الدین ابی محمد قاسم بن حافظ کبیر ابوالقاسم علی بن حسن بہتہ اللہ ابن عسا کر دمشقی، آپ نے کثیر سے سماع کیا اور سفر کیا۔ اور اس سال بغداد میں وفات پائی، اور آپ نے سچھے کے بارے میں لطیف اشعار کہے ہیں۔
چنگھا ہر غم سے راحت دیتا ہے۔ اور تین ماہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یعنی جون، جولائی اور اگست اور ستمبر میں اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

ابن الداوی:

شاعر تھا، اور ابن السامی نے اس کے اچھے اشعار کو بیان کیا ہے۔ اور ابوسعید بن الوزان الداوی، بغداد کا ایک معتبر شخص تھا۔ اس نے بخاری کو ابوالوقت سے سنا۔

اور ابوسعید محمد بن محمود بن عبدالرحمن اصلاً مروزی، اور پیدائش اور وفات کے لحاظ سے بغدادی ہے۔ یہ خوبصورت اور کامل اوصاف شخص تھا، اس کا خط بہت اچھا تھا۔ اور بہت سے علوم و فنون کو جانتا تھا، اور شافعی المذہب تھا۔ اور مسائل خلافیہ میں گفتگو کرتا تھا۔ اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”میں آسودہ حال اور مشقت کرنے والے کے لیے رزق کی تقسیم کو عجیب خیال کرتا ہوں۔ مالدار احمق ہے۔ اور نادار احمق ہے۔ اور عقل قسمت کے بغیر ہے، اور اس کی ایک حد بھی ہے۔ تو نگری اور فقر، جاہل اور عقلمند پر چھایا ہوا ہے۔ اور امور کا قبل وبعد اللہ ہی کے لیے ہے۔“

ابوزکریا یحییٰ بن قاسم:

ابن الفرغ بن ورع بن خضر شافعی، شیخ تاج الدین، کریت کا قاضی پھر آپ نے نظامیہ بغداد میں پڑھا، اور آری بہت سے علوم میں ماہر تھے۔ تفسیر، فقہ، ادب، لغت اور نحو وغیرہ اور ان سب علوم میں اس کی تصنیفات بھی موجود ہیں۔ اور آپ نے اپنی تاریخ کو بہت اچھا تالیف کیا ہے، اور آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”آدمی کے لیے تنگی و فراخی اور خوشی اور غم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کے شکر کا خواہاں ہے اور

① مصر کے چند شہروں کا نام الصعید ہے۔ (مترجم)

مصائب میں سبر کا خواہاں ہے۔ دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو وہ ظاہر و باطن میں تجھ سے راضی ہو جائے گا۔
زمانہ نہ کئی سچی پر قائم رہتا ہے اور نہ ہی آسائشیں پر قائم رہتا ہے۔

اسی طرح آپ کے یہ اشعار بھی ہیں:

”اگر محبت نے میرے خلاف یا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو اس نے فیصلے میں میرے خلاف یا میرے حق میں ظلم نہیں کیا۔

اے جمال یوسف کے حامل! تیرے پاس میرے لیے کوئی حیلہ نہیں رہا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو تیرے بارے میں دل آگے سے پھٹ گیا ہے۔“

صاحب الجواہر:

شیخ امام جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن نجم بن ساس بن نزار بن عشا کر بن عبداللہ بن محمد بن سلس الجذامی المالکی الفقیہ، مصنف کتاب الجواہر الشمینہ فی مذہب عالم المدنیہ یہ کتاب فروع میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے اسے امام غزالی کی الوجیز کے طریق پر مرتب کیا ہے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس میں آپ کے علم و فضل کی وسعت پائی جاتی ہے۔ اور مصر میں مالکی جماعت اس کے حسن اور کثرت فوائد کے باعث اسی پر چھکی رہتی ہے، آپ مصر میں مدرس تھے۔ اور آپ نے دمیاط میں وفات پائی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

۱۱ھ

اس سال چنگیز خان مسکی توجین کی مصیبت عظیم اور ہمہ گیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے ساتھی تاتاریوں پر لعنت کرے۔ اور ان کا معاملہ بڑھ گیا اور چین کے دور دراز علاقوں سے لے کر بلاد عراق اور اس کے ارد گرد حتیٰ کہ اربل اور اس کے مضافات تک ان کی خرابی نے شدت اختیار کر لی۔ اور انھوں نے اس ایک ہی سال میں عراق، جزیرہ اور شام و مصر کے سوا بقیہ ممالک پر قبضہ کر لیا۔ اور ان نواح میں جو اقوام خوارزمی، قنجان، الکرج اللان اور نزر وغیرہ آباد تھیں، ان سب کو مغلوب کر لیا۔ اور اس سال متعدد بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کر دیا، مختصر یہ کہ وہ جس شہر میں بھی داخل ہوئے انہوں نے اس میں رہنے والے تمام جانباڑوں، جوانوں اور بہت سی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا، اور جس چیز کی انہیں ضرورت پڑی، اسے انہوں نے لوٹ کر تلف کر دیا۔ اور جس کی انہیں ضرورت نہ پڑی، اسے انہوں نے آگ لگا کر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ اس قدر ریشم اکٹھا کر لیتے تھے کہ اس کے اٹھانے سے عاجز آ جاتے تھے، اور اسے آگ لگا کر اس کا تماشہ دیکھتے تھے، اور گھروں کو برباد کر دیتے تھے۔ اور جس گھر کو برباد نہ کر سکتے، اسے آگ لگا دیتے، اور انہوں نے بہت سی مساجد اور جوامع کو نذر آتش کر دیا۔ اور وہ مسلمان قیدیوں کو پکڑ کر ان کے ذریعے جنگ کرتے اور محاصرہ کرتے۔ اور اگر وہ جنگ میں ان کی خیر خواہی نہ کرتے، تو انہیں قتل کر دیتے اور ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں اس سال میں ان کے حالات کو بڑے خوب صورت انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس عجیب و غریب مصیبت کی عظمت کے بیان میں بڑی پرہیزگاری ہے۔

آپ نے فرمایا ہے ہم کہتے ہیں۔ یہ فصل اس عظیم مصیبت اور بڑے حادثہ کے بیان پر مشتمل ہے جس نے زمانے کو اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ یہ مصیبت عام طور پر مخلوق کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے آئی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا اس قسم کی مصیبت سے دوپا نہیں ہوئی تو وہ سچا ہوگا بلاشبہ تاریخ نے اس کے قریب قریب اور اس سے لگا کھانے والا بھی کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔

اور مؤرخین جو سب سے بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو قتل کیا تھا اور بیت المقدس کو برباد کیا تھا۔ مگر ان ملعونوں نے جن شہروں کو برباد کیا ان میں سے ہر شہر بیت المقدس کی نسبت کئی گنا بڑا تھا اور جتنے آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا بنی اسرائیل کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ بلاشبہ جس ایک شہر کے باشندوں کو انہوں نے قتل کیا وہ بنی اسرائیل سے زیادہ تھے اور شاید لوگ یا جوج ماجوج کے حادثہ کے سوا دنیا کے ختم ہو جانے تک اس کی مانند کوئی حادثہ نہ دیکھیں گے۔ اور دجال اپنے پیروکاروں پر رحم کرے گا اور اپنے مخالفوں کو ہلاک کرے گا۔ اور انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا بلکہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا اور حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیئے۔ اور جو بچے رحم میں تھے انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس حادثہ پر جس کے شرارے اڑے اور جس کا ضرر ہمہ گیر ہو گیا۔ اور وہ شہروں میں اس بادل کی مانند گیا جس کی ہوا پشت پناہی کر رہی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

یہ لوگ چین کی اطراف سے نکلے اور انہوں نے بلاد ترکستان، مثلاً کاشغر اور بلاساغون کا قصد کیا۔ پھر وہاں سے ماوراء النہر کے علاقے مثلاً سمرقند اور بخارا وغیرہ میں آئے اور ان شہروں پر قبضہ کرنے لگے اور ان کے باشندوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگے جسے ہم بیان کریں گے۔ پھر ان میں سے ایک طائفہ خراسان کی طرف آ گیا۔ اور وہ حکومت تخریب کاری، قتل اور لوٹ مار کے لحاظ سے ان کا کام تمام کرنے لگے پھر وہاں سے وہ ری ہمدان، بلد الجبل اور اس کے شہروں سے عراق کی حد تک بڑھنے لگے۔ پھر وہ بلاد آذربائیجان اور آرانہ کا قصد کرنے لگے اور ان کے اکثر باشندوں کو قتل کرنے لگے اور ان کی دستبرد سے کوئی شاذ ہی بچ کر نکلا اور یہ وہ بات ہے جس کی مثل نہیں سنی گئی پھر وہ در بند شروان کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کی دستبرد سے صرف وہ قلعہ بچا جس میں ان کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس سے وہ اللان اور الکنز اور اس خطے میں جو مختلف اقوام تھیں ان کے پاس آ گئے اور انہیں خوب لوٹا اور قتل کیا اور برباد کیا پھر وہ بلاد قنجان کی طرف گئے جو ترکوں سے زیادہ تعداد میں تھے۔ پس انہوں نے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور دیگر لوگ جنگلات کی طرف بھاگ گئے اور انہوں نے انہیں اپنے شہروں کا بادشاہ بنا لیا۔ اور دوسرا طائفہ غزنی اور اس کے مضافات اور ان کے نزدیک جو ہندوستان کے شہر تھے اور سمستان اور کرمان چلا گیا۔ اور انہوں نے وہاں پر اسی قسم کے بلکہ ان سے بڑھ کر کام کیے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی مثل کانوں سے نہیں نکرائی۔ سکندر کے متعلق مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس نے دنیا پر غلبہ پایا ہے۔ مگر اس نے بھی ایک سال میں دنیا پر غلبہ نہیں پایا۔ بلکہ اس نے تقریباً دس سال میں دنیا پر غلبہ پایا ہے اور کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ لوگوں کی اطاعت کو پسند کیا اور انہوں نے معمورہ عالم کے اکثر حصے پر جو آبادی کے لحاظ سے بہترین اور زیادہ باشندوں والا اور بہتر اخلاق و سیرت والا تھا تقریباً ایک سال میں غلبہ پایا۔ اور جن شہروں میں یہ نہیں پہنچ

سکے ان کے باشندوں میں سے ہر ایک ان سے خوفزدہ ہو کر اور ان کی آمد کے انتظار میں رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلوع آفتاب کے وقت اسے سجدہ کرتے تھے اور کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے تھے اور جو حیوانات اور مردار انہیں ملتا سب کھا جاتے اللہ ان پر لعنت کرے۔

ابن اثیر بیان کرتے ہیں ان کی حکومت عدم مانع کی وجہ سے استوار ہوئی اس لیے کہ سلطان خوارزم شاہ محمد نے دیگر حکومتوں کے بادشاہوں کو قتل کر دیا تھا اور خود امور کو سنبھال لیا تھا۔ اور جب گذشتہ سال اس نے ان سے شکست کھائی اور ان کے مقابلے سے عاجز آ گیا اور وہ اس کے تعاقب میں آئے تو یہ بھاگ گیا اور معلوم نہیں کہ کہاں چلا گیا اور کسی سمندری جزیرہ میں ہلاک ہو گیا۔ شہر خالی ہو گئے۔ اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہا تا کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کرے جو ہو کر رہنے والی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب امور کو لوٹا یا جائے گا۔ پھر آپ نے جو کچھ مختصر طور پر بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی۔

آپ نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے جسے ہم نے گذشتہ سال میں بیان کیا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے تاجروں کو اپنا مال دے کر بھیجا کہ وہ اس کی قیمت سے لباس اور پہناوے اس کے پاس لائیں۔ اور خوارزم شاہ نے ان اموال کو چھین لیا تو چنگیز خان کو اس پر غصہ آیا اور اس نے اسے دھمکی دی تو خوارزم شاہ خود اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آیا اور اس نے تاتاریوں کو کشلی خان کے ساتھ مصروف پیکار دیکھا تو یہ ان کی عورتوں، بچوں اور بو جھوں کو لوٹ کر لے گیا اور وہ اپنے دشمن پر غالب آ کر واپس چلے گئے اور ان کے غیظ و غصے میں اضافہ ہو گیا پس انہوں نے اس نے اور ابن چنگیز خان نے تین دن جنگ کی اور فریقین میں سے بہت سے آدمی مارے گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو روکا۔ اور خوارزم شاہ اپنے ملک کی اطراف میں واپس آ گیا اور اس نے انہیں مضبوط کیا۔ پھر وہ اپنے ہیڈ کوارٹر اور مملکت میں شہر خوارزم شاہ میں واپس چلا گیا۔ اور چنگیز نے آ کر بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس نے اسے صلح سے فتح کر لیا اور اس کے باشندوں سے خیانت کی حتیٰ کہ اس نے بخارا کے قلعے کو بھی بزور قوت فتح کر لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ اور اموال کو حاصل کیا۔ اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور گھروں اور محلات کو تباہ کیا۔ اور وہاں پر بیس ہزار جاناہز موجود تھے مگر کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔

پھر اس نے سمرقند جا کر اس سال کی یکم محرم کو اس کا محاصرہ کر لیا جہاں پر پچاس ہزار فوجی جاناہز موجود تھے جنہیں عذاب دیا گیا اور ستر ہزار عوام ان کے مقابلہ میں نکل آئے اور وہ ایک ہی ساعت میں قتل ہو گئے اور پچاس نے اس کی طرف ایک ہزار سیڑھی پھینکی تو اس نے ان کے ہتھیار اور جن چیزوں سے وہ اپنی حفاظت کرتے تھے انہیں چھین لیا اور اسی روز انہیں قتل کر دیا اور اس نے شہر کو مباح کر دیا اور اس نے سب کو قتل کر دیا۔ اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اور شہر کو نذر آتش کر کے ویران کر کے چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

اور اسی لعنتی نے وہاں اقامت اختیار کر لی اور شہروں کی طرف فوجیں روانہ کیں۔ اور ایک فوج کو بلاد خراسان کی طرف بھیجا۔ وہ اپنے آپ کو تاتار معززہ کہتے تھے اور دوسری فوج کو اس نے خوارزم شاہ کے پیچھے بھیجا وہ بیس ہزار تھی اور اسے کہا خواہ وہ آسمان کے ساتھ بھی لڑکا ہو اسے تلاش کرو اور پکڑو پس وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اور انہوں نے اسے پالیا اور اس کے اور ان کے

۱۰. میان دریا کے بیچ میں حائل تھا جس کے باعث وہ امن میں تھا۔ اور انہیں کشتیاں نہ ملیں تو انہوں نے اپنے لیے حوض بنائے اور ۸۰۰ ان پر ہتھیار رکھے۔ اور ان میں سے ایک شخص اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیتا اور اس کی دم پکڑ لیتا اور گھوڑا اسے پانی میں کھینچ لے جاتا۔ اور وہ اس حوض کو کھینچتا جس میں اس نے ہتھیار ہونے حتیٰ کہ وہ سب کے سب دوسری جانب پہنچ گئے۔ اور خوارزم شاہ کو اس وقت پتہ چلا جب وہ اسے جا ملے سو وہ ان کے خوف سے نیشاپور کی طرف بھاگ گیا پھر وہاں سے کسی اور شہر کو چلا گیا اور ۸۰۰ اس کے پیچھے پیچھے تھے اور وہ اسے آدنی اکٹھا کرنے کی مہلت نہیں دیتے تھے۔

اور جب کبھی وہ کسی شہر میں آتا کہ اپنی فوجوں کو جمع کرے تو وہ اسے آلیتے۔ اور وہ ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ حتیٰ کہ وہ طبرستان کے سمندر پر سوار ہو کر اس کے جزیرہ کے ایک قلعے میں چلا گیا اور وہیں مر گیا۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کے سمندر سوار ہونے کے بعد معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا بلکہ وہ چلا گیا۔ اور معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا اور کس جگہ بھاگ گیا۔ اور تاریخوں نے اس کے ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ اور انہیں اس کے خزانے سے دس کروڑ دینار اور الماس کے ایک ہزار بوجھ اور بیس ہزار گھوڑے اور فخر اور بہت سے غلام لوندیاں اور خیمے ملے۔ اور اس کے دس ہزار غلام تھے ان میں سے ہر ایک بادشاہ کی مانند تھا۔ اور یہ سب منتشر ہو گئے اور خوارزم شاہ حنفی فقیہ اور فاضل شخص تھا اور فنون علم میں اس کی مشارکات ہیں وہ اچھے فہم کا تھا اور اس نے وسیع علاقوں اور متعدد ممالک پر ۲۱ سال چند ماہ حکومت کی۔ اور اس کے بعد سلاہتہ میں سے اس سے بڑھ کر معزز اور عظیم بادشاہ کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اس کی توجہ بادشاہت کی طرف تھی لہذا توشہوات کی طرف نہ تھی اس لیے اس نے ان علاقوں کے بادشاہوں کو مغلوب کر لیا۔ اور اس نے الخطا پر زبردست جنگ مسلط کی حتیٰ کہ بلاد خراسان، ماوراء النہر، عراق العجم وغیرہ ممالک میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ رہا۔ اور تمام شہر اس کے تابعین کے قبضے میں تھے پھر وہ مازندران اور اس کے مضبوط قلعوں کی طرف گئے جبکہ مسلمانوں نے انہیں صرف سلیمان بن عبدالملک کے زمانے میں ۹۰ھ میں فتح کیا تھا۔ اور انہوں نے انہیں تھوڑی سی مدت میں فتح کر لیا۔ اور جو کچھ ان میں تھا اسے لوٹ لیا اور ان کے سب باشندوں کو قتل کر دیا۔ اور عورتوں کو قیدی بنایا اور جلایا۔ پھر وہ وہاں سے ری کی طرف گئے اور انہیں راستے میں خوارزم شاہ کی ماں بہت سے اموال کے ساتھ ملی تو انہوں نے اس سے اموال کو چھین لیا۔ اور ان میں ایسے نفیس اور نادر جواہر تھے جن کی مثل کہیں دیکھی نہیں گئی۔ پھر انہوں نے ری کا قصد کیا اور لوگوں کی غفلت کے وقت اس میں داخل ہو گئے اور انہیں قتل کر دیا اور قیدی بنالیا۔ پھر وہ ہمدان گئے۔ اور زنجان تک اس پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا۔ پھر وہ قزوین گئے اور اسے لوٹ لیا۔ اور تقریباً اس کے چالیس ہزار باشندوں کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے بلاد آذربائیجان کا قصد کیا تو اس کے بادشاہ ازبکر بن البہلوان نے شراب نوشی اور برائیوں کے ارتکاب اور شہوات میں انہماک کے باعث مال دینے کی شرط پر ان سے صلح کر لی اور وہ مال ان کو پہنچا دیا پس وہ اسے چھوڑ کر موققان کی طرف چلے گئے اور الکرج نے دس ہزار جانبازوں کے ساتھ ان سے جنگ کی۔ اور وہ ایک لحظہ کے لیے بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ حتیٰ کہ الکرج کو شکست ہو گئی اور وہ اپنے کیل کانٹے سمیت ان کے مقابلے میں آگئے اور تاریخوں نے انہیں دوسری جنگ میں نہایت بری طرح شکست دی۔

اس جگہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ ان تاریخوں کے لیے وہ واقعہ ہوا ہے جس کی مثل قدیم و جدید زمانے میں نہیں سنی گئی۔

ایک طائفہ حدود چین سے نکلتا ہے اور ان پر ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ اس کا ایک حصہ اس جانب سے بلا اور میڈیا کی حدود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمدان کی جانب سے عراق سے آگے گزر جاتا ہے۔ اور قسم بخدا مجھے کچھ شک نہیں کہ زمانہ دراز کے بعد جو لوگ ہمارے بعد آئیں گے اور اس واقعہ کو لکھا ہوا دیکھیں گے وہ اس کا انکار کریں گے اور اسے مستبعد قرار دیں گے۔ اور حق اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب وہ اسے مستبعد خیال کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہم سب نے اور ان سب لوگوں نے جنہوں نے ہمارے زمانے کی تاریخ لکھی ہے وہ سب اس واقعہ کو جانتے ہیں جس کی شہرت کی وجہ سے عالم و جاہل اس کے جاننے میں برابر ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ آدمی میسر فرمائے جو ان کی محافظت کریں۔ بلاشبہ انہیں دشمنوں سے اور ان مسلمان بادشاہوں سے جن کی ہمت پیٹ اور فرج سے آگے نہیں بڑھی بہت نقصان پہنچا ہے اور مسلمانوں کا بادشاہ خوارزم شاہ بھی نیست و نابود ہو چکا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے یہ سال ختم ہوا تو وہ بلا داکرج میں تھے اور جب انہوں نے ان کی رکاوٹ اور جنگ کو دیکھا کہ وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے دوسروں کی طرف رخ کر لیا۔ اور ان کا یہی دستور تھا، پس وہ تہریز چلے گئے۔ اور وہاں کے باشندوں نے مال پران کے ساتھ مصالحت کر لی، پھر وہ مراغہ کی طرف چلے گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا اور اس پر جانیں نصب کر دیں اور مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لیا اور شہر کی حکمران ایک عورت تھی۔ اور وہ لوگ کبھی اس کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گے جو اپنی حکومت عورت کے سپرد کر دیں گے۔ سو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ اور اہل شہر میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور انہوں نے ان سے بہت سی غنیمت حاصل کی اور اپنی عادت کے مطابق قیدی بھی بنائے۔ اللہ ان پر وہ لعنت کرے جو انہیں جہنم میں داخل کر دے اور لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا ایک شخص اس شہر کے ایک کوچے میں داخل ہوا اور وہاں ایک سو آدمی موجود تھا۔ ان میں سے کسی کو اس کی طرف بڑھنے کی سکت نہ ہوئی۔ اور وہ مسلسل یکے بعد دیگرے انہیں قتل کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے سب کو قتل کر دیا اور ان میں سے کسی نے اس پر ہاتھ نہ اٹھایا اور اس اکیلے نے ہی اس کوچے کو لوٹ لیا اور ان کی ایک عورت مرد کے لباس میں ایک گھر میں داخل ہوئی اور جو لوگ اس گھر میں موجود تھے اس اکیلی نے ان سب کو قتل کر دیا، پھر ایک قیدی کو جو اس کے ساتھ تھا پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔

پھر انہوں نے اربل شہر کا قصد کیا، جس سے مسلمانوں کا دل تنگ پڑ گیا اور اس نواح کے باشندوں نے کہا یہ سخت مصیبت ہے۔ اور خلیفہ نے اہل موصل اور حاکم جزیرہ ملک اشرف کو خط لکھا کہ میں نے ایک فوج تیار کی ہے تم بھی تاناریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اشرف نے معذرت کرتے ہوئے خلیفہ کو لکھا کہ وہ فرنگیوں کے مسلمانوں پر اچانک آپڑنے اور دمیاط کے چھین لینے کے باعث دیار مصر میں اپنے بھائی کامل کی طرف متوجہ ہے اور اس کے چھین لینے کے باعث وہ پورے دیار مصر کو چھیننے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کا بھائی معظم اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے لیے مدد طلب کرتے ہوئے والی حران کے پاس آیا، تاکہ وہ دمیاط میں فرنگیوں کو روکیں۔ اور وہ دیار مصر کی طرف روانگی کے لیے تیار تھا اور خلیفہ نے مظفر الدین شاہ اربل کو خط لکھا کہ خلیفہ جن دس ہزار جانبازوں کی فوج کو بھیج رہا ہے وہ اس کے ہراؤل میں ہو۔ مگر ان میں سے صرف آٹھ سو سوار اس کے پاس آئے، پھر وہ اکٹھے ہونے سے پہلے تتر بتر ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

لیکن اللہ تعالیٰ نے بچالیا کہ اس نے تاتاریوں کے ارادے کو ہمدان کی طرف پھیر دیا اور المالیان ہمدان نے ان سے مصالحت کر لی اور تاتاری ان کے ہاں رسالے کا رستہ چھوڑ گئے۔ پھر انہوں نے ان کے رسالے کے دستے کے قتل پر اتفاق کر لیا تو انہوں نے واپس آ کر ان کا محاصرہ کر لیا حتیٰ کہ اسے بزور قوت فتح کر لیا اور اس کے سب باشندوں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ آذربائیجان کی طرف گئے۔ اور اردنیل اور تیریز کو فتح کیا پھر بلقان کی طرف گئے اور اس کے بہت سے باشندوں کو قتل کر لیا اور اسے نذر آتش کر دیا اور وہ عورتوں سے زنا کرتے تھے پھر انہیں قتل کر دیتے تھے اور ان کے پیٹ پھاڑ کر بیچ نکال لیتے تھے پھر وہ بلاد الکرج کی طرف واپس لوٹے اور الکرج ان کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ پس انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تو انہوں نے انہیں بھی بری شکست دی۔ پھر انہوں نے بہت سے شہروں کو وہاں کے باشندوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو قیدی بناتے ہوئے فتح کیا۔ اور وہ ان جوانوں کو بھی قیدی بناتے تھے جو قلعوں میں ان سے جنگ کرتے تھے اور انہیں اپنے آگے بطور ڈھال استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے تیر اندازی سے بچاؤ کرتے تھے اور جوان میں سے بچ جاتا اسے جنگ کے فتنے ہونے کے بعد قتل کر دیتے۔

پھر وہ اللان اور قجاق کے شہروں کی طرف گئے اور ان سے شدید جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ اور انہوں نے قجاق کے سب سے بڑے شہر سوداق کا قصد کیا اور اس میں برطاسی قدر اور سنجاہ کے بہت سے کپڑے اور سامان وغیرہ تھے اور قجاق نے روسی شہروں کی پناہ لے لی اور وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے تاتاریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں ان سے اتفاق کیا۔ پس انہوں نے ان سے ان سے ڈبھیر کی۔ اور تاتاریوں سے انہیں نہایت بری شکست دی پھر وہ ۶۲۰ھ کی حدود میں بلغار کی طرف گئے۔ اور اس سب علاقے سے فارغ ہو کر اپنے بادشاہ چنگیز خان کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ اس پر اور ان پر لعنت کرے۔

یہ سب کچھ تاتار مغرب نے کیا۔ اور چنگیز خان نے اس سال ایک فوج کلانہ کی طرف اور دوسری فوج فرغانہ کی طرف بھیجی اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور اس نے ایک اور فوج کو خراسان کی طرف بھیجا اور انہوں نے بلخ کا محاصرہ کر لیا اور بلخ کے باشندوں نے ان سے مصالحت کر لی اور اسی طرح انہوں نے بہت سے دیگر شہروں سے مصالحت کی حتیٰ کہ وہ طالقان تک پہنچ گئے اور اس کے قلعے نے انہیں در ماندہ کر دیا اور وہ بہت مضبوط تھا۔ پس انہوں نے چھ ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے عاجز آ کر چنگیز خان کو خط لکھا تو اس نے خود آ کر چار ماہ تک مزید اس کا محاصرہ جاری رکھا حتیٰ کہ اس نے اسے بزور قوت فتح کر لیا۔ پھر اس نے ان تمام اشخاص کو جو قلعہ اور شہر میں موجود تھے مکمل طور پر سب خاص و عام کو قتل کر دیا۔

پھر انہوں نے چنگیز خان کے ساتھ مرو شہر کا قصد کیا۔ اور اس نے مرو سے باہر تقریباً دو لاکھ عرب اور دیگر جاننازوں کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ عظیم جنگ کی حتیٰ کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، انا للہ وانا الیہ راجعون پھر انہوں نے پانچ دن تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا اور اس کے نائب کو دھوکے سے اتار لیا۔ پھر اس سے اور اہل شہر سے خیانت کی اور انہیں قتل کر دیا اور ان سے غنیمت حاصل کی اور ان سے اموال چھین لیے اور انہیں طرح طرح کے عذاب دیئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک دن میں سات لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ پھر وہ نیشاپور گئے اور اس میں بھی وہی کام کیا جو اہل مرو کے ساتھ کیا تھا۔ پھر طوس گئے اور حضرت علی بن موسیٰ رضا کے مزار کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور خلیفہ رشید کی قبر کو بھی تباہ کر کے اسے ویران بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر وہ غزنی گئے اور جلال الدین بن

خوارزم شاہ نے ان سے جنگ کی تو اس نے انہیں شکست دی۔ پھر یہ اپنے بادشاہ چنگیز خان کے پاس واپس آئے۔ اور چنگیز خان نے ایک اور فوج خوارزم شہر کی طرف بھیجی اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر کے بزور قوت شہر کو فتح کر لیا۔ اور جو آدمی اس میں موجود تھے انہیں بری طرح قتل کر دیا اور اسے لوٹ لیا اور اس کے باشندوں کو قیدی بنا لیا اور اس پل کو بہار یا جو تینوں کے پانی کو شہر سے روکتا تھا۔ پس اس کے مکانات اور تمام باشندے غرق ہو گئے پھر چنگیز خان کے پاس واپس آئے اور وہ طالقان میں خیمہ زن تھا اس نے ان میں سے ایک فوج کو غزنی کی طرف بھیج دیا۔ اور جلال الدین خوارزم شاہ نے ان سے جنگ کی۔ اور جلال الدین نے انہیں عظیم شکست دی۔ اور ان میں سے بہت سے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا۔ پھر اس نے چنگیز خان کو چیلنج دیا کہ وہ خود اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔

چنگیز خان نے اس کا قصد کیا۔ اور دونوں آمنے سامنے ہوئے اور جلال الدین کی کچھ فوج بکھر گئی اور لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اور انہوں نے تین دن ایسی جنگ کی کہ اس کی مثل نہیں دیکھی گئی۔

پھر جلال الدین کے اصحاب کمزور پڑ گئے۔ اور وہ جا کر بحر ہند میں سوار ہو گئے۔ اور تاری غزنی کی طرف چلے گئے۔ اور انہوں نے اسے کسی رکاوٹ اور تکلیف کے بغیر قبضہ میں کر لیا یہ سب یا اکثر واقعات اس سال میں ہوئے۔

اور اسی طرح اس سال اشرف موسیٰ بن عادل نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی الملک کے لیے خلاط میا فارقین اور بلاد آرمینیا کو چھوڑ دیا اور اس کے عوض الرہا اور سروج کو لے لیا اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کامل کی مدد کرنے اور فرنگیوں پر اس کے فتح پانے کی وجہ سے ان نواح کی حفاظت سے غافل ہو چکا تھا۔ اور سال کے محرم میں بغداد میں ہوا چلی اور بجلی چمکی سخت کڑکیں سنی گئیں۔ اور غزنی جانب لعون اور معین کے نزدیک مینار پر بجلی گری اور اس نے اسے توڑ دیا۔ پھر اسے ٹھیک کر دیا۔ اور بجلی زمین میں دھنس گئی۔ اور اس سال جامع دمشق کے تیسرے غزنی برآمدے میں لوگوں کی رکاوٹ کے بعد حنا بلہ کے لیے محراب نصب کر دیا گیا۔ اور ایک امیر نے ان کے لیے محراب نصب کرنے میں ان کی مدد کی اور وہ امیر رکن الدین معظمی تھا۔ اور شیخ موفق الدین بن قدامہ نے اس میں نماز پڑھائی۔

میں کہتا ہوں پھر ۷۳۰ھ کی حدود میں یہ محراب اٹھا دیا گیا۔ اور اس کے عوض باب الزیارة کے پاس انہیں محراب دیا گیا جیسا کہ احناف کو ان کے محراب کے عوض جو جامع کی غزنی جانب تھا باب الزیارة کے مشرق میں ایک نیا محراب دیا گیا۔ جب اس دیوار کو ناظر الجوامع تقی الدین مراحل کے ہاتھوں المکتز یہ کے زمانے میں جس میں وہ محراب موجود تھا از سر نو تعمیر کیا گیا۔ اس کا بیان اپنے موقع پر آئے گا۔

اور اس سال شاہ نجار نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور وہاں ملک اشرف بن عادل با اختیار بادشاہ بن گیا۔ اور اس سال امیر عماد الدین بن المشطوب نے ملک اشرف سے منافقت کی حالانکہ اس نے اسے پناہ دی تھی اور اس کے بھائی کامل کی ایذا سے بچایا تھا۔ جب اس نے فائز کی بیعت کرنی چاہی تھی۔ پھر اس نے بلاد الجزیرہ کے علاقے میں فساد کرنے کی کوشش کی۔ پس اشرف نے اسے قید کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ غم و ذلت اور عذاب کے باعث مر گیا۔ اور اس سال کامل نے ان فرنگیوں پر جو میاط پر قابض تھے سخت

حملہ کیا اور ان میں سے دس ہزار کو قتل کر دیا، اور ان سے ان کے اموال اور گھوڑے چھین لیے۔

اور اس سال معظم نے معتمد مغاخر الدین ابراہیم کو دمشق کی ولایت سے معزول کر دیا اور عزیز غلیل کو اس کا ولی مقرر کر دیا۔ اور جب حاجی مکہ کو روانہ ہوئے تو ان کا امیر متمد تھا اسے بہت جلائی حاصل ہوئی ان لیے کہ ان نے عبید مکہ کو حاجیوں کے لوٹنے سے روکا تھا کیونکہ انہوں نے قبل ازیں عراقی حاجیوں کے امیر اقباش الناصری کو قتل کر دیا تھا۔ اور وہ خلیفہ ناصر کے ہاں بڑے اور انحصار میں سے تھا اس لیے کہ وہ امیر حسین بن ابی عزیز ققادہ بن اور لیس، ابن مطاعن بن عبدالکریم علوی حسینی زیدی کو اس کے ساتھ معزول کرنے آیا تھا، تاکہ وہ اسے اس کے باپ کے بعد مکہ کی امارت دے دے۔ اور اس سال کے جمادی الاولیٰ میں اس کی وفات ہو گئی، اور اس بارے میں راجح نے جھگڑا کیا جو ققادہ کا سب سے بڑا لڑکا تھا، اور اس نے کہا میرے سوا مکہ کا کوئی امیر نہ بنے گا، اور قتیبہ پیدا ہو گیا جس سے نوبت بایں جا رسید کہ اقباش غلطی سے قتل ہو گیا۔ اور ققادہ حسینی زیدی اشرف کے اکابر میں سے تھا اور وہ عبید مکہ اور وہاں پر فساد کرنے والوں سے ناراضگی کے باعث عادل، منصف اور آسودہ تھا۔

پھر اس نے اس روش کے الٹ روش اختیار کر لی۔ اور ظلم کیا، اور نئے ٹیکس لگائے اور کئی دفعہ حاجیوں کو لوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے حسن کو اس پر مسلط کر دیا، اس نے اسے اور اس کے چچا، اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حسن کو بھی اسی طرح مہلت نہ دی بلکہ اس سے حکومت چھین لی، اور اسے بلاد میں دھتکار دیا۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ قتل ہو گیا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اور ققادہ رعب دار اور دراز قد شیخ تھا۔ اور وہ کسی خلیفہ اور بادشاہ سے نہ ڈرتا تھا۔ اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر ایک سے امارت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور خلیفہ چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کے پاس آئے تو وہ اس کی عزت کرے اور وہ اس بات سے سخت انکار کرتا تھا۔ اور وہ کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، اور نہ اس نے کسی خلیفہ اور بادشاہ کے آگے عاجزی کی اور ایک دفعہ خلیفہ نے اسے بلاتے ہوئے خط لکھا تو اس نے اسے لکھا۔

اور میرا پتہ شیر کا ہے، جس کی گرفت سے میں ذلیل کرتا ہوں۔ اور میں مخلوق کے درمیان اس سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ اور شاہان زمین اس کی پشت کو چومنے لگے ہیں۔ اور اس کے پیٹ میں قحط زدوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیا میں اسے چکی کے نیچے رکھوں۔ پھر میں اس سے خلاصی پاؤں تو میں بیوقوف ہوں گا۔ اور میں ہر خطے میں کستوری ہوں جو مہکتی ہے اور تمہارے پاس ضائع ہو جاتی ہے۔

اور وہ ستر سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا، اور ابن اشیر نے اس کی وفات ۶۱۸ھ میں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک فائز:

غیاث الدین ابراہیم بن عادل، اگر کامل، جلد اس کا تدارک نہ کرتا، تو دیار مصر پر اس کے باپ کے بعد اس کی حکومت امیر عماد الدین بن المشطوب کے ہاتھوں منتظم ہو گئی تھی۔ پھر اس سال اس کے بھائی نے اسے ان دونوں کے بھائی اشرف موسیٰ کے پاس بھیجا

اور اسے ترغیب دی کہ وہ فرنگیوں کے باعث جلدان کے پاس آئے۔ اور وہ سنجاب اور موصل کے درمیان مر گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسے زہر دیا گیا۔ اور اسے سنجاب واپس کیا گیا اور وہیں وہ دفن ہوا۔

شیخ الشیوخ صدر الدین:

ابوالحسن محمد بن شیخ الشیوخ عماد الدین محمود بن حمویہ الجونی بنی ایوب کے ہاں یہ امارت کے گھر آنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور صدر الدین فقیہ اور فاضل شخص تھا آپ نے مصر میں امام شافعی کی قبر اور حضرت حسینؑ کے مزار پر درس دیا۔ اور سعید السعداء کی مشیخت اور اس کی نگرانی سنبھالی اور ملوک کے ہاں آپ کو بڑی عزت حاصل تھی، کامل نے اسے خلیفہ کے پاس فرنگیوں کے خلاف مدد طلب کرنے کے لیے بھیجا اور آپ نے موصل میں اسہال سے وفات پائی، اور وہیں آپ کو بید مجنون کی کئی ہوئی شاخ کے پاس ۳۷ سال کی عمر میں دفن کیا گیا۔

صاحب جمہ:۔

ملک منصور محمد بن عبدالملک مظفر تقی الدین عمر بن شہنشاہ بن ایوب آپ ایک فاضل شخص تھے اور آپ کی تاریخ دس جلدوں میں ہے۔ اور آپ نے اس کا نام المضمرا رکھا ہے اور آپ شجاع اور شہسوار تھے اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے ناصر قلع ارسلان نے حکومت سنبھالی۔ پھر کامل نے اسے اس سے معزول کر دیا اور قید کر دیا، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اور آپ نے اپنے بھائی مظفر بن منصور کو امیر مقرر کیا۔

صاحب آمد:

ملک صالح ناصر الدین محمود بن محمد بن قرار ارسلان بن ارتق آپ شجاع اور علماء کے محبت تھے۔ اور اشرف موسیٰ بن عادل کے مصاحب تھے آپ کئی بار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا مسعود بادشاہ بنا۔ اور وہ بخیل فاسق تھا۔ پس کامل نے اسے اس کے ساتھ پکڑ لیا اور اسے مصر میں قید کر دیا۔ پھر اسے رہا کر دیا اور وہ اپنے اموال لے کر تاتاریوں کے پاس چلا گیا تو انھوں نے اس سے وہ اموال چھین لیے۔

شیخ عبداللہ الیومینی:

آپ کا لقب اسد الشام ہے اور آپ بعلبک کی بہستی یونین سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ایک خانقاہ بھی تھی جس کی زیارت کی جاتی تھی۔ اور آپ عبادت و ریاضت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے مشہور کبار صالحین میں سے تھے۔ اور زہد و ورع میں آپ بلند ہمت تھے۔ اس طرح آپ کوئی چیز جمع نہ کرتے تھے۔ اور نہ مال اور کپڑے کے مالک تھے بلکہ عاریۃ کپڑے لے کر پہنتے تھے اور گرمیوں میں ایک قمیص سے اور سردیوں میں اس کے اوپر ایک کمبل سے تجاؤ نہ کرتے تھے۔ اور آپ کے سر پر بکری کی کھال کی ٹوپی ہوتی تھی جس کے بال باہر ہوتے تھے اور آپ کسی غزوہ سے الگ نہیں رہتے تھے۔ اور آپ ۸۰ رطل کی کمان سے تیر اندازی کرتے تھے۔ اور بعض اوقات آپ جبل لبنان میں پناہ لیتے تھے۔ اور سردیوں میں العاسریا کے چشموں کے پاس ان کا پانی گرم ہونے کی وجہ سے پہاڑ کے دامن میں آجاتے تھے جو دمشق کے مشرق میں دومہ بہستی کے نزدیک ہے۔ اور لوگ وہاں آپ کی

ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اور کبھی آپ دمشق آجاتے اور قادیسیہ کے نزدیک قادیسیوں کے دامن میں اترتے تھے۔ اور آپ صالح سوال و مکاشفات نے حاس تھے اور آپ نو اسدا انشام بہا جانا تھا۔

شیخ ابوالمظف سبط ابن الجوزی نے قاضی جمال الدین یعقوب حاتم نزل البقاع سے روایت کی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ شیخ عبد اللہ کوسفید پل کے پاس وضو کرتے دیکھا کہ ایک نصرانی کا گڈر ہوا اور اس کے پاس ایک ٹبر کا بوجھ شراب تھی۔ اور جانور نے پل کے پاس ٹھوکر کھائی اور بوجھ گر پڑا اور اس نے شیخ کو دیکھا اور وہ آپ کو پہچانتا تھا اور آپ اس وقت وضو سے فارغ ہو چکے تھے اس نے بوجھ اٹھانے کے لیے آپ سے مدد طلب کی تو شیخ نے مجھے بلا کر فرمایا، اے فقیہ آؤ اور اس بوجھ کو اٹھا کر جانور پر رکھنے میں ہماری مدد کرو اور نصرانی چلا گیا تو میں اس بات سے حیران ہوا اور میں نے مدینہ جاتے ہوئے اس بوجھ کا پیچھا کیا۔ اور وہ اس کے ساتھ عقبہ تک پہنچ گیا، اور وہاں اسے شراب فروش کے پاس لے گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سرکہ ہے، شراب فروش نے اسے کہا، تو ہلاک ہو جائے یہ سرکہ ہے نصرانی نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ پھر جانور کو اس نے ایک سرائے میں باندھا اور صالحیہ کی طرف لوٹ آیا۔ اور شیخ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اسے پہچان لیا اور وہ اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے احوال و کرامات بہت زیادہ ہیں، اور آپ اپنے پاس آنے والے کسی شخص کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور فرماتے تھے لوگ صرف رب العالمین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور امجد جب آپ کے پاس آتا تو آپ کے سامنے بیٹھ جاتا، اور آپ اسے کہتے، اے امجد، تو نے ایسے ایسے کیا ہے۔ اور آپ نے اسے جو حکم دینا ہوتا اسے حکم دیتے، اور جس سے منع کرنا ہوتا اس سے منع کر دیتے۔ اور آپ جو کچھ اسے کہتے، وہ اس پر عمل کرتا۔ اور یہ سب کچھ اس کے صدق و زہد، تقویٰ اور طریق کے باعث تھا، اور آپ فتوحات کو قبول کر لیتے تھے، اور ان میں سے کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔ اور جب آپ کو سخت بھوک لگتی تو بادام کا ایک پتہ لے کر اسے رگڑتے اور منہ میں ڈالتے، اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پی لیتے۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ آپ بعض سالوں میں فضا میں حج کیا کرتے تھے، اور ایسا بہت سے درویشوں اور نیک بندوں کے لیے وقوع میں آیا ہے، مگر ہمارے اکابر علماء میں سے کسی ایک کی طرف سے ہمیں ایسی بات نہیں پہنچی۔ اور سب سے پہلے یہ بات حضرت حبیب عجمی کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ آپ حضرت حسن بصریؒ کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر آپ کے بعد ہونے والے صالحین سے بھی یہ بات پہنچی ہے، اللہ ان سب پر رحم فرمائے۔

اور جب اس سال کے ۱۰ ارذوالحجہ کو جمعہ کا دن آیا، تو عبد اللہ الیونینی نے صبح کی نماز اور جمعہ کی نماز جامع بعلبک میں پڑھی۔ اور آپ اس دن نماز سے قبل حمام میں داخل ہوئے اور آپ تندرست تھے، اور جب آپ نماز سے واپس آئے، تو آپ نے شیخ داؤد مؤذن سے فرمایا، وہ مردوں کو غسل دیا کرتا تھا، دیکھئے، تم کل کیسے ہو گے۔ پھر شیخ اپنے زاویہ میں چلے گئے۔ اور یہ رات ذکر الہی کرتے، اور اپنے اصحاب کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ سے ادنیٰ سی نیکی بھی کی تھی یاد کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے گزاری، اور جب صبح کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، اور پھر ایک لگا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ذکر الہی کرنے لگے، اور اسی حالت میں بیٹھے ہوئے فوت ہو گئے اور نیچے نہ گرے، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ سے تسبیح گری۔

اور جب شاہِ بعلبک ملکِ امجد کو اطلاع ملی تو اس نے آ کر آپ کو اسی حالت میں دیکھا اور کہنے لگا: 'اگر ہم آپ پر اسی طرح مہارت تیرے سے نوٹوں اس سے ایک نشان دیکھتے اسے لہا لیا کہ یہ بات سنت نہیں ہے تو وہ ایک طرف ہونیا۔ اور آپ کو سخن دیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسی بادام نے درخت تلے آپ کو دفن کیا گیا جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے الہی کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی قبر کو روشن کرے۔ اور آپ کی وفات ہفتہ کے روز ہوئی اور آپ کی عمر ۸۰ سال سے تجاوز تھی۔ اور شیخ محمد فقیہ ایوبینی آپ نے تلامذہ میں شامل تھے اور جس شخص کی پناہ میں وہ تھے وہ بعلبک شہر کے ان مشائخ کا دادا ہے۔

ابو عبد اللہ الحسین بن محمد بن ابی بکر:

المحلی الموصلی، آپ ابنِ الجبلی کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ایک فاضل نوجوان تھے۔ آپ نے موصل کے لیڈر بدر الدین لؤلؤ کی انشاء کی کتابت سنہالی اور آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

’میری جان اس پر فدا ہو جس کے بارے میں میں نے غور و فکر کیا ہے۔ اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوب چلا تھا۔ وہ رات کو صبح پر، اور صبح کو چاند پر، اور چاند کو شام پر، اور شام کو خیال پر، اور خیال کو ٹیلے پر ظاہر کرتا ہے۔‘

۶۱۸ھ

اس سال تا تاریخوں نے بہت سے شہروں کلاہ، ہمدان، اردبیل، تبریز اور کجہ پر قبضہ کر لیا، اور ان کے باشندوں کو قتل کر دیا، اور جو کچھ ان میں موجود تھا اسے لوٹ لیا، اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اور بغداد کے نزدیک آگئے، جس سے خلیفہ گھبرا گیا۔ اور اس نے بغداد کو مضبوط کیا، اور فوجوں سے امداد لی۔ اور لوگوں نے نمازوں اور اوراد میں عاجزی اختیار کی، اور اس سال انہوں نے الکرج اور اللان کو مغلوب کر لیا۔ پھر انہوں نے قباق سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور اسی طرح روس کے ساتھ کیا۔ اور جو چیز ان کے ہاتھ لگی، انہوں نے لوٹ لی، پھر انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اور اس سال معظم اپنے بھائی اشرف کے پاس گیا، اور اپنے بھائی کامل کے لیے مہربانی کا طالب ہوا۔ اور اس کے دل میں اس کے متعلق رنج تھا، پس اس نے اس رنج کا ازالہ کر دیا، اور دونوں اکٹھے ہو کر ان فرنگیوں کے خلاف جنہوں نے دمیاط کی سرحد پر قبضہ کر کے وہاں پر ۶۱۳ھ میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تھی۔ کامل کی معاونت کے لیے دیار مصر کی طرف گئے، اور بعض اوقات اس نے انہیں پیشکش کی کہ وہ بیت المقدس اور تمام وہ ساحلی علاقے جنہیں صلاح الدین نے فتح کیا ہے انہیں واپس کر دیتا ہے اور وہ دمیاط کو چھوڑ دیں، مگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور ایسا نہ کیا، پس اللہ کے فیصلے کے مطابق انہیں خوراک کی تنگی ہو گئی۔ اور ان کے پاس غلے کی کشتیاں آئیں، تو بحری بیڑے نے انہیں پکڑ لیا۔ اور ہر جانب سے دمیاط کی اراضی میں پانی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انہیں اپنے بارے میں تصرف کرنے کی سکت نہ رہی، اور دوسری جانب سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ حتیٰ کہ وہ انہیں مجبور کر کے تنگ ترین جگہوں پر لے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے بلا معاوضہ مصالحت کی طرف رجوع کیا اور ان کے پیشرو اس کے پاس آئے تو اس کے دونوں بھائی معظم عیسیٰ اور موسیٰ اشرف بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اور وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ پس کامل کی منشاء کے مطابق صلح طے ہو گئی۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے، اور فرنگی ملوک، اور تمام افواج اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ اور اس نے ایک عظیم

دسترخوان پھیلا دیا اور اس پر مومن، کافر اور نیک اور بد جمع ہو گئے۔ اور راجع الحلی شاعر نے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے۔

سہارک اجاں شہر سعد نے حیث راست روی ہے اور اللہ نے فتح کا وعدہ پورا کر لیا ہے پس اللہ العالیٰ نے روش فتح افغانی اور دائمی عزت دی ہے ترشروئی کے بعد زمانے کا چہرہ چمک اٹھا ہے اور شرک کا چہرہ تاریکی سے سیاہ ہو گیا ہے۔ اور جب عظیم سمندر نے اپنے سرکش اہل کے ماتھہ سرکشی کی اور کشتیوں کو جھاگ ڈال دیا تو اس نے اس زمین کی مدد کے لیے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جس کا عزم سوتلی ہوئی تلوار کی طرح تھا۔ اور ان میں سے صرف مرنے والے کے خاک میں پڑے ہوئے عضو نے نجات پائی۔ یا اس کے عضو نے جسے تو نے بیڑیوں میں دیکھا اور کائنات کی زبان نے مشرق و مغرب میں اپنی آواز بلند کر کے اعلان کیا کہ اے عیسیٰ کے پرستارو! بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس موقع پر شاعر نے معظم عیسیٰ اشرف موسیٰ اور کابل محمد کی طرف اشارہ کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ ایک شاندار اتفاق ہے اور یہ اس سال کی ۱۹ ربیع الثانی ۱۸ھ کے روز کا واقعہ ہے۔ اور فرنگی عکا وغیرہ کو واپس آ گئے۔ اور معظم شام کی طرف لوٹ گیا۔ اور اشرف اور کابل نے اپنے بھائی معظم سے صلح کر لی۔ اور اس سال ملک معظم نے کمال الدین مصری کو دمشق کا قاضی مقرر کیا جو دمشق میں بیت المال کا وکیل تھا اور یہ ایک یگانہ فاضل تھا جو ہر جمعہ کو نماز سے قبل دستاویزات کے اندراج کے بعد العادلیہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور اس کے پاس تمام مراکز کے گواہ حاضر ہوتے تھے حتیٰ کہ لوگوں کے لیے ایک ہی گھڑی میں ان کی درخواستوں کے اندراج کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ جزاہ اللہ خیراً

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

یا قوت کا تب موصلی:

امین الدین جو طریقہ ابن البواب کے نام سے مشہور ہے ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس کے زمانے میں اس کے پائے کا کوئی شخص نہ تھا اور اسے بہت فضائل حاصل تھے اور لوگ اس کی تعریف میں متفق ہیں اور یہ بہت اچھا آدمی تھا اور نجیب الدین واسطی نے اس کے بارے میں ایک مدحیہ قصیدہ کہا ہے۔

وہ نادر علوم کا جامع ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو فضائل کی ماں بچے گم کر دیتی وہ صاحب قلم ہے جس کے لعاب سے شیر خوف کھاتے ہیں۔ اور فوجیں ذلیل ہو کر اس کے آگے جھکتی ہیں اور جب اس کے سفید دانت سیاہی میں پستے ہیں تو نیزے اور تلواریں شرمندہ ہو جاتی ہیں تو ماہ تمام اور کا تب ابن ہلال ہے۔ اور اپنے باپ کی طرح جو کام سنبھالتا ہے اس پر فخر نہیں کرتا اگر وہ بہتر ہے تو فضیلت کے لحاظ سے اولیٰ ہے اور تو نے سبقت کی اور نماز پڑھی ہے۔

جلال الدین حسن:

آپ اسماعیلیہ کے لیڈر حسن بن صباح کی اولاد میں سے تھے آپ نے اپنی قوم میں شعائر اسلام کو نمایاں کیا اور زواج شرعیہ کے ساتھ حدود اور حریمات کی پاسبانی کی۔

شیخ صالح:

تباب الدین محمد بن منت راجع تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب 'البدایہ والنہایہ' میں جامع مغربی میں منبر نہایت کے چنے زینے پر بیٹھ کر لوگوں کو حدیث سنایا کرتے تھے اور آپ نے اکثر سے حدیث کا سماع کیا اور سنیے۔ اور چنانچہ راتوں میں مقامات ۶۷۰ کی آواز سنائی۔ آپ فطر ۶۷۰ شمرد تھے۔

خطیب موفی الدین:

ابو عبداللہ عمر بن یوسف بن یحییٰ بن عمر کمالی مقدسی، خطیب بیت الابار آپ نے دمشق میں خطیب جمال الدین الدولعی کی اس وقت نیابت کی جب وہ ایلچیوں کے ساتھ خوارزم شاہ کے پاس گئے، حتیٰ کہ واپس آ گئے۔

محمد تقی الدین ابوطاہر:

اسماعیل بن عبداللہ بن عبدالحسن بن الانماطی، آپ نے حدیث پڑھی اور سفر کیے اور اسے لکھا۔ آپ کا خط نہایت عمدہ تھا۔ اور علوم حدیث میں آپ ماہر تھے اور حدیث کے حافظ تھے۔ اور شیخ تقی الدین ابن الصلاح آپ کی تعریف کیا کرتے تھے اور آپ کی کتب الکلاسیہ میں مغربی گھر میں تھیں، جو ملک محسن بن صلاح الدین کی ملکیت تھا، پھر آپ نے اسے ابن النماطی سے لے کر شیخ عبدالصمد الدکائی کے سپرد کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ آپ کے اصحاب کے پاس رہا۔ آپ کی وفات دمشق میں ہوئی اور صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ اور جامع مسجد میں شیخ موفی الدین نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور باب النصر میں شیخ فخر الدین بن عساکر نے اور قبرستان میں قاضی القضاة جمال الدین مصری رحمہ اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔

ابوالغیث شعیب بن ابی طاہر بن کلیب:

ابن المقبل نابینا شافعی فقیہ، آپ نے بغداد میں وفات تک اقامت اختیار کیے رکھی۔ اور آپ کے فضائل اور رسائل بھی ہیں۔ اور آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔
 ”اگر تم لوگوں کے منتظم ہو، تو شرفاء کے جو دو سخاوت کے ساتھ منتظم بنو۔ کمینے لوگوں کو ذلت کے ساتھ چلاؤ، وہ اس سے درست ہو جائیں گے۔ بلاشبہ ذلت دین و حسب میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔“

ابوالعز شرف بن علی:

ابن ابی جعفر بن کامل الخالصی المقری نابینا شافعی فقیہ، آپ نے نظامیہ میں فقہ سلیمی اور حدیث کا سماع کیا، اور اسے روایت کیا، اور حسن بن عمرو حلبی کے حوالے سے یہ اشعار سنائے۔

”تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، حالانکہ گھر دور تھے۔ میرے تصور میں آیا کہ دل کو تم سے کوئی مطلب ہے، اور میرے دل نے باوجود ہمارے درمیان دوری ہونے کے تم سے سرگوشی کی۔ اور تم لفظاً وحشت محسوس کرنے لگے، اور معنایاً مانوس ہو گئے۔“

ابو سلیمان داؤد بن ابراہیم:

ابن مندرا کہیں آپ مدرسہ نظامیہ نے دہرائی کرانے والوں میں سے تھے۔ اور آپ نے جو اعتراضات وہ یہ ہیں۔
 ”اے تبع نے والے اپنی لگام نوروں بلاشبہ زمانے کی سواریاں ہونے لگتی ہیں اور جب زمانہ خیانت
 اور کوتاہی کرے گا تو تو فقیر ندامت سے دانت پیسے گا۔ اور تیری گمراہی کے بعد تجھے صحیح نصیحت کرنے والا ملے گا
 لیکن وہ تجھے اس وقت ملے گا جب معاملہ پیٹھ پھیر چکا ہوگا۔“

ابوالمظفر عبدالودود بن محمود بن المبارک:

ابن علی بن المبارک بن حسن جو اصلاً واسطی اور پیدائش اور گھر کے لحاظ سے بغدادی ہیں۔ کمال الدین آپ کا والد الحجید کے
 نام سے مشہور ہے، آپ نے اپنے باپ سے فقہ سیکھی، اور اسے علم کلام سنایا۔ اور باب الازج کے پاس اس کے مدرسے میں درس دیا
 اور خلیفہ ناصر نے آپ کو وکیل بنایا۔ اور آپ نے ویانت و امانت میں شہرت پائی اور بڑے بڑے مناسب حاصل کیے اور کئی بار حج
 کیا۔ اور آپ متواضع اور خوش اخلاق تھے، آپ نے کہا ہے۔

”اور ۶۲۶ حج نہیں چھوڑے گئے ہمارا حج یہ ہے کہ ہم ہلو و لعب کو سواری بنا کر سوار ہو جائیں۔“

اور آپ سنایا کرتے تھے۔

”علم ہر بھکنے والے کے پاس آتا ہے اور ہر اکڑ باز کے پاس سے انکار کرتا ہے اور وہ پانی کی طرح گڑھوں میں اترتا ہے
 اور ٹیلوں پر نہیں چڑھتا۔“

۶۱۹ھ

اس سال عادل کا تابوت قلعہ سے عادلہ کبیرہ میں منتقل کیا گیا۔ اور سب سے پہلے جامع اموی میں قبۃ النسر کے نیچے آپ کا
 جنازہ پڑھا گیا، پھر آپ کو مذکورہ قبر میں لاکر دفن کر دیا گیا، اور ابھی تک مدرسہ مکمل نہیں ہوا تھا اور اس کی تعمیر اس سال میں مکمل ہوئی۔
 اور قاضی جمال الدین مصری نے وہاں درس دیا، اور سلطان معظم بھی آپ کے پاس حاضر ہوا اور سامنے کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اور اس کی
 بائیں جانب قاضی اور دائیں جانب شیخ الحنفیہ صدر الدین الحصری تھے اور مجلس میں امام السلطان تقی الدین بن الصلاح بھی موجود
 تھے اور شیخ سیف الدین آمدی مدرس کی جانب تھے اور آپ کے پہلو میں شمس الدین بن سناد الدولہ تھے اور ان کے ساتھ فوج کے
 قاضی نجم خلیل تھے۔ اور الحصری سے نیچے شمس الدین بن الشیرازی تھے اور ان سے نیچے محی الدین ترکی تھے اور اس میں بہت سے
 اعیان و اکابر موجود تھے اور ان میں فخر الدین بن عسا کر بھی موجود تھے۔

اور اس سال ملک معظم نے صدر کشنی محتسب دمشق کو جلال الدین بن خوارزم شاہ کے پاس اپنے دونوں بھائیوں کا بل اور
 اشرف کے خلاف مدد طلب کرنے کو بھیجا، کیونکہ دونوں نے اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی تھی، تو اس نے سع و اطاعت کرتے
 ہوئے اسے قبول کر لیا۔ اور جب صدر مذکور واپس آیا تو اس نے مشیخ الشیوخ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا اور اس سال شاہ یمن
 ملک مسعود بن قسیم بن کامل نے حج کیا، اور حرم میں اس سے افعال ناقصہ کا ظہور ہوا، جیسے شراب نوشی کرنا اور قبۃ زمزم کے اوپر سے

مسجد کے کبوتروں کو بندوق سے مارنا اور جب وہ دارالامارت میں سو جاتا تو طواف کرنے والوں کو سعی کی جگہ پر تلواروں کی نوکوں سے مارا جاتا کہ وہ شے کی نیند سے پریشان نہ کریں اللہ اسے ہلاک کرے۔

لیکن اس کے باوجود وہ بڑا باعرب اور محترم تھا۔ اور شہر اس سے مطمئن اور پرسکون تھا اور قریب تھا کہ وہ اپنے باپ کے بھندے کو خلیفہ کے جھنڈے سے بلند کر دیتا اور اس کے باعث بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا مگر وہ اپنی آمد سے لے کر دن کے آخری حصے میں بڑی کوشش کے بعد پہاڑ پر چڑھا۔ اور اس سال شام میں بڑی نڈی آئی جو کھیتوں، پھلوں اور درختوں کو کھا گئی۔ اور اس سال الکرج اور قبحاق کے درمیان بلا قبحاق کے تنگ ہونے کے باعث بہت جنگ و قتال ہوا۔ اور اس سال ابو عبد اللہ محمد بن فلان بغداد کے قاضی القضاة بنے اور دارالوزارۃ کے دروازے میں مؤید الدین محمد بن محمد القیق نے اعیان واکار کی موجودگی میں آپ کو خلعت پہنایا اور ان کی موجودگی میں آپ کا حکم نامہ پڑھا گیا۔ ابن الساعی نے اسے انہی الفاظ سے بیان کیا ہے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

عبد القادر بن داؤد:

ابو محمد واسطی شافعی فقیہ جن کا لقب محبت ہے۔ آپ ایک زمانہ تک نظامیہ میں با اختیار رہے اور وہیں مشغول رہے۔ اور آپ فاضل دیندار اور نیک آدمی تھے اور آپ نے جو اشعار سنائے ان میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔
 ”دونوں فرقدان^۱ اور چاند نے اپنی تکمیل کی شب کو اس کی بے خوابی کی گواہی دی ہے وہ لمبی بیماری کا مریض ہے۔ اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے دل اور سینے میں سوزش عشق کی آگ شعلہ زن ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے رخسار پر سیلاب کی طرح رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ آنسو اس کمزور کر دینے والے کے عشق میں بہتے ہیں۔ میں نے کسی عاشق کو ایسے نہیں دیکھا کہ اس کا جسم اس کی دوری سے کمزور ہو گیا ہو۔ کاش وہ محبوب جس نے اپنی آنکھوں کے سحر سے اسے کمزور کر دیا ہے موت سے پہلے اس کی عیادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔“

ابو طالب یحییٰ بن علی:

الیعقوی شافعی فقیہ اور بغداد کے دہرائی کرنے والوں میں سے ایک آپ بڑے خور و اور خوبصورت سفید بالوں والے تھے۔ اور ایک وقف کے منتظم تھے اور ایک فاضل کے متعلق آپ نے جو اشعار کہے ہیں ان میں یہ اشعار بھی ہیں۔
 ”تہامہ اور جبال احد کا اٹھانا اور سمندر کے پانی کو برتن سے لے جانا اور چٹان کو ننگی پشت پر اٹھانا، ثقیل شخص کی ہم نشینی سے زیادہ آسان ہے۔“

① فرقدان: فرقدہ ستارہ ہے جو قطب شمالی کے قریب ہے۔ اور لوگ اس سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری جانب ایک دوسرا ستارہ ہے جو اس سے کم روشن ہے ان دونوں کو فرقدان کہتے ہیں۔ (مترجم)

اسی طرح ایک کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔

”جب اس شخص کی لڑکھپائی میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ تمہاری طرف سے نہیں آتا۔ اور جو اس کا نام اس سے
یاں بیچھ کر لیتے ہیں تو اسے ہمہ دیکھنا یہاں سے تو اس کی طرح قائم رہے۔ اور جب شیطان ملام کرتے ہوئے اس کے
پیرے کی پیک کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو ما کا سیب پر نفا ہو۔“

ایک دفعہ آپ سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو آپ اس کی سکت نہ پاسکے تو آپ نے کچھ افیون مصری استعمال کر لی اور اسی روز
مر گئے اور اللوردیہ میں دفن ہوئے۔

قطب الدین عادل:

اس سال قطب الدین عادل نے الفیوم میں وفات پائی اور آپ کو اٹھا کر قاہرہ لایا گیا اور اسی سال مکہ میں حنابلہ کے امام
نے وفات پائی۔

شیخ نصر بن ابی الفرج:

آپ ابن الحصری کے نام سے مشہور ہیں، آپ مدت تک مکہ کے پڑوس میں رہے اور سفر نہیں کیا۔ پھر موت آپ کو یمن لے
آئی اور آپ نے اس سال وہیں وفات پائی اور آپ نے مشائخ کی ایک جماعت سے حدیث کا سماع کیا۔
اور اس سال کے ربیع الاول میں دمشق میں عبدالکریم بن نجم النبی نے وفات پائی، آپ البصاء اور تاصح کے بھائی تھے۔ اور
فقیہ اور مناظر اور محاکمات میں بڑے دیدہ ور تھے۔ اور آپ ہی نے وزیر کی مسجد کو شیخ علم الدین سخاوی کے ہاتھ سے نکالا تھا۔

۶۲۰ھ

اس سال اشرف موسیٰ بن عادل اپنے بھائی الکامل شاہ مصر کے پاس سے واپس آ گیا۔ اور اس کے بھائی معظم نے اس سے
ملاقات کی اور اسے معلوم ہو گیا کہ ان دونوں نے اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے اس نے دمشق میں رات گزاری اور
رات کے آخری حصے میں چلتا بنا اور اس کے بھائی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ پس وہ اپنے ملک میں چلا گیا اور اس نے اپنے بھائی
شہاب غازی کو جسے اس نے خلاط اور میا فارقین پر نائب مقرر کیا تھا، دیکھا کہ انہوں نے اس کے سر کو مضبوط کر دیا ہے۔ اور شاہ اربل
معظم نے اس سے خط و کتابت کی ہے اور انہوں نے اسے اشرف کی مخالفت خو بصورت کر دکھائی اور اشرف نے اسے اس کام سے
باز رہنے کا خط لکھا، مگر اس نے اس کی بات قبول نہ کی۔ اور اس سے لڑنے کے لیے فوجیں جمع کیں۔ اور اس سال اقسیس الملک
مسعود صاحب الیمن ابن الکامل یمن سے مکہ روانہ ہوا۔ اور ابن قتادہ نے وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان اس سے جنگ کی تو
اقسیس نے اسے شکست دے کر بھگا دیا اور یمن کے ساتھ مکہ کا با اختیار بادشاہ بن گیا۔ اور قتیج امور کا دور دورہ ہو گیا اور اس کے باپ
چچا اور بھائی کا قاتل حسن بن قتادہ ان گھائیوں اور وادیوں میں ہکال دیا گیا۔



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

موفق الدین عبداللہ بن احمد۔

اس سال شیخ امام موفق الدین عبداللہ بن احمد ابن محمد بن قدامہ بن مقدم بن نصر شیخ اسلام اور مفتی فی المذہب کے مصنف نے وفات پائی ابو محمد المقدسی یگانہ عالم تھے۔ آپ کے زمانے میں بلکہ آپ سے پہلے زمانے میں بھی مدت تک آپ سے بڑا فقیہ نہیں تھا۔ آپ ۵۳۱ھ کے شعبان میں جماعیل میں پیدا ہوئے اور ۵۵۱ھ میں اپنے اہل کے ساتھ دمشق آئے اور قرآن پڑھا اور کثیر سے حدیث کا سماع کیا اور دو دفعہ عراق کی طرف سفر کیا ایک دفعہ ۵۶۱ھ میں اپنے عمزاد حافظ عبدالغنی کے ساتھ اور دوسری دفعہ ۵۶۷ھ میں اور ۵۷۳ھ میں حج کیا۔ اور بغداد میں امام احمد کے مذہب کے مطابق فقہ سیکھی اور ماہر ہو گئے اور فتوے دیئے اور مناظرے کیے اور زہد و عبادت، تقویٰ، تواضع، حسن اخلاق، سخاوت، حیا، نیک نیتی، کثرت تلاوت و صلوة و صیام، نیک سیرتی اور سلف صالح کی اتباع کے ساتھ ساتھ بہت سے فنون میں تبحر حاصل کیا۔ آپ کے احوال و مکاشفات بھی ہیں۔

امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر دانشمند علماء اللہ کے ولی نہیں تو میں اللہ کے کسی ولی کی نہیں جانتا۔ آپ اور شیخ عماد حنابلہ کے محراب میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ اور جب عماد فوت ہو گئے تو آپ نے اس کام کو سنبھال لیا۔ اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو ابو سلیمان بن حافظ عبدالرحمن بن حافظ عبدالغنی آپ کی طرف سے نماز پڑھا دیتے۔ اور آپ اپنے محراب کے قریب مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو درب الدولعی میں الرصیف میں اپنے گھر واپس چلے جاتے اور جو فقراء بھی میسر آتے، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے، تاکہ وہ آپ کے کھانے میں سے آپ کے ساتھ کھائیں۔ اور آپ کا اصل مقام قاسیون میں تھا اور بعض راتوں میں آپ عشاء کے بعد جبل کی طرف لوٹ جاتے۔

ایک شب ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص نے آپ کا عمامہ اچک لیا اور اس میں ایک کاغذ تھا جس میں ریت تھی، شیخ نے اسے کہا، کاغذ لے لو اور عمامہ پھینک دو، اس شخص نے خیال کیا کہ یہ نفقہ ہے، اس نے اسے لے لیا اور عمامہ پھینک دیا، یہ بات نازک وقت میں آپ کی تیز فہمی اور اچھا سہارا لینے پر دلالت کرتی ہے، اور آپ نے نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنا عمامہ چھڑا لیا۔

آپ کی متعدد مشہور تصانیف ہیں، جن میں سے المغنی فی شرح مختصر المحزنی دس جلدوں میں ہے اور الشافی دو جلدوں میں ہے اور المقنع حفظ کے لیے ہے۔ اور الروضۃ اصول فقہ میں ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی مفید تصانیف ہیں۔

آپ کی وفات اس سال عید الفطر کے روز ہوئی۔ اور آپ کی عمر ۸۰ سال تھی، اور یہ ہفتہ کا دن تھا۔ اور آپ کے جنازے میں بہت لوگ شامل ہوئے۔ اور آپ کو وہاں کے مشہور قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور آپ کے لیے رویائے صالحہ دیکھے گئے، اور آپ کے بچے اور بچیاں بھی تھیں۔

اور جب آپ زندہ تھے تو وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔ اور ان میں سے صرف آپ کے بیٹے عیسیٰ نے دولہ کے

بچھے چھوڑے ہیں۔ پھر وہ دونوں لڑکے بھی مر گئے اور آپ کی نسل منقطع ہو گئی۔

ابوالمظفر سبط ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ موفق کی تحریر سے یہ اشعار نقل کیے ہیں۔
اس شخص کے دروازے پر نہ بیٹھ بوجھے اپنے گھر جانے سے روکتا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ ضروریات
ہیں۔ اگر میں نے اس کے گھر کا چکر نہ لگایا تو وہ ان ضروریات کو روک دے گا۔ اسے چھوڑ دے اور ان کے رب کا قصد
کرو وہ انہیں پورا کر دے گا اور گھر کا مالک ناپسند کرتا رہے گا۔

شیخ موفق الدین نے خود یہ اشعار سنائے۔

”کیا میں بالوں کی سفیدی کے بعد قبر کے سوا کوئی مسکن آباد کروں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں احمق ہوں گا، میرا بڑھاپا
مجھے خبر دے رہا ہے کہ میں عنقریب مرنے والا ہوں، اور وہ مجھے موت کا پیغام دے رہا ہے اور سچ کہہ رہا ہے، میری عمر
روزانہ پھٹتی جا رہی ہے، کیا پھٹنے والی عمر کو پیوند لگایا جاسکتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا جسم تختے پر پھیلا ہوا ہے، کچھ
لوگ خاموش ہیں۔ اور کچھ سوز غم سے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے میرے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ
جواب دیتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں۔ اور ان کے آنسو رواں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ موفق ہے، اور مجھے زمین کے
تنگ گڑھے میں چھپا دیا جائے گا اور مجھے لحد میں رکھ کر اوپر سے پتھروں سے بند کر دیا جائے گا۔ اور بڑا قابل اعتماد
دوست بھی مجھ پر ہاتھوں سے مٹی ڈالے گا۔ اور مشفق بھی مجھے قبر کے سپرد کر دے گا۔ اے میرے رب میری تنہائی میں
میرا منس بن جا، بلاشبہ تو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور مجھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان
نہیں دیا۔ اور میرے اہل میں سے کون زیادہ نیک سلوک اور نرمی کرنے والا ہے۔“

فخر الدین بن عسا کر عبد الرحمن بن حسن بن ہبہ اللہ بن عسا کر:

ابومنصور دمشقی، دمشق کا شیخ الشافعیہ آپ کی ماں کا نام اسماء بنت محمد بن الحسن بن طاہر القدسیہ تھا۔ اور اس کا والد ابو البرکات
ابن المران کے نام سے مشہور تھا۔ اسی نے ۵۱۷ھ میں مسجد القدم کو از سر نو تعمیر کرایا تھا اور وہیں پر اس کی اور اس کی بیٹی کی قبر ہے اور
وہاں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت دفن ہے۔ اور یہ قاضی محی الدین محمد بن علی بن الزکی کی والدہ آمنہ کی بہن ہے۔ شیخ فخر الدین صغر
سنی ہی میں اپنے شیخ قطب الدین مسعود نیشاپوری سے علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور
الجاروجیہ میں ان کی جگہ پر درس دیا، اور وہیں پر آپ دو صحفوں میں سے ایک صحف میں رہتے تھے، جنہیں آپ نے بنایا تھا، اور وہیں آپ
نے ایوان کے عربی حصے میں وفات پائی پھر آپ نے قدس شریف میں صلاحیہ ناصر یہ کی تدریس کے فرائض سنبھال لیے، پھر عادل
نے آپ کو اتقویہ کی تدریس سپرد کر دی اور آپ کے پاس سرکردہ فضلاء تھے، پھر آپ فراغت حاصل کر کے جامع مسجد کے پڑوس میں
چھوٹے سے گھر میں جو محراب صحابہ کے پہلو میں ہے رہنے لگے، آپ اس میں عبادت، مطالعہ اور فتاویٰ کے لیے تنہا ہو جاتے، اور اور
اطراف سے فتاویٰ آپ کے پاس آتے تھے، آپ بہت ذکر الہی کرنے والے اور نیک نیت شخص تھے اور آپ ہر سو موارید جمعرات کو
اپنے چچا کی جگہ عصر کے بعد حدیث سنانے کے لیے قبة النسر کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اور آپ کو دلائل نبوت وغیرہ سنائے جاتے اور

آپ دارالحدیث نوریہ کی مشنٹ میں بھی شامل ہوئے تھے اور جب ابن عروہ کا مزار شروع شروع میں فتح ہوا تو وہاں بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور ملک عادل نے اپنے قاضی ابن البرکی کے معزول کرنے کے بعد آپ کو بلایا اور دستہ خوان پر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور آپ سے دمشق کا قاضی بننے کی درخواست کی آپ نے فرمایا میں اللہ سے استخارہ کروں پھر آپ نے اس سے انکار کر دیا تو سلطان کو آپ کا انکار کرنا ناگوار گزارا اور اس نے آپ کو ایذا دینے کا ارادہ کیا تو اسے کہا گیا اللہ کا شکر کہ اس جیسا شخص اس حکومت میں ہے اور جب عادل فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے معظم نے دوبارہ شراب نوشی شروع کر دی تو شیخ فخر الدین نے اسے ملامت کی تو اس کے دل میں آپ کے متعلق رنج رہا اور اس نے آپ سے التقویہ کی تدریس کا کام چھین لیا اور آپ کے پاس الجاروحینہ دارالحدیث نوریہ اور ابن عروہ کے مزار کے سوا کچھ باقی نہ رہا آپ کی وفات اس سال کی ۱۰ رجب کو بدھ کے روز عصر کے بعد ۶۵ سال کی عمر میں ہوئی اور جامع مسجد میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور یہ جمعہ ۱۰ کا دن تھا اور آپ کے جنازہ کو اٹھا کر قبرستان صوفیاء میں لے جایا گیا اور اس کے آغاز ہی میں آپ کو اپنے شیخ قطب الدین مسعود بن عروہ کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا۔

سیف الدین محمد بن عروہ موصلی:

جامع اموی میں مزار ابن عروہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اسے فتح کیا تھا اور یہ بڑے ذخائر سے بھر پور تھا آپ نے اس میں تالاب بنایا اور اس میں درس حدیث کے لیے وقف کیا اور لائبریری بھی وقف کی آپ قدس شریف میں مقیم تھے لیکن معظم کے خاص اصحاب میں سے تھے اور جب بیت المقدس کی فسیل منہدم ہو گئی تو آپ دمشق آ گئے اور یہیں فوت ہوئے اور آپ کی قبر عید گاہ کے سامنے اتابک طغتلین کے گنبدوں کے پاس ہے۔

شیخ ابوالحسن روز بہاری:

آپ کو باب الفردیس کے پاس اس جگہ میں دفن کیا گیا جو آپ کی طرف منسوب ہے۔

ریس عزالدین مظفر بن اسعد:

ابن حمزہ الحمیمی القلانسی آپ دمشق کے ایک رئیس اور بڑے آدمی تھے اور آپ کا دادا ابو یعلیٰ حمزہ تھا اس کی ایک تاریخ ہے جسے ابن عساکر نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے اور عزالدین نے اس حدیث کو حافظ ابوالقاسم ابن عساکر وغیرہ سے سنا ہے اور آپ نے الکندی کی ہم نشینی کو لازم سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔

خليفة کا حاجب امیر کبیر:

محمد بن سلیمان بن قلمش بن ترکان شاہ بن منصور سمرقندی آپ امراء کی اولاد میں سے تھے اور آپ العزیز الخلیفتی کے دیوان کے حاجب الحجاب بنے اور آپ بہت اچھا لکھتے تھے اور آپ کو بہت سے علوم میں اچھی معرفت حاصل تھی جیسے ادب اور علوم ریاضی

① اس کتاب میں کئی جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ فلاں شخص فلاں دن فوت ہوا اور وہ جمعہ کا دن تھا حالانکہ اس کا روز وفات جمعہ کا دن نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے روز لوگ بکثرت نماز پڑھتے ہیں۔ اور بڑی مخلوق جمع ہوتی ہے اسی طرح مرنے والے کے جنازے میں بڑی مخلوق جمع ہوتی گویا وہ جمعہ کا دن تھا۔

آپ نے لمبا زمانہ عمر پائی اور آپ کو اچھے شعر نظم کرنے میں بہرہ وافر حاصل تھا۔

میں اس زندگی کی تکالیف سے آگاہ کیا ہوں اور حج و مسامیر ایسی حال ہوتا ہے اور نو نسل میں بچے کی طرح مدد دست بات کرنے والا اور بہت بیسودہ باتیں کرنے والا تھا جب میں کسی مجلس میں ہوتا ہوں تو سو جانتا ہوں اور کانے کی آمد پر بیدار ہوتا ہوں اور زبان کی بیڑی سے میرے پاؤں کو لٹکا کر دیا سے اور تکلیف نے میری کام لولہا کر دیا ہے۔ اور مجھے کھولنے میں بچے کی طرح چھوڑا گیا ہے۔ اور میں نے اپنے حکم کو پیچھے چھوڑا ہے پس باقی رہنے والے فعل کی برائی کا آغاز کیسے ہوا۔

اور اسی طرح آپ کے یہ خوبصورت شعر بھی ہیں۔

”اے الہی! جو بہت غفور کرنے والا ہے میرے زمانہ شباب کے گناہوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں معاف کر دے اور میں نے گناہوں سے اپنا چہرہ سیاہ کر لیا ہے اور میں تیرے حضور مٹی میں ذلیل پڑا ہوں اپنے غنوں سے میرے چہرے کو روشن کر دے اور مجھ سے چشم پوشی کر اور میرے عذاب کو ہلکا کر۔“

اور جب آپ فوت ہو گئے تو نظامیہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور شو نیزیہ میں آپ کو دفن کیا گیا اور ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔

”میں نے اپنی بد اعمالی اور ندامت کے باعث معاد کے خوف سے ملاقات سے کنارہ کشی کی اور جب میں اپنے رب کے پاس آیا تو اس نے حساب کے بارے میں مجھ سے معمولی جھگڑا کیا، عدل تو یہ تھا کہ میں جہنم میں جلتا، اس نے ازراہ نوازش مجھ پر مہربانی فرمائی اور اس نے زبانِ عفو سے مجھے آواز دی اے بندے تجھے سلامتی مبارک ہو۔“

ابوعلی حسن بن ابی المحاسن:

زہرہ بن علی بن زہرہ علوی حسینی حلبی، آپ حلب میں اشراف کے نقیب تھے اور آپ کو ادب اور علم تاریخ و سیرت اور حدیث میں فضیلت حاصل تھی اور آپ قرآن مجید کے حافظ و ضابط تھے اور آپ کے اچھے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”میں نے معشوق کو دیکھا ہے جدائی کے باعث آنکھیں اس سے اچٹ جاتی ہیں اور زمانے نے اس پر برا اثر ڈالا ہے اور زمانے نے حادث کے ہاتھ کو اس سے پھیر لیا ہے اور وہ ذلیل ہو کر واپس آ گیا ہے اور اس نے عزت کو ذلت سے بدل لیا ہے، گویا اس نے اس کی حفاظت نہیں کی۔“

ابوعلی یحییٰ بن المبارک:

ابن الجلابلی، آپ تاجر کے بیٹے تھے آپ نے حدیث کا سماع کیا آپ خوبصورت تھے اور دار الخلافہ میں رہتے تھے اور آپ کے پاس علم تھا اور آپ کے اچھے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تنگی میں حصہ دار ہو اور تنگی میں حصہ لینے والا کہاں ہے اگر تو اسے دیکھے تو وہ لوگوں میں تجھے خوش کرے اور اگر تو غائب ہو تو وہ کان اور آنکھ ہو، وہ عقیق کی مانند ہے، اگر اسے آگ چھوئے تو اسے جلادے اور وہ خوبصورتی میں زیادہ ہو جائے، اور برابھائی اگر تجھ سے غائب ہوگا تو تجھ سے دشمنی کرے گا اور اگر حاضر ہوگا تو بھی

مصیبت ہو گا وہ امین اور صادق نہیں اور اس کی آرزو ہے کہ وہ سب جھوٹ کا ولد اور عاشق ہو جائے اس سے ڈرا اور اس پر افسوس نہ کر اس کا تادان تیرے نقد قرض ادا کرنے کی طرح ہے۔

۶۲۱ھ

اس سال پہلے ۶۰۰ ستوں کے علاوہ چنگیز خان کی طرف سے ایک اور ستوں کی طرف گیا اور وہ تھوڑا ہی آبا، جو اتھا اور انہوں نے اس کے اہل کو بھی اسی طرح قتل کر دیا پھر وہ سادہ کی طرف چلے گئے پھر قمر اور قاسان کی طرف گئے اور ان دونوں کو صرف اسی دفعہ مار پڑی اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی پہلے کی طرح قتل کرنے اور قیدی بنانے کا وظیرہ اختیار کیا پھر وہ ہمدان کی طرف گئے وہاں بھی انہوں نے اسی طرح قتل کرنے اور قیدی بنانے کا کام کیا پھر وہ خوارزمیہ کے پیچھے آذر بایجان کی طرف گئے اور انہیں شکست دی اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ ان کے خوف سے تبریز کی طرف بھاگ گئے تو وہ انہیں آملے اور انہوں نے ابن البہلو ان کو لکھا اگر تو ہم سے صلح کرنے والا ہے تو خوارزمیہ کو ہمارے پاس بھیج دے وگرنہ تو بھی ان کی مانند ہے پس اس نے ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کے سروں کو بہت سے ہدایا و تحائف کے ساتھ ان کے پاس بھیج دیا حالانکہ یہ دستہ تین ہزار جوانوں پر مشتمل تھا اور خوارزمیہ اور البہلو ان کے اصحاب ان سے کئی گنا زیادہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بزدل بنا دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اور اس سال غیاث الدین بن خوارزم شاہ نے بلاد فارس پر قبضہ کر لیا حالانکہ اصفہان ہمدان کی مملکتیں بھی اس کے قبضے میں تھیں۔ اور اس سال ملک اشرف نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی سے خلاط کا شہر واپس لے لیا اور اس نے اسے تمام بلاد آرمینیا، میا فارقین، جاجی اور جبل حور کے ساتھ اس کے سپرد کیا تھا اور اسے اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا تھا اور جب معظم نے اسے خط لکھ کر اس کی مخالفت کی تحسین کی اور اس کے دماغ کو خراب کر دیا تو اس نے جا کر خلاط میں اس کا محاصرہ کر لیا اس نے شہر اس کے سپرد کیا اور اس کا بھائی قلعہ میں محفوظ ہو گیا اور جب رات ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس معذرت کرتے ہوئے آیا تو اس نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اسے سزا نہ دی بلکہ اسے اکیلے میا فارقین پر قائم رکھا اور شاہ اربل اور معظم شہاب غازی کے ساتھ اشرف کی مخالفت پر متفق تھے سو کامل نے معظم کو دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگر اس نے اشرف کے خلاف مدد دی تو وہ اسے اور اس کے ملک کو قبضہ میں کرے گا اور شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ اشرف کے ساتھ تھا پس شاہ اربل نے جا کر اس کے سپاہیوں کی کمی کے باعث اس کا محاصرہ کر لیا کیونکہ جس وقت اشرف نے خلاط سے جنگ کی تھی اس نے انہیں اشرف کے پاس بھیجا تھا اور جب امور کا انفصال ہو گیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو شاہ اربل کو ندامت ہوئی اور معظم بھی دمشق میں اسی طرح شرمندہ ہوا۔

اور اس سال معظم نے اپنے بیٹے ناصر داؤد کو شاہ اربل کے پاس بھیجا کہ اسے اشرف کی مخالفت پر قوت دے اور صوفیانے شمیاطیہ سے الملق کو جلال الدین بن خوارزم شاہ کے پاس بھیجا کہ وہ اس کے بھائی اشرف کے خلاف اس سے متفق ہو جائے۔ جلال الدین نے اس سال آذر بایجان پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کا دل مضبوط ہو گیا تھا۔ تو اس نے اس سے مدد اور عطیے کا وعدہ کیا۔ اور اس سال ملک مسعود آتیس شاہ یمن اپنے باپ کامل کے پاس دیار مصر میں آیا اور اس کے پاس بہت سے ہدایا اور

تخالف تھے جن میں دو سو خادم اور تین بڑے ہاتھی اور عود اور اگر کی لکڑی اور کستوری اور عنبر کے بوجھ تھے اور اس کا باپ الکامل اس کی ملاقات نوبابہ نکالا اور اسیس کی میت یہ تھی کہ وہ اپنے بیچا منظم نے ہاتھ سے شام کو چھیننے سے۔ اور اس سال مصر میں دارالحدیث الکاملیہ کی عمارت مکمل ہوئی اور اس کی مشیخت کو حافظ ابوالخطاب ابن دجیہ کلینی نے سنبھالا اور وہ بہت سے فنون کا جامع تھا اور اس کے پاس فوائد اور عجائب تھے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن علی القادسی نابینا حنبلی، تاریخ ابن الجوزی کے تہمتہ کے مؤلف کا والد ذیہ قادسی شیخ ابوالفرج ابن الجوزی کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہتا تھا اور وہ آپ کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ آپ سے عجیب و غریب باتیں سنتا تھا اور کہتا تھا خدا کی قسم یہ خوبصورت ہے ایک دفعہ شیخ نے اس سے دس دنانیر قرض مانگے تو اس نے آپ کو نہ دیئے اور وہ حاضر رہتا اور بات نہ کرتا ایک دفعہ شیخ نے کہا یہ قادسی ہمیں کوئی چیز قرض نہیں دیتا اور نہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ بیچ ہے۔ اور ایک دفعہ قادسی کو المستفی کے گھر طلب کیا گیا کہ خلیفہ کو تراویح پڑھائے اس سے دریافت کیا گیا اور خلیفہ سن رہا تھا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا حنبلی اس نے اسے کہا دار الخلافت میں نماز نہ پڑھانا تو حنبلی ہے اس نے کہا میں حنبلی ہوں اور میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا خلیفہ نے کہا اسے چھوڑ دو ہمیں صرف یہی نماز پڑھائے گا۔

ابوالکرم مظفر بن المبارک:

ابن احمد بن محمد بغدادی، حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مزار کا شیخ، آپ نے بغداد کی غربی جانب کے احتساب کے فرائض سنبھالے اور آپ فاضل، دیندار اور شاعر تھے اور آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اپنے نفس کو صبر جمیل سے محفوظ کر اور اچھی خوبیوں کو حاصل کر ان کا ثواب ہمیشہ رہے گا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رہ اور تیری گفتگو مہذب ہو اور مشکل کام تیرے لیے آسان ہو جائیں گے زمانہ ختم ہو جائے گا اور سب جانے والے ہیں اس کی شیرینی کم اور عذاب جمع رہے گا زمانہ صرف رات دن کے گزرنے کا نام ہے اور عمر اس کے لپٹنے اور جانے کا نام ہے اور مستقل مزاجی، مضبوط اخوت میں ہے اور تجھ میں خالص اور پاکیزہ بلندیاں پائی جاتی ہیں اور خواہشات کے خوابوں کو خیر باد کہہ عنقریب بری اور اچھی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔“

محمد بن ابی الفرج بن برکتہ:

شیخ فخر الدین ابوالعالی موصلی، آپ بغداد آئے اور نظامیہ میں مصروف ہو گئے اور وہاں دہرائی کی اور آپ کو قرأت کی معرفت حاصل تھی اور آپ نے مخارج الحروف کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اور حدیث کو منسوب کیا ہے اور آپ کے لطیف اشعار بھی ہیں۔

ابوبکر بن حلبہ الموزانی البغدادی

آپ علم بلند اور زاہد رہنے میں کیانتے اور نجیب فریب چیزیں ایجاد کرتے تھے ان میں سے ایک نجیب بات یہ ہے کہ آپ نے شمشک کے دانے میں سات سو رانجے اور ہر سو رانج میں ایک مال ڈالا اور حکومت کے ہاں بھی آپ کو رہا حاصل تھا احمد بن جعفر بن احمد:

ابن محمد ابوالعباس الدینی البیہقی الواسطی آپ ادیب اور فاضل شخص تھے اور آپ کی نظم و نثر بھی موجود ہے اور واقعات اور سیر کے جاننے والے ہیں اور آپ کے پاس بہت سی عمدہ کتب موجود تھیں اور آپ نے ابوالعلاء المعری کے قصیدہ کی شرح تین جلدوں میں کی ہے اور ابن اساعی نے آپ کے اچھے اور فصیح اور کانون کو شیریں اور لذیذ اور دل کو خوش کرنے والے اشعار بیان کیے ہیں۔

۶۲۲ھ

اس سال جب خوارزمی جلال الدین بن خوارزم شاہ کے ساتھ تاریخوں سے غزنی میں مغلوب ہو کر بلاد خوزستان اور عراق کے نواح میں آئے تو انہوں نے اس میں فساد پیدا کر دیا اور اس کے شہروں کا محاصرہ کر لیا اور اس کی بستوں کو لوٹ لیا۔

اور اس سال جلال الدین بن خوارزم شاہ نے بلاد آذربائیجان اور بہت سے بلاد الکرچ پر قبضہ کر لیا اور الکرچ کے ستر ہزار جانبازوں کو شکست دی اور ان کے بیس ہزار جانبازوں کو قتل کر دیا اور اس کی حکومت مضبوط اور شان بلند ہو گئی اور اس نے تغلیس کو بھی فتح کیا اور اس کے تیس ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا اور ابوشامہ کا خیال ہے کہ اس نے الکرچ کے ستر ہزار آدمیوں کو میدان کارزار میں قتل کیا اور تغلیس کے پورے ایک لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور وہ اس جنگ میں بغداد جانے سے غافل ہو گیا اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب اس نے دقوق کا محاصرہ کیا تو اس کے باشندوں نے اسے گالیاں دیں اور اس نے اسے بزور قوت فتح کیا اور اس کے بہت سے باشندوں کو قتل کیا اور اس کی فصیل کو منہدم کر دیا اور بغداد میں خلیفہ کے پاس جانے کا قصد کیا اس لیے کہ اس کے خیال میں وہ اپنے باپ پر حاکم بنا تھا حتیٰ کہ وہ مر گیا اور تاریخوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس نے معظم بن عادل کو خلیفہ سے جنگ کرنے کے لیے خط لکھا اور اسے اس کی ترغیب دی تو معظم نے اس سے انکار کیا اور جب خلیفہ کو پتہ چلا کہ جلال الدین بن خوارزم شاہ بغداد کا قصد کیے ہوئے ہے تو وہ اس سے گھبرا گیا اور اس نے بغداد کو مضبوط کیا اور فوجوں اور سپاہیوں سے کام لیا اور لوگوں میں ایک کروڑ دینار خرچ کیا اور جلال الدین نے الکرچ کی طرف فوج روانہ کی اور انہوں نے اسے لکھا کہ ہم سب کے ہلاک ہونے سے پہلے ہمیں آملنا اور بغداد قبضے سے نہیں جائے گا پس بیان کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے حال کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور اس سال بارشوں کی کمی اور ٹڈی کے پھیل جانے کی وجہ سے عراق میں شدید گرانی ہو گئی پھر اس کے بعد عراق و شام میں بہت سے آدمی فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اس کے باعث شہروں میں بہت سے لوگ مر گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون خلیفہ ناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے الظاہر کی خلافت:

جب اس سال کے ماہ رمضان کا آخری اتوار آیا تو خلیفہ ناصر الدین اللہ ابوالعباس احمد بن المستقی بامر اللہ ابوالمظفر یوسف بن المستقزی لامر اللہ ابی عبداللہ محمد بن المستظہر باللہ ابی عبداللہ احمد بن المقتدی بامر اللہ ابی القاسم عبداللہ بن الذخیرہ محمد بن القاسم بامر اللہ

ابی جعفر عبداللہ بن القادر باللہ ابی العباس احمد بن الموفق ابی احمد بن محمد المتوکل ابی جعفر عبداللہ بن القادر باللہ ابی العباس احمد بن اسحاق بن المقتدر باللہ ابی الفضل جعفر بن محمد بن العباس احمد بن الموفق ابی احمد بن محمد المتوکل علی اللہ جعفر بن محمد بن العباس احمد بن اسحاق بن محمد بن ہارون الرشید بن المہدی محمد بن عبداللہ ابی جعفر منصور بن محمد بن علی ابن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب البہاشمی العباسی امیر المؤمنین وفات پا گیا، اس کی پیدائش بغداد ۵۵۳ھ کو ہوئی اور اس کے باپ کی وفات کے بعد ۵۷۵ھ میں اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس سال ۶۹ سال دو ماہ میں دن کی عمر میں اس کی وفات ہوئی اور اس کی مدت خلافت ایک ماہ کم ۷۷ سال تھی اور اس سے قبل عباسی خلفاء میں سے کسی نے اتنی طویل مدت خلافت نہیں کی اور مطلقاً کسی خلیفہ کی مدت المستصر العمیدی سے زیادہ نہیں ہوئی، اس نے مصر میں ساٹھ سال حکومت کی اور میرے خیال میں اس کی لڑی میں چودہ خلیفے اور ولی عہد ہوئے اور باقی تمام عباسی خلفاء اس کے چچا یا چچا کے بیٹے تھے اور اس کی بیماری لمبی ہو گئی اور جمہور کا خیال ہے کہ اسے عسر بول کی بیماری تھی اس کے باوجود اس کے لیے بغداد سے کئی مراحل پر سے پانی لایا جاتا تھا، تا کہ وہ زیادہ صاف ہو اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ اس کے ذکر کو شق کیا گیا مگر اس احتیاط نے بھی اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اور محی الدین ابن شیخ ابوالفرج ابن الجوزی نے اسے غسل دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دارالخلافہ میں دفن کیا گیا، پھر اس سال کی دوزی الحجہ کو اسے الرصافہ کے قبرستان میں منتقل کیا گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا، ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ اس کی سیرت متقدم الذکر واقعات میں بیان کی جا چکی ہے۔

اور ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں بیان کیا ہے کہ ناصر لدین اللہ تین سال بالکل بے حس و حرکت پڑا اور اس کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی اور دوسری سے اسے معمولی سا نظر آتا تھا، اور آخر میں اسے بیس دن بچیش رہی اور وہ مر گیا، اور کئی وزراء نے اس کی وزارت کی اور ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اور اس نے جو غلط رسوم ایجاد کی ہوئی تھیں اس نے انہیں اپنی بیماری کے ایام میں نہیں چھوڑا اور وہ بدسیرت اور رعیت کے بارے میں ظالمانہ ارادے رکھتا تھا، اور اس نے اپنے زمانے میں عراق کو ویران کر دیا اور اس کے باشندے شہروں میں پھیل گئے، اور اس نے ان کے اموال و املاک چھین لیے، اور وہ ایک کام کر کے اس کے الٹ کام بھی کرتا تھا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے رمضان میں افطار کا اور حجاج کی ضیافت کا پروگرام بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اور اس نے ٹیکس ساقط کرائے پھر انہیں دوبارہ عائد کر دیا، اور اس کی پوری توجہ ہندوق سے فائر کرنے اور محبوب پرندوں اور جوانمردانہ پانچاموں میں تھی۔ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ بات جو عجیبوں نے اس کی طرف منسوب کی ہے، صحیح ہے تو اس نے تاتاریوں کو ملک کا لالچ دیا تھا اور ان سے مراسلت کی تھی اور یہی وہ بڑی مصیبت ہے جس کے مقابلے میں ہر عظیم گناہ حقیر ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے باپ آنے والے ایلچیوں سے کہتا تھا کہ تم نے فلاں جگہ فلاں فلاں کام کیا ہے اور فلاں جگہ فلاں کام کیا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں بلکہ اکثر لوگوں نے خیال کیا ہے کہ اسے مکاشفہ ہوتا تھا، یا اسے کوئی جن اس کی خبر لادیتا تھا۔ واللہ اعلم

الظاہر بن الناصر کی خلافت:

جب خلیفہ ناصر لدین اللہ فوت ہو گیا تو اس نے اپنے اس بیٹے ابونصر محمد کو ولی عہد مقرر کیا اور اسے الظاہر کا لقب دیا اور منابر پر اس کے خطبات دیئے گئے، پھر اس نے اسے معزول کر کے اس کے بھائی علی کو مقرر کر دیا، اور وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی ۶۱۲ھ میں

فوت ہو گیا اور اسے اس کی ولی عہدی کے اعادہ کی ضرورت پڑی۔ اور اس نے وہ بارہ اس کا خطبہ دیا اور جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر ۵۲ سال تھی اور بنو عباس میں سے اس سے زیادہ مہر رسیدہ شخص نے خلافت نہیں سنبھالی اور وہ عقلمند باوقار و پندار انصاف پسند اور حسن سلوک کرنے والا تھا اس نے بہت ہی ناانصافیوں کو رد کیا اور اس کے باپ نے جو نئے ٹیکس لگائے تھے انہیں ساقط کر دیا اور اس نے لوگوں سے اچھی روش اختیار کی حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس سے زیادہ انصاف پسند کوئی نہ تھا کاش اس کی مدت لمبی ہوتی لیکن اس پر ایک سال بھی نہ گزرا بلکہ اس کی مدت نو ماہ تھی اس نے ان زمینوں سے جو بیکار ہو چکی تھیں گذشتہ ٹیکس ساقط کر دیئے اور اہل ملک سے یعقوب ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ جو ستر ہزار دینار کا ٹیکس تھا جو اس کے باپ نے ان پر عائد کیا تھا اور جب وہ کوئی چیز لیتے تو مخزن کے باٹ سے لیتے جو ہر سو پر نصف دینار زاد ہوتا۔ اور جب کوئی چیز دیتے تو شہر کے باٹ سے دیتے سو اس نے دفتر کو لکھا (ان کی کرنے والوں پر ہلاکت ہے کہ جب وہ لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انہیں خیال نہیں کہ انہیں ایک عظیم دن کو جب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے اٹھایا جائے گا) تو ایک کا تب نے اسے لکھایا امیر المومنین اس سال کا گذشتہ سال سے ۳۵ ہزار کا تفاوت ہے تو اس نے اسے ملامت کا پیغام بھیجا اور کہا اس بات کو چھوڑ دو خواہ ساڑھے تین لاکھ کا تفاوت ہو اور اس نے قاضی کو حکم دیا کہ شرعی طریق سے جس کا حق ثابت ہو اسے اس تک نظر ثانی کے بغیر پہنچایا جائے اور اس نے سچے ہوئے اموال پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک نیک شخص کو مقرر کیا اور شیخ علامہ عماد الدین نے ابوصالح نصر بن عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جبلی کو ۸ ذی الحجہ کو بدھ کے روز قضا کے لیے منتخب کیا اور آپ نیک مسلمانوں اور انصاف پسند قاضیوں میں سے تھے۔

اور جب اس نے آپ کو قاضی بننے کی پیشکش کی تو آپ نے اس شرط پر اسے قبول کیا کہ وہ ذوالارحام کو ورنہ دے گا۔ اس نے کہا ہر حقدار کو اس کا حق دو اور اللہ سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور اس کے باپ کا دستور تھا کہ ہر صبح کو گلیوں کے پہرے دارمحللات میں ہونے والے اچھے برے اجتماعات کی رپورٹ اسے پہنچائیں اور جب الظاہر خلیفہ بنا تو اس نے ان سب باتوں کو موقوف کر دیا اور کہنے لگا لوگوں کے حالات کی ٹوہ لگانے اور ان کی پردہ درمی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اگر اس نے یہ کام ترک کر دیا تو وہ رعیت کو بگاڑ دے گا اس نے کہا ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ان کی اصلاح کر دے اور جو لوگ دیوانی اموال میں قید تھے اس نے انہیں قید خانوں سے رہا کر دیا اور اس سے قبل جو کچھ ناانصافی سے ان سے لیا گیا تھا وہ انہیں واپس کر دیا اور اس نے قاضی کو دس ہزار دینار بھیجے کہ وہ ان سے قید خانوں کے ان قیدیوں کے قرض ادا کر دے جو ان کی ادائیگی کی سکت نہیں رکھتے۔ اور بقیہ ایک لاکھ کو اس نے علماء میں تقسیم کر دیا۔ اور بعض لوگوں نے ان تصرفات کے بارے میں اسے ملامت کی تو اس نے کہا میں نے عصر کے بعد دکان کھولی ہے مجھے اچھے کام کرنے کے لیے چھوڑ دو میری زندگی کتنی مدت رہ گئی ہے؟ اور وہ مسلسل اسی روش پر قائم رہا حتیٰ کہ آئندہ سال فوت ہو گیا جیسا کہ ابھی بیان ہو گیا اور اس کے زمانے میں بھادوستے ہو گئے حالانکہ اس سے قبل وہ بہت گراں تھے حتیٰ کہ ابن اشیر نے بیان کیا ہے کہ بلاذریہ اور موصل میں کتوں اور بلیوں کو کھایا گیا پس یہ گرانی ختم ہو گئی خلیفہ الظاہر خوش شکل خوب رو سرخ و سفید شیریں شامل اور شدید القوی تھا۔

اس سال میں وفات پائے والے اعیان

ابو الحسن علی ملقب ملک افضل:

نور الدین ابن صلاح الدین بن یوسف بن ایوب اپنے باپ کا ولی عہد تھا اور اس نے اس کے دو سال بعد دمشق پر قبضہ کیا پھر اس کے چچا عادل نے اسے اس سے چھین لیا اور قریب تھا کہ یہ اپنے بھائی عزیز کے بعد دیار مصر پر قبضہ کر لیتا تو اس نے چچا عادل بن ابوبکر نے اسے اس سے چھین لیا، پھر اس نے صرخد کی حکومت پر اکتفاء کیا۔ تو اسے بھی اس کے چچا عادل نے اس سے چھین لیا، پھر نوبت بایں جارسید کہ اس نے اس سال وفات پائی اور یہ فاضل شاعر اور بہت اچھا کاتب تھا اور اسے حلب شہر میں لاکر اس کے باہر دفن کیا گیا۔ اور ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے خلیفہ ناصر الدین اللہ کو خط لکھ کر اس کے پاس اس کے چچا ابوبکر اور اس کے بھائی عثمان کی شکایت کی، اور ناصر شیعہ تھا، اس نے اسے مثال دیتے ہوئے لکھا۔

میرے دوست ابوبکر اور اس کے دوست عثمان نے تلوار کے ذریعے علی کا حق غصب کر لیا ہے، حالانکہ اسے اس کے والد نے ان دونوں پر حاکم بنایا تھا اور جب وہ حکمران بنا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اور ان دونوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کی بیعت کو توڑ دیا اور معاملہ ان دونوں کا تھا، اور اس کے بارے میں واضح نص موجود تھی، پس تو اس نام کے نصیبے کو دیکھ کہ اس سے بعد میں آنے والوں کو بھی وہی تکلیف ملی جو پہلوں کو ملی تھی۔

امیر سیف الدین علی:

ابن الامیر علم الدین بن سلیمان بن جندریہ حلب کے اکابر علماء میں سے تھا اور بہت صدقات دیتا تھا اور اس نے حلب میں دو در سے وقف کیے، ایک شافیہ کے لیے اور دوسرا حنفیہ کے لیے اور سررائیں اور بل بنائے اور دیگر نیک کاموں اور جنگوں میں مال خرچ کیا۔

شیخ علی کردی:

قریباً فاجر العقل اور باب الجابیہ سے باہر مقیم، ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے متعلق اختلاف کیا گیا، بعض دماشقہ کا خیال ہے کہ وہ صاحب کرامات تھا اور دوسروں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کسی شخص نے اسے نماز پڑھتے روزہ رکھتے اور جوتا پہنتے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ نجاستوں کو پامال کرتا تھا اور اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوتا تھا، اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ ایک جن اس کے تابع تھا اور وہ اس کی زبان سے گفتگو کرتا تھا السبط نے ایک عورت سے روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ لاذقیہ میں میری ماں کے وفات پانے کی خبر آئی کہ وہ مر گئی ہے اور بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ نہیں مرئی وہ بیان کرتی ہے کہ میں شیخ علی کردی کے پاس سے گزری تو یہ قبرستان کے پاس بیٹھا تھا تو میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اس نے اپنا سراٹھا کر مجھے کہا وہ مر گئی ہے وہ مر گئی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ تو جو اس نے کہا وہی ہوا۔

اور میرے دوست عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک روز صبح کو میں انھا تمیر سے پاس کوئی چیز بھی تھی میں اس کے پاس سے گزرا وہاں سے نصف درہم نکلے دیا اور نئے نکلیے روئی اور تیرے میں کھڑے سے ڈالنے سے یہ کافی ہے۔ اور اس کے بیان کیا کہ ایک روز یہ خطیب جمال الدین الداعی کے پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگا اے شیخ علی آج میں نے خطبہ لکھا اور اس پر پائی پیر ہے اور انہوں نے مجھے کفایت کی ہے تو شیخ علی آمدن نے اسے کہا اور تو اس کے سوال پر یہ اور کیا چاہتا ہے اس نے کہا کچھ نہیں تو اس نے کہا اے مسلمانو! جو شخص اپنے آپ کو اس کمرے میں بند کر کے خشک کھڑے پر قناعت کرے اور اللہ نے اس پر جو حج فرض کیا ہے اسے ادا نہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟

الفخر ابن تیمیہ:

محمد بن ابی القاسم بن محمد شیخ فخر الدین ابو عبداللہ بن تیمیہ حرانی، آپ حران کے عالم خطیب اور واعظ تھے آپ نے امام احمد کے مذہب سے اشتغال کیا اور اس میں مہارت حاصل کی اور شہرت پائی اور بہت سی جلدوں میں جامع تفسیر لکھی اور آپ کے خطبات مشہور ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں جنہیں شیخ مجد الدین مولف المنقلی نے احکام میں بیان کیا ہے۔ ابوالمظفر ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ میں نے جمعہ کے روز نماز کے بعد آپ کو لوگوں کو وعظ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے سنا۔

”ہمارے احباب نایاب ہو گئے ہیں اور میری آنکھیں نیند میں بند نہیں ہوتیں یا ہم ملاقات کریں گے دل شیفہ سے نرمی کرو اور جلے ہوئے جسم کی بیماری پر رحم کرو تم نے شہنائے ملاقات میں مجھ سے کس قدر ٹال مٹول کی عمر گذر گئی ہے اور ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔“

اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ اپنے شیخ ابو الفرج ابن الجوزی کی وفات کے بعد زیارت بغداد کو آئے اور وہاں آپ کے مقام وعظ پر وعظ کیا۔

وزیر بن شکر:

صفی الدین ابو محمد عبداللہ بن علی بن عبدالخالق بن شکر، آپ دیار مصر میں مصر اور اسکندریہ کے درمیان دمیرہ مقام پر ۵۴۰ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کو مصر میں اپنے مدرسہ کے پاس اپنے قبرستان میں دفن کیا گیا اور آپ ملک عادل کے وزیر بنے اور اپنے زمانے میں کئی کام کیے جن میں سے جامع دمشق کا فرش کروانا بھی ہے اور آپ نے عید گاہ کی چار دیواری بنوائی اور نوارہ اور اس کی مسجد بنوائی اور جامع المہرۃ کی تعمیر کروائی اور ۶۱۵ھ میں آپ کو معزول کر کے ہٹا دیا گیا اور اس سال تک آپ معزول ہی رہے اور اسی سال میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ظالم تھے۔ واللہ اعلم

ابو اسحاق ابراہیم بن المظفر:

ابن ابراہیم بن علی جو ابن البندی اور بغدادی واعظ کے نام سے مشہور ہیں آپ نے اپنے شیخ ابو الفرج ابن الجوزی سے اس فن کو حاصل کیا اور کثیر سے حدیث کا سماع کیا اور زہد کے بارے میں آپ کے اشعار ہیں۔

”یہ دنیا مسرت کا گھر نہیں تو اس کے کمر و فریب سے خوف کھا، جب نوجوان اس میں اپنے مال سے شاد کام ہوتا ہے تو یہ

اسے جام موت پلا دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے دو چہرے بنا دیتے ہیں اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے نمایاں کیا ہے وہ اس کے اسیر ہو جانے اور جو مصیبت اسے آئی وہ اس کا دفاع نہ کر سکے گا اور اسے روک دیتا تو کسی نے نیچے سے بڑا لٹو لٹو جوں کا توڑ رہتا یہ ایک عمل کرنا چاہیے۔

ابوالحسن علی بن اسحاق

رازی بغدادی و اعجاز اس کے فضائل اور اچھے اشعار بھی ہیں اور زہد کے بارے میں اس کے اشعار ہیں۔

”اے نفس موت کے لیے تیاری کر اور نجات کے لیے کوشش کر اور دور اندیش مستعد بن۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ زندہ کے لیے بیٹنگی نہیں اور نہ موت سے کوئی چارہ ہے اور تو صرف عاریتہ لی ہوئی چیز ہے جو واپس کر دی جائے گی اور عاریتہ لی ہوئی چیزیں واپس لوٹائی جاتی ہیں۔ تو بھول جاتا ہے اور حوادث نہیں بھولتے اور موتیں کوشش کرتی رہتی ہیں موت کی کان میں بقا کی امید نہ رکھ۔ اور نہ وہاں تیرے لیے کوئی گھاٹ ہے زمین میں کسی شخص کی حکومت اور حصہ کون سا ہے زمین میں اس کا حصہ لحد ہے انسان زندگی کے ایام کی لذت کو کیسے پسند کرتا ہے جس کے سانس گئے ہوئے ہیں۔“

الہجاء سنجاری:

ابوالسعادات اسعد بن محمد بن مہدی، شافعی فقیہ، شاعر، ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ فقیہ تھے اور مسائل خلافہ میں گفتگو کرتے تھے مگر آپ پر شاعری کا غلبہ تھا، آپ نے اس میں کمال حاصل کیا اور اپنی نظموں کے باعث شہرت پائی اور اس سے بادشاہوں کی خدمت کی اور ان سے انعامات لیے اور شہروں میں گشت کی اور دمشق کے قبرستان اشرفیہ میں آپ کا دیوان موجود ہے اور آپ کے شاندار اور لطیف اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اور تیرے محبوب کے دل میں بے غم ہونے کی بات نہیں گذری اور محبت میں اس کے حال کو تو بہتر جانتی ہے اور چغل خور نے کب تیرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ تیرے عشق کو فراموش کر دینے والا ہے، اپنے محبوب سے پوچھو وہ تو اس کے ملامت گروں میں شامل ہے، کیا مصیبت زدہ عاشق کے حال کا کوئی گواہ نہیں جو تجھے اس کے بارے میں سوال کرنے سے بے نیاز کر دے تو نے اس کی بیماری کو نیا لباس دیا ہے اور تو نے اس کے عشق کا پردہ چاک کیا ہے اور اس کے وصال کی رسی کو کاٹ دیا ہے۔“

اور یہ ایک طویل قصیدہ ہے جس میں اس نے قاضی کمال الدین شہر زوری کی مدح کی ہے اور اس کے یہ اشعار بھی ہیں۔

”میرے زمانے کا کیا کہنا جو میرا قصد کیے ہوئے ہے اور میرے اچھے اوقات کا کیا کہنا جن سے میں محروم ہوں، قریب ہے کہ وہ سرعت کے ساتھ گزرنے میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔“

آپ کی وفات ۹۰ سال کی عمر میں ہوئی۔

عثمان بن عیسیٰ:

ابن درباس بن قسریں بن جہم بن عبدوس الہدبانی المارانی ضیاء الدین قاضی صدر الدین عبدالملک کا بھائی جو حکومت صلاحیہ میں

یا مصر کا ماکم تھا اور یہ ضیاء الدین ”المہذب“ کا کتاب الشہادات تک شارح ہے جو تقریباً بیس جلدوں میں ہے اور اصول فقہ میں شرح المبع اور شیرازی کی التبیہ کا شارح ہے اور یہ مذہب کا ماہر عالم تھا۔

ابو محمدؒ بن اللہ بن احمد بن الرضویؒ

ابو ارثی تم بغدادی آپ فاضل شیخ تھے اور آپ نے روایت بھی ہے اور آپ نے جو اشعار سنائے ہیں ان میں یہ اشعار بھی ہیں۔
 ”عاجزی اور فروتنی میں عذر تنگ ہو گیا ہے اور ہم اپنی قسمت پر قناعت کرتے تو وہ ہمیں کافی ہوتی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم بندوں کی پرستش کرتے ہیں جبکہ ہمارے فقر و غنا کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔“

ابوالفضل عبدالرحیم بن نصر اللہ:

ابن علی بن منصور بن الکیال الواسطی فقہ اور قضاء کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ بغداد کے ایک معتبر شخص تھے آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”دنیا کے لیے ہلاکت ہو اس کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتیں وہ کچھ دیر خوش کرتی ہیں پھر برائیاں ظاہر کرتی ہے وہ نقاب میں تجھے خوش منظری اور خوبصورتی دکھائے گی اور بد صورتی سے نقاب اٹھا دے گی۔“

نیز اس نے کہا ہے۔

”اگر دو اطاعتوں کے بعد میری پلکوں نے تفتیش سے چشم پوشی کی ہے تو وہ میری پلکیں نہیں ہیں اور اگر میں نے محبوبوں کے بعد اپنی پتلیوں سے حسن کو دیکھا ہے تو وہ میری پتلیاں نہیں ہیں اگر میرے وطن نے میرے وطن پر احسان کیا ہے تو زمانہ اس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔“

ابوعلی الحسن بن علی:

ابن الحسن بن علی بن الحسن بن علی بن عمار بن فہر بن وقاح الیاسری حضرت عمار بن یاسر کی نسبت سے یاسری کہلاتے ہیں آپ بغداد کے فاضل شیخ تھے اور تفسیر و فرائض میں آپ کی تصنیفات موجود ہیں اور آپ کے خطبات و رسائل اور اچھے اشعار بھی ہیں اور حکام کے نزدیک آپ کی شہادت مقبول تھی۔

ابوبکر محمد بن یوسف بن الطباخ:

الواسطی بغدادی الصوفی آپ نے بغداد میں ایک امارت سنبھالی اور آپ نے جو اشعار سنائے ان میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عقل و ادب سے بڑھ کر اچھی چیز بخشش نہیں کی یہ دونوں چیزیں جو ان کا حسن و جمال ہیں اور اگر یہ دونوں کھوجائیں تو اس کے لیے زندگی کا کھودینا زیادہ اچھا ہے۔“

ابن یونس شارح التبیہ:

ابوالفضل احمد بن شیخ کمال الدین ابوالفتح موسیٰ بن یونس بن محمد بن معاذ بن مالک بن محمد بن سعد بن سعید بن عاصم بن عابد

بن کعب بن قیس بن ابراہیم آپ اصلاً اربلی ہیں، پھر موصل کے علمی اور امارتی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے علوم و فنون کو اپنے ماں سے سیکھا، گانا اور روزگار سیکھے، آپ نے عربوں، یونانیوں، اسیان، ہندوستان کی شرح کی اور انہیں عربی کی زبان میں لکھا، انہیں کا ترجمہ اختصاراً کیا ایک چھوٹی اور ایک بڑی اورانی سے آپ درس دیا کرتے تھے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اربل میں میرے والد کی وفات کے بعد ۶۱۰ھ میں ملک مظفر کے مدینے سے ہنسپاوا اور میں چھوٹی عمر میں آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا، میں نے آپ کی مانند کسی شخص کو درس دینے نہیں دیکھا۔ پھر ۶۱۷ھ میں آپ اپنے شہر کو چلے گئے اور اس سال کی ۲۳ رجب الاول کو سوموار کے روز ۴۷ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔

۶۲۳ھ

اس سال ملک جلال الدین بن خوارزم شاہ کی الکرچ کے ساتھ مذبحیڑ ہوئی اور اس نے انہیں عظیم شکست دی اور اس نے ان کے سب سے بڑے قلعہ تفلیس کا قصد کیا اور اسے بزدل قوت فتح کر لیا اور اس میں جو کفار موجود تھے انہیں قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا اور وہاں جو مسلمان موجود تھے ان میں سے کسی کے ساتھ اس نے تعرض نہیں کیا اور اس کی حکومت قلعے پر قائم ہو گئی۔ اور الکرچ نے اسے ۵۱۵ھ میں مسلمانوں سے چھین لیا اور اب تک انہیں کے قبضے میں تھا، حتیٰ کہ اس جلال الدین نے اس قلعے کو ان سے چھڑایا اور یہ ایک عظیم فتح تھی۔

اور اس سال یہ خلاط کی طرف گیا تاکہ اسے ملک اشرف کے نائب سے چھین لے، مگر یہ اس کو حاصل کرنے کی قوت نہ پاسکا اور اس کے باشندوں نے اس سے سخت جنگ کی اور اس نے اپنے کرمان کے نائب کی نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی طرف روانہ ہو گیا۔

اور اس سال ملک اشرف نے اپنے بھائی معظم کے ساتھ صلح کی اور دمشق میں اس کے پاس گیا اور معظم جلال الدین شاہ اربل شاہ مار دین اور شاہ روم کے ساتھ مل کر اس کے خلاف مدد دینے لگا اور اشرف کے ساتھ اس کا بھائی کامل اور شاہ موصل بدر الدین یولوتھے پھر اس نے اپنے بھائی معظم کو اپنا پہلو مضبوط کرنے کے لیے مائل کر لیا۔ اور اس سال اربل نش انطاکیہ اور ارمن کے درمیان بڑی جنگ ہوئی اور ان کے درمیان بڑے ناگوار واقعات ہوئے۔ اور اس سال ملک جلال الدین نے ترکمان ایوانیہ پر سخت حملہ کیا وہ مسلمانوں کی رہزنی کیا کرتے تھے۔

اور اس سال محی الدین یوسف بن شیخ جمال الدین بن الجوزی بغداد سے ایلچیوں کے ساتھ ملک معظم کے پاس دمشق آیا اور اس کے پاس خلیفہ الظاہر بامر اللہ کی جانب سے اولاد عادل کے لیے خلعت اور قیمتی چیزیں تھیں اور خط کا مضمون یہ تھا۔ کہ اس میں اسے جلال الدین بن خوارزم شاہ کی دوستی سے منع کیا تھا، بلاشبہ وہ باغی ہے اور اس نے خلیفہ کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو بغداد سے چھین لینے کا عزم کیا ہوا ہے، سو اس نے اس کی بات مان لی اور قاضی محی الدین بن الجوزی دیار مصر میں ملک کامل کے پاس گیا اور شام و مصر کی طرف آپ کی یہ پہلی آمد تھی اور آپ کو بادشاہوں کی طرف سے بہت سے انعامات ملے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے دمشق میں نشانین مقام پر اپنا مدرسہ جوڑیہ تعمیر کیا۔ اور اس سال ملک معظم کے سرکاری حکم کے مطابق شمس الدین محمد بن قزغلی سبط ابن

الجوزی نے دامن کوہ میں الشہلیہ کی تدریس کا کام سنبھالا اور پہلے روز ہی قضاة اور اعیان آپ کے پاس آئے۔
خلیفۃ الظاہر کی وفات اور اس کے بیٹے المستنصر کی خلافت:

خلیفہ مرحوم کی وفات اس سال ۱۳۱۳ھ کو جمعہ کے دن چاشت کے وقت ہوئی اور لوگوں کو اس کی وفات کا علم نماز کے بعد ہوا۔ ایسے خطباء نے حسب دستور منا بر پر اس کے لیے دعائیں کیں اور اس کی خلافت کو ماہ ۴۱۳ھ دن رہی اور اس کی عمر ۵۲ سال تھی اور وہ ابو عباس کا سب سے بڑا بیٹا اور سیرت و ضمیر کے لحاظ سے بہتر شخص تھا اور بڑا دیوالو اور خوش منظر تھا، اور اگر اس کا زمانہ باہر ہو تو اس کے ہاتھوں امت کی بہت اصلاح ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اس کے قرب کو پسند کیا تو اس نے بھی اسے اختیار کر لیا، جو اس کے پاس تھا، اور اس نے اس پر بہت احسان کیا، اور اس نے اپنی امارت کے آغاز میں دیوانی اموال کے چھوڑنے اور نالصافیوں کے دور کرنے اور نیکی کے ساقط کرنے اور لوگوں سے خراج کو کم کرنے اور جو شخص قرضوں کی ادائیگی سے عاجز ہیں، ان کے قرضے ادا کرنے اور علماء اور فقراء سے حسن سلوک کرنے اور امانت دار اور دیانت دار لوگوں کو امیر بنانے کے جو کام کیے ہیں ہم انہیں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس نے والیان رعیت کو خط لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یاد رکھو ہمارا نرمی برتنا، ارادۃ یا بھول کر چھوڑنا نہیں اور نہ ہمارا چشم پوشی کرنا، صبر سے برداشت کرنا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تم نے گذشتہ ایام میں جو شہروں کو ویران کیا اور رعایا کو بھگایا اور شریعت کو برقرار دیا اور باطل جلی کا حق خفی کی صورت میں اظہار کیا، یہ ایک حیلہ اور چال اور مکمل بیخ کنی اور اعراض کو حاصل کرنے کا نام تھا، جس کی فرصت تم نے، بہادر اور ہیبت ناک شیر کے بچوں اور کچلیوں سے اچانک پالی تم مختلف الفاظ سے ایک مفہوم پر متفق ہو حالانکہ تم اس کے ثقہ اور امین آدمی ہو، تم اس کی رائے کو اپنی خواہشات کی طرف مائل کرتے ہو اور اپنے باطل کو اس کے حق کے ساتھ ملا دیتے ہو، وہ تمہاری اطاعت کرتا ہے۔ حالانکہ تم اس کے نافرمان ہوتے ہو، وہ تم سے موافقت کرتا ہے اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے خوف کو امن سے اور تمہارے فقر کو تو نگری سے اور تمہارے باطل کو حق سے بدل دیا ہے اور تم کو وہ بادشاہ دیا ہے جو لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور صرف اصرار کرنے والے سے مؤاخذہ کرتا ہے اور اصرار پر قائم رہنے والے سے انتقام لیتا ہے، وہ تمہیں عادلانہ حکم دیتا ہے اور وہ تم سے بھی عدل ہی چاہتا ہے اور وہ تم کو ظلم سے روکتا ہے اور وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور تمہیں اس کی اطاعت کی رغبت دلاتا ہے۔ اگر تم اللہ کے ان خلیفوں کے راستوں پر جنہیں اس نے زمین میں اپنا نائب اور اپنی مخلوق پر امین مقرر کیا ہے چلے تو جنہاں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔“

اور اس نے اپنے گھر میں مہر شدہ کاغذ کے ٹکڑے دیکھے جنہیں اس نے لوگوں کی پردہ داری اور ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے نہ کھولا اور اس نے اپنے پیچھے دس بچے بچیاں چھوڑے ان میں سے اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے ابو جعفر منصور کی بیعت خلافت ہوئی اور اس نے المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا، اور شیخ محمد خیاط واعظ نے اسے غسل دیا اور اسے دار الخلافت میں دفن کیا گیا۔ پھر

اسے الرصافہ کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔

المستنصر بالله عباسی کی خلافت۔

امیر المومنین ابی جعفر منصور بن الناصر محمد بن ابی ناصر احمد حسن روز یعنی ۳۱ ربیع الثانی ۶۲۳ھ کو ہمدان کے دن اس کا باپ عمر ۷۱ سال کا تھا اور اس وقت اس کی عمر ۳۵ سال ۵ ماہ ۱۱ دن تھی اور یہ بڑا خوش شکل اور خوش منظر تھا اور شاعر کے اس شعر کا مصداق تھا۔

”گو یا شریا اس کی پیشانی میں اور شعر میں اس کے رخسار میں اور چاند اس کے چہرے میں پیوست ہے۔“

اور اس کے نسب شریف میں پندرہ خلیفے ہیں جن میں سے اس کے پانچ آباء نے بالترتیب خلافت حاصل کی اور اس نے جیسے بڑے بڑوں کے وارث ہوتے ہیں ان سے اسے وراثت حاصل کیا اور اس بات کا اس سے پہلے کسی خلیفہ کے لیے اتفاق نہیں ہوا اور اس نے لوگوں کے ساتھ اپنے باپ الظاہر کی طرح سخاوت، حسن سیرت اور رعیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی روش اختیار کی اور اس نے مدرسہ کبیرہ مستنصریہ تعمیر کیا جس کی شکل دنیا میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا۔ ان شاء اللہ

اور جو لوگ اس کے باپ کے زمانے میں امیر تھے وہی اس کے زمانے میں امیر مقرر رہے اور جب آئندہ جمعہ کا دن آیا تو منابر پر امام المستنصر بالله کا خطبہ دیا گیا اور اس کا نام اور ذکر آنے پر سونا اور چاندی نچھاور کیا گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا اور شعراء نے مدائح اور مرثیائیں سنائیں اور انہیں خلعت اور انعامات دیئے گئے اور ماہ شعبان میں شاہ موصل کی طرف سے وزیر ضیاء الدین ابوالفتح نصر اللہ بن الاثیر کی طرف سے ایلیچی آیا جس کے پاس ایک خط تھا جس میں فصیح و بلیغ عبارت میں تہنیت و تعزیت تھی۔

پھر المستنصر بالله موصل کے ساتھ سوار ہو کر لوگوں کے لیے جمعہ میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ صرف دو خادم اور شہر کا سوار ہوتا ایک دفعہ وہ سوار ہو کر نکلا تو اس نے ایک عظیم شور سنا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ اپنی سواری سے اتر کر پیدل ہو گیا اور پیادہ دوڑنے لگا، پھر وہ تواضع اور خشوع کے طور پر مسلسل جمعہ کو پیدل آنے لگا اور وہ امام کے نزدیک بیٹھتا اور خطبہ سنتا، پھر اس کے لیے بند حجرے کو درست کر دیا گیا اور وہ اس سے پیدل چل کر جمعہ کو جاتا۔ اور وہ ۲۲ شعبان کو عوام کے لیے سوار ہوا اور جب رمضان کی پہلی رات آئی تو اس نے علماء فقراء اور محتاجوں پر روزوں میں مدد دینے اور قیام میں قوت دینے کے لیے آئے، بکریوں اور نفقات کا بہت سا صدقہ دیا اور ۲۷ رمضان کو الظاہر کا تابوت دار الخلافہ سے الرصافہ کے قبرستان میں منتقل کیا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور خلیفہ المستنصر نے عید کے روز محی الدین ابن الجوزی کے ہاتھ فقہاء صوفیاء اور ائمہ مساجد کو بہت سے صدقات اور انعامات بھیجے۔

اور ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس سال زبردست زلزلہ آیا جس سے ان کے ملک کی بہت سی بستیاں اور قلعے منہدم ہو گئے۔ نیز ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ ان کے ملک میں ایک بکری کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کو کڑوا پایا گیا، حتیٰ کہ اس کے سری پائے اور پھینچے، جگر اور سب اجزاء ہی کڑوے پائے گئے۔

خليفة الظاہر کے بعد اس سال میں وفات پانے والے اعیان

الجمال المصری

یونس بن بردان بن فیروز جمال الدین مصری اس وقت کے قاضی القضاة آپ علم کو حاصل کر کے یکا نہ روزگار بن گئے۔ اور آپ نے حضرت امام شافعی کی کتاب ”الام“ کا اختصار کیا اور فرائض کے بارے میں آپ کی ایک طویل کتاب ہے۔ اور آپ نے اتقی صالح الفریر کے بعد جس نے خود کشتی کر لی تھی، امینیہ کی تدریس کا کام سنبھالا، یہ کام وزیر صفی الدین بن شکر نے آپ کے سپرد کیا، آپ اپنے کام کی طرف بہت توجہ کرتے تھے پھر اس نے آپ کو دمشق میں بیت المال کا کام سپرد کر دیا۔ اور آپ نے شاہ دمشق کی طرف ملوک اور خلفاء سے مراسلت کی، پھر معظم نے الزکی ابن الزکی کے معزول کرنے کے بعد آپ کو دمشق کا قاضی القضاة بنا دیا۔ اور جب عادلہ کبیرہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اس کی تدریس کا کام بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہاں درس دیا۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اعیان آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سب سے پہلے درس تفسیر دیتے، حتیٰ کہ آپ نے آخر تک تفسیر کو مکمل کیا، اور تفسیر کے بعد فقہ کا درس دیتے، اور آپ رجسٹروں میں لکھنے کے بارے میں اچھا خیال رکھتے اور وہ اس طرح کہ آپ ہر جمعہ اور منگل کی صبح کو بیٹھ جاتے اور ایوان عادلہ میں شہر کے تمام گواہوں کو بلا لیتے اور جس نے کوئی خط لکھا ہوتا وہ حاضر ہوتا اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لیتا اور وہ حاکم کے سامنے گواہی دیتے اور یہ سب کچھ جلدی سے لکھ لیا جاتا اور آپ ہر جمعہ عصر کے بعد مزار عثمان پر کمالی کھڑکی میں نشست کرتے اور فیصلے کرتے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز پڑھتے۔ اور بسا اوقات آپ عشا کے پڑھنے تک ٹھہرے رہتے آپ علم کا بہت مذاکرہ کرنے والے اور اچھے طریقے سے کام کرنے والے تھے، کسی کی چیز لینے پر آپ پر کسی نے برا نہیں منایا، ابوشامہ نے بیان کیا ہے آپ پر صرف اس لیے ناراضگی ہو جاتی تھی کہ آپ بعض وارثوں کو بیت المال کی بہتری کے لیے مشورہ دیتے تھے۔ اور یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے تاج کو محمد کا نائب مقرر کیا جو پسندیدہ روش نہ تھا، اور خود وہ پاکدامن اور رعب دار آدمی تھا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ قرشی شیبی ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے آپ پر اعتراضات کیے۔ اور آپ کے بعد شمس الدین احمد بن خلیل، جو نبی قاضی بنا۔

میں کہتا ہوں آپ کی وفات اس سال کے ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ کو اپنے اس گھر میں دفن کیا گیا، جو جامع مسجد کی جانب درب الریحان کے سر پر واقع ہے۔ اور آپ کی قبر کی کھڑکی آج کل مدرسہ شرفیہ کے مشرق میں ہے، اور ابن عنین نے آپ کی بجو کرتے ہوئے کہا ہے۔

”مصری اپنے فعل میں کس قدر کوتاہ تھا کہ اس نے قبر بھی اپنے گھر ہی میں بنائی ہے اور اس نے زندوں کو اسے پتھر مارنے سے راحت دی ہے اور مردوں کو اس کی آگ سے دور کیا ہے۔“

الکشمیر والی دمشق

الہمارز ابراہیم جو معتد والی دمشق کے نام سے مشہور ہے یہ بہترین خلفاء میں سے تھا اور عفت اور حسن سیرت اور پاکیزگی ظہیر میں اس سب سے بڑھ کر تھا، اسلام و مسلمانی تھا، شام، کفر و فساد شاہ بن شہنشاہ بن ایوب کا نام بن گیا۔ وہ دمشق کا لوتوال تھا اور اس کام میں اس کی سیرت قابل تعریف رہی ہے، پھر وہ چالیس سال تک دمشق کا لوتوال رہا اور اس کے زمانے میں عجیب و غریب واقعات ہوئے اور وہ صاحب جاہ اور معزز گھرانوں کا خاص طور پر پردہ پوش تھا۔

اس کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک جولاہا کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے کانوں میں بالیاں تھیں تو ان کے پڑوسیوں میں سے ایک شخص نے حملہ کر کے دھوکے سے اسے قتل کر دیا اور جو زیور وہ پہنے ہوئے تھا اسے لے جا کر ایک قبرستان میں دفن کر دیا، لوگوں نے اس کے خلاف شکایت کی، مگر اس نے اعتراف نہ کیا اور اس کی والدہ اس واقعہ سے روٹی اور اس نے اپنے خاندان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اس نے اسے طلاق دے دی تو وہ اس شخص کے پاس چلی گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے نکاح کرے اور اس نے اس کے سامنے اظہار کیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اس نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ ایک وقت تک اس کے ہاں ٹھہری رہی، پھر ایک وقت اس نے اس سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا جس کے باعث لوگوں نے اس کے خلاف شکایت کی تھی، اس نے کہا ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے، اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے اس کی قبر دکھا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں، تو وہ اسے شہنشاہ کی قبر پر لے گیا، اس نے اسے کھولا تو وہ اپنے سچے کو دیکھ کر اشکبار ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ ایک چھڑی بھی لے گئی جو اس نے اس دن کے لیے تیار کی تھی، پس اس نے اسے چھڑی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور اسے اپنے بیٹے کے ساتھ اسی قبر میں دفن کر دیا، قبرستان کے منتظم اسے اٹھا کر اس معتد والی دمشق کے پاس لے گئے، اس نے اس سے بات پوچھی تو اس نے اسے سارا واقعہ سنا دیا، اس نے اس کی کارروائی کی تحسین کی اور اسے رہا کر دیا اور اس سے حسن سلوک بھی کیا۔

اور السبط نے اس سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں باب الفرج سے باہر آ رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص طبل اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مدہوش ہے، میں نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے حد لگائی گئی اور میرے حکم سے انہوں نے طبل توڑ دیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مڈکا ہے انہوں نے اسے توڑا تو اس میں شراب تھی، اور عادل نے شراب نجوڑنا اور اسے دمشق کی طرف لانا، کلینہ منع کیا ہوا تھا، اور لوگ طرح طرح کے حیلے اختیار کرتے تھے، السبط کا بیان ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ طبل میں کوئی چیز ہے اس نے کہا میں نے اسے چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی پنڈلیاں کانپ رہی تھیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ طبل میں کوئی بھاری چیز اٹھائے ہوئے ہے، اس کے اس قسم کے عجیب و غریب واقعات ہیں اور معظم نے اسے معزول کر دیا، اس کے دل میں اس کے متعلق کچھ ناراضگی پائی جاتی تھی اور اسے تقریباً پانچ سال تک قید خانے میں رکھا اور اس نئے شہر میں اس کے متعلق اعلان کروایا مگر کسی ایک شخص نے بھی آ کر بیان نہ کیا کہ اس نے اس سے رائی کا دانہ بھی لیا ہے اور جب وہ فوت ہوا تو اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا جو ابو عمرو کے مدرسہ کے قریب بازار کے سامنے ہے اور اس کی قبر کے پاس ایک مسجد ہے جو اسی کے نام سے مشہور ہے۔ رحمہ اللہ

صائغیہ کے راستے میں التبدلیہ کو وقف کرے والا۔

شیخ الامام کافرا الحسامی اس کی نسبت حسام الدین محمد بن الامین کی طرف ہے، ست آٹھ ماہ یہ اموالیہ ہی شخص ہے جو اپنی مالکیت الشام کو التمدیہ ابرانیہ کی آبادی کی تخریب دیتا تھا اور اسی نے التبدلیہ کو حنفیہ کے لیے اور اس کے پہلو میں صوفیاء کے لیے خانقاہ بنائی اور یہی اس کا گھر تھا اور اس نے قضاۃ، مصنع اور ساہاٹ کو وقف کیا اور لوگوں کے لیے الشامیہ البرانیہ کے مغرب میں جو قبرستان ہے اس کے پاس سے ایک راستہ عین الکروش کی طرف کھولا اور لوگوں کے لیے وہاں سے جبل کی طرف کوئی راستہ نہ تھا، وہ العقبیہ میں مسجد الصفیٰ کے پاس سے گزرتے تھے اور اس کی وفات میں ہوئی اور اسے اس کے مدرسہ کے پہلو میں دفن کیا گیا اور اس نے کنڈی وغیرہ سے حدیث کا سماع کیا۔

دمشق و حلب میں الرواحیہ کا وقف کرنے والا:

ابوالقاسم ہبہ اللہ جو ابن روادہ کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک تاجر بڑا مالدار اور دمشق کے معتبر آدمیوں میں سے تھا، اور بڑا المباح چوڑا تھا اور اس کی داڑھی نہیں تھی، اور اس نے باب الفرادیس کے اندر مدرسہ رواحیہ تعمیر کیا اور اسے شافعیہ کے لیے وقف کر دیا اور اس کی نگرانی اور تدبیر کا کام شیخ تقی الدین بن الصلاح شہر زوری کے سپرد کیا اور اس کا حلب میں بھی اسی طرح مدرسہ تھا، اور وہ اپنی آخری عمر میں دمشق کے مدرسہ میں گوشہ نشین ہو گیا، اور وہ اس گھر میں رہتا تھا، جو اس کے محل میں مشرق کی طرف تھا اور بعد میں اس نے چاہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے اس میں دفن کیا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا بلکہ اسے صوفیاء کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس کی وفات کے بعد شیخ الدین ابن عربی طائی صوفی اور تقی الدین خزعل نحوی مصری ثم المقدمی امام مشہد نے ابن روادہ کے خلاف شہادت دی کہ اس نے شیخ تقی الدین کو اس مدرسہ سے الگ کیا تھا، پس طویل ناگوار واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان دونوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ درست نہ ہوا، اور خزعل بھی اسی سال میں فوت ہو گیا۔ اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ بیکار گیا۔

ابو محمد محمود بن مودود بن محمود:

البلاجی الحنفی الموصلی، اور وہاں پر اس کا ایک مدرسہ ہے جو اسی کے نام سے مشہور ہے اور وہ ترک تھا اور علماء کے مشائخ میں سے ہو گیا، اور وہ دین میں پختہ تھا اور اچھا شاعر تھا، وہ کہتا ہے۔

”جو دعویٰ کرے کہ اس کی حالت اسے شرع کے راستے سے نکال دے گی تو وہ اس کا دوست نہ بنے، بلاشبہ یہ بے فائدہ

پلیدی ہے۔“

اس سال آپ کی وفات ۱۶ جمادی الآخرہ کو موصل میں ہوئی اور آپ کی عمر تقریباً اسی سال تھی۔

یا قوت یعقوب بن عبد اللہ:

نجیب الدین متولی شیخ تاج الدین کنڈی، آپ کے لیے وہ کتابیں وقف کی گئیں جو جامع دمشق کے شمال مشرقی زاویہ کی لابریری میں تھیں اور وہ ۶۱۷ جلدیں تھیں، پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے پر وقف کیں، پھر علماء پر وقف کیں اور یہ کتابیں ضائع ہو گئیں اور اکثر فروخت ہو گئیں اور اس یا قوت کو ادب و شعر میں اچھا کمال حاصل تھا اور آپ کی وفات رجب کے آغاز میں بغداد میں ہوئی،

اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار کے پاس نیز ان کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

۶۲۴ھ

اس سال اہل تسلیس کے عام المرج اچانک ان کے پاس آگئے اور انہوں نے اس میں داخل ہو کر عوام و نواہس کو قتل کر دیا اور لوٹ مار کی اور قیدی بنائے اور گھروں کو ویران کیا اور آگ لگا لی اور غصے سے بغاوت کی اور یہ اطلاع جلال الدین کو ملی تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے جلدی چلا گروہ انہیں پکڑ نہ سکا۔ اور اس سال اسماعیلیہ نے جلال الدین بن خوارزم شاہ کے نائبین میں سے ایک بڑے امیر کو قتل کر دیا اور وہ ان کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے شہر کو برباد کر دیا۔ اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے اموال کو لوٹ لیا یہ جب تاتاری لوگوں کے پاس آئے تو یہ مسلمانوں کے خلاف ان کے سب سے بڑے مددگار تھے خدا ان کا بھلا نہ کرے اور یہ مسلمانوں کے لیے ان سے بھی زیادہ نقصان دہ تھے۔

اور جب جلال الدین اور تاتاریوں کی ایک بڑی جماعت کی باہم جنگ ہوئی تو اس نے انہیں شکست دی اور انہیں خوب قتل کیا اور قیدی کیا اور کئی روز تک ان کے تعاقب میں رہا، پس اس نے انہیں قتل کیا حتیٰ کہ ری تک پہنچ گیا اور اسے اطلاع ملی کہ ایک جماعت اس کا قصد کیے ہوئے آئی ہے تو یہ کھڑا ہو کر انہیں روکنے لگا، اور اس کے اور ان کے حالات ابھی ۶۲۵ھ میں بیان ہوں گے۔

اور اس سال ملک اشرف بن عادل کی فوجوں نے آذربائیجان آ کر بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اور بہت سے اموال کو غنیمت میں حاصل کیا اور وہ اپنے ساتھ جلال الدین کی بیوی دختر طغرل کو بھی لے گئے اور وہ اس سے بغض و عداوت رکھتی تھی، پس انہوں نے اسے شہر خلاط میں اتارا۔ اور ان کے حالات آئندہ سال میں بیان ہوں گے۔

اور اس سال فرنگیوں کے بادشاہ ابنور کا ایلچی سمندر میں معظم کے پاس ان بلاد سواحل کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا جنہیں اس کے چچا سلطان ملک ناصر صلاح الدین نے فتح کیا تھا، معظم نے انہیں سختی سے جواب دیا اور اسے کہا۔ اپنے آقا سے کہہ دینا میرے پاس صرف تلوار ہے۔ واللہ اعلم

اور اس سال اشرف نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی کو ایک عظیم محل کے ساتھ جس کا بوجھ چھ سو اونٹ اٹھاتے تھے حج کو بھیجا اور اس کے ساتھ پچاس اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر ایک غلام تھا، پس وہ عراق کی جانب روانہ ہوا اور راستے میں ہی اس کے پاس خلیفہ کے تحائف آئے اور جس راستے اس نے حج کیا اسی پر واپس آ گیا۔

اور اس سال بغداد کا قاضی القضاة نجم الدین ابو المعالی عبدالرحمن بن مقبل واسطی بنا، اور اس نے حکام کے دستور کے مطابق اسے خلعت دیا اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور اس سال بلاد الجزیرہ میں سخت گرانی ہو گئی اور گوشت کم ہو گیا، حتیٰ کہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ موصل شہر میں بعض دنوں میں موسم بہار میں صرف ایک بکروٹہ ذبح کیا گیا۔

راوی کا بیان ہے کہ اس سال دس مارچ کو جزیرہ اور عراق میں دوبار بہت برف پڑی جس سے پھول وغیرہ ضائع ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کی مثل نہیں دیکھی گئی، اور عراق کے بارے میں سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ کثرت گری کے باوجود اس میں اس قسم کا واقعہ کیسے ہوا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

چنگیز خان

تاتاریوں کے نزدیک سلطان اعظم اور ان کے آج کے بادشاہوں کا باپ جس کی طرف وہ انتساب کرتے ہیں، اور القان کا عظیم آدمی اور اس بادشاہ نے ان کے لیے وہ السیاسۃ وضع کی، جس کے پاس وہ فیصلے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں اور اس کا اکثر حصہ اللہ کی کتابوں اور شراعیع کے خلاف ہے اور اس نے اسے اپنے پاس سے بنایا ہے اور انہوں نے اس بارے میں اس کی پیروی کی ہے اور اس کی ماں کا خیال تھا کہ اسے آفتاب کی شعاع سے اس کا حمل ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوا ظاہر ہے کہ وہ جمہول النسب ہے اور میں نے ایک کتاب دیکھی ہے جسے وزیر بغداد علاؤ الدین الجوبینی نے اس کے حالات میں تالیف کیا ہے اور اس نے اس میں اس کی سیرت، اس کی سیاسی سوجھ بوجھ، سخاوت شجاعت حکومت اور رعایا کے بہترین انتظام اور جنگوں کا ذکر کیا ہے۔

اس نے بیان کیا ہے کہ ابتداء میں یہ ملک ازبک خان کے ہاں خاص آدمی تھا، اور اس وقت یہ خوبصورت جوان تھا اور اس کا پہلا نام تمرجی تھا، پھر جب یہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنا نام چنگیز خان رکھا۔ اور اس بادشاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا تھا اور حکومت کے بڑے آدمیوں نے اس سے حسد کیا اور اس کے پاس اس کی چغلی کی، حتیٰ کہ انہوں نے اس کے خلاف لڑنے کے لیے باہر نکلا، اور اس نے اسے قتل نہ کیا اس نے اس کا کوئی ایسا گناہ نہ پایا، جس کے ذریعے اس پر مسلط ہو جائے اسی دوران بادشاہ دو چھوٹے چھوٹے غلاموں پر ناراض ہوا تو انہوں نے اس کے خوف سے بھاگ کر چنگیز خان کی پناہ لے لی، تو اس نے ان دونوں کی عزت کی اور ان سے حسن سلوک کیا، اور انہوں نے اسے ملک ازبک خان کے ارادے کے متعلق بتایا کہ وہ اسے قتل کرنے کی دل میں ٹھان بیٹھا ہے۔ تو اس نے احتیاط کر لی اور اس نے حکومت کو سمیٹ لیا اور تاتاریوں کو جماعتوں نے اس کی اتباع کی اور ازبک خان کے بہت سے اصحاب اس کے پاس آنے لگے، اور یہ ان کی عزت کرنے لگا اور انہیں عطیات دینے لگا حتیٰ کہ اس کی طاقت بڑھ گئی اور اس کی فوجیں بکثرت ہو گئیں، پھر اس کے بعد اس نے ازبک خان کے ساتھ جنگ کی اور اس پر فتح پا کر اسے قتل کر دیا اور اس کی مملکت اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کی فوج اس کے ساتھ آئی اور اس کا معاملہ بڑھ گیا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور تمام بلاد طمعاًج میں ترکوں کے قبائل اس کے مطیع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ تقریباً آٹھ لاکھ جانباڑوں کے ساتھ سوار ہو کر چلنے لگا اور زیادہ اکثریت اس قبیلے کی تھی جس میں سے وہ خود تھا، انہیں قیان کہا جاتا تھا، پھر ان کے بعد دو قبیلے اس کے قریب تر تھے، جن کی بڑی تعداد تھی اور وہ ازان اور قنفوران تھے، اور وہ سال میں تین ماہ شکار کرتا تھا، اور باقی میں جنگ اور فیصلے کرتا تھا۔ الجوبینی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھیرا ڈالتا تھا،

① السیاسۃ: یہ لفظ "سی" بمعنی تین اور سیاہ بمعنی ترتیب سے مرکب ہے، پھر عربوں نے اسے تبدیل کر دیا اور سیاست کہنے لگے۔

جس کے دونوں کناروں کے درمیان تین ماہ کا فاصلہ ہوتا تھا پھر وہ حلقہ تنگ ہو جاتا اور اس میں نئی قسم کے بے شمار جانور جمع ہو جاتے تھے پھر اس کے اور ملک ملو اللہ بن نوائر سے شاہ کے درمیان جو مذاق نر اسان آور پایا اور دیگر اقلیم و ممالک کے حاکم تھا جنگ ہو گئی تو چنگیز خان نے اسے مغلوب کر لیا اور اسے شکست دی اور اس پر غلبہ پایا اور اس سے اسی سال سب کر لیے اور خود ہتھیاروں کی مدد میں اس کے بقیہ بلاد اور اولاد پر غالب آ گیا جیسا کہ ہم جو اوٹ میں بیان کر چکے ہیں۔

اور ملک چنگیز خان کی ابتداء ۵۹۹ھ میں ہوئی اور اس نے ۶۱۶ھ کی حد میں خوارزم شاہ سے جنگ کی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں خوارزم شاہ نے ۶۱۷ھ میں وفات پائی ہے اور اس وقت یہ بغیر کسی جھگڑنے اور روکنے والے کے ممالک پر قابض ہو گیا اور اس کی وفات ۶۲۴ھ میں ہوئی اور انہوں نے اسے ایک آہنی صندوق میں رکھ کر اسے زنجیروں سے باندھ دیا اور اسے وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان لٹکا دیا اور اس کی کتاب السیاسا موٹے خط میں دو جلدوں میں لکھی جاتی ہے اور ان کے ہاں اسے دو اونٹوں پر لادا جاتا ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھتا پھر اترتا تھا پھر چڑھتا اور اترتا تھا پھر کئی بار اترتا تھا حتیٰ کہ تھک کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا اور جو شخص اس کے پاس ہوتا تھا اسے حکم دیتا تھا کہ جو کچھ اس کی زبان پر جاری ہو وہ اسے لکھ لے اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کی زبان پر بولتا تھا۔

الجوبینی نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک عبادت گزار سخت سردی میں عبادت کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جاتا تھا اس نے ایک کہنے والے کو سنا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ہم نے چنگیز خان اور اس کی ذریت کو روئے زمین کا بادشاہ بنایا ہے الجوبینی نے بیان کیا ہے کہ مغلوں کے مشائخ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے مسلمہ طور پر مانتے ہیں۔

پھر الجوبینی نے السیاسا سے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ جس نے زنا کیا خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اسے قتل کیا جائے گا اور اسی طرح جو لوادت کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو عمد اجموٹ بولے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو جادو کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو جاسوسی کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو دوڑنے والوں کے درمیان داخل ہو کر ایک کی مدد کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو کھڑے ہو کر پانی میں پیشاب کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو اس میں ڈبکی لگائے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جو قیدی کو اس کے اہل کی اجازت کے بغیر کھانا کھلائے گا یا پانی پلائے گا یا اسے لباس پہنائے گا اسے قتل کیا جائے گا اور جو کسی بھگوڑے کو دیکھے گا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور جس نے قیدی کو کھانا کھلایا یا کسی کی طرف کھانے کی کوئی چیز پھینکی وہ بھی قتل ہوگا بلکہ وہ اسے اپنے ہاتھ میں دے اور جو کسی کو کوئی چیز کھلائے تو وہ خود پہلے اس سے کھائے خواہ جسے کھلایا گیا ہے وہ امیر ہو یا امیر ہو اور جس نے کھایا اور اپنے پاس والے کو نہ کھلایا اسے قتل کیا جائے گا اور جس نے حیوان کو ذبح کیا اسے بھی اسی طرح ذبح کیا جائے گا بلکہ وہ اپنے پیٹ کو چاک کر کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے دل کو نکالے گا اور ان تمام احکام میں اللہ تعالیٰ کی ان شریعتوں کی مخالفت پائی جاتی ہے جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں پس جو شخص حضرت محمد بن عبد اللہ خاتم الانبیاء ﷺ پر نازل کردہ حکم شرع کو ترک کر کے دیگر منسوخ شراعی کی طرف فیصلہ لے جائے گا اس کی تکفیر کی جائے گی پس اس شخص کا کیا حال ہوگا جو السیاسا کے پاس فیصلہ لے جاتا ہے اور اسے اس پر مقدم کرتا ہے اور جس نے ایسا کیا اجماع مسلمین سے اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے۔“

نیر فرماتا ہے:

”تیرے رب کی قسم وہ جب تک آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں علم نہ بنائیں پھر آپ جو فیصلہ کریں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے اچھی طرح تسلیم کریں تو پھر وہ مؤمن ہوں گے۔“ صدق اللہ العظیم

ان کے آداب: سلطان کی اطاعت، انتہائی استطاعت تک کرو اور اپنی خوبصورت دوشیزگان کو اس کے حضور پیش کرو کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ اور اس کے خواص میں سے جو چاہے ان میں سے کسی لڑکی کو پسند کرے اور ان کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ کو اس کے نام سے مخاطب کریں اور جو شخص کھانا کھاتے لوگوں کے پاس سے گزرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بلا اجازت ان کے ساتھ کھانا کھائے اور آگ جلانے والے اور طعام کی پلیٹ سے آگے نہ جائے اور خرگاہ کی چوکھٹ پر کھڑا نہ ہو اور وہ اس وقت کپڑے کو نہیں دھوتے جب تک ان کی میل پچیل نمایاں نہ ہو جائے اور نہ ہی علماء کو گناہوں وغیرہ میں مکلف کرتے ہیں اور نہ مردہ کے مال سے معروض ہوتے ہیں۔

اور علاؤ الدین الجوبینی نے چنگیز خان کے حالات میں بہت عمدہ باتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنی طبیعت اور عقل کے مطابق کیا کرتا تھا اگرچہ وہ مشرک تھا اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی پوجا کرتا تھا اور اس نے اس قدر بندوں کو قتل کیا ہے کہ ان کی تعداد کو ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی ابتدا خوارزم شاہ نے کی تھی اس لیے کہ جب چنگیز خان نے اپنی طرف سے کچھ تاجروں کو اپنے ملک کے بہت سے سامان کے ساتھ روانہ کیا اور وہ ایران پہنچے تو اس کے نائب نے جو خوارزم شاہ کی طرف سے مقرر تھا، انہیں قتل کر دیا اور وہ کاشی خان کی بیوی کا باپ تھا اور جو سامان ان کے پاس موجود تھا۔ وہ سب اس نے چھین لیا، چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو یہ معلوم کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ کیا یہ وقوعہ اس کی رضامندی سے ہوا ہے یا اسے اس کا علم ہی نہیں اور اس نے اسے ملامت کی اور جو پیغام اس کی طرف بھیجا اس میں اسے کہا بادشاہوں کی طرف سے یہ عہد ہو چکا ہے کہ تاجروں کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ صوبوں کے تاج ہیں اور یہی لوگ بادشاہوں کے پاس تحائف اور نفیس اشیاء لے جاتے ہیں پھر یہ تاجر تمہارے دین پر قائم تھے اور تمہارے نائب نے انہیں قتل کر دیا ہے پس اگر تو نے اس کام کا حکم دیا ہے تو ہم ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں بصورت دیگر اگر تو انکار کرتا ہے تو اپنے نائب سے قصاص لے جب خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے ایلچی سے یہ بات سنی تو اس کے پاس اس کا یہی جواب تھا کہ اس نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور بری تدبیر کی اور وہ بے وقوف ہو چکا تھا اور اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔

اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ترکوں کو چھوڑے رکھو۔

اور جب چنگیز خان کو اس امر کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے ملک کو چھیننے کی تیاری کی اور جو واقعات ہوئے اللہ کی تقدیر سے ہوئے جن سے بڑھ کر عجیب اور بھیانک واقعات نہیں سنے گئے۔

اور الجوبینی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ صید کے ایک کسان نے اسے تین خر بوزے پیش کیے اور اتفاق سے چنگیز خان کے

پاس کوئی خزاچی نہ تھا اس نے اپنی بیوی خاتون سے کہا تمہارے کانوں میں جو دو بالیاں ہیں اسے دے دو اور ان میں دو نہایت ہی نفیس جو ہرتھے، عورت نے ان کے متعلق بخل کیا اور کہنے لگی، 'اے کل تک مہلات دے اس نے کہا یہ آج کی رات'، پھر کہتے ہیں کہ۔ 'باتھو گزارے گا اور بسا اوقات اس کے بعد اسے کوئی چیز نہیں ملے گی اور ان دونوں بالیوں کو جو شخص بھی خریدے گا وہ انہیں تیرے پاس لے آئے گا تو اس نے دونوں بالیاں اتار کر کسان کو دے دیں تو اس کی عقل اڑ گئی اور وہ انہیں ایک تاجر کے پاس ایک ہزار دینار میں فروخت کرنے لے گیا، اور وہ ان کی قیمت سے واقف نہ تھا اور تاجر ان بالیوں کو بادشاہ کے پاس لے آیا اور اس نے وہ اپنی بیوی کو واپس دے دیں۔ پھر الجوبینی نے اس موقع پر یہ شعر سنایا ہے کہ۔

”جس شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ سمندر اور قطرہ اس کی بخشش کی مانند ہیں، تو اس نے سمندر اور قطرے کی تعریف کی

ہے۔“

مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ بازار سے گزرا تو اس نے ایک سبزی فروش کے پاس عناب دیکھے جن کے رنگ نے اسے حیرت میں ڈال دیا اور اس کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اس نے حاجب سے کہا کہ وہ اس سے بالس کے عوض خرید لے اور حاجب نے انہیں چوتھائی بالس میں خرید لیا اور جب اس نے انہیں اس کے آگے رکھا تو اس نے انہیں پسند کیا اور کہنے لگا یہ سب ایک بالس کے ہیں، اس نے کہا اس سے یہ بیخ گیا ہے اور جو مال اس کے پاس بیخ گیا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا، تو اس نے ناراض ہو کر کہا، میرے جیسا خریدار اسے کہاں ملے گا اسے پورے دس بوالس دو۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اسے حلب کا بنا ہوا ایک شیشے کا جام تحفہ دیا، تو چنگیز خان کو وہ بہت اچھا لگا اور اس کے ایک خاص آدمی نے اس کی شان کو کم کرنے کے لیے کہا، 'خوند اس شیشے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس نے کہا کیا اس نے اسے دور دراز علاقے سے نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ وہ صحیح سالم ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، اسے دو سو بالس دے دو۔ راوی بیان کرتا ہے اسے بتایا گیا کہ اس جگہ یہ ایک عظیم خزانہ ہے، اگر آپ اسے کھول لیں تو آپ کو اس سے بہت مال ملے گا، اس نے کہا جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہی ہمیں کافی ہے، اسے چھوڑ دو، لوگ اسے کھولیں گے اور کھائیں گے اور وہ ہماری نسبت اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ اس کے درپے نہ ہوا۔^① راوی بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کے متعلق اس کے ملک میں مشہور ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خزانے کی جگہ کو پہچانتا ہوں، مگر میں یہ بات صرف قان کو بتاؤں گا اور امراء نے اس سے اصرار کیا کہ وہ انہیں بتا دے مگر اس نے انہیں نہ بتایا، تو انہوں نے قان سے اس بات کا ذکر کیا، تو اس نے جلد اسے ڈاک کے گھوڑوں پر بلایا اور جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اس سے خزانے کے متعلق پوچھا، تو اس نے کہا میں نے تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے بطور بہانہ یہ بات کہی تھی، اور جب اس نے دیکھا تو اس کی گفتگو بدل گئی اور اس نے اسے کہا۔ جو بات تو نے کہی ہے وہ تجھے حاصل ہو گئی

① ترکی نسخے کے حاشیہ پر یہ عبارت ہے کہ یہ روایت اس کے بیٹے قان سے منقول ہے جو اس کا قائم مقام تھا اور شاید یہ درست ہو اس لیے کہ قان فطرۃ بزخنی تھا اور اس بارے میں اس کے متعلق بہت سی روایات بیان کی گئی ہیں، اور اس کا باپ چنگیز خاں سخاوت میں متوسط درجے کا آدمی تھا اور دیگر عادات اخلاق اور افعال میں بھی متوسط تھا، مگر خوزیری کے بارے میں متوسط نہ تھا۔

ہے اور اسے اس کی جلد بیخ سام واپس کر دیا اور اسے بیچ نہ دیا۔ راوی بیان کرتا ہے ایک شخص نے اسے ایک اناڑ تھلے غور پر دیا اس نے اسے توڑا اور اس کے دانے ماضی میں تقسیم کر دیے اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو اس کے دانوں کے برابر پالس دیے جائیں پھر اس نے تسمر پڑھا۔

”اس کے دروازے پر فودنیوں اڑدھام کرتے ہیں جیسے انار میں دانوں نے اڑدھام کیا ہوتا ہے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ ایک کافر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے خواب میں چنگیز خان کو کہتے سنا ہے کہ میرے باپ کو کہہ دے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرے اس نے کہا یہ جھوٹ ہے اور اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔^۱

راوی بیان کرتا ہے اس نے سیاسی فیصلے کے مطابق تین اشخاص کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت روتی اور طمانچے مارتی ہے اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے حاضر کرو وہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا خاوند ہے اس نے کہا کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو میں اسے تیری خاطر چھوڑ دوں گا وہ کہنے لگی اس جیسا خاوند بھی مل سکتا ہے اور بیٹا بھی مل سکتا ہے اور بھائی کا کوئی بدل نہیں ہے اس نے اس بات کی تحسین کی اور اس کی خاطر تینوں کو چھوڑ دیا۔ راوی بیان کرتا ہے وہ کشتی لڑنے والوں اور شاطروں کو پسند کرتا تھا اور اس کے پاس ان لوگوں کی ایک جماعت جمع ہو گئی اور اس کے پاس بیان کیا گیا کہ خراسان میں ایک شخص ہے تو اس نے اسے بلایا تو اس نے ان سب پہلوانوں کو پچھاڑ دیا جو اس کے پاس موجود تھے تو اس نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور اسے عطیہ دیا اور بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے ایک حسین بیٹی اسے دی اور وہ مدت تک اس کے پاس ٹھہری رہی اور وہ اس سے معترض نہ ہوتا تھا اتفاق سے وہ اردو کی طرف آیا اور سلطان اس سے مزاح کرنے لگا تو نے مستعرب کو کیسے پایا ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کے نزدیک نہیں آیا تو وہ اس بات سے حیران ہوا اور اس نے اسے بلا کر اس بارے میں اس سے دریافت کیا اس نے کہا اے اخوند میں نے آپ کے ہاں چالاکی سے مرتبہ حاصل کیا ہے اور جب میں اس کے نزدیک جاؤں گا تو آپ کے ہاں میرا مقام گر جائے گا اس نے کہا تجھے کوئی خوف نہ ہوگا اور اس نے اپنے عزم کو بلایا اور وہ بھی اس کی مانند تھا اور اس نے چاہا کہ پہلے شخص سے کشتی کرے تو سلطان نے کہا تم دونوں کے درمیان قرابت داری پائی جاتی ہے اور یہ بات تم دونوں کے درمیان مناسب نہیں اور اسے بہت سامال دینے کا حکم دیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو اتفاق سے رہنے اور افتراق نہ کرنے کی وصیت کی اور اس کے متعلق ان کے سامنے مثالیں بیان کیں اور اس نے اپنے سامنے تیر منگوائے اور ایک تیر لے کر ان میں سے ایک

① اس میں گڑ بڑ پائی جاتی ہے صحیح واقعہ یہ ہے کہ ایک بدو قان کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا میں نے خواب میں تیرے باپ چنگیز خان کو دیکھا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے بیٹے قان کو کہنا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرے اور قان مسلمانوں کی طرف میلان رکھتا تھا اور اپنے اہل بیت کا مخالف تھا اس نے اس شخص سے پوچھا کیا تو مغلوں کی زبان جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو بادشاہ نے اسے کہا تو جھوٹا ہے اس لیے کہ میرا باپ مغلوں کی زبان اور درس کے سوا کچھ نہ جانتا تھا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دیا اور مسلمانوں کو اس کی سازش سے بچایا۔

کو یا جسے اس نے توڑ دیا پھر اس نے ایک گٹھا منگوایا اور ان سب کو دیا اور وہ اسے توڑ نہ سکے تو اس نے کہا کہ جب تم اکٹھے اور متفق روئے تو صہبائی-ساتن اہلسنی ہوگی اور جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور اختلاف آیا تو تمہارن ممالک ایتے یہی ن ہوگی۔

راہی بیان کرتا ہے اس کے متعدد دلائل کماں لڑکے تھے ان میں سے چار لڑکے بڑے تھے ان میں سب سے بڑا یوسی تھا اور ہر بول باتو برکنہ اور نرکجا۔ تھے اور ان میں سے ہر ایک کا اس کے ہاں نام مقرر تھا۔ پھر الجوبینی نے ہاکونان کے زمانے تک اس کی اولاد کی حکومت کے بارے میں گفتگو کی ہے اور وہ اس کے نام کے عد سے میں کہتا ہے کہ وہ بادشاہ زادہ ہلاکو تھا اور اس نے اس کے زمانے میں ہونے والے عجیب اور خوفناک امور کا بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ ہم نے حوادث میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

سلطان ملک المعظم:

عیسیٰ بن عادل ابی بکر بن ایوب اس نے دمشق اور شام پر قبضہ کیا۔ اور اس کی وفات اس سال کے ذی القعدہ کے آخر میں جمعہ کے روز ہوئی اور جب اس کا باپ ۶۱۵ھ میں فوت ہوا تو یہ دمشق کا خود مختار بادشاہ بن گیا اور یہ شجاع بہادر اور عالم فاضل شخص تھا۔ اور اس نے حضرت امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق فقہ کو المنوریہ^۱ کے مدرس الحصری سے پڑھا اور لغت اور نحو کو تاج کنڈی سے سیکھا۔ اور اس نے زمخشری کی المفصل کو حفظ کیا ہوا تھا اور جو شخص اسے حفظ کرتا تھا وہ اسے تیس دینار دیا کرتا تھا اور اس نے حکم دیا کہ لغت کے بارے میں اس کے لیے ایک کتاب کو تالیف کیا جائے جو الجوبہری کی صحاح اور ابن درید کی الجمہرہ اور ازہری کی التہذیب وغیرہ پر حاوی ہو۔ اور اس نے حکم دیا کہ مسند امام احمد کو اس کے لیے مرتب کیا جائے اور وہ علماء سے محبت کرتا تھا اور ان کا اکرام کرتا تھا۔ اور نیک کاموں کی متابعت میں کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں طحاوی کے عقیدہ پر ہوں اور اس نے اپنی وفات کے نزدیک وصیت کی کہ اسے سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے اور اس کے لیے لحد بنائی جائے اور اسے صحراء میں دفن کیا جائے اور اس پر عمارت نہ بنائی جائے۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ میاط کے واقعہ کو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ یعنی اس نے وہاں بڑی شجاعت کا اظہار کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شجاعت، مہارت، علم اور اہل علم سے محبت اکٹھی کر دی تھی۔ اور وہ ہر جمعہ کو اپنے والد کی قبر پر آتا تھا اور تھوڑی دیر بیٹھتا تھا پھر جب اطلاع دینے والے اطلاع دیتے تو وہ اپنے چچا صلاح الدین کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں جمعہ کی نماز پڑھتا۔ اور وہ متکبر نہ تھا اور بعض اوقات اکیلا ہی سوار ہو جاتا اور پھر اس کے بعض غلام پیچھے سے اسے جا ملتے اور اس کے ایک دوست محبت الدین بن ابی السعد بغدادی نے اس کے بارے میں کہا ہے۔

”اگر کسی والی کے یہ مجالس مٹی میں چھوڑے گئے ہیں تو مجھے تجھ پر دلی رنج نہیں ہے اور جب سے تو مجھ سے غائب ہوا ہے“

میں کسی قابل اعتماد دوست کے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا مگر میرے دل میں تیرا خیال آتا رہا ہے۔“

اور اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے الناصر داؤد بن المعظم کو دمشق کا بادشاہ بنایا اور امراء نے اس کی بیعت کی۔

① یہ ”لہسم المصیب فی الرعلی الخلیب“ کے مؤلف ہیں جیسا کہ تاریخ بغداد میں حضرت امام ابوحنیفہ کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔

ابو المعالی اسعد بن یحییٰ:

اس نے اپنی اس منظر میں سیرا لعمریہ میں وہ رب فقیہ شافعی بخاری شیخ اور ایک فاضل اور ایک اس کی نقم و شہرت آتھیں تھے اور اس کے واقعات نہایت عجیب اور عمدہ ہیں اور اس نے نوے سال سے زیادہ عمر پائی اور ایک وقت شاہ حماة نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے اشعار عمدہ ہیں جن میں اسے ابن النہایہ نے کچھ اشعار بیان کیے ہیں۔

”اور تیرے محبوب کے دل میں بے غم ہونے کی بات نہیں گذری اور محبت اس کے حال کو تو بہتر جانتی ہے اور چغل خور نے کب تیرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ تیرے عشق کو فراموش کر دینے والا ہے اپنے محبوب سے پوچھو وہ تو اس کے ملامت گروں میں شامل ہے۔ کیا مصیبت زدہ عاشق کے حال کا کوئی گواہ نہیں جو تجھے اس کے بارے میں سوال کرنے سے بے نیاز کر دے تو نے اس کی بیماری کو نیا لباس دیا ہے اور تو نے اس کے عشق کا پردہ چاک کیا ہے اور اس کے وصال کی رسی کو کاٹ دیا ہے ہائے اس قیدی پر تجب ہے جس کی عادت یہ ہے کہ آزاد پر اپنے جان و مال سے فدا ہوتا ہے۔“

نیز اس کے یہ اشعار بھی ہیں۔

”تیری محبت کے بارے میں ملامت گروں نے خوب ملامت کی، کاش بے غم ہونے کی میعاد محشر ہوتی، تیرا دلوں میں جو مقام ہے وہ اس سے نا آشنا ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کاش انہیں میرے جیسا غم ہوتا تو وہ تجاوز نہ کرتے، عشق کی شیرینی اور عذاب پر صبر کرنا، اور عاشق کو ہمیشہ ملامت کی جاتی ہے۔“

ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد:

ابن احمد بن حمدان الطیبی جو الصائغ کے نام سے مشہور ہیں آپ نظامیہ میں دہرائی کروانے والوں میں سے ایک ہیں۔ آپ نے التقیہ میں درس دیا، اور آپ مذہب، فرائض اور حساب کے جاننے والے تھے اور آپ نے التنبیہ کی شرح لکھی ہے۔ اس کا ذکر ابن الساعی نے کیا ہے۔

ابو النجم محمد بن القاسم بن ہبہ اللہ الکریتی:

شافعی فقیہ آپ نے ابو القاسم بن فضلان سے فقہ سیکھی، پھر نظامیہ میں دہرائی کی اور کسی دوسرے مدرسہ میں درس دیا۔ آپ ہر روز تیس درس دیتے تھے اور آپ کا کام صرف پڑھانا اور دن رات قرآن کی تلاوت کرنا تھا۔

آپ بہت سے علوم کے ماہر تھے اور مذہب اور خلیات میں آپ قابل اعتماد تھے اور آپ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں ایک طلاق کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور قاضی القضاة ابو القاسم عبداللہ بن الحسین الدامغانی آپ سے ناراض ہو گیا آپ نے اس سے سماع نہیں کیا، پھر آپ کو بغداد بلایا گیا اور آپ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور قاضی القضاة نصر بن عبدالرزاق نے نظامیہ میں دوبارہ آپ کو دہرائی پر مقرر کر دیا اور آپ پھر اختعال علم اور فتویٰ میں مصروف ہو گئے اور آپ کو دوبارہ وجاہت حاصل ہو گئی یہاں تک کہ آپ نے اس سال وفات پائی یہ بیان ابن الساعی کا ہے۔

۶۲۵ھ

اس سال حائل اور تارون کے درمیان بہت معرکے ہوئے انہوں نے اسے کئی بار شکست دی پھر سب کے بعد اس نے انہیں عظیم شکست دی اور ان میں سے اتنے لوگوں کو قتل کیا جن کا شمار نہیں ہو سکتا اور یہ تاتاری چنگیز خان سے ملندہ ہو گئے تھے اور اس کے نافرمان تھے چنگیز خان نے جلال الدین ولہا کہ یہ لوگ ہم سے تعلق نہیں رکھے اور ہم نے ان کو دور کر دیا ہے لیکن ستریب تو ہماری وہ فوج دیکھے گا جس کا تو مقابلہ نہ کر سکے گا۔

اور اس سال سسلی کی جانب سے فرنگیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی اور عکا اور صور میں اترتی اور انہوں نے صیدا کے شہر پر حملہ کر کے اسے مومنین کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اس سے آگے گزر گئے اور ان کی قوت بڑھ گئی اور جزیرہ قبرص کا بادشاہ انہر و آریا پھر چل کر عکا اترتا اور مسلمان اس کے شر سے خوفزدہ ہو گئے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے اور ملک کامل محمد بن عادل حاکم مصر بیت المقدس جا کر اس میں داخل ہو گیا پھر نابلس کی طرف چلا گیا اور الناصر بن داؤد بن معظم اپنے چچا کامل سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے چچا اشرف کو خط لکھا تو اس نے اسے ایک دستہ فوج کی پیشکش کی اور اس نے اپنے بھائی کامل کو خط لکھا کہ وہ اپنے بھتیجے پر مہربانی کرے اور اس سے باز رہے کامل نے اسے جواب دیا کہ میں بیت المقدس کو ان فرنگیوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں جو اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا اس بات سے بچائے کہ میں اپنے بھائی یا بھتیجے کا محاصرہ کروں اور تو شام میں آیا ہے تو اس کی حفاظت کر اور میں دیار مصر کو واپس جا رہا ہوں اور اشرف اور اہل دمشق کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر کامل واپس چلا گیا تو فرنگیوں کی حرص بیت المقدس تک دراز ہو جائے گی پس اشرف اپنے بھائی کامل کے پاس گیا اور اسے واپس جانے سے روک دیا اور دونوں نے اکٹھے وہاں قیام کیا۔ جزا ہما اللہ خیرا

یہ دونوں القدس کے صحن کو فرنگیوں سے بچاتے تھے اللہ فرنگیوں پر لعنت کرے اور بادشاہ کے پاس ان کے ملوک کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی جیسے اس کا بھائی اشرف اور ان دونوں کا بھائی شہاب غازی بن عادل اور ان کا بھائی صالح اسماعیل بن عادل اور شاہ حمص اسد الدین شیر کوہ ناصر الدین وغیرہ اور سب نے اس امر پر اتفاق کیا کہ الناصر کو دمشق کی حکومت سے اتار کر اسے اشرف موسیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اس سال اس نے صدر تکریتی کو دمشق کے احتساب اور مشیختہ الشیوخ سے معزول کر دیا اور دو اور آدمیوں کو اس پر مقرر کر دیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اوائل رجب میں شیخ صالح فقیہ ابوالحسن علی بن مراکشی نے جو مدرسہ مالکیہ میں مقیم تھے۔ وفات پائی اور اس قبرستان میں دفن ہوئے جسے الزین خلیل بن زویزان نے صوفیہ کے قبرستان کے سامنے وقف کیا ہے اور آپ اس قبرستان میں دفن ہونے والے پہلے شخص ہیں۔

۶۲۶ھ


اس سال کا آغاز ہوا تو ملوک بنی ایوب علیحدہ علیحدہ اور اختلاف کر رہے تھے اور وہ گروہ درگروہ بن گئے تھے اور ملوک حاکم مصر کامل محمد کے پاس جمع ہوئے اور وہ قدس شریف کے نواح میں مقیم تھا اور فرنگیوں کے دل اپنی کثرت پر خوش تھے اس لیے کہ سمندر

کے ذریعے ان کے پاس فوج پہنچ گئی تھی نیز معظم کی موت اور اس کے بعد ملوک کے اختلاف کی وجہ سے بھی وہ خوش تھے، سوانہوں نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ جو ملاقات ناصر علاء الدین اور سلطان نے کی تھی اور اس بات پر ان کے اور حاکم کے درمیان مصالحت ہوگئی کہ وہ انہیں صرف بیت المقدس و اجس کے دیں اور بقیہ علاقے ان کے قبضہ میں رہیں سوانہوں نے قدس شریف کی پوری سنی اور استعم کے اس فی سببیں نرا دی تھیں، مسلمانوں کو یہ بات نہایت ناگوار لگی اور بڑی فزوری اور بچائی ہوئی چلی، ان کے ہاتھوں

پھر ملک کامل نے آ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا اور اس کے باشندوں کو بھی دی اور نہروں کو کاٹ دیا اور ذخائر کو لوٹ لیا گیا اور نرغ گراں ہو گئے اور فوجیں مسلسل اس کے ارد گرد موجود رہیں، حتیٰ کہ اس کے نتیجے صلاح الدین نے ملک ناصر داؤد بن معظم کو اس شرط پر دمشق سے نکالا کہ وہ الکرک، الشوبک، نابلس اور غور اور بقاء کے درمیانی علاقے براہ میں بطور بادشاہ قیام کرے گا اور معظم کے گھرانے کا استاد امیر عز الدین ایک صرخہ کا امیر ہوگا، پھر اشرف اور اس کے بھائی کامل نے باہم تبادلہ کیا اور اشرف نے دمشق لے لیا اور اس نے اپنے بھائی کو حران، الرحارقہ، راس العین اور سروج کے شہر دے دیئے، پھر کامل نے جا کر حماة کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس کا حکمران ملک منصور بن تقی الدین عمر تھا جو فوت ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے مظفر محمد کو ولی عہد مقرر کیا تھا، جو کامل کی بیٹی کا خاوند تھا اور حماة پر اس کے بھائی صلاح الدین قلیج ارسلان نے قبضہ کر لیا اور کامل نے اس کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ اس نے اسے اس کے قلعہ سے اتار لیا اور اسے اپنے بھائی مظفر محمد کے سپرد کر دیا، پھر جا کر اس نے ان شہروں کی سپرد داری لے لی جو اس نے دمشق کے عوض میں اپنے بھائی اشرف سے لیے تھے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، اور ملک ناصر داؤد کے زمانے میں لوگ دمشق میں اوائل کے علم میں مشغول تھے اور وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اور قدیم سے بعض لوگوں نے اسے ایک قسم کی آزادی کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

ملک اشرف نے شہروں میں اعلان کروایا کہ لوگ اس علم میں اشتغال نہ کریں اور علم تفسیر، حدیث اور فقہ میں اشتغال کریں، اور سیف الدین آمدی عزیزیہ میں مدرس تھا اس نے اسے وہاں سے الگ کر دیا اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا، حتیٰ کہ ۶۳۱ھ میں فوت ہو گیا، جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اور اس سال ناصر داؤد نے قاضی القضاة شمس الدین بن الخولی کے ساتھ قاضی محی الدین یحییٰ بن محمد بن علی بن الزکی کو بھی شامل کر دیا اور اس نے باب الکلاہ کے مشرق میں کھڑکی میں کئی روز تک فیصلے کیے پھر وہ ابن خولی کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں فیصلے کرنے لگا۔



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک مسعود قیس بن کامل:

حام یمن اس نے ۱۹ سال مکہ پر حکومت کی اور وہاں بڑی عدل گستری سے کام کیا اور زید یہ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور راستے اور حاجی پر امن ہو گئے، لیکن وہ اپنے آپ پر بڑی زیادتی کرنے والا تھا۔ اسی طرح اس میں ظلم و تعدی بھی پائی جاتی تھی اس کی وفات مکہ میں ہوئی اور باب المعلیٰ میں اسے دفن کیا گیا۔
محمد السبیتی النجار:

بعض لوگ آپ کو ابدال میں شمار کرتے ہیں، ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے دار الزکوٰۃ کے مغرب میں اپنے مال سے مسجد تعمیر کی ہے جو سڑک کے بائیں جانب ہے۔ آپ جبل میں دفن ہوئے آپ کا جنازہ دیکھنے کے قابل تھا۔
ابو الحسن علی بن سالم:

ابن یزبک بن محمد بن مقلد العباری، شاعران نو میں سے ایک شاعر، یہ کئی دفعہ بغداد آیا اور المستظہر وغیرہ کی مدح کی اور یہ ایک فاضل شاعر تھا۔ اور بکثرت غزل کہتا تھا۔
ابو یوسف یعقوب بن صابر حرانی:

شم البغدادی المنجینی، یہ اپنے فن میں فاضل تھا، اور اچھے اور عمدہ شعر کہنے والا تھا، ابن الساعی نے اس کے کچھ اشعار بیان کیے ہیں، اور آپ نے اس کا سب سے بہترین قصیدہ وہ بیان کیا ہے جس میں سب لوگوں کی تسلی کا سامان پایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی امید کی جاسکتی ہے، خدا کے سوا ہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ جو مٹی سے پیدا ہوا ہے خواہ وہ طویل عرصہ زندہ رہے، مٹی میں واپس چلا جائے گا، تمام لوگوں کا ٹھکانہ وہی ہے جس میں ان کے آبا و اجداد چلے گئے ہیں، حوا اور آدم کہاں ہیں؟ جب ان سے دوام ٹھکانہ اور بیگنی جاتی رہی، ہائیل اور قاتیل کہاں ہیں؟ جبکہ یہ اور وہ ایک دوسرے سے عناد رکھنے والے اور حسد کرنے والے ہیں، نوح علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور ہم تیرے کس دوست سے موافقت کریں ساری دنیا ہی مفقود ہو جانے والی ہے، زمانے نے اسے موت کے لیے بچے کی طرح چھوڑ دیا ہے اور اس کی لمبی عمر نے کوئی فائدہ نہیں دیا، عا د اور عاد کی جنت کہاں ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام اور شمود کہاں ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے جس نے بیت اللہ کو جو معظم اور مقصود ہے بلند کیا ہے، انہوں نے اپنے بھائی یوسف سے حسد کیا اور تدبیر کی اور حاسد و محسود دونوں مر گئے، اور سلیمان نے نبوت اور حکومت میں داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلے کیے اور اس مخلوق کے مطاع ہونے کے بعد چلے گئے اور اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا۔ اور ابن عمران، نوح، عزرا اور سمندر پھاڑنے کے بعد مٹی ہو گیا اور مسیح ابن مریم روح اللہ کا یہود خاتمہ کر دینے والے تھے، اور سردار انبیاء اور راہ حق کی طرف راہنمائی

کرنے والے نے فیصلے کیے اور وہ احمد اور محمود ہے اور اس کے بیٹوں اور پاک آل پر معبود نے درود بھیجا ہے اور کچھ دیر کے بعد آسمان کے تارے اُٹھ کر آئے اور ہوا اُٹھ جانے والی ہے اور دنیا ہی وہ آگ جو چٹانوں کو جلا دیتی ہے بجھ جانے والی ہے اور پانی ہم جانے والا ہے اور جس صبح کو وہ لوگوں کی امامت کرے گا: بین حنازل من جانی کی اور یہ اصل چیزیں یعنی آگ، مٹی، تازہ ہوا اور ٹھنڈا پانی، خشک ہوا، طبعی طرح فنا ہو جانے کا اور مخلوق میں سے کوئی باپ اور بچہ باقی نہیں رہے گا اور زمانے کی گردش سے نہ بد بخت گمراہ اور نہ سعادت مند ہدایت یافتہ بچے گا اور جب موتیں تلواریں سونت لیں تو غلام اور دوست کٹ جاتے ہیں۔

ابوالفتوح نصر بن علی بغدادی:

آپ شافعی فقیہ ہیں اور آپ کا لقب ثعلب ہے آپ نے مذہب اور خلافت میں اشتغال کیا ہے آپ کے اشعار میں سے آپ کا یہ قول بھی ہے کہ۔

”جسم میرے پاس ہے اور روح تمہارے پاس ہے، جسم پردیس میں ہے اور روح وطن میں ہے اور لوگ مجھ پر تعجب کرتے ہیں کہ میرا بدن ایسا ہے جس میں روح موجود نہیں اور میری روح ایسی ہے جس کے ساتھ بدن نہیں۔“

ابوالفضل جبرائیل بن منصور:

ابن ہبہ اللہ بن جبرائیل بن حسن بن غالب بن یحییٰ بن موسیٰ بن یحییٰ بن حسن بن غالب بن عمرو بن حسن بن نعمان بن منذر جو ابن زینب بغدادی کا تب الا یوان کے نام سے مشہور ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ نصرانی تھا اور حسن اسلام سے آراستہ ہوا اور یہ بڑا فصیح اور مؤثر وعظ کرنے والا تھا اور اس کا قول ہے:

”تیرا بہترین وقت وہ گھڑی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے غیر کی سوچ اور کسی دوسرے کی امید سے خالی ہو اور جب تک تو بادشاہ کی خدمت میں ہے، زمانے سے دھوکہ نہ کھا، اپنی ہتھیلی کو بند رکھ اور اپنی نظر کو پھیر روزے زیادہ رکھ اور نیند کم کر تجھے سکون ہوگا، اپنے رب کا شکر کر، تیرے کام کی تعریف ہوگی۔“

اور اس نے کہا مسافر کا زاد اس کے سفر سے پہلے ہوتا ہے، زاد تیار کر تو معاد میں مراد کو حاصل کرے گا، نیز کہا تو کب تک غفلت میں پڑا رہے گا، گویا تو مہلت کے عواقب سے امن میں آ گیا ہے، کھیل کود کی عمر گزر گئی اور جوانی کی عمر ختم ہو چکی اور تجھے اپنے رب کی رضامندی کا اعتماد حاصل نہیں ہوا، اور تیرا معاملہ عمر کی کمزوری اور سستی کے زمانے تک پہنچ چکا ہے اور تو نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تیری روح عاجزی کرتی ہے اور تیری آنکھ اشکباری نہیں کرتی اور تیرا دل فروتنی کرتا ہے اور تیرا نفس لالچ کرتا ہے، تیرا نفس ظلم کرتا ہے اور تو درد مند ہوتا ہے اور تو دنیا میں زہد کا اظہار کرتا ہے اور اسی وقت لالچ بھی کرتا ہے اور جو تیرا حق نہیں اس کا تو مطالبہ کرتا ہے اور جو حق تجھ پر واجب ہے تو اس کی ادائیگی نہیں کرتا، اور تو اپنے رب کے فضل کا خواہاں ہے اور استعمال کی چیزوں کو روکتا ہے اور تیرا نفس امارہ عیب لگاتا ہے اور کھیل کود سے باز نہیں آتا، اور تو اپنے اعتبار سے غفلوں کو بیدار کرتا ہے اور اپنے حصے سے غافل ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے اور تو اپنی بھلائی سے غیر کو مخصوص کرتا ہے، حالانکہ تیرا نفس محتاج فائدہ نہیں اٹھاتا، اور تو حق کے ارد گرد چکر لگاتا ہے حالانکہ تو باطل کا شوقین ہے، اور تو تنگ راستوں میں ٹھوکریں کھاتا ہے، حالانکہ نجات کا راستہ وسیع ہے اور تو گناہوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور مجرموں

کے بارے میں سفارش کرتا ہے اور تو قبیل پر قناعت کا اظہار کرتا ہے اور کثیر سے بھی سیر نہیں ہوتا اور تو ارفانی کو آباد کرتا ہے حالانکہ تیرا بانی رہنے والا تھوہیران اور بے آباد ہے اور تو مسافرانہ مقام ویوں و امن بنائے ہوئے ہے گویا تو اپنے رب سے پاس واپس نہیں پائے گا، اور تو خیال کرتا ہے کہ تیرا کوئی نگران نہیں حالانکہ تیرے اہمال کا رفع نگران کی طرف ہوتا ہے تو کبیرہ گناہوں پر سبقت کرتا ہے اور صغیرہ گناہوں سے ڈرتا ہے اور تو بخشش کی امید رکھتا ہے حالانکہ تو گناہوں سے باز نہیں آتا اور تو دیکھ رہا ہے کہ خوف تیرا احاطہ کیے ہوئے ہے اور تو کھیل کے میدان میں چر رہا ہے اور تو جابلوں کے افعال کو برا سمجھتا ہے اور خود تو جہالت کا دروازہ کھلھٹاتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تو سختی سے برا منائے اور ذلیل کاموں سے بلند رہے، افتخار کرنے والے چلے گئے ہیں اور تو پیچھے رہ گیا ہے تو کیا تو قیام رکھتا ہے؟

اور ابن الساعی نے اس کے عمدہ اشعار کو بھی بیان کیا ہے جن میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اگر تیری آنکھیں اطاعت میں بے خواب رہیں تو یہ بات تیرے لیے نیند سے بہتر ہے۔ رک جاؤ تو اپنے حال میں آگے نکل گیا ہے اور تو آگے نکل جانے والے کی آج کو پالے تیرے رب نے تجھے گمراہی کے بعد ہدایت دی ہے رشد کی راہیں عبادت کا استحقاق رکھتی ہیں اس کا غلام بن جا تو اسے آزادی محسوس کرے گا، اور طویل درویشی سے اس کے فضل کا دوام طلب کر اور جب تو حرام سے بچے گا تو اس کے عوض میں تجھے حلال اور پاکیزہ کھانا دیا جائے گا اور تو قناعت اختیار کر، تو حرام میں بھی خدائے ذوالجلال کے فضل سے حلال کو پالے گا۔“

۶۲۷ھ

اس سال اشرف موسیٰ بن عادل اور جلال الدین بن خوارزم شاہ کے درمیان عظیم معرکہ ہوا اور اس کا سبب یہ تھا کہ ماضی میں جلال الدین نے خلاط شہر پر قبضہ کر کے اسے ویران کر دیا تھا اور اس کے باشندوں کو بھگا دیا تھا۔ اور شاہ روم علاؤ الدین کی قبضہ نے اس سے جنگ کی اور اشرف کو ترغیب دیتے ہوئے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے خواہ ایک دست فوج کے ساتھ ہی آئے اور اشرف دمشق فوج کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ آیا اور جزیرہ کی فوجیں اور خلاط کی فوج میں سے جو لوگ باقی بچ گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور وہ پانچ ہزار جانباز تھے جن کے پاس پورا ساز و سامان اور بڑے بڑے گھوڑے تھے۔ انہوں نے آذر بائیجان میں جلال الدین کے ساتھ جس کے پاس بیس ہزار جانباز تھے، ٹڈ بھڑکی اور یہ ان کے سامنے ایک گھنٹہ بھی نہ ٹھہر سکا، اور اٹلے پاؤں واپس ہوا اور شکست کھا گیا اور بعد ازاں انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور وہ خوئی شہر تک مسلسل اس کی تلاش میں رہے اور اشرف خلاط شہر کی طرف واپس آ گیا۔ تو اس نے اسے چھتوں سمیت گرے ہوئے پایا۔ اور اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر اس نے اور جلال الدین نے مصالحت کر لی اور اپنی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں واپس آ گیا اللہ اس کی حفاظت کرے۔

اور اس سال اشرف نے طویل محاصرہ کے بعد ملک امجد بہرام شاہ سے قلعہ بعلبک کی سپرد داری لے لی، پھر اس نے اپنے بھائی صالح اسماعیل کو دمشق کا نائب مقرر کیا، پھر وہ اس وجہ سے اشرف کے پاس گیا کہ جلال الدین خوارزمی نے بلاد خلاط پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے اموال لوٹ لیے تھے، پس اشرف نے اس کے ساتھ ٹڈ بھڑکی اور

انہوں نے زبردست جنگ کی اور اشرف نے اسے نہایت بڑی شکست دی اور خوارزمیوں کے بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے اور خوارزمیوں پر اشرف کے فتح پانے کے باعث شہروں میں خوشخبریوں کے اعلان کیے گئے بلاشبہ وہ جس شہر کو بھی فتح کرتے تو جو آدمی بھی اس میں موجود ہوتا نہیں قتل کر دیتے اور اس کے احوال کو لوٹ لیتے، سو اللہ نے ان کو شکست دی۔

اور اشرف نے معرکہ سے قبل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ اسے فرما رہے ہیں اے موسیٰ! تجھے ان پر فتح حاصل ہوگی اور جب وہ ان کی شکست سے فارغ ہوا تو وہ بادِ خلاط کی طرف واپس آیا اور ان میں جو خرابی اور بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کی مرمت و اصلاح کی۔ اور اس سال اور اس سے پہلے سال کسی شامی نے حج نہیں کیا اور اسی طرح اس سے پہلے سال بھی یہی ہوا یہ تین سال ہیں جن میں کوئی شامی حج کو نہیں گیا۔ اور اس سال فرنگیوں نے جزیرہ سورقہ پر قبضہ کر لیا۔ اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور دوسروں کو قیدی بنا لیا اور انہیں ساحل کی طرف لے آیا اور مسلمانوں نے اس کا استقبال کیا تو جو کچھ فرنگیوں نے ان سے سلوک کیا تھا اس کی خبر دی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

زین الامناء شیخ صالح:

ابوالبرکات ابن الحسن بن بن الحسن بن ہبہ اللہ بن زین الامناء بن عسا کر دمشقی شافعی، آپ نے اپنے دونوں چچاؤں حافظ ابوالقاسم اور الصائغ اور کئی لوگوں کو سماع کرایا اور عمر روایت میں متفرد ہے اور آپ نے ۸۰ سے تین سال متجاوز عمر پائی اور اپنی آخری عمر میں آپ کو مرض قعاد^۱ لاحق ہو گیا اور آپ کو سماع حدیث کرانے کے لیے پانگی میں جامع مسجد اور دارالحدیث نوریہ کی طرف لے جایا جاتا تھا اور لوگوں نے طویل مدت تک آپ سے انتفاع کیا اور جب آپ فوت ہوئے تو لوگ آپ کے جنازہ میں شامل ہوئے اور آپ کو قبرستان صوفیہ میں اپنے بھائی شیخ فخر الدین بن عسا کر کے نزدیک دفن کیا گیا۔

شیخ بیرم الماردینی:

آپ صالح، گوشہ نشین اور لوگوں سے علیحدگی کو پسند کرتے تھے اور آپ جامع مسجد کے غربی زاویہ میں مقیم تھے اور اسی زاویہ کو الغزالیہ کہا جاتا ہے اور وہ زاویۃ الدلوی زاویۃ القطب نیشاپوری اور زاویۃ شیخ ابونصر المقدسی کے نام سے مشہور ہے یہ قول شیخ شہاب الدین ابوشامہ کا ہے اور آپ کے جنازہ کا دن دید کے قابل تھا۔ آپ کو قاسیون کے دامن کوہ میں دفن کیا گیا۔

۶۲۸ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو ملک اشرف موسیٰ بن عادل جزیرہ میں ان شہروں کی مرمت و اصلاح میں مشغول تھا، جنہیں جلال الدین خوارزمی نے خراب کر دیا تھا اور اس سال تاری جزیرہ اور دیار بکر میں آئے اور انہوں نے دائیں بائیں فساد اور خرابی کی اور

① قعاد: وہ مرض ہے جس میں آدمی چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ مترجم

لوگوں کو قتل کیا اور لوٹا اور حسب عادت قیدی بنایا، اللہ ان کو ناکام کرے۔

اور اس سال مزارابی بکر کے امام کو جامع دمشق سے وظیفہ دیا گیا اور اس میں پانچ نمازیں پڑھی گئیں اور اس میں شیخ تقی الدین بن السراج شہزوری شافعی نے مدرسہ جوانیہ میں شفاخانہ کی جانب بمادی الاولیٰ میں درس دیا اور اس میں ماسر ابن الحسنی نے قاسیوں کے دامن کوہ میں الصاحیہ میں درس دیا جسے خاتون ربیعہ خاتون بنت ایوب بنت اشام کی بہن نے تعمیر کیا ہے۔ اور اس سال ملک اشرف نے شیخ علی حریری کو قلعہ عزفا میں قید کر دیا اور اس سال دیار مصر بلاد شام حلب اور جزیرہ میں زمینی اور آسمانی پانی کی قلت کی وجہ سے سخت گرانی ہو گئی اور یہ سال اس قول الہی (اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اناللہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں) کا مصداق تھا، اور ابن اشیر نے اس پر لمبی گفتگو کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تاتاریوں کی ایک پارٹی نے دوسری بار بلاد ماوراء النہر میں خروج کیا۔ اور اس سال ان کی آمد کا باعث یہ تھا کہ اسماعیلیہ نے انہیں خط لکھ کر اطلاع دی کہ جلال الدین بن خوارزم شاہ کی حکومت کمزور پڑ چکی ہے اور اس نے اپنے اردگرد کے تمام ملوک حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی دشمنی کی ہے اور یہ کہ ملک اشرف نے اسے دوبار شکست دی ہے اور جلال الدین سے کچھ ایسے افعال ناقصہ ظاہر ہوئے جو اس کی کمی عقل پر دلالت کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ایک خصی غلام مر گیا، جسے قلعج کہا جاتا تھا اور وہ اس سے محبت رکھتا تھا، اور اس نے اس پر بڑا غم کیا یہاں تک کہ امراء کو حکم دیا کہ وہ اس کے جنازے میں بیدل چلیں اور وہ کئی فرسخ بیدل چلے اور اس نے اہل شہر کو حکم دیا کہ وہ بڑی تعداد میں اس کے غم کے لیے باہر نکلیں، کچھ لوگوں نے اس بارے میں سستی کی تو اس نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ بعض امراء نے ان کے متعلق سفارش کی پھر اس نے قلعج کے ذن کی اجازت نہ دی اور اسے بھی اس کے ساتھ پاکی میں سوار کرایا جاتا تھا اور جب کبھی اس کے سامنے کھانا لایا جاتا تو یہ کہتا اسے قلعج کے پاس لے جاؤ، ایک شخص نے اسے کہا اے بادشاہ قلعج مر چکا ہے، تو اس نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اور اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگے اسے بوسہ دو اور وہ زمین کو بوسہ دیتا اور وہ کہتا، اب وہ پہلے سے تندرست ہے یعنی وہ بیمار ہے مر نہیں۔ اور بادشاہ اپنے ذین اور عقل کی کمی کی وجہ سے اس سے راحت محسوس کرتا، اللہ اسے ہلاک کرے، اور جب تاتاری آئے تو یہ ان کے ساتھ مشغول ہو گئے اور اس نے قلعج کے ذن کرنے کا حکم دیا اور ان کے سامنے سے بھاگ گیا اور اس کا دل ان کے خوف سے بھر گیا اور وہ جس علاقے سے بھی گزرتا وہ اسے آملتے اور وہ جن علاقوں اور شہروں سے گزرے انہیں برباد کر دیا، حتیٰ کہ وہ جزیرہ پہنچ گئے اور اس سے آگے سنجار، مار دین اور آمدت قلام کرتے لوٹے اور قیدی بناتے ہوئے چلے گئے اور جلال الدین کی جمعیت پریشان ہو گئی اور اس کی فوج اسے چھوڑ گئی اور وہ مختلف سمتوں میں بکھر گئے اور انہوں نے امن کے بدلے خوف اور عزت کے بدلے ذلت اور اجتماع کے بدلے پراگندگی اختیار کر لی۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں حکومت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جلال الدین کا حال معلوم نہیں ہوا کہ وہ کدھر اور کہاں چلا گیا، اور تاتاریوں نے بقیہ علاقوں میں لوگوں پر قابو پایا۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے مقابلہ میں ضعف اور کمزوری پیدا کر دی اور وہ بہت لوگوں کو قتل کرتے اور مسلمان کہتا اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اور وہ گھوڑوں پر کھیلتے اور گاتے اور لوگوں کی نقلیں

اتارتے۔ اللہ کی قسم نہیں اللہ کی قسم نہیں، اور یہ ایک عظیم مصیبت تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اور اس سال لوگوں نے شام سے حج کیا اور اس سال حج کرنے والوں میں شیخ نقی الدین ابو عمر بن الصلاح بھی تھا پھر اس سال کے بعد لوگوں نے حجوں کی کثرت اور مارا مار چوں اور فرنگیوں کے خوف سے حج نہیں کیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اور اس سال اس مدرسہ کی تعمیر مکمل ہوئی جو بغداد کے بازار نجم میں اقبال الشراہی کی طرف منسوب ہے اور وہاں درس میں حاضر ہوئے اور یہ جمعہ کا دن تھا اور اس میں بغداد کے تمام مدرس اور مفتی جمع ہوئے اور اس نے اس کے سخن میں حلوہ کے گنبد بنائے اور اسے اس سے تمام مدارس اور خانقاہوں میں لے جایا گیا، اور اس نے ان میں پچیس فقیہ مقرر کیے جنہیں ہر روز تنخواہ ملتی تھی اور حلوہ اجتماعات کے اوقات میں اور پھل اپنے زمانے میں ملتے تھے اور اس نے مدرسین، دہرائی کرنے والوں اور فقہاء کو اس روز خلعت دیئے، اور یہ اچھا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔

اور اس سال اشرف ابو العباس احمد بن قاضی فاضل حاکم مصر کامل بغداد، طرف سے ایلچیوں میں خلیفہ مستنصر باللہ کی طرف گیا اور اس کی عزت کی گئی اور اسے تعظیم کے ساتھ واپس کیا گیا، اور اس سال ملک مظفر ابوسعید کو کبریٰ بن زین الدین شاہ اربل بغداد میں داخل ہوا اور وہ اس میں کبھی داخل نہ ہوا تھا، اور سواروں کی جماعت نے اس کا استقبال کیا اور خلیفہ نے دو وقتوں میں دو دفعہ اسے بالمشافہ سلام کیا اور یہ اس کا شرف تھا، جس پر بقیہ اطراف کے ملوک نے رشک کیا اور انہوں نے ہجرت کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں بھی اس قسم کا شرف حاصل ہو، مگر وہ سرحدوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور وہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اپنی مملکت کی طرف واپس آ گیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

یحییٰ بن معطلی بن عبدالنور:

نحوی مؤلف الفیہ اور دیگر تصانیف نحویہ مفیدہ آپ کا لقب زین الدین ہے آپ نے کندی وغیرہ سے علم حاصل کیا، پھر مصر کی طرف سفر کر گئے اور آپ کی وفات اس سال کے ذی الحجہ کے آغاز میں قاہرہ میں ہوئی اور آپ کے جنازہ میں شیخ شہاب الدین ابوشامہ بھی شامل ہوا، آپ نے بھی اسی سال مصر کی طرف سفر کیا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ملک کامل بھی آپ کے جنازہ میں شامل ہوا تھا۔ اور آپ کو القرافہ میں شافعی کے راستہ میں المارکی بائیں جانب مزنی کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا۔

الدخوار الطیب:

مذہب الدین عبدالرحیم بن علی بن حامد جو الدخوار شیخ الاطباء دمشق کے نام سے مشہور ہے اور اس نے درب العمید والے اپنے گھر کو جو الصافۃ العتیقہ کے قریب ہے دمشق کے اطباء پر بطور مدرسہ وقف کر دیا، اور آپ کی وفات اس سال کے صفر میں ہوئی اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن ہوئے۔ اور آپ کی قبر پر ایک گنبد ہے جو پہاڑ کے دامن میں الرکتیہ کے مشرق میں ستونوں پر کھڑا ہے۔ آپ چھ متعاکس امراض میں مبتلا تھے، جن میں ریح الملقوہ بھی تھا۔

آپ کی یہ آنش ۵۶۵ھ میں ہوئی اور آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔

قاضی ابو غانم بن العدیم:

ابن اثیر سے بیان کیا ہے کہ اس سال قاضی ابو غانم بن العدیم شیخ صالح نے وفات پائی اور آپ عبادت و ریاضت میں پورن قوت خرچ کرتے تھے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتے تھے اور اگر کوئی کہے کہ آپ کے زمانے میں آپ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہ تھا تو وہ سچ کہے گا رضی اللہ عنہ وارضاه بلاشبہ وہ ہماری شیوخ کی جماعت میں سے تھے اور ہم نے آپ کو حدیث سنائی اور آپ کی یاد اور گفتگو سے فائدہ اٹھایا۔

والقاسم عبد المجید بن عجمی حلبي:

اور اس سال کی ۱۲ ربیع الاول کو ہمارے دوست ابو القاسم عبد المجید بن عجمی حلبي نے وفات پائی۔ آپ اور آپ کے اہل بیت اس سال حلب آئے اور آپ بڑے جوانمرد اچھے اخلاق وافر علم اور بڑی سرداری والے تھے آپ کھانا کھلانا پسند کرتے تھے اور آپ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند تھا جو آپ کا کھانا کھائے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے اور آپ اپنے مہمانوں کو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور آرام پہنچانے اور ضرورت کے پورا کرنے سے نہیں رکتے تھے اللہ آپ پر وسیع رحمت کرے۔

میں کہتا ہوں یہ آخری بات ہے جو حافظ عزالدین ابو الحسن بن علی بن محمد بن الاثیر رحمہ اللہ کی الکامل فی التریخ میں موجود

ہے۔

ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الکریم:

ابن ابی السعادات بن کریم موصلی آپ ایک حنفی فقیہ تھے آپ نے قدوری کے بڑے حصے کی شرح کی ہے اور اس کے مؤلف کا خطبہ بدرالدین لؤلؤ نے لکھا ہے پھر اس نے اس سے معذرت کی ہے اور آپ ایک اچھے شاعر تھے آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں:

”اسے چھوڑ دو جیسے عشق چاہے گا ویسے ہوگا اور میں خیانت کرنے والا نہیں خواہ وہ عہد شکنی کرے اور جہاں تک ہو سکے اس سے نرم گفتگو کرو شاید اس کا سخت دل مجھ پر نرم ہو جائے میرے عشق سے اسے باخبر کرو اور میری باتوں کو بار بار اس پر پیش کرو اور باتیں غم ہوتی ہیں میری جان ان پر فدا ہو جو آنکھ سے جدا ہو گئے ہیں اور دل سے ان کی محبت جدا ہونے والی نہیں اور جس روز عشاق نے سفر کیا انہوں نے ان پر تلواریں سونت لیں جن کے میانوں کا ٹکنا پلکوں کی طرح ہے۔“

المجد البہنسی:

ملک اشرف کا وزیر پھر اس نے اسے معزول کر دیا اور اس سے اصرار کے ساتھ مطالبہ کیا اور جب وہ فوت ہوا تو اسے اس قبر میں دفن کیا گیا جو اس نے قاسیون کے دامن میں بنائی تھی۔ اور اس کی جو کتابیں وہاں تھیں اس نے انہیں وقف کر دیا اور ان پر چلنے والے اچھے اوقاف جاری کیے۔

جمال الدولتہ:

حمیل بن زبیر ان رئیس قصر حجاج یہ بڑا عقلمند اور جوانمرد تھا جس کے بہت سے صدقات تھے اور قبرستان صوفیہ میں قبلہ کی جانب اس کی زیارت بے اور مسجد فائوس کے پاس آپ کو آپ کی قبر میں دفن کیا گیا۔

ملک امجد:

مدرسہ امجدیہ کو وقف کرنے والا۔

بہرام شاہ بن فروخشاہ بن شہنشاہ:

ابن ایوب حاکم بعلبک کی وفات اس سال میں ہوئی یہ ہمیشہ وہیں رہا حتیٰ کہ اشرف موسیٰ بن عادل نے دمشق آ کر ۶۲۶ھ میں اس پر قبضہ کر لیا اور ۶۲۷ھ میں اس کے ہاتھ سے بعلبک کو چھین لیا اور اسے اپنے پاس دمشق میں اس کے باپ کے گھر میں ٹھہرایا اور جب اس سال کا ماہ شوال آیا تو اس کے غلاموں میں سے ایک ترکی غلام نے اس پر حملہ کر کے اسے رات کو قتل کر دیا اور اس نے اس کی بیوی کے بارے میں اس پر تہمت لگائی تھی اور اسے قید کر دیا تھا اور ایک رات اس نے اس پر مغلوب ہو کر اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد غلام کو بھی قتل کر دیا گیا اور امجد کو اس قبر میں دفن کیا گیا جو اس کے باپ کی قبر کے شمال مشرق میں ہے اور یہ ایک فاضل شاعر تھا اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔

اور ابن الساعی نے اس کے کچھ عمدہ اور شاندار اشعار کو بیان کیا ہے اور ابن الساعی نے اس کے وہ اشعار بیان کیے ہیں جو اس نے ایک نوجوان کے بارے میں فی البدیہہ کہے ہیں اس نوجوان کو اس نے بید مجنون کی شانیں قطع کرتے دیکھا تو کہنے لگا۔ ”اس پتلی کمر والے نوجوان کے بارے میں میرا کون سا من ہے جب میں بید مجنون کی عمدہ شانیں قطع کرنے پر اسے ناراض ہوا جب وہ نالیوں اور بانگیوں کے درمیان سیراب ہو کر مڑتا ہے تو ہرن کا بچہ اس کی عادات کی نقالی کرتا ہے بید مجنون کی شانوں نے میری عادات کو سرتقہ کر لیا ہے اور میں نے انہیں قطع کر لیا ہے اور قطع چور کی حد ہے۔“

پھر وہ کہتا ہے۔

”مجھے رونے کی آواز اور یاد بے خواب رکھتی ہے حالانکہ جو یلیاں اور گھر خالی ہو چکے ہیں سفر کرنے والوں نے ایک دوسرے کو آواز دی تو جب وہ روانہ ہوئے تو میرا دل بھی ہود جوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس نے جس قدر دوری چاہی اسی قدر رونے کی آواز تھی اور جوں جوں زیارت گاہ دور ہو رہی تھی شوق بھی اسی قدر بڑھ رہا تھا ان کی جدائی کے بعد راتیں طویل ہو گئیں معلوم نہیں چھوٹی راتیں کہاں چلی گئی تھیں اور بے خوابی نے میری آنکھوں کے متعلق فیصلہ دیا اور میرے نزدیک رات دن برابر تھے ان کی جدائی کے بعد میں بہت بے خواب رہنے لگا اور ان کے سفر کر جانے کے بعد میری نیند ایک جھپکی رہ گئی ہمارے لیے کون سونے والی آنکھوں کو عاریتہ لے گا اور کیا تو نے آنکھوں کو عاریتہ دیتے دیکھا ہے پس میری رات کے لیے صبح روشن نہیں ہے اور نہ میرے غم کو لغزش کہا جاتا ہے اور صبح کو قبیلے کے سفر کرنے کے موقع پر کتنے ہی کہنے والوں نے کہا اس کے ہودج کو اڑتے ہوئے غبار نے چھپا دیا ہے زندہ ہونے کی حالت میں تیرا

گھروں میں کھڑا ہونا جبکہ ساتھی کوچ لڑ گیا ہوتا تیرے لیے عار کی بات ہے۔“

اور اس کے دو شعر ہیں۔

”یہ عمر کس قدر خراب ہے میں جا رہی ہے اس نے مجھے کس قدر غافل بنا دیا ہے اور کس قدر بھلا دیا ہے میں نے اپنا تمام زمانہ کسب کو دیا ہے اسے مراء کیا تیرے بعد دوسری عمر بھی ہے۔“

ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک لیا ہے؟ اس نے کہا۔

”میں اپنے دین کے بارے میں خائف تھا اور یہ خوف مجھ سے دور ہو گیا ہے میرے دل کو اس کی ہلاکتوں سے سکون حاصل ہو گیا ہے۔ جب تک میں مرد ہوں میں زندہ ہوں میں نہیں مروں گا۔“ رحمہ اللہ و عفا عنہ

...س الدین تکلیف:

اور بعض نے محمود بن علاؤ الدین خوارزم شاہ محمد بن تکلیف خوارزمی بیان کیا ہے یہ طاہر بن الحسین کی اولاد میں سے ہیں اور تکلیف ان کا دادا تھا۔ جس نے سلجوقی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، تاتاریوں نے اس کے باپ کو مغلوب کر لیا اور اسے شہروں میں بھگا دیا۔ اور وہ ایک بحری جزیرے میں فوت ہو گیا، پھر وہ اس جلال الدین کے پیچھے لگ گئے حتیٰ کہ انہوں نے اس کی فوج کو تتر بتتر کر دیا اور سب کے ہاتھ اسے چھوڑ گئے، اور وہ اکیلا رہ گیا اور میا فارقین کے علاقے میں ایک کسان سے ملا اس نے اس پر اور اس کے گھوڑے پر سنہری جواہرات دیکھ کر اسے اجنبی خیال کیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خوارزمیوں کا بادشاہ ہوں انہوں نے اس کسان کے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے اسے اتارا اور اس کے اکرام کا اظہار کیا اور جب وہ سو گیا تو اسے اپنی کلباڑی سے قتل کر دیا اور جو کچھ اس کے اوپر تھا اسے لے لیا یہ خبر میا فارقین کے حاکم شہاب الدین غازی بن عادل کو پہنچی تو اس نے کسان کو بلایا اور جس قدر جواہرات اس کے اوپر تھے لے لیے اور گھوڑا بھی لے لیا۔ اور اشرف کہا کرتا تھا کہ وہ ہمارے اور تاتاریوں کے درمیان ایک بند تھا، جیسا کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند ہے۔

۶۲۹ھ

اس سال دمشق کے دو قاضیوں شمس النحوی اور شمس الدین بن سنی الدولہ کو معزول کر کے عماد الدین ابن المحرستانی کو قاضی القضاة مقرر کیا گیا، پھر اسے بھی ۶۳۱ھ میں معزول کر کے دوبارہ شمس الدین بن سنی الدولہ کو قاضی مقرر کیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔ اور اس سال کی ۷۱۱ شوال کو خلیفہ مستنصر نے اپنے وزیر مؤید الدین محمد بن محمد بن عبد الکریم التیمی کو معزول کر دیا اور اسے اور اس کے بھائی حسن اور اس کے بیٹے فخر الدین احمد بن محمد بن محمد بن النافذ کو وزیر پر مقرر کیا اور اسے قیمتی خلعت دیا، جس سے لوگ خوش ہو گئے۔ اور اس سال تاتاریوں کی ایک فوج آئی اور شہر زور تک پہنچ گئی، پس خلیفہ نے حاکم اربل مظفر الدین کو کبریٰ بن زین الدین کو بلایا اور اپنے پاس سے بھی اسے فوجیں دیں اور وہ ان کی طرف روانہ ہو گئے، اور تاتاری ان کے خوف سے بھاگ گئے اور انہوں نے مہینوں ان کے مقابلہ میں قیام کیا، پھر مظفر الدین بیمار ہو گیا اور اپنے شہر اربل میں واپس آ گیا اور تاتاری بھی اپنے شہروں کو واپس ہو گئے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

حافظ محمد بن عبدالغنی

ابن ابی بکر بغدادی، ابو بکر بن نطقہ حافظ الحدیث، فاضل اور فائدہ بخش کتاب "التقید" کا مؤلف، یہ کتاب کتب کے روائے اور مشاہیر محدثین کے حالات پر مشتمل ہے۔ اور آپ کا باپ فقیہ تھا، اور بغداد کی کسی مسجد میں گوشہ نشین تھا، اور جو کچھ اسے ملتا اس میں اپنے اصحاب کو ترجیح دیتا۔ اور اس کا یہ بیٹا علم حدیث اور اس کے سماع کی مشغولیت میں پروان چڑھا اور اس نے حصول علم کے۔ شرق و غرب کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ اس میں اپنے ساتھیوں سے فوقیت لے گیا۔ اس کی پیدائش ۵۷۹ھ میں ہوئی اور وفات اس سال کی ۲۲ صفر کو جمعہ کے روز ہوئی۔

جمال عبداللہ بن حافظ عبدالغنی المقدسی:

آپ فاضل کریم اور حیا دار انسان تھے آپ نے کثیر سے سماع کیا، پھر بادشاہوں اور دنیا داروں سے میل جول رکھا، تو آپ کے حالات بدل گئے اور آپ نے بستان ابن شکر میں صالح اسماعیل بن عادل کے پاس وفات پائی اور اسی نے آپ کو کفن دیا اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن کیا۔

ابوعلیٰ الحسین بن ابی بکر المبارک:

ابن ابی عبداللہ محمد بن یحییٰ بن مسلم الزبیدی ثم البغدادی، آپ صالح شیخ اور حنفی فاضل تھے اور بہت سے فنون کے ماہر تھے، جن میں سے فرائض اور عروض کافن بھی ہے، اور آپ نے اس کے متعلق اچھے اشعار کہے ہیں، جن میں سے ابن السامی نے ہر بحر کے دو شعر منتخب کیے ہیں اور انہیں اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

ابوالفتح مسعود بن اسماعیل:

ابن علی بن موسیٰ السلماسی، فقیہ، ادیب، شاعر، آپ کی تصانیف بھی ہیں اور آپ نے مقامات اور نحوی جملوں کی شرح کی ہے اور آپ کے اچھے اشعار اور خطبات بھی ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

ابو بکر محمد بن عبدالوہاب:

ابن عبداللہ النزاری فخر الدین ابن الشیر جی دمشقی، آپ دمشق کے ایک معتبر شخص تھے آپ ۵۳۹ھ میں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماع کیا، آپ خاتون ست الشام بنت ایوب کے دیوان کے افسر تھے اور اس نے اپنے اوقاف کا کام آپ کے سپرد کیا تھا۔ السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ ثقہ، امانت دار، سلیقہ مند اور متواضع شخص تھے، راوی بیان کرتا ہے اور آپ کے بیٹے شرف الدین نے تھوڑی سی مدت ناصر داؤد کی وزارت کی اور فخر الدین کی وفات عید الاضحیٰ کے روز ہوئی اور آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

حسام بن عزری:

ابن یونس عماد الدین ابوالمنافیحی امصری ثم الدستقی آپ صحیح صاحب فاضل شافعی فقیہ اور اچھی نکتو نرنے والے تھے اور آپ کے اچھے اشعار بھی ہیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ عظیم القوصی میں آپ کے بہت اچھے حالات بیان ہوئے ہیں۔

اور اس نے بیان کیا ہے کہ آپ نے دس ربیع الآخر کو وفات پائی اور صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے السبط نے بیان کیا ہے آپ مدرسہ امینیہ میں مقیم تھے اور آپ کسی شخص کی کوئی چیز نہ کھاتے تھے اور نہ سلطان کی کوئی چیز کھاتے تھے بلکہ جب کھانا آتا تو اپنی آستین سے کوئی چیز نکال کر کھانے لگتے اور آپ کی کمر میں ہمیشہ ایک ہزار دینار بندھے رہتے تھے اور آپ سے روایت کی ٹی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شب ملک عادل نے مجھے طیلسان کا ایک خلعت دیا اور جب میں باہر نکلا تو لقاط میرے آگے آگے چلا اور وہ مجھے قاضی سمجھتا تھا اور جب میں سیف کے گھر کے پاس باب البرید میں پہنچا تو میں نے طیلسان کو اتارا اور اسے اپنی آستین میں ہی رکھ لیا اور ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا وہ مڑا تو اس نے اپنے پیچھے کسی کو نہ دیکھا اور اس نے مجھ سے پوچھا قاضی کہاں ہے تو میں نے النوریہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا ہے اور جب وہ النوریہ کی جانب تیزی سے گیا تو میں مدرسہ امینیہ کی طرف دوڑ گیا اور اس سے راحت حاصل کی ابن السامی کا بیان ہے کہ آپ ۵۶۰ھ میں پیدا ہوئے اور بہت سے اموال پیچھے چھوڑے جن کے وارث آپ کے رشتہ دار ہوئے راوی کا بیان ہے کہ آپ کو دین و صلاح اور تقویٰ کے ساتھ تواریخ واقعات اور لوگوں کی جنگوں کی اچھی واقفیت تھی اور ابن السامی نے آپ کے کچھ اشعار بیان کیے ہیں جن میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”مجھ سے پوچھا گیا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو نے اس کے رخسار کے بارے میں اشعار کو ضائع کیا ہے میں نے کہا یہ کوئی عار کی بات نہیں رخسار کی سرخی نے خال کے عنبر کو جلا دیا ہے اور اس سے یہ دھواں نکلا ہے۔“

نیز آپ نے کہا ہے۔

”تمہارے شوق کے مقابلہ میں میرا شوق کم ہے لیکن اس کی تشریح ضروری ہے اس لیے کہ میں تمہارے دل سے غائب ہوں اور تم دل سے غائب ہوتے ہی نہیں۔“

ابو عبد اللہ محمد بن علی:

ابن محمد بن الجارود المارانی شافعی فقیہ اور فاضل آپ اربل کے قاضی بنے۔ اور آپ زریک اور عیاش تھے اور زمانے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی آپ کے اشعار شاندار اور مفہوم بہترین ہے آپ کے شعر ہیں۔

”بڑھاپا آیا اور جوانی کوچ کر گئی اور جہاں وہ اتر اس نے فکر مندی کو اتارا اور تیرے گناہ بہت ہیں ارے واپس چل جا موت کا وقت آ گیا ہے اور اللہ نے میرا حساب لینا ہے تو کوتاہی نہ کر اور امیدوں کی داری تھجے دھوکہ نہ دے۔“

ابوالشامہ محمود بن رالی:

ابن علی بن یحییٰ الطائی الرقی نزیل اربل آپ وہاں ملک مظفر الدین کے ناظر مقرر تھے اور آپ ادیب اور فاضل شخص تھے

آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

وہ پکی سروالا ہے اور نسی تیرہ ہی نہانی ان سے ہے اور شاخ وہی ہے جسے اس کی نرمی موڑ دیتی ہے اور نیلہ وہ ہے جسے اس کی کراٹھتی ہے اور تیرہ ۰۰ ہیں جنہیں اس کی بٹلیں پہنچاتی ہیں اور شراب وہ ہے جسے اس کے دولت صافی کرتے ہیں اور جادو وہ ہے جسے اس کی آنکھیں چھپاتی ہیں اور سب سن اسی سے ہے اور وہ کون ہے جو اسے دیکھے اور اس کے جنون میں اضافہ ہو۔

ابن معطلی النخوی یحییٰ:

ابوشامہ نے گذشتہ سال میں آپ کے حالات بیان کیے ہیں اور یہ زیادہ محفوظ قول ہے اس لیے کہ وہ مصر میں آپ کے جہت میں شامل ہوا تھا اور ابن السامی نے اس سال میں آپ کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ حاکم مصر کامل محمد کے ہاں بزار تہہ رکھتے تھے اور آپ نے قرأت سبوعہ کے بارے میں اشعار نظم کیے ہیں اور الجھبرہ کے الفاظ کو بھی نظم کیا ہے۔ اور آپ نے صحاح الجوہری کو بھی نظم کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔

۱۳۰ھ

اس سال بغداد کی خطابت اور عباسیوں کی نقابت عدل مجد الدین ابوالقاسم ہبہ اللہ بن منصور نے سنبھالی اور آپ کو قیمتی خلعت دیا گیا۔ آپ ایک فاضل شخص تھے جنہوں نے فقراء اور صوفیاء کی صحبت اختیار کی تھی اور کچھ عرصہ درویشی بھی اختیار کی اور جب آپ کو اس کام کی دعوت دی گئی تو آپ نے جلد سے جواب دیا اور دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ آپ کے پاس آ گئی اور ترک غلاموں نے آپ کی خدمت کی اور آپ نے سرمایہ داروں کا لباس زیب تن کیا اور آپ کے ایک شاگرد نے ایک طویل قصیدہ میں آپ کو ملامت کی ہے اور جس طریق کو آپ نے اختیار کیا ہے اس پر زبرد تو بیخ کی ہے ابن السامی نے اسے پوری طوالت کے ساتھ اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

اور اس سال خلیفہ کے ایلیجیوں کے ساتھ قاضی محی الدین یوسف بن شیخ جمال الدین ابوالفرج بھی شاہ مصر کامل کے پاس گیا اور آپ کے پاس ایک بڑا خط تھا جس میں حکومتی احکام تھے اور اس میں وزیر نصر الدین احمد بن الناقہ کی انشا پر دازی میں بہت سے خوبصورت احکام بھی تھے ابن السامی نے اسے مکمل طور پر بیان کیا ہے اور کامل جزیرہ کے مضافات میں آمد کے باہر خیمہ زن تھا جسے اس نے طویل محاصرہ کے بعد فتح کیا تھا اور اس کی حکومت کے حاصل کرنے سے خوش تھا۔

اور اس سال حاجیوں کے لیے حج سے واپسی پر بغداد میں ایک دارالضیافت کھولا گیا اور انہیں اخراجات لباس اور عطیات دیئے گئے اور اس سال امیر سیف الدین ابوالفضائل اقبال الخاص المستصری کے ساتھ عساکر مستصریہ اربل شہر اور اس کے مضافات میں گئے کیونکہ ان کا مالک مظفر الدین کوکبری بن زین الدین بیمار تھا اور اس کا کوئی لڑکا نہ تھا جو اس کے بعد ملک کی حکومت کو سنبھالتا اور جب فوج اربل پہنچی تو اہل شہر نے اسے روکا اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اسے بزور قوت اس سال کی ۷ ارشوال کو فتح کر لیا اور خوش خبریاں آئیں اور اس کی وجہ سے بغداد میں طبل بج گئے اور بغداد کے باشندے خوش ہو گئے اور اقبال

مذکور نے اس کے ادا کام لکھے اور اس نے مناصب کو مرتب کیا اور اس میں ابھی روش اختیار کی اور شعراء نے اس فتح کی مدح کی اور اسی طرح اس کے فاتح اقبال کی بھی مدح کی اور کسی نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

”اے اے ارشاد کے دن جس نے اول و آخر کو سعادت سے بہرہ ور کیا ہے تجھے فتح اربل کی مبارک تھی ایسے ہی دو بیٹا
کہ تجھے وزیر بن کر بیٹھنے کی مبارک ہوئی ہے۔“

یعنی وزیر نصیر الدین بن عثمی گذشتہ سال اسی دن وزیر بنا تھا اور اس سال کے آغاز رمضان میں اس نے دارالحدیث اشرفیہ دمشق کی تعمیر شروع کر دی اور اس سے قبل وہ امیر قایماز کا گھر تھا جہاں ایک حمام تھا جسے گرا کر اس کے عوض اسے تعمیر کیا گیا۔ اور السبط نے اس سال میں بیان کیا ہے کہ ۱۵ شعبان کی شب کو اس دارالحدیث اشرفیہ کو کھولا گیا جو قلعہ دمشق کے قریب ہے اور وہاں شیخ تقی الدین بن الصلاح نے حدیث املاء کروائی اور اشرف نے اس پر اوقاف وقف کیے اور وہاں حضرت نبی کریم ﷺ کا جوتا مبارک رکھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال اشرف نے زبیدی کو صحیح بخاری کا سماع کرایا، میں کہتا ہوں اسی طرح انہوں نے گھر اور صالحیہ میں بھی آپ کو سماع کرایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال کامل نے آمد اور کیفا کے قلعے کو فتح کیا اور اس کے مالک کے پاس پانچ سو آزاد اور شریف عورتیں بستر کے لیے تھیں، پس اشرف نے اسے دردناک عذاب دیا۔ اور اس سال شاہ ماردین اور بلاد روم کی فوج نے جزیرہ کا قصد کیا اور انہوں نے لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا اور وہ کچھ کیا جوتا تاریخوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا تھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابوالقاسم علی بن شیخ ابوالفرج بن الجوزی:

آپ نرم اور زیرک شیخ تھے آپ نے کثیر سے سماع کیا اور مدت تک فن و عطا کا کام کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، آپ کو بہت سے واقعات نواد اور اشعار یاد تھے آپ ۵۵۱ھ کو پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ۶۹۹ سال کی عمر میں اس سال ہوئی۔
وزیر صفی الدین بن شکر:

السبط نے وزیر صفی الدین بن شکر کی وفات اس سال میں بیان کی ہے اور آپ کی اور آپ کے محبت علم و علماء ہونے کی بھی تعریف کی ہے اور آپ کی ایک تصنیف کا نام ”البصائر“ ہے، عادل آپ سے ناراض ہو گیا، پھر کامل نے آپ کو راضی کیا اور دوبارہ آپ کو اپنی وزارت و حرمت دے دی اور آپ کو مصر کے مشہور مدرسہ میں دفن کیا گیا اور السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ اصلاً مصر کی ہستی ”دمیرة“ سے تعلق رکھتے ہیں۔

ملک ناصر الدین محمود:

ابن عز الدین، مسعود بن نور الدین ارسلان شاہ بن قطب الدین مودود بن عماد الدین بن زنگی بن اتسقر شاہ موصل، اس کی

پیدائش ۱۱۳ھ میں ہوئی اور بدر الدین لؤلؤ نے اس کو فرضی طور پر کھڑا کیا حتیٰ کہ اس نے قوت و شوکت حاصل کر لی پھر اس نے اسے روک دیا اور یہ کسی لوندی اور گھرائی لوندی تک رسائی حاصل نہ کر سکتا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس لئے اسے پینے کی بھی تیلی دی گئی اور جب اس کا نام ظفر الدین کو کبریٰ شاہ اربل فوت ہو گیا تو اس نے ۱۳۰ھ تک اس کا گھانا پینا بند کر دیا حتیٰ کہ وہ غم اور بھوک پیاس سے مر گیا یہ بڑا خوبصورت تھا اور اتالی گھر انے سے موصل کا آخری بادشاہ تھا۔

قاضی شرف الدین اسماعیل بن ابراہیم:

آپ احناف کے مشائخ میں سے تھے اور فرائض وغیرہ کے بارے میں آپ کی تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ شمس الدین ابن الشیرازی الشافعی کی خالہ کے بیٹے ہیں اور یہ دونوں ابن الزکی اور ابن المحرستانی کی نیابت کرتے تھے۔ اور آپ طرخانیہ میں پڑھاتے تھے۔ اور وہیں آپ کی رہائش تھی اور جب معظم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ کھجور کے بنیڈ اور انار کے پانی کی اباحت کا فتویٰ دیں تو آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا میں اس بارے میں حضرت محمد بن حسن کے مذہب پر ہوں اور حضرت امام ابوحنیفہ کی روایت شاذ ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا اثر صحیح ہے۔ پس معظم آپ سے ناراض ہو گیا اور اس نے آپ کو تدریس سے الگ کر دیا اور آپ کے شاگرد الزین ابن العتال کو تدریس کا کام سونپ دیا اور شیخ نے اپنے گھر میں اقامت اختیار کر لی تھی حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال سلطین کی ایک جماعت نے وفات پائی جن میں المغیث بن المغیث بن عادل العزیز عثمان بن عادل اور مظفر الدین شاہ اربل شامل ہیں۔

ملک مظفر ابوسعید کوکبری:

میں کہتا ہوں شاہ اربل ملک مظفر ابوسعید کوکبری ابن زین الدین علی بن تبسکین، ایک سخی، عظیم سردار اور بزرگ بادشاہ تھا جس کے کام بہت اچھے ہیں اور اس نے قاسیون کے دامن میں جامع مظفری تعمیر کی ہے اور اس نے زیرہ کے پانی کو اس کی طرف لانے کا ارادہ کیا۔ تو معظم نے اسے اس کام سے روک دیا اور وہ سفوح میں مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور وہ ربیع الاول میں میلا د شریف مناتا تھا اور اس کا ایک عظیم جلسہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر دلیر حملہ آور جری، عقلمند اور عادل بھی تھا۔ رحمہ اللہ و اکرم خواہ

اور شیخ ابوالخطاب ابن دحیہ نے اس کے لیے میلا دنوبی کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ”التنویر فی مولد البشیر والنذیر“ رکھا ہے اور اس نے اس تصنیف پر اسے ایک ہزار دینار انعام دیا۔ اور اس کی حکومت، حکومت صلاحیہ کے زمانے تک دراز رہی اور اس نے عکا کا محاصرہ کیا اور اس سال تک وہ قابل تعریف سیرت و کردار اور قابل تعریف دل کا آدمی تھا۔

السط نے بیان کیا ہے کہ مظفر کے دسترخوان میلاد پر حاضر ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ وہ اس بارے میں دسترخوان کو پانچ ہزار بھنے ہوئے سروں، دس ہزار مرغیوں، ایک لاکھ مٹی کے پیالوں اور حلوے کی تیس ہزار پلیٹوں تک بڑھادیتا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے اور میلاد کے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے اور وہ انہیں خلعت دیتا

تھا اور انہیں عطیات دیتا تھا اور صوفیاء کے لیے ظہر سے عصر تک سماح کراتا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ رقص کرتا تھا اور آنے والوں کے لیے اس کا ایک دارالضیافت تھا خواہ وہ کسی جہت سے آئیں اور کسی پورنتن سے ہوں اور وہ کریمین وغیرہ فطرب و طاعات کے لیے صدقات دیتا تھا اور ہر سال بہت سے قیوں کو فنگہاں سے چھڑاتا تھا کہتے ہیں کہ اس نے ان کے ہاتھ سے ساٹھ ہزار ایسے وہ نور ہا لرایا ہے اس کی بیوی ربیعہ خاتون بنت ایوب اس نے ساتھ اس نے بھائی صلاح الدین نے اس کا نکاح لرایا تھا۔ کا بیان ہے کہ اس کی قمیص پانچ دراہم کے برابر بھی نہ ہوتی تھی۔ پس اس نے اسے اس بارے میں ملامت کی تو وہ کہنے لگا 'میرا پانچ دراہم کے کپڑے کو پہننا اور باقی کو صدقہ کر دینا اس بات سے بہتر ہے کہ میں قیمتی کپڑے کو پہنوں اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دوں اور وہ ہر سال میلاد نبوی پر تین لاکھ دینار اور دارالضیافت پر ہر سال ایک لاکھ دینار اور حریمین اور پانی پر حجاز کے راستے میں خفیہ صدقات کے علاوہ تیس ہزار دینار خرچ کرتا تھا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

اس کی وفات قلعداربل میں ہوئی اور اس نے وصیت کی کہ اسے مکہ لے جایا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اسے مزار علی میں دفن

کیا گیا۔

ملک عزیز بن عثمان بن عادل:

یہ معظم کا سگا بھائی اور بانیاں کا حکمران تھا اور وہاں جو قلعے تھے اس نے ان پر قبضہ کر لیا اور اسی نے المعظمیہ کو تعمیر کیا اور یہ عقلمند، کم گو اور اپنے بھائی المعظم کا مطیع تھا اس کی وفات ۱۰ رمضان کو سوموار کے روز اس کے شاندار باغ میں کھیل کے باعث ہوئی۔

ابوالحسن محمد بن نصر الدین بن نصر:

ابن الحسین بن علی بن محمد بن غالب انصاری جو ابن علیض شاعر کے نام سے مشہور ہے۔ ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ وہ اصلاً کوئی ہے، دمشق میں پیدا ہوا اور وہیں پر دان چڑھا اور سالوں وہاں سے سفر پر رہا اور شرق و غرب کے شہروں اور علاقوں کو طے کیا اور جزیرہ بلاد روم، عراق، خراسان، ماوراء النہر، ہند، چین، حجاز اور بغداد آیا اور اس نے ان علاقوں کے باشندوں کی تعریف کی اور بڑا مال حاصل کیا اور یہ بڑا ظریف شاعر، مشہور طاقتور، خوش اخلاق اور اچھے میل ملاپ والا تھا۔ اور یہ اپنے شہر دمشق کی طرف واپس آ گیا۔

ابن الساعی کے قول کے مطابق اس سال اس کی وفات ہو گئی اور السبط وغیرہ نے اس کی وفات کی تاریخ ۶۳۳ھ بیان کی ہے اور بعض نے ۶۳۱ھ بھی بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

اور مشہور قول یہ ہے کہ اصلاً یہ حوران کے شہر زرعہ کا رہنے والا ہے اور دمشق میں اس کی رہائش جزیرہ میں جامع کے سامنے تھی اور اسے ہجو پر قدرت حاصل تھی اور اس نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام اس نے "مقراض الاعراض" رکھا ہے جو تقریباً پانچ سوا شعرا پر مشتمل ہے، دماشقہ میں سے کوئی کم ہی ہوگا جو اس کے شر سے بچا ہو، ملک صلاح الدین اور اس کا بھائی عادل بھی اس سے نہیں بچے، اس پر فرض نمازوں کے ترک کرنے کا اتہام تھا۔ واللہ اعلم

اور ملک ناصر صلاح الدین نے اسے ہندوستان کی طرف جلا وطن کر دیا تھا اور اس نے وہاں کے بادشاہوں کی مدد کر کے بہت مال حاصل کیا اور یمن کو چلا آیا کہتے ہیں کہ اس نے یمن کے کسی بادشاہ کی وزارت بھی کی پھر یہ عادل کے زمانے میں دمشق واپس آ گیا اور سب معظم بادشاہ بنا تو اس نے اسے دزیر بنا لیا۔ پس اس نے یہی روش اختیار کی اور خورشیدی استغفری نے دیا تو اس نے اسے معزول کر دیا اور اس نے ہندوستان سے دما شقہ کو لکھا۔

”تم نے ایک قابل اعتماد شخص کو کیوں دور نکال دیا حالانکہ نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور نہ سرفہ کیا ہے اگر ہر سچ بولنے والے کو جلا وطن کیا جاسکتا ہے تو مؤذن کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دو“۔

اور اس نے ملک ناصر صلاح الدین کی ہجو کرتے ہوئے کہا ہے۔

”ہمارا بادشاہ لنگڑ اور اس کا کاتب چندھا اور اس کا وزیر کبڑا ہے اور الدولی خطیب اعتکاف بیٹھا ہے جو انڈے کے چھلکے پر کودتا ہے اور ابن لاقوا اعظ ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور عبداللطیف محتسب ہے اور حکمران تند خو ہے اور فوج کو روکنے والے کی بیماری عجیب ہے“۔

اور اس نے سلطان ملک عادل سیف الدین رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہے۔

”ہمارے جس بادشاہ سے تو امید رکھتا ہے وہ بڑا مالدار اور تنگ خرچ ہے، وہ تلوار ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ علامات اور اوراق کا قطع کرنے والا ہے“۔

اور ایک دفعہ خراسان میں یہ فخر الدین رازی کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ کر رہے تھے تو ایک کبوتری آئی جس کے پیچھے ایک شکاری پرندہ لگا ہوا تھا اور وہ فخر الدین رازی پر پناہ لینے والے کی طرح گر پڑی تو ابن علیض کہنے لگا۔

”سلیمان زمانہ کے پاس کبوتری آئی اور اس کے پھڑ پھڑانے والے پروں سے موت چمکتی ہے وہ سردار ہے جسے بھوک نے دہرا کر دیا ہے حتیٰ کہ اس نے اس کے بالمقابل اسے دھڑکتے دل کے ساتھ سایہ کیا ہے۔ کبوتری کو کس نے بتایا ہے کہ تمہارے اترنے کی جگہ حرم ہے اور تو خائف کی پناہ گاہ ہے“۔

شیخ شہاب الدین سہروردی:

مؤلف عوارف المعارف، عمر بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمویہ آپ کا نام عبد اللہ البکری البغدادی شہاب الدین ابو حفص سہروردی تھا آپ صوفیائے بغداد کے شیخ تھے اور کبار صالحین اور سادات المسلمین میں سے تھے آپ متعدد مرتبہ خلفاء اور ملوک کے درمیان ایلچیوں کے ساتھ آئے گئے اور آپ کو بہت اموال حاصل ہوئے، جنہیں آپ نے فقراء اور محتاجین میں تقسیم کر دیا۔ اور ایک دفعہ آپ نے حج کیا تو آپ کے ساتھ اس قدر فقراء تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور آپ میں جو انمردی اور غمزدوں کی مدد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا اور آپ چھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں کو وعظ کرتے تھے آپ نے ایک دفعہ اپنی میعاد کے بارے میں یہ شعر کہا اور اسے بار بار دہرایا۔

”ساتھیوں میں کوئی غم خوار اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہاں اس کا ایک محبت ہے جو قافلے میں محبوب ہے“۔

ایک نوجوان نے جو مجلس میں موجود تھا، کھڑے ہو کر آپ کو یہ شعر سنایا۔

”کیا ہر اونٹنی پر ایک یوسف ہے اور ہر گھر میں اس کے مقابلہ میں ایک یثوب ہے۔“

شیخ نے چیخ ماری اور منبر سے اتر آئے اور نوجوان ان کے پاس معذرت کرنے گیا تو اس نے آپ کو نہ پایا اور آپ کی جگہ پر اس نے ایک گڑھا دیکھا، جو شیخ کے پاس شعر پڑھتے وقت آپ نے بکثرت پاؤں مار مار کر بنا دیا تھا۔

اور ابن خلکان نے آپ کے اشعار کی بہت سی باتیں بیان کی ہیں اور آپ کی اچھی تعریف کی ہے آپ نے اس سال ۹۳ سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

”اسد الغابہ“ اور ”الکامل“ کے مصنف ابن اثیر:

امام علامہ عز الدین ابوالحسن علی بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانی جزری موصلی جو ابن اثیر کے نام سے مشہور ہیں اور کتاب اسد الغابہ فی اسماء الصحابہ اور کتاب الکامل فی التاريخ کے مصنف ہیں جو واقعات کے لحاظ سے بہترین کتاب ہے جسے آپ نے ابتداء سے ۶۲۸ھ تک لکھا ہے اور آپ خاص طور پر بغداد میں ملوک موصل کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ ایک بادشاہ کے وزیر بھی بنے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور آپ نے آخری عمر میں وہاں نہایت عزت و احترام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ اس سال کے شعبان میں ۷۵ سال کی عمر میں وفات پا گئے اور آپ کا بھائی ابوالسعادات المبارک کتاب جامع الاصول وغیرہ کا مصنف ہے اور ان دونوں کا بھائی وزیر ضیاء الدین ابوالفتح نصر اللہ ملک افضل علی بن ناصر فاتح بیت المقدس شاہ دمشق کا وزیر تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جزیرہ ابن عمر بھی اسی نے فتح کیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ ایک شخص عبدالعزیز بن عمر کی طرف منسوب ہے جو اہل برقعہ میں سے تھا اور بعض کا قول ہے کہ یہ عمر کے دو بیٹوں کی طرف منسوب ہے اور وہ اوس اور کامل ہیں جو عمر بن اوس کے بیٹے ہیں۔

ابن المستوفی اربلی:

مبارک بن احمد بن مبارک ابن مہوب بن نعیمة بن غالب علامہ شرف الدین ابوالبرکات لغمی اربلی آپ علوم کثیرہ جیسے حدیث اسماء الرجال ادب اور حساب میں امام تھے اور آپ کی بہت سی تصانیف ہیں اور آپ کے فضائل بھی بہت سے ہیں اور قاضی شمس الدین بن خلکان نے الوفيات میں آپ کے تفصیلی حالات نہایت شاندار انداز میں لکھے ہیں۔ رحمہم اللہ

۶۳۱ھ

اس سال بغداد میں مدرسہ مستنصریہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس سے قبل ایسا مدرسہ تعمیر نہیں ہوا اور مذاہب اربعہ میں سے ہر ایک کے لیے ۶۲ فقہا، چار ہر ائی کرنے والے اور ہر مذہب کا مدرس اور شیخ الحدیث اور دو قاری اور دس سماع کرنے والے اور شیخ طب اور دس مسلمان علم طب میں اشتغال کرنے کے لیے وقف کیے گئے اور تیسوں کے لیے ایک مکتب اور سب کے لیے گوشت روٹی، حلوہ اور اس قدر اخراجات مقرر کیے گئے کہ جو ہر ایک کو وافر کفایت کرتے تھے۔ اور جب ۵۵۵ھ میں کوجمہرات کا دن آیا تو وہاں درس ہوئے اور خلیفہ مستنصر باللہ خود بھی اور اس کی حکومت کے امراء وزراء، قضاة، فقہاء، صوفیاء اور شعراء بھی حاضر ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے وہاں عظیم دسترخوان بچھایا جس سے حاضرین نے کھانا کھایا اور وہاں سے بغداد کے دیگر کوچوں کے خواص

و عوام گھرانوں میں لے جایا گیا اور اس نے وہاں کے سب مدرسین اور حاضرین اور حکومت کے سب کارندوں، فقہاء اور دہرائی کرنے والوں کو خلعت دیئے اور یہ جمعہ کا دن تھا اور شعراء نے خلیفہ کی مدح میں ستاندار قصائد پڑھے۔

ابن السائبی نے اپنی تاریخ میں اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس نے شافعیہ کی تالیف کے لیے ہاں پر امام محمد الدین ابو عبد اللہ بن فضلان کو اور حنفیہ کے لیے امام علامہ رشید الدین ابو حفص عمر بن محمد فرغانی کو اور حنابلہ کے لیے امام عالم نجی الدین یوسف بن شیخ ابو الفرج ابن الجوزی کو مقرر کیا اور اس روز آپ کی طرف سے آپ کے بیٹے نے آپ کی غیر حاضری میں جو کسی بادشاہ کو پیغام پہنچانے کے سلسلہ میں تھی آپ کی نیابت میں درس دیا اور اس روز مالکیہ کو شیخ صالح عالم ابوالحسن المغربی المالکی نے بھی اسی طرح نیابت میں درس دیا، حتیٰ کہ کسی دوسرے کو شیخ مقرر کیا گیا اور لائبریریوں کو وقف کیا گیا، کہ ان کی مانند بکثرت کتابوں والی اور بہترین خط والی اور شاندار وقف شدہ کتب والی لائبریریوں کی مثال نہیں سنی گئی اور اس مدرسے کی تعمیر کا منتظم مؤید الدین ابوطالب محمد بن علقمی تھا جو بعد میں وزیر بنا، اس وقت وہ دار الخلافۃ کا استاد تھا اور اس روز اسے اور وزیر نصیر الدین کو اس نے خلعت دیئے پھر اس نے ۱۲۷۱ھ القعدہ کو شافعیہ کے مدرس کو معزول کر دیا اور قاضی القضاۃ ابوالمعالی عبدالرحمن بن مقبل کو قضاء کے علاوہ مدرس بھی مقرر کر دیا اور یہ محمدی الدین بن فضلان کی وفات کے بعد ہوا، آپ مدت تک قاضی رہے اور نظامیہ وغیرہ میں پڑھایا، پھر اس نے معزول کر دیا، پھر آپ سے راضی ہو گیا، پھر آپ نے آخر وقت میں المستصریہ میں پڑھایا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بعد ابن مقبل نے پڑھائی کا کام سنبھال لیا۔

اور اس سال اشرف نے باب الصغیر کے باہر مسجد حرام کو آباد کیا اور اسی سال فرنگیوں کے بادشاہ انبرود کا ایلچی اشرف کے پاس آیا اور اس کے پاس تحائف بھی تھے، جن میں ایک سفید رچبھ بھی تھا۔ جس کے بال شیر کے بالوں کی طرح سے تھے، مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ وہ سمندر کی طرف چلا جاتا اور مچھلیاں باہر نکلتیں تو وہ انہیں کھا جاتا اور اسی طرح ان میں ایک سفید مور بھی تھا۔ اور اس سال القیساریہ کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی جو نحاسین کی جانب تھا، اور اس نے بازار زرگراں اور موتیوں کا وہ بازار جس میں لوہاروں کے پاس پرانے زرگر رہتے تھے اس طرف منتقل کر دیا اور اس میں مزید نئی دکانیں بنائی گئیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس جدید بازار زرگراں کے مشرق میں دو نئے قیساریے بنائے گئے اور وہاں زرگروں اور سونے کے تاجروں نے رہائش اختیار کر لی ہے اور وہ دونوں بڑے خوبصورت ہیں، اور دونوں آباد جامع مسجد کے وقف ہیں۔



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابو الحسن علی بن ابی علی:

ابن محمد بن سالم ثعلبی، شیخ سیف الدین آمدی ثم حموی ثم دمشقی اصلین وغیرہ کے بارے میں کتابوں کا مصنف، جن میں کلام کے بارے میں اباکار الافکار اور حکمت کے بارے میں دقائق الحقائق اور اصول فقہ کے بارے میں احکام الاحکام بھی شامل ہیں، آپ حنبلی المذہب تھے، پھر شافعی، اصولی، منطقی، جدلی اور خلائی بن گئے۔

آپ بڑے خوش اخلاق، پاک دل، بہت گریہ کنناں اور رقیق القلب تھے، مؤرخین نے آپ کے بارے میں کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں جن کی صحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ظن و غالب یہی ہے کہ ان میں سے اکثر صحیح نہیں ہیں، اور بنی ایوب کے ملوک جیسے معظم اور کامل آپ کی عزت کرتے تھے اگرچہ وہ آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور المعظم نے العزیز یہ کی تدریس آپ کے سپرد کی۔ اور جب اشرف دمشق کا امیر بنا تو اس نے آپ کو وہاں سے معزول کر دیا اور مدارس میں اعلان کر دیا کہ کوئی شخص تفسیر، حدیث اور فقہ کے سوا، کسی اور علم میں اشتغال نہ کرے اور جس نے اوائل کے علوم میں اشتغال کیا میں اسے جلا وطن کر دوں گا، سو شیخ سیف الدین اپنے گھر کے ہو رہے یہاں تک کہ اس سال کے صفر میں دمشق میں وفات پا گئے، اور قاسیوں کے دامن کوہ میں جو قبرستان ہے اس میں دفن ہوئے۔

اور قاضی ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد میں ابوالفتح نصر بن فہیان بن المنی حنبلی سے اشتغال کیا پھر وہ شافعی مذہب کی طرف چلے گئے، تو اس نے ابن فضلان وغیرہ سے علم حاصل کیا اور شریف کا طریق خلافت اور اسد المہینی کا طریقہ زوائد حفظ کیا، پھر آپ شام چلے گئے اور علوم معقول میں مصروف ہو گئے، پھر دیار مصر آئے اور القرافہ میں مدرسہ شافعیہ صغریٰ کو دوبارہ جاری کیا اور جامع ظاہری میں صدر بن گئے، اور آپ کے فضل و فضیلت کا چرچا ہو گیا، اور لوگوں نے آپ سے حسد کیا اور آپ کے بارے میں شکایات کیں اور اپنے خطوط میں آپ پر اہل کلمہ کے مذہب، تعطیل اور انحلال کا اتہام لگایا اور انہوں نے ایک شخص سے مطالبہ کیا کہ وہ ان سے موافقت کرے تو اس نے لکھا۔

”جب وہ اس کی دوز کو پانہ سکے تو انہوں نے جوان سے حسد کیا پس لوگ اس کے دشمن اور اس سے جھگڑا کرنے والے ہیں۔“

پس سیف الدین حماہ چلے گئے، پھر دمشق منتقل ہو گئے اور العزیز یہ میں پڑھایا، پھر اس نے آپ کو وہاں سے معزول کر دیا۔

اور آپ اپنے گھر کے ہو رہے، حتیٰ کہ اسی سال ۸۰ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ وعفانہ

واقف الرکنیۃ امیر رکن الدین منکورس الفلکی:

ملک عادل کا بھائی غلام فلک الدین، اس لیے کہ اس نے فلکیہ کو وقف کیا تھا اور یہ شخص بہترین امراء میں سے تھا، جو ہر شب کو

۱۳۱ھ کے حالات و واقعات کے بیان میں

الہدایہ والنہایہ: جلد نمبر ۱۳

سحری کے وقت اکیلا ہی جامع مسجد کے طواف کے لیے اترنا اور مداومت کے ساتھ باجماعت نماز میں شامل ہونا۔ اور وہ کم گو اور بہت صدقات دینے والا تھا اور اس نے قاسیون کے دامن کوہ میں مدرسہ کئیہ تعمیر کیا اور اس پر بہت سے اوقاف کو وقف کیا اور اس کے نزدیک قبر بنائی اور بس اس نے حدود دستی میں وفات پائی تو آپ کو اٹھا کر وہاں لے جایا گیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

شیخ امام عالم رضی الدین:

ابولیمان بن مظفر بن غنم الحسینی الشافعی آپ بغداد کے ایک فقیہ اور مفتی تھے آپ نے طویل مدت تک طلبہ سے اشتغال کیا مذہب کے بارے میں آپ کی کتاب تقریباً پندرہ جلدوں میں ہے جس میں آپ نے وجہ غریبہ اور اقوال مستغربہ کو بیان کیا ہے اور آپ نرم مزاج اور زیرک انسان تھے آپ نے اس سال ۳ ربیع الاول کو جمعہ کے روز بغداد میں وفات پائی۔

شیخ طلی مصری:

آپ نے شام میں اپنے زاویہ دمشق میں مدت تک قیام کیا اور آپ نرم مزاج، سلیقہ مند اور درویش آدمی تھے اور اکابر آپ کے پاس آتے تھے آپ کو اسی مذکورہ زاویہ میں دفن کیا گیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

شیخ عبداللہ ارمنی:

آپ ان زہاد و عباد میں سے ایک تھے جنہوں نے شہروں کو طے کیا اور صحراؤں پہاڑوں اور گڑھوں میں رہائش اختیار کی اور اقطاب و ابدال اور اوداد سے ملاقاتیں کیں اور آپ احوال و مکاشفات و مجاہدات کے حامل تھے اور دیگر نواح و جہات میں سیاحت کرنے والے تھے اور آپ نے آغاز کار میں قرآن شریف پڑھا اور حضرت امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق قدوری کو حفظ کیا پھر آپ معاملات و ریاضات میں مشغول ہو گئے پھر آپ نے آخری عمر میں دمشق میں اقامت اختیار کی حتیٰ کہ وہیں فوت ہو گئے اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن ہوئے۔

اور آپ سے اچھی اچھی باتوں کی روایت کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سیاحت کے دوران ایک شہر کے پاس سے گزرا اور میرے دل نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں اور میں نے قم کھائی کہ میں اس سے کھانا نہیں کھاؤں گا، پس میں ایک عسال کے پاس سے گزرا اور اس نے ترچھی نظر سے میری طرف دیکھا تو میں اس سے ڈر گیا اور میں بھاگ کر شہر سے نکل گیا پس وہ مجھے آ ملا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، اس نے کہا کھانا کھاؤ میں شہر سے باہر نکل آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا تو اس مقام میں ہے اور تو بازاروں میں کپڑے دھوتا ہے؟ اس نے کہا اپنا سر نہ اٹھا اور اپنے کسی عمل کی طرف نہ دیکھ اور اللہ کا بندہ بن اور اگر وہ تجھے باغ میں عامل مقرر کرے تو تو اس سے راضی رہ پھر آپ نے فرمایا۔

”اور اگر مجھے کہا جائے کہ مر جا تو میں سب و طاعت کروں گا اور میں موت کے داعی کو خوش آمدید کہوں گا۔“

اور آپ نے فرمایا۔ میں ایک دفعہ اپنی سیاحت میں ایک راہب کے پاس سے گزرا جو گرجے میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے کہا اے مسلم! تمہارے نزدیک اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا طریق اقرب ہے میں نے کہا مخالفت نفس، راوی بیان کرتا ہے اس نے اپنے سر کو گرجے کی طرف موڑا اور جب میں حج کے زمانے میں مکہ میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ کے پاس ایک شخص مجھے سلام کہہ رہا ہے

میں نے یہ دیکھا تو کہن سے اس نے کہا میں ایک راہب ہوں، میں نے پوچھا تو یہاں کیسے پہنچا ہے؟ اس نے کہا جو بات تو نے کہی تھی اس کے ذریعے پہنچا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے نفس پر اسلام کو پیش کیا تو اس نے انکار کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ حق ہے اور میں مسلمان ہو گیا اور میں نے اس کی مخالفت کی اور وہ ہامیاب ہو گیا۔

اور اس نے بیان کیا کہ ایک روز میں جبل لبنان میں تھا کہ اچانک مجھے فرنگیوں کی محافظ فوج نے پکڑ کر بیڑیاں ڈال دیں اور میرے بندھنوں کو کس دیا اور میں ان کے نزدیک بہت تنگ حالت میں تھا اور جب دن چڑھا تو انہوں نے شراب پی اور سو گئے اسی اثنا میں کہ میں بندھا ہوا تھا کہ اچانک مسلمانوں کی محافظ فوج ان کی جانب آئی اور میں نے انہیں آگاہ کر دیا تو انہوں نے وہاں ایک غار میں پناہ لے لی اور ان مسلمانوں سے بچ گئے اور وہ پوچھنے لگے تو نے یہ کام کیسے کیا حالانکہ تیری رہائی ان کے ہاتھوں میں تھی، میں نے کہا تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے اور صحبت کا حق یہ ہے کہ میں تم سے دھوکہ نہ کروں اور انہوں نے مجھے کچھ دنیوی سامان کی پیشکش کی تو میں نے انکار کر دیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔

اور السبط نے روایت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے ایک بار بیت المقدس میں آپ کی زیارت کی اور میں نے نمکیں مچھلی کھائی تھی اور جب میں آپ کے پاس بیٹھا تو مجھے سخت پیاس لگی اور آپ کے پہلو میں ٹھنڈے پانی کا ایک لوٹا پڑا تھا اور میں آپ سے شرم محسوس کرنے لگا تو آپ نے لوٹے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آپ نے مجھے لوٹا پکڑاتے ہوئے فرمایا، لو! تم کب تک ٹوٹے رہو گے پس میں نے پانی پی لیا۔ اور اس نے بیان کیا ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس سے کوچ کیا تو اس کی فسیل معظم کے تباہ کرنے سے قبل ملک صلاح الدین کی تعمیر نوی پر کھڑی تھی، آپ کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کو الوداع کرنے لگے اور آپ نے فسیل کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ عنقریب اس فسیل میں کدالیں چلیں گی، آپ سے دریافت کیا گیا مسلمانوں کی کدالیں یا فرنگیوں کی؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی کدالیں، تو آپ نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔

راوی بیان کرتا ہے آپ کے بہت سے اچھے احوال بیان کیے گئے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اصلاً ارمنی تھے اور آپ نے شیخ عبداللہ ایوبینی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ اصلاً رومی ہیں اور تونیہ کے رہنے والے ہیں، آپ شیخ عبداللہ ایوبینی کے پاس راہبوں کی سی ٹوپی پہن کر آئے تو آپ نے انہیں فرمایا تا بعد از ہوا جاؤ، آپ نے کہا میں رب العالمین کا تابعدار ہوں اور آپ کی والدہ خلیفہ کی بیوی کی دایہ تھی۔ اور آپ کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، جس کے باعث اللہ نے آپ کو بچالیا اور خلیفہ نے اسے معلوم کر کے آپ کو آزاد کر دیا۔

۶۳۲ھ

اس سال ملک اشرف بن عادل نے زنجاری کی اس سرانے کو تباہ کر دیا جو عقبیہ میں تھی جس میں خطائیں، شراب اور متعدد ناپسندیدہ امور ہوئے تھے سو اس نے اسے گرا دیا اور اس کی جگہ جامع مسجد کی تعمیر کا حکم دیا جس کا نام جامع التوبہ رکھا گیا۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔

اور اسی سال قاضی بہاؤ الدین یوسف بن رافع بن تمیم بن شداد حلبی نے وفات پائی جو علم و سیادت کے گھرانے کے ایک رئیس

تھے آئیے کہ تاریخ اور ایام الناس وغیرہ کا علم حاصل تھا آپ نے کثیر سے سماع کیا اور حدیث بیان کی۔

اور اسی طرح شیخ شہاب الدین عبدالسلام بن المطہر بن عبداللہ بن محمد بن عمرو بن طلحی نے وفات پائی آپ فقیہ زہد اور عابد تھے اور آپ لی تقرباً میں لوٹدیاں تھیں اور شیخ بہت بہت سماع کرتے تھے جس سے آپ کو بہت سے امراض لاق ہو گئے جنہوں نے آپ کو تباہ کر دیا اور آپ دمشق میں فوت ہو گئے اور قاسیون میں دفن ہوئے اور آپ قطب الدین اور تاج الدین کے والد تھے اور شیخ امام عالم صاحب الدین ابو محمد عبدالعزیز الجلی الشافعی مدرسہ نظامیہ میں کام کرنے والے ایک فقیہ اور مفتی تھے اور آپ نے شیخ ابواسحاق کی ”التبویہ“ کی شرح کی ہے آپ نے ربیع الاول میں وفات پائی ہے اور شیخ امام عالم خطیب ادیب ابو محمد حمد بن حمید بن محمود بن حمید بن ابی الحسن بن ابی الفرج بن مفتاح تمیمی دنیوری وہاں پر خطیب اور اس کے باشندوں کے مفتی تھے۔ اور آپ شافعی فقیہ تھے آپ نے نظامیہ بغداد میں فقہ پڑھی پھر اپنے شہر میں واپس آ گئے اور آپ نے کتابیں تصنیف کیں۔ اور ابن الساعی نے آپ سے شعر سن کر سنائے ہیں۔

”میری سوزش عشق نے احادیث عشق کو ان کے اسناد کے ساتھ یگانہ علم سے روایت کیا ہے اور نسیم کے گزرنے نے مجھ سے رکھ سے درخت سے وادی جنت سے ٹیلہ نجد سے حدیث بیان کی۔ میرا عشق اور فسوس دونوں لازم ہو گئے ہیں اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھے میری لحد میں رکھ دیا جائے۔“

اور ابوشامہ نے الذیل میں شہاب الدین سہروردی مؤلف ”عوارف المعارف“ کی وفات کی تاریخ اس سال میں بیان کی ہے۔ اور بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۳۹ھ میں ہوئی اور آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔ اور السبط نے آپ کی تاریخ وفات ۶۳۰ھ میں بیان کی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حلب کا قاضی القضاة:

ابوالحسن یوسف بن رافع بن تمیم بن عتبہ بن محمد اسدی موصلی شافعی آپ ایک فاضل ادیب عبادت گزار اور ملوک کے ہاں ذی وجاہت آدمی تھے آپ نے حلب میں قیام کیا اور وہاں کے قاضی بنے آپ کی تصانیف اور اشعار بھی ہیں آپ نے اس سال میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

ابن الفارض:

اتحاد کی طرف منسوب متصوفین کے طریقہ سلوک کے ناظم التائب ابو حفص عمر بن ابی الحسن علی بن المرشد بن علی آپ اصلاً حموی اور مولد اور وفات مصری تھے اور آپ کے والد عورتوں اور مردوں کے فرائض لکھا کرتے تھے اور ہمارے کئی مشائخ نے اس قصیدے کے باعث جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ پر طعن کیا ہے اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر اعتراض کیا ہے آپ نے اس سال میں قریباً ستر سال کی عمر میں وفات پائی۔

۶۳۳ھ

اس سال اشرف اور اس کے بھائی کامل نے فرات کو پار کیا اور رومی فوج نے جو کچھ ان کے علاقوں میں خرابی کی تھی اسے درست کیا

اور کامل نے قلعہ الرہا کو تباہ و برباد کر دیا اور دینسر پر شدید جنگ مسلط کی اور شاہ موصل بدرالدین کا خط آیا کہ رومی ایک سو مانگے ہوئے سواروں کے ساتھ آگئے ہیں اور ان کا سارا مطالبہ پانچ سو سواروں کا تھا۔ پس دونوں بادشاہ جلدی سے واپس آگئے اور رومی فوج بھی اپنے شہر بزمیرہ میں واپس آگئی اور انہوں نے پہلے کی طرح دوبارہ معاہدہ کر لیا اور اس سال تا تاریخ بھی اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ واللہ اعلم

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن عتیق کے حالات قبل ازین ۶۳۰ھ میں بیان ہو چکے ہیں۔

الحجری شاعر:

مشہور دیوان کا مؤلف، عیسیٰ بن سحر بن بہرام بن جبریل بن خمار تکلیں بن طاشکلین اربلی، چھا جانے والا شاعر ابن خلکان نے آپ کے حالات بیان کیے ہیں اور آپ کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ان کا دوست تھا اور اس نے اس کے بھائی ضیاء الدین عیسیٰ کو اس سے وحشت محسوس کرتے ہوئے خط لکھا۔

”اللہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی کے آخری سانسوں کے سوا کچھ باقی نہیں چھوڑا اے وہ شخص جس کا قرب امید ہے تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے اپنا خط بھیج اور اسے تسلی کے لیے امانت رکھ اور تو اس کے پہنچنے سے قبل کئی بار مرے گا۔“

اور خالی کے بارے میں اس نے آپ کے یہ اشعار بیان کیے ہیں:

”وہ باریک کمر ہے اور اس کی پیشانی اور بالوں سے مخلوق نور و ظلمت میں ہے جو خال اس کے رخسار میں ہے اسے ملامت نہ کرو سارا حصہ سیاہ نقطے میں ہے۔“

ابن دحیہ:

ابوالخطاب عمر بن الحسن بن علی بن محمد بن فرج بن خلف بن قوس بن مزال بن بلال بن بدر بن احمد بن دحیہ بن خلیفہ بن الکھی الحافظ شیخ الحدیث دیار مصر آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے وہاں الکالمیہ کے دارالحدیث کی مشیخت کو سنبھالا، السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کو گالیاں دینے میں ابن عنیض کی طرح تھے اور اپنے کلام میں اضافہ کر لیتے تھے اس لیے لوگوں نے آپ سے روایت کرنا چھوڑ دیا اور آپ کی تکذیب کی اور کامل آپ کی طرف آنے والا تھا اور جب اسے آپ کا حال معلوم ہوا تو اس نے دارالحدیث کو آپ سے لے لیا اور آپ کی توہین کی۔

آپ نے ربیع الاول میں وفات پائی اور مصر کے قبرستان قرافہ میں دفن ہوئے اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ شیخ سخاوی نے آپ کے بارے میں اچھے اشعار کہے ہیں اور قاضی ابن خلکان نے آپ کا نسب بیان کرنے کے بعد کہا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے اسے اپنے قلم سے لکھا کہ آپ کی ماں امة الرحمن بنت ابی عبد اللہ بن البسام موسیٰ بن عبد اللہ بن الحسین بن جعفر بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن علی بن ابی طالب تھی، اسی لیے آپ اپنے قلم سے

البدایہ والنہایہ: جلد نمبر ۱۳

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ اعیان علماء اور مشاہیر فضلاء میں سے تھے اور علم حدیث اور اس کے متعلقات کے ماہر اور نحو لغت ایام العرب اور ان کے اشعار کے جاننے والے تھے آپ نے ماہ مغرب میں اشتغال کیا پھر آپ نے شام کی طرف سفر کیا پھر عراق کی طرف سفر کیا اور ۶۰۲ھ میں اربل سے گزرے اور آپ کو معلوم ہوا کہ اربل کا بادشاہ معظم مظفر الدین بن زین الدین میلاد نبوی کا اہتمام کرنے والا ہے تو اس نے اس کے لیے 'کتاب التوفیر فی مولد السراج المنیر' تالیف کی اور خود اسے سنائی تو اس نے آپ کو ایک ہزار دینار دیئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے ۶۲۶ھ میں ملک معظم کی چھ مجلس میں سنا میں کہتا ہوں میں اس کتاب سے آگاہ ہوں اور میں نے اس سے اہم اور مفید باتیں لکھی ہیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۳۳ھ میں ہوئی اور بعض نے ۵۳۶ھ اور ۵۳۹ھ بیان کی ہے اور آپ نے اس سال میں وفات پائی اور آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو عمرو عثمان نے مصر میں الکالمیہ کے دارالحدیث کو سنبھالا اور آپ کے ایک سال بعد وفات پائی میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں کئی قسم کے اعتراضات کیے ہیں اور ایک شخص نے آپ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ آپ نے نماز مغرب کے قصر کرنے کے بارے میں حدیث وضع کی ہے اور میں اس کے اسناد سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کے رجال کیسے ہیں اور جیسا کہ ابن المنذر وغیرہ نے بیان کیا ہے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز مغرب قصر نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور اسے معاف فرمائے۔

۶۳۲ھ

اس سال تاتاریوں نے مجانبق کے ساتھ اربل کا محاصرہ کر لیا اور فیصلوں میں نقب لگا کر اسے بزور قوت فتح کر لیا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اور ایک مدت تک قلعہ ان سے فتح نہ ہو سکا اور اس میں خلیفہ کا نائب رہتا تھا موسم سرما آ گیا تو وہ اسے چھوڑ کر اپنے شہروں کی طرف سمٹ آئے۔ اور بعض کا بیان ہے کہ خلیفہ نے ان کے لیے فوج تیار کی اور تاتاری شکست کھا گئے اور اس سال قلعہ کیفا کے مالک صالح ایوب بن کامل نے ان خوارزمیوں سے جو جلال الدین کی فوج سے بچ گئے تھے اور رومی سے الگ ہو گئے تھے کام لیا اور صالح ایوب کا دل قوی ہو گیا اور اس سال اشرف موسیٰ بن عادل نے اپنے بھائی کامل سے رفقہ کا مطالبہ کیا تاکہ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہراؤل میں فرات کو پار کر جائے تو وہ اس کے لیے خوراک اور اس کے چوپاؤں کے لیے چارہ ہو وصل نے کہا کیا اسے مملکت بنی امیہ دمشق کا اپنے ساتھ ہونا کافی نہیں؟ تو اشرف نے اس بارے میں فلک الدین بن المسیر کی کو کامل کے پاس بھیجا تو اس نے اسے سختی سے جواب دیا اور کہنے لگا 'وہ حکومت کو کیا کرے گا؟ اسے گھروں کی صحبت کافی ہے اور تو ان کے ہنر کو جانتا ہے پس اشرف اس بات سے برا فروختہ ہو گیا اور دونوں کے درمیان نفرت نمایاں ہو گئی اور اشرف نے حمہ حلب اور بلاد مشرق کی طرف پیغام بھیجا اور ان بادشاہوں نے اس کے بھائی کامل کے خلاف معاہدہ کر لیا اور اگر ملک اشرف کی عمر دراز ہوتی تو وہ حکومت کو اپنے بھائی کے خلاف بگاڑ دیتا اس لیے کہ اس کے بھائی کامل کے بخل اور اس کی سخاوت و شجاعت کی وجہ سے بادشاہوں کا میلان اس کی طرف زیادہ تھا لیکن آنے والے سال کے آغاز میں اشرف کو موت نے آیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک العزیز النظار:

شاہ حلب محمد بن سلطان ملک الظاہر غیاث الدین غازی بن ملک ناصر صلاح الدین فاتح قدس شریف وہ اور اس کا باپ اور اس کا بیٹا ناصر ناصر کے زمانے میں شاہ حلب کے اصحاب تھے اور العزیز کی ماں خاتون بنت ملک عادل ابی بکر بن ایوب تھی اور وہ خوبصورت شریف اور عقیف تھا اور وفات کے وقت اس کی عمر ۲۴ سال تھی اور اس کی حکومت کا منتظم شہاب الدین خصی تھا اور یہ امراء میں سے تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر صلاح الدین یوسف بادشاہ بنا۔

شاہ روم:

کیقباد ملک نلاء الدین شاہ بلاد روم یہ بڑے اور نیک سیرت بادشاہوں میں سے تھا اور عادل نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا اور اس نے بچے پیدا کیے۔ اور ایک وقت میں اس نے بلاد جزیرہ پر قبضہ کر لیا اور ان کا اکثر حصہ کامل کے ہاتھ سے چھین لیا اور اشرف موسیٰ کے ساتھ خوارزمیوں کو شکست دی۔

ناصح حلبی:

شیخ ناصح الدین عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوہاب بن شیخ ابو الفرج الشیرازی نے ۳ محرم کو وفات پائی اور وہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن عبادہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ناصح ۵۵۴ھ میں پیدا ہوئے اور قرآن پڑھا اور حدیث کا سماع کیا اور بعض اوقات آپ وعظ بھی کرتے تھے اور قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے حافظ عبدالغنی کی زندگی میں وعظ کیا اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جبل کے الصالحیہ میں درس دیا۔ آپ کی تصانیف بھی ہیں اور آپ نے ابن المنیٰ بغدادی سے اشتغال کیا اور آپ صالح فاضل تھے اور آپ کی وفات الصالحیہ میں ہوئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔

کمال بن مہاجر:

آپ تاجر تھے اور لوگوں سے بہت حسن سلوک کرنے والے تھے اور بہت صدقات دینے والے تھے آپ نے جمادی الاولیٰ میں دمشق میں اچانک وفات پائی اور قاسیون میں دفن ہوئے اور اشرف نے آپ کے اموال پر قبضہ کر لیا اور آپ کا ترکہ تقریباً تین لاکھ دینار تھا۔ اور اس میں ایک تسبیح بھی تھی جس میں ایک سوموتی تھی اور ہرموتی کبوتری کے انڈے کی مانند تھا۔

شیخ حافظ ابو عمر عثمان بن دحیہ:

حافظ ابو الخطاب بن دحیہ کے بھائی آپ اس وقت دارالحدیث الکاملیہ کے منتظم بنے جب آپ کے بھائی کو وہاں سے معزول کیا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے اس سال وفات پائی اور آپ فن حدیث میں یتماے روزگار تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی عبدالرحمن التکرینی:

الکرک کے حاکم اور مدرسہ الزبدانی کے مدرس اور جب اس کے اوقاف کو لے لیا گیا تو آپ قدس چلے گئے پھر دمشق چلے

گئے اور وہاں قضاة کی منات کیا کرتے تھے اور آب فاضل باکیزہ عقیف اور دہندار تھے۔

۶۳۵ھ

اس سال اشرف اور پھر اس نے بھائی کاس کی وفات ہوئی اور اشرف موسیٰ بن عادل دارالحدیث اشرفیہ جامع النوبہ اور جامع جراح کا بانی تھا۔ اس نے اس سال کی ۳ محرم کو جمعرات کے روز قلعہ منصورہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا حتیٰ کہ وہ قبر مکمل ہو گئی جو اس کے لیے الکلا سہ کے شمال میں بنائی گئی تھی پھر اسے جمادی الاولیٰ میں اس کی طرف منتقل کر دیا گیا اور گذشتہ سال کے رجب میں اس کے مرض کا آغاز ہوا اور معالجین نے اس کے بارے میں اختلاف کیا حتیٰ کہ سرجن اس کے سر سے ہڈیاں نکالتا اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا اور جب سال کا آخری حصہ آیا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو گیا اور اسے اسہال مفرط کی شکایت ہو گئی اور اس کی قوت کمزور ہو گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی اور دو سو غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا اور فرخشاہ کے گھر کو جسے دارالسعادة کہا جاتا تھا وقف کر دیا اور البیرونی میں اس کا ایک باغ تھا اسے اپنے بیٹوں پر وقف کیا اور بہت سے اموال کا صدقہ دیا اور اس نے اپنا کفن منگوا یا جسے اس نے ان صالح فقراء اور مشائخ کے لباس سے تیار کرایا تھا جن سے اس نے ملاقات کی تھی اور وہ مرحوم تیز فہم شجاع کریم اور اہل علم کے لیے سخی تھا خصوصاً اہل حدیث اور اپنے صالح قرابتداروں کے لیے اور اس نے ان کے لیے دامن کوہ میں دارالحدیث بنایا اور مدینہ میں شانعیہ کے لیے ایک اور دارالحدیث بنایا اور اس میں حضرت نبی کریم ﷺ کا وہ جوتا مبارک رکھا جسے نظام ابن ابی الحدید تاجر سے حاصل کرنے کا اسے ہمیشہ شوق رہا اور نظام اس کے بارے میں بخل کرتا تھا سو اشرف نے عزم کر لیا کہ وہ اس سے اس کا ایک ٹکڑا حاصل کرے گا پھر اس نے اس خوف سے اسے ترک کر دیا کہ وہ سارا ہی ضائع ہو جائے گا پس قضائے الہی سے ابن ابی الحدید کو دمشق میں موت آئی تو اس نے اس جوتے کے بارے میں وصیت کی کہ یہ ملک اشرف کو دیا جائے اور اشرف نے اسے دارالحدیث میں رکھ دیا اور قیمتی کتب بھی اس کی طرف منتقل کر دیں اور عقیبہ میں جامع النوبہ کو تعمیر کیا اور یہ زنجاری کی سرانے تھی جس میں بہت ناپسندیدہ افعال ہوتے تھے اور اس نے مسجد القصب جامع جراح اور مسجد دارالسعادة کو تعمیر کیا اور اس کی پیدائش ۵۷۶ھ میں ہوئی اور اس نے قدس شریف میں امیر فخر الدین عثمان زنجاری کی کفالت میں پرورش پائی اور اس کا باپ اس سے محبت کرتا تھا اور اسی طرح اس کا بھائی معظم بھی اس سے محبت کرتا تھا۔

پھر اس کے باپ نے جزیرہ کے بہت سے شہروں پر اسے نائب مقرر کر دیا جن میں الرھا اور حران بھی تھے پھر جب اس نے خلاط پر قبضہ کیا تو اس کی مملکت میں وسعت پیدا ہو گئی اور یہ لوگوں سے زیادہ عقیف اور نیک سیرت اور پاک ضمیر تھا وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کسی کو نہ جانتا تھا حالانکہ وہ شراب نوشی کرتا تھا اور یہ ایک عجیب تر بات ہے۔

السط نے اس سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز خلاط کی اس منظر گاہ میں تھا کہ اچانک ایک خادم آیا اور اس نے کہا دروازے میں ایک عورت اجازت طلب کر رہی ہے وہ داخل ہوئی تو وہ ایسی خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے حسین عورت نہیں دیکھی اور وہ خلاط کے اس بادشاہ کی بیٹی تھی جو مجھ سے پہلے تھا اور اس نے بیان کیا کہ حاجب علی نے اس کی ایک ہستی پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کرائے کے مکانات کی محتاج ہو گئی ہے اور وہ عورتوں کے لیے نقش و نگار کا کام کر کے خوراک حاصل کرتی ہے پس میں نے اس

کی جاگیر است واپس کرنے کا حکم دیا اور اس کی رہائش کے لیے بھی ایک گھر کا حکم دیا اور جب وہ اندرائی تو میں اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں نے اسے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ایک برصیا بھی تھی اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے اسے کہا اللہ کا نام لے کر اٹھ جاؤ یہاں کہنے لگی اسے انخوند یہ آج شب آپ کی خدمت سے ہمد لینے آئی ہے میں نے کہا معاذ اللہ یہ بات نہیں ہوگی اور میں نے اپنے ذہن میں اپنی بیٹی کو متحضر کیا بسا اوقات اسے بھی ایسی مصیبت پہنچ جاتی تھی جیسی اسے پہنچتی تھی پس وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ارضی زبان میں کہنے لگی جیسے تو نے میرا حیا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرا حیا کرے اور میں نے اسے کہا جب بھی کوئی ضرورت ہو اسے مجھ تک پہنچانا میں اسے پورا کروں گا پس اس نے مجھے وعادی اور واپس چلی گئی اور میرے دل نے مجھے کہا حلال میں حرام سے کشادگی پائی جاتی ہے اس سے نکاح کر لے میں نے کہا خدا کی قسم یہ بات کبھی نہ ہوگی حیا کرم اور مروءت کہاں ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میرے غلاموں سے ایک غلام فوت ہو گیا اور ایک بچہ چھوڑ گیا اور اس علاقے میں اس سے خوبصورت جوان کوئی نہ تھا پس میں نے اس سے محبت کی اور اسے قریب کیا اور وہ میری جس بات کو نہ سمجھتا اس سے مجھے متہم کرتا اتفاق سے اس نے ایک شخص پر حملہ کر کے اسے مارا اور قتل کر دیا اور مقتول کے وارثوں نے اس کے خلاف شکایت کی تو میں نے کہا کہ ثابت کرو کہ اس نے قتل کیا ہے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی اور میں نے اپنے غلاموں کو اس سے روکا اور انہوں نے دس دیتوں پر انہیں راضی کرنا چاہا مگر وہ نہ مانے اور راستے میں میرے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے میں نے کہا اسے پکڑ لو انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ اور اگر وہ مجھ سے میری حکومت اس کے فدیہ میں مانگتے تو میں انہیں دے دیتا لیکن میں نے اپنے خط نفس کے لیے اللہ کی شرع سے معارضہ کرنے سے حیا کی۔

اور جب ۶۲۶ھ میں اس نے دمشق پر قبضہ کیا تو اس کے منادی نے اس میں اعلان کیا کہ فقہاء میں سے کوئی شخص تفسیر حدیث اور فقہ کے سوا کسی علم سے اشتغال نہ کرے اور جس نے منطق اور علوم الاوائل میں اشتغال کیا اسے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اور شہر میں بکثرت صدقات و خیرات ہوتے تھے۔ وہ نہایت عدل و امن والا تھا اور سارے رمضان میں قلعہ رات کو بند نہ ہوتا تھا اور حلوے کے پیالے وہاں سے جامع مسجد سراؤں خانقاہوں صالحیہ اور صالح فقراء اور رؤسا وغیرہ کے پاس جاتے تھے اور اس کی اکثر نشست ابوالدرداء کی مسجد میں ہوتی تھی جسے اس نے قلعہ میں ازسرنو بنایا اور مزین کیا تھا اور وہ مبارک خیال تھا اس کے جھنڈے کو کبھی شکست نہیں ہوئی اور اس نے زبیدی کو بغداد سے بلایا حتیٰ کہ اس نے اور لوگوں نے آپ کو صحیح بخاری وغیرہ کا سماع کرایا اور اس کا میلان حدیث اور اہل حدیث کی طرف تھا اور جب اس نے وفات پائی تو ایک شخص نے اسے خواب میں سبز کپڑوں میں صالحین کی ایک جماعت کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا اس نے پوچھا یہ کیا تو دنیا میں شراب نوشی کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ بدن تھا جس کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ وہ افعال کرتے تھے اور یہ وہ روح ہے جس کے ساتھ ہم ان سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھ تھی اور موحوم نے سچ کہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس نے اپنے بعد میں اپنے بھائی صالح اسماعیل کے لیے حکومت کی وصیت کی اور جب اس کا بھائی فوت ہو گیا تو وہ

شامانہ شان و شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور لوگ اس کے آگے آگے چلے اور اس کی ایک جانب شاہ جمص 'عبدالمدین ایک المعظمی اس کے سر کا پردہ بردار سوار ہوا پھر اس نے دمشق کی ایک جماعت کو جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ وہ کامل کے ساتھ ہے طلب کیا جس میں عالم تعاسیف اور ابن مزہری اور ابوبکر بن علی تھے اس نے انہیں بصری میں قید کر دیا اور قلعہ مزار سے سریری کو رہا کر دیا اور اس پر شرط عاید کی کہ وہ دمشق میں داخل نہ ہو پھر کامل مصر سے آیا اور اس کے ساتھ ترک نابلس اور قدس کا حکمران ناصر داؤد بھی شامل ہو گیا اور انہوں نے دمشق کا شدید محاصرہ کیا اور صالح اسماعیل نے اسے خوب مضبوط کیا تھا اور اس نے پانی کو روک دیا اور کامل نے بردی کے پانی کو ٹورا کی طرف پلٹ دیا۔ اور عقبیہ اور قصر حجاج کو نذر آتش کر دیا گیا اور بہت سے لوگ محتاج ہو گئے اور دوسرے جل گئے اور طویل مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جمادی الاولیٰ کے آخر میں نوبت بایں جاسید کہ صالح اسماعیل نے اس شرط پر کہ بعلبک اور بصری اس کے لیے ہوں گے دمشق کو اپنے بھائی کامل کے سپرد کر دیا اور حالات پر سکون ہو گئے اور قاضی محی الدین یوسف بن شیخ ابو الفرج بن الجوزی کے ہاتھوں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اتفاق سے ابھی وہ دمشق میں ہی تھا کہ وہ خلیفہ کی طرف سے ایلچیوں کے ساتھ دمشق آیا اللہ سے جزائے خیر دئے اور کامل نے دمشق میں داخل ہو کر فلک بن المیسری کو قلعہ کے قید خانہ جات سے جس میں اشرف نے اسے رکھا تھا رہا کر دیا اور اشرف کو اس کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور کامل نے ۶ جمادی الآخرہ کو سوموار کے روز جامع مسجد کے ائمہ کو حکم دیا کہ ان میں سے کوئی شخص امام کبیر کے سوا مغرب کی نماز نہ پڑھائے اس لیے کہ ایک وقت میں ان کے اکٹھے ہو جانے سے گڑبڑ اور اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور اس مرحوم نے یہ کیا اچھا کام کیا۔ اور ہمارے اس زمانے میں بھی نماز تراویح میں بھی یہی کام ہوا کہ لوگوں نے ایک قاری پر اتفاق کر لیا اور وہی منبر کے پاس اگلی محراب میں امام کبیر ہے۔ اور آج مزار علی کے پاس حلبیہ کے امام کے سوا کوئی امام باقی نہیں رہا۔ اور اگر وہ بھی امامت چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔ واللہ اعلم

ملک کامل کی وفات کا بیان:

محمد بن العادل رحمہ اللہ تعالیٰ کامل نے دو ماہ بادشاہت کی پھر اسے مختلف امراض نے آیا جن میں کھانسی اسہال گلے کا نزلہ اور اس کے پاؤں میں نقرس شامل ہیں اتفاق سے اس کی موت دار القصبہ کے چھوٹے سے گھر میں ہوئی اور یہ وہی گھر ہے جس میں اس کے چچا ملک ناصر صلاح الدین نے وفات پائی تھی اور کامل کی موت کے وقت اس کی شدت بیت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے پاس موجود نہ تھا بلکہ انہوں نے اندر آ کر دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا۔

اس کی پیدائش ۶۵۷ھ میں ہوئی اور مودود کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا عادل تھا اور عادل نے اس کی منزلت اور کمال عقل و معرفت کو جانتے ہوئے اس کے بارے میں وصیت کی تھی اور وہ بہت سمجھدار اور علماء کا محبت تھا اور ان سے مشکل سوالات پوچھا کرتا تھا اور صحیح مسلم کے بارے میں اس کا کلام بہت اچھا ہے اور وہ ذہین رعب دار سخت جنگجو عادل منصف تھا جسے بڑی حرمت اور سطوت حاصل تھی اس نے مصر پر تیس سال حکومت کی اور اس کے زمانے میں راستے پر امن اور رعایا ایک دوسرے کے برابر تھی کوئی کسی پر ظم کرنے کی جسارت نہیں کرتا تھا اس کے کچھ سپاہیوں کو جنہوں نے آمد کے علاقے میں ایک کسان کے جو لے لیے تھے پھانسی دے دی اور ایک رکاب دار نے اس کے پاس شکایت کی کہ اس کے استاد نے اس سے چھ ماہ بغیر اجرت کے کام لیا ہے اس نے

سیاہی کو بلا کر اسے رکاب دار کے کپڑے پہنا دیئے اور رکاب دار کو سپاہی کے کپڑے پہنا دیئے اور سیاہی کو حکم دیا کہ وہ اسی ہمیت میں چھ ماہ اس کی خدمت کرے اور رکاب دار سوار دستوں اور خدمت میں حاضر ہوتا حتیٰ کہ وہ مدت ختم ہوگئی اور لوگوں نے اس سے بڑی شان و شوکت سیکھی اور فرنگیوں کے سردار میاٹ پر غالب آبانے کے بعد اس کا اسے ملتانوں کو واپس لے کر دینا بہت بڑا کارنامہ ہے اس نے چار سال ان کے پاس بیٹھا اور کھانا حتیٰ کہ اسے ان سے چھرا لیا اور اس کے است لینے اور واپس کرنے کا دن جمعہ کا دن تھا جیسا کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اور اس کی وفات اس سال کی ۱۲ رجب کو جمعرات کی رات ہوئی اور اسے قلعہ میں دفن کیا گیا حتیٰ کہ اس کی وہ قبر مکمل ہوگئی جو کھڑکی والی جامع مسجد کی شمالی دیوار کے پاس حجرہ ابن سنان کے نزدیک ہے اور وہ حلبیہ کے نزدیک کند یہ ہے اسے اس سال کی ۲۱ رمضان کو جمعہ کی شب کو اس کی طرف منتقل کیا گیا اور وہ اپنے اشعار میں اپنے بھائی اشرف کو بلاذ جزیرہ سے جبکہ وہ میاٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا برا بھینتہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اے میرے مددگار! اگر تو فی الواقع میرا مددگار ہے تو کسی توقف اور شرط کے بغیر سفر کر اور منازل و دیار کو طے کر اور صرف ملک اشرف کے دروازے پر بیٹھ تو ہلاک نہ ہو اس کے ہاتھ کو بوسہ دے اور اسے میری طرف سے نہایت ملائمت اور نرمی سے کہہ اگر تیرا بھائی قریب ہی مرا ہے تو تو اسے ہندی تلوار کی دھار اور نیزے کے درمیان طے گا اور یا تو اس کی مدد کرنے میں سستی کر لے گا تو قیامت کے روز میدان محشر میں اس کی ملاقات ہوگی۔“

اس کے بعد ہونے والے واقعات:

اور اس نے اپنے بیٹے عادل سے جبکہ وہ چھوٹا بچہ تھا دیا مصر اور بلاد دمشق کا اور اپنے بیٹے صالح ایوب سے بلاد جزیرہ کا عہد کیا تھا سو امراء نے اس عہد کو پورا کیا اور دمشق میں امراء نے ملک ناصر داؤد بن معظم اور ملک جواد بن مظفر الدین پولس بن مودود بن ملک عادل کے متعلق اختلاف کیا عماد الدین ابن الشیخ کا میلان الجواد کی طرف تھا اور دوسروں کا میلان ناصر کی طرف تھا اور یہ دار اسامہ میں اترا ہوا تھا پس الجواد کی حکومت مرتب ہوگئی اور ناصر کو پیغام آیا کہ شہر سے نکل جاؤ پس وہ دار اسامہ سے سوار ہوا اور عوام قلعہ تک اس کے پیچھے گئے اور اس کی حکومت کے بارے میں شک نہ کرتے تھے پس یہ قلعہ کی طرف روانہ ہوا اور جب العماد یہ سے آگے گزر گیا تو اس نے باب الفرج کی طرف اپنے گھوڑے کے سر کو موڑا تو عوام نے شور مچا دیا نہیں، نہیں، پس وہ چل پڑا حتیٰ کہ قایون میں برزہ کی ہموار جگہ پر اترا اور بعض اشرفی امراء نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے جبل کرام حکیم کے محل میں رات بسر کی اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے اور یہ عجیبوں کی طرف بڑھ کر وہاں قلعہ بند ہو گیا اور پرسکون ہو گیا۔

الجواد:

اور الجواد شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور اس نے اموال خرچ کیے اور امراء کو خلعت دیئے۔ البسط نے بیان کیا ہے کہ اس نے چھ کروڑ دینار اور پانچ ہزار خلعت تقسیم کیے اور نیکس اور شراب بند کر دی اور خطا کاروں کو جلاوطن کیا اور دمشق میں اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور مصری اور شامی امراء نے اس پر اتفاق کیا اور ناصر داؤد عجیبوں سے غزہ اور بلاد سواصل کی طرف کوچ کر گیا

اور ان پر قابض ہو گیا اور الجواد اس کی تلاش میں گیا اور اس کے ساتھ شامی اور مصری فوجیں بھی تھیں اور اس نے اشرفیہ سے کہا اسے خط لکھو اور اسے لایچ دو اور جب اس کے پاس ان کے خطوط پہنچے تو اس نے ان کے ساتھ اتفاق کرنے کی خواہش کی اور وہ سات سو سواروں کے ساتھ نابل واپس آ گیا اور الجواد نے اس کا قصد کیا اور وہ جنتین میں اترا اور ناصر صدیقیہ میں اترا اور واپس آیا۔ اس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے ذخائر و ائصال پر قبضہ کر لیا۔ اور وہ ان اموال سے غنی ہو گئے اور وہ ان کے باعث سخت محتاج ہو گیا اور ناصر ایسا ہی الکبرک کی طرف واپس آ گیا اور اس کے اموال و ائصال چھن چکے تھے اور الجواد مظفر و منصور ہو کر دمشق واپس آیا۔

اور اس سال خوارزمیوں نے ملک صالح نجم الدین ایوب بن الکامل سے اختلاف کیا جو کیفا اور ان کے نواح کا بادشاہ تھا اور انہوں نے اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال و ائصال لوٹ لیے اور اس نے سنجار کی پناہ لی اور شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ نے اس کا قصد کیا تاکہ اس کا محاصرہ کرے اور اسے ایک پنجرے میں بند کر کے خلیفہ کے پاس لائے اور ان نواح کے باشندے اس کے تکبر اور اس کی قوت و سطوت کے باعث اس کی ہمسائیگی کو ناپسند کرتے تھے اور تھوڑے سے لوگ ہی اسے پکڑنے کے لیے باقی رہ گئے سو اس نے خوارزمیوں سے مراسلت کی اور ان سے مدد مانگی اور ان سے بہت سی باتوں کا وعدہ کیا، تو وہ دستوں کی صورت میں اس کے پاس آئے تاکہ اسے بدر سے بچائیں اور جب لؤلؤ نے انہیں دیکھا تو ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال و ائصال پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے ان میں اس قدر چیزیں پائیں جو بیان و شمار میں نہیں آ سکتیں اور وہ اکیلا ہی ناکام و نامراد ہو کر موصل واپس آ گیا اور صالح ایوب جس سختی میں گرفتار تھا اس سے بچ گیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن یاسین خطیب جمال الدین الدولعی موصل کی ایک ہستی کی طرف منسوب ہے اور ہم نے اس کے چچا عبد الملک بن یاسین خطیب دمشق کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے آپ خطابت کے ساتھ الغزالیہ میں مدرس بھی تھے اور معظم نے آپ کو ایک وقت فتویٰ دینے سے روک دیا تو السیط نے اسے اس بارے میں ملامت کی تو اس نے عذر کیا کہ اس کے شہر کے شیوخ نے اسے یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے فتاویٰ میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور آپ مقررہ ڈیوٹی پر سخت مواظبت کرتے تھے، قریب تھا کہ آپ بیت الخطابت کو نہ چھوڑیں اور آپ نے کبھی حج نہیں کیا حالانکہ آپ کے پاس بہت اموال تھے آپ نے جردن میں ایک مدرسہ وقف کیا اور سات جامع ہیں اور جب آپ نے وفات پائی تو آپ کو اپنے جردن کے مدرسہ میں دفن کیا گیا اور آپ کے بعد آپ کے بھائی نے خطابت سنبھالی جو ایک جاہل شخص تھا اور وہ اس پر قائم نہ رہا اور اسے کمال بن عمر بن احمد بن ہبہ اللہ بن طلحہ نصیبی نے سنبھال لیا اور الغزالیہ کی تدریس کا کام شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام نے سنبھال لیا۔

محمد ہبہ اللہ بن جمیل:

شیخ ابونصر بن الشیرازی آپ کی پیدائش ۵۳۹ھ میں ہوئی اور حافظ ابن عسا کر کے ذریعے کثیر کوساع کرایا اور فقہ میں مشغول

ہو گئے اور فتوے دیئے اور شامیہ برانیہ میں درس دیا اور کئی سال نائب عدالت رہے آپ فقیہ عالم فاضل ذہین خوش اخلاق تاریخ
نیام العرب اور اتعمار العرب کے جانے والے کریم طبع اور قابل تعریف کام کرنے والے تھے آپ کی وفات ۳۱ جمادی الآخرۃ کو
جمرات کے روز ہوئی اور قاسیون میں دفن ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

قاضی شمس الدین یحییٰ بن برکات:

ابن ہبہ اللہ بن الحسن الدمشقی ابن سنا اللہ دمشق کے قاضی تھے آپ عالم عقیف فاضل عادل منصف اور پاکدامن تھے
ملک اشرف کہا کرتا تھا آپ کی مانند دمشق کا کوئی والی نہیں ہوا اور آپ نے اپنے شہر مقدس کی عدالت بھی سنبھالی اور دمشق میں قضاة
کی نیابت بھی کی پھر آپ فیصلے کرنے میں با اختیار ہو گئے اور آپ کی وفات ۶ رذوالقعدہ کو اتوار کے روز ہوئی اور جامع مسجد میں
آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون میں دفن ہوئے اور لوگوں نے آپ پر غم کیا۔

شیخ شمس الدین الحوبی:

اور آپ کے بعد شیخ شمس الدین بن الحوبی قاضی زین الدین عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن علوان اسدی نے وفات
پائی آپ استاد حلبی کے نام سے مشہور ہیں آپ بہاؤ الدین بن شداد کے بعد حلب کے قاضی بنے اور آپ رئیس عالم عارف فاضل
خوش اخلاق اور نیک ارادہ تھے۔ اور آپ کا باپ کبار صالحین میں سے تھا۔

شیخ صالح معمر:

ابوبکر محمد بن مسعود بن بہروز بغدادی ۶۱۵ھ میں آپ کا ابوالوقت سے سماع کرنا ظاہر ہوا پس لوگ آپ سے سماع کرنے
کے لیے ٹوٹ پڑے آپ زبیدہ وغیرہ کے بعد اس سے روایت کرنے میں متفرد ہیں آپ نے ۲۹ شعبان کو ہفتہ کی رات کو وفات
پائی۔

صارم الدین:

امیر کبیر پڑاؤ کرنے والا مجاہد صارم الدین خطبا بن عبداللہ شرکس کا غلام اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ تین اور ان
قلعوں کا نائب آپ بہت صدقہ کرنے والے تھے آپ کو اپنے استاد قبا شرکس کے ساتھ دفن کیا گیا آپ نے ہی اسے اپنے استاد
کے بعد تعمیر کیا آپ بہت بھلے کم گو بہت جنگ کرنے والے اور کئی سالوں تک پڑاؤ کرنے والے تھے۔

۶۳۶ھ

اس سال ملک جواد نے الصنعی بن مرزوق کے خلاف فیصلہ کیا اور اس سے اصرار کے ساتھ چار لاکھ دینار کا مطالبہ کیا اور اسے
قلعہ حصص میں قید کر دیا اور وہ تین سال بغیر روشنی دیکھے ٹھہرا ہوا اور ابن مرزوق نے اس سے قبل جواد کے ساتھ بہت احسان کیے تھے
اور جواد نے اپنی بیوی کے خادم کو جسے ناصح کہا جاتا تھا اختیار دے دیا اور اس نے دماشقہ سے پرزور مطالبہ کیا اور ان سے تقریباً چھ
لاکھ دینار لے لیے۔ اور اس نے امیر عماد الدین بن الشیخ کو جو اسے دمشق پر قبضہ دلانے کا سبب تھے کستوری لگائی پھر وہ اپنے بھائی
فخر الدین بن الشیخ سے جو دیار مصر میں تھا ڈر گیا اور دمشق کے بادشاہ سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا میں حکومت کو کیا کروں گا؟ باز اور

کتے مجھے اس سے زیادہ پسند ہیں پھر وہ شکار کو چلا گیا۔ اور اس نے صالح بن نجم الدین ایوب بن کامل سے خط و کتابت کی اور ان دونوں سے بیعت کی اور اجارا اور اس سے بیچے دس تھک کا علاقہ باہم تہذیب کر لیا اور صالح نے زین بن قینہ کر لیا۔ اور اس سال کے جمادی الاول کے آغاز میں اس میں داخل ہوا اور جو ادا خدوموں کے ساتھ اس کے آگے آئے تھا اور جو کچھ اس سے ہو چکا تھا اس پر وہ نادم ہوا اور ان نے سبقت والے ہام کی تلافی کرنی چاہی مگر اسے اس کا موقع نہ ملا اور وہ دمشق سے نکلا اور لوگ اس کے منہ پر اس وجہ سے کہ اس نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے تھے لعنت کرنے لگے اور صالح ایوب نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے مال واپس کر دے مگر اس نے اس طرف توجہ نہ کی اور چلا گیا اور وہ اس کے ذمہ باقی رہے۔ اور جب مصر میں صالح ایوب کی حکومت مضبوط ہو گئی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اس نے ناصح خادم کو قید کر دیا اور وہ نہایت بری حالت میں تنگدستی اور جوڑوں سے پوری جزا پا کر مر گیا۔ (اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں)

اور اس سال صالح ایوب رمضان میں دمشق سے دیار مصر گیا تاکہ اسے اپنے بھائی عادل سے اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ چھین لے پس وہ نابلس اتر کر اس پر قابض ہو گیا اور اسے ناصر داؤد کے ہاتھ سے نکال دیا اور اس نے اپنے چچا صالح اسماعیل کو جو بعلبک کا حکمران تھا پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے تاکہ وہ اس کے ساتھ دیار مصر کو جائے اور وہ اس کے پاس اس کی بیعت کرنے کے لیے دمشق آیا اور وہ اس سے ٹال مٹول کرنے لگا اور اس پر حاکم بنے لگا اور دمشق کے امراء سے معاہدات کرنے لگا تاکہ وہ ان کا بادشاہ بن جائے اور کوئی شخص صالح ایوب کی عظمت کی وجہ سے جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ اسے اس بات کی خبر دے اور سال گذر گیا اور وہ نابلس میں مقیم ہو کر اس کی طرف دعوت دینے لگا اور وہ اس سے ٹال مٹول کرتا رہا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

جمال الدین الحصری الحنفی:

محمود بن احمد علامہ اور دمشق کے احناف کا شیخ اور النوریہ کا مدرس آپ اصلاً حصری بستی کے ہیں جو بخارا کے مضافات میں ہے آپ نے وہیں فقہ سیکھی اور کثیر سے حدیث کا سماع کیا اور دمشق چلے آئے اور یہاں آپ کو احناف کی سرداری مل گئی، خصوصاً معظم کے ایام میں وہ آپ کو جامع کبیر سنایا کرتا تھا اور آپ نے اس کی شرح بھی لکھی ہے اور وہ آپ کا اعزاز و اکرام کرتا تھا اور آپ بہت گریہ کننا بہت صدقہ کرنے والے عاقل پاکیزہ اور عقیف تھے۔ آپ نے ۸ صفر کو اتوار کے روز وفات پائی اور صوفیاء کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ نے ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ نے سب سے پہلا درس شرف دازد کے بعد جو برہان مسعود کے بعد اس کا متولی تھا ۶۱۱ھ میں النوریہ میں دیا اور اس کے پہلے مدرس امیر عماد الدین عمر بن شیخ الشیوخ صدر الدین علی بن حمویہ ہیں جو دمشق میں جوادی حکومت کا سبب تھے پھر آپ مصر چلے گئے اور اس کے حکمران عادل بن کامل بن عادل نے آپ کو ملامت کی تو آپ نے کہا اب میں دمشق واپس جاؤں گا اور جوادی کو اس شرط پر آپ کے پاس روانگی کا حکم دوں گا کہ دمشق کے عوض اسکندریہ اس کے لیے ہو اور اگر وہ انکار کرے تو میں اس کو دمشق سے معزول کر دوں گا اور اس میں میں تیرا

نام ہو گا اور آپ کے بھائی فخر الدین بن الشیخ نے آپ کو ایسا کرنے سے روکا مگر آپ نے قبول نہ کیا اور دمشق کی طرف واپس چلے گئے اور جو ادب نے عید گاہ کے پاس آپ کا استقبال کیا اور آپ کو اپنے ہاں قلعہ میں دارالمسرة میں اتارا اور آپ کو اپنے بارے میں دھوکہ دیا: پھر حکم ہلا آپ سے مدد مانگنے والے کی صورت میں آپ نے تل کی سازش کی اور آپ کے اسواں و خارجیہ پر قبضہ کر لیا اور آپ کا جنازہ بھر پور تھا اور آپ قاسیون میں دفن ہوئے۔

وزیر جمال الدین علی بن حدید:

آپ اشرف کے وزیر بنے اور صالح ایوب نے کئی روز تک آپ کو وزیر بنایا، پھر اس کے بعد آپ فوت ہو گئے، آپ اصلاً رقد کے ہیں اور آپ کی املاک معمولی تھیں جن سے آپ کا گزارا ہوتا تھا، پھر نوبت بایں جا رسید کہ آپ دمشق میں اشرف کے وزیر بن گئے اور ایک شخص نے آپ کی بھوک اور آپ کی وفات جمادی الآخرة میں جو ائق میں ہوئی اور آپ کو قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا۔

جعفر بن علی:

ابن ابی البرکات بن جعفر بن یحییٰ ہمدانی، سلفی کاراویہ یہ ناصر داؤد کے ساتھ دمشق آیا اور اس کے باشندوں کو سماع کرایا اور اس کی وفات بھی دمشق میں ہوئی اور اسے قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا، اس کی عمر ۹۰ سال تھی۔

حافظ کبیر زکی الدین:

ابو عبد اللہ بن محمد بن یوسف بن محمد البرزالی الاشعیری، آپ فن حدیث کا اہتمام کرنے والوں میں سے ایک ہیں اور اس میں فوقیت لے گئے ہیں، آپ نے طلبہ کو فائدہ دیا اور آپ مزار ابن عمروہ میں شیخ الحدیث تھے، پھر آپ حلب کی طرف سفر کر گئے۔ اور آپ نے اس سال کی ۴ رمضان کو حماة میں وفات پائی اور آپ ہمارے شیخ حافظ علم الدین بن القاسم بن محمد البرزالی کے دادا ہیں اور وہ مورخ دمشق ہیں، جس نے شیخ شہاب الدین ابوشامہ پر ضمیمہ لکھا ہے، میں نے اس کی تاریخ پر اللہ کی مدد سے ضمیمہ لکھا ہے۔

۶۳۷ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو سلطان دمشق نجم الدین صالح ایوب بن کامل نابلس کے پاس خیمہ زن تھا، اور اپنے چچا صالح اسماعیل کو دیار مصر کی طرف روانگی کے لیے بلارہا تھا، اس وجہ سے کہ اس نے اسے اس کے حکمران عادل بن کامل سے چھین لیا تھا، اور صالح اسماعیل نے اپنے بیٹے اور ابن یغمو کو صالح ایوب کی صحبت اختیار کرنے کا پیغام بھیجا اور یہ دونوں امراء میں اموال تقسیم کرتے تھے اور ان سے صالح ایوب کے برخلاف صالح اسماعیل سے معاہدہ کرتے اور جب یہ کام مکمل ہو گیا اور صالح اسماعیل کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا تو اس نے صالح ایوب کو پیغام بھیج کر اس سے اس کا بیٹا طلب کیا تاکہ وہ بعلبک کا عوض ہو اور خود وہ اس کی خدمت میں چلا آئے، پس اس نے اسے اس کی طرف بھیج دیا اور اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ صالح کے وزیر ابوالحسن غزالی طیب کا ترتیب دیا ہوا پروگرام تھا، اور وہ بعلبک کے امینہ کا وقف کرنے والا امین ہے اور جب ۲۷ صفر کو منگل کا دن آیا تو ملک صالح اسماعیل نے حملہ کر دیا اور وہ والی حمص اسد الدین شیر کوہ کی صحبت میں دمشق جا رہا تھا، پس دونوں اچانک باب الفردیس سے دمشق میں داخل ہوئے، اور صالح اسماعیل درب الشعارین میں اپنے گھر میں اتر اور والی حمص اپنے گھر میں اتر۔ اور نجم الدین بن سلامہ آیا اور اس نے

صالح اسماعیل کو مہار کساد دی اور اس کے نائے قصہ کرنے لگا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تو اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور صبح کو انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور اس میں مغیث عمر بن صالح نجم الدین بھی تھا اور انہوں نے باب الفرق کی جانب سے قلعہ کو لقب لگائی اور اس کی ہے حرمتی کی اور اس میں داخل ہوئے اور اس کی سپرد داری لے لی اور مغیث کو وہاں ایک برج میں قید کر دیا۔ ابوشامہ نے بیان لیا ہے کہ دارالحدیث اور وہاں پر قلعہ کے ارد گرد جو دکا نہیں اور مکان وغیرہ تھے وہ جل گئے اور جب اس واقعہ کی خبر صالح ایوب کو پہنچی تو اس کے اصحاب اور امراء اپنے اہالی کے بارے میں صالح اسماعیل کے خوف سے اسے چھوڑ گئے اور صالح ایوب نے اپنے غلاموں اور اپنی لوٹدی جو اس کے بیٹے ظلیل کی ماں تھی کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور کسانوں اور روٹی پکانے والوں نے اس کا لالچ کیا اور ناصر داؤد نے حاکم الکفر کو اس سے نابلس لے لینے کی وجہ سے اس کے پاس ذلیل کر کے خچر پر مہینز اور ہراول کے بغیر بھیجا اور اس نے اسے سات ماہ تک قید کر دیا اور عادل نے مصر سے ناصر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سے اس کے بھائی صالح ایوب کا مطالبہ کرے۔ اور اسے ایک لاکھ دینار دے مگر اس نے اسے اس کا جواب نہ دیا بلکہ اس کے مطالبہ کے برعکس اسے اپنے قید خانے سے باہر نکال دیا اور رہا کر دیا اس موقع پر دمشق اور مصر کے ملوک نے ناصر داؤد سے جنگ کی اور عادل دیار مصر سے بلیمس کی طرف ناصر داؤد سے جنگ کرنے گیا پس فوج اس کے خلاف مضطرب ہو گئی اور امراء نے اختلاف کیا اور انہوں نے عادل کو بیڑیاں ڈال دیں اور اسے خرگاہ میں قید کر دیا اور انہوں نے صالح ایوب کو پیغام بھیج کر اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور ناصر داؤد نے اس کے چھوڑنے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ اس نے اس پر شرط عاید کی کہ وہ حمص حلب، بلاد جزیرہ، بلاد دیار بکر اور مصر کی آدھی حکومت اور خزانوں میں جو ذخائر اموال اور جواہر موجود ہیں ان کا نصف اس کے لیے حاصل کرے۔

صالح ایوب کا بیان ہے کہ میں نے بادل خواستہ اس کا جواب دیا حالانکہ جو اس نے شرط لگائی تھی اس کی زمین کے سب بادشاہ بھی طاقت نہ رکھتے تھے اور ہم چل پڑے اور میں نے خوفزدہ ہو کر اسے ساتھ لے لیا کہ یہ واقعہ مصریوں کی چال نہ ہو حالانکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے بیان کیا ہے کہ وہ مدہوش ہو جاتا تھا اور امور میں گڑبڑ کرتا تھا اور صحیح آراء کی مخالفت کرتا تھا اور جب صالح مصریوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور وہ دیار مصر میں مظفر و منصور اور مؤید و مسرور ہو کر داخل ہوا اور اس نے ناصر داؤد کی طرف بیس ہزار دینار بھیجے جو اس نے واپس کر دیئے اور انہیں قبول نہ کیا اور مصر میں اس کی حکومت مضبوط ہو گئی اور ملک جو اد نے سنجار میں بری سیرت اختیار کی اور اس کے اہل سے مطالبہ کیا اور ان پر ظلم کیا اور انہوں نے شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ سے خط و کتابت کی تو وہ ان کے پاس گیا۔ اور جو اد شکار کو گیا ہوا تھا۔ اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور جو اد غانتہ کی طرف چلا گیا پھر بعد ازاں اس نے اسے خلیفہ کے پاس فروخت کر دیا۔

اور ربیع الاول میں قاضی رفیع عبدالعزیز بن عبدالواحد الجلیلی نے شامیہ برانیہ میں درس دیا اور ۳ ربیع الاول کو بدھ کے روز شیخ عزالدین عبدالعزیز بن السلام بن ابی القاسم السلسی نے جامع دمشق کی خطابت سنبھالی اور صالح اسماعیل نے شہر دمشق وغیرہ میں شاہ روم کا خطبہ دیا کیونکہ اس نے صالح ایوب کے خلاف معاہدہ کیا تھا ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ جون میں زرد آلو کے موسم میں بڑی بارش ہوئی جس نے بہت سی دیواروں کو گرادیا اور میں اس وقت المرہ میں تھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شاہ حمص:

ملک مجاہد اسد الدین شیرکوه بن ناصر الدین محمد بن اسد الدین شیرکوه بن شادی، ملک صلاح الدین نے اسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد ۵۸۱ھ میں اس کا والی بنایا، اور وہ ۵ سال اس کا والی بنا رہا اور یہ بادشاہوں میں سیرت کے لحاظ سے بہترین آدمی تھا، اس نے اپنے ملک کو شراب، ٹیکس اور ناپسندیدہ افعال سے پاک کر دیا اور یہ ملک نہایت پرسکون اور عدل کی حالت میں تھا، اور فرنگیوں اور عربوں میں سے جو شخص اس کے ملک میں داخل ہونے کی جسارت کرتا یہ اس کی سخت اہانت کرتا اور بنی ایوب کے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ اس کے خیال میں یہ ان سے حکومت کا زیادہ سزاوار تھا، کیونکہ اس کے دادا نے مصر فتح کیا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جو ان میں سے بادشاہ بنا اور اس کی وفات حمص میں ہوئی، اور اس کی تعزیت جامع دمشق میں ہوئی۔

قاضی المحوبی شمس الدین احمد بن خلیل:

ابن سعاده بن جعفر المحوبی اس وقت دمشق کے قاضی القضاة تھے، اور اصول و فروع وغیرہ کے بہت سے فنون کے عالم تھے، اور آپ کی وفات ۷ شعبان کو ہفتہ کے روز ظہر کے بعد ۵۵ سال کی عمر میں مدرسہ عادلہ میں ہوئی، آپ خوش اخلاق اور خوش معاملہ شخص تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں مناصب کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کی سکت نہیں رکھتا، اور آپ کی تصانیف میں سے عروض بھی ہے، جس کے بارے میں ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ۔

احمد بن خلیل کی اللہ نے خلیل بن احمد کی طرح راہنمائی کی ہے، آپ نے عروض کا استخراج کیا ہے۔ اور یہ بات آپ کے راز کا مظہر ہے، اور اچھا کام کرنا محمود ہے، اور اس کا دوبارہ کرنا زیادہ محمود ہے۔

آپ نے رفیع الدین، عبدالعزیز بن عبدالواحد بن اسماعیل بن عبدالہادی حنبلی کے بعد تدریس عادلہ کے ساتھ ساتھ قضاء کو بھی سنبھالا، اور آپ بعلبک کے قاضی تھے، آپ کو وزیر امین الدین، سامری، جو مسلمان ہو گیا تھا، نے دمشق بلایا، اور آپ صالح اسماعیل کے وزیر بنے، اس نے اور اس قاضی نے ناجائز طریق پر لوگوں کے اموال کھانے پر اتفاق کر لیا۔ ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے بدسیرتی اختیار کی اور ظلم و جور اور فسق اور اموال کے بارے میں اصرار کے ساتھ مطالبات کیے۔

میں کہتا ہوں دوسروں نے بیان کیا ہے کہ بسا اوقات وہ مشہد کمانی میں جمعہ کے روز کھڑکی میں نشے کی حالت میں آجاتا اور شراب کی بوتلیں ہفتہ کے روز عادلہ کے تالاب پر پڑی ہوتیں، اور اس نے ترکوں کے بارے میں نہایت بری روش اختیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو پورا نہ ہونے دیا اور اسے اس کے ہاتھ سے مروا دیا، جو اس کی سعادت کا سبب تھا، جیسا کہ ابھی اس کا بیان آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

۶۳۸ھ

اس سال حاکم دمشق صالح اسماعیل نے سیف اربون کا قلعہ صیدا کے فرنگی حاکم کے سپرد کر دیا جس پر شیخ عز الدین عبدالسلام خطیب شہر اور شیخ ابو عمر بن الحاجب شیخ مالکیہ نے اسے سخت ملامت کی تو اس نے ان دونوں کو ایک مدت تک قید کر دیا پھر ان کو رہا کر کے انہیں اپنے اپنے گھروں میں رہنے کا پابند کر دیا اور اس نے خطابت اور الغزالیہ کی تدریس کا کام عماد الدین داؤد بن عمر بن یوسف المقدسی خطیب بیت الابار کے سپرد کر دیا پھر دونوں شیخ دمشق سے باہر چلے گئے اور ابو عمر و ناصر داؤد کے پاس انکرک چلا گیا اور شیخ عز الدین دیار مصر میں آ گیا اور اس کے حکمران ایوب نے احترام و اکرام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو قاہرہ کی خطابت اور مصر کی قضا سوئپ دی اور مصر کے باشندوں نے آپ سے علم سیکھا اور آپ سے علم سیکھنے والوں میں شیخ تقی الدین ابن دقیق العید بھی شامل تھے اللہ دونوں پر رحم فرمائے۔

اور اس سال تاتاریوں کے بادشاہ تولی بن چنگیز خان کی طرف سے ملوک اسلام کے پاس اپنی آیا جس نے انہیں چنگیز خان کی اطاعت کرنے کی دعوت دی اور انہیں اپنے شہروں کی فصیلیں گرانے کا حکم دیا اور خط کا عنوان تھا۔

آسمان کے رب کے نائب اور روئے زمین کے ہموار کرنے والے شرف و غرب کے بادشاہ قان قان کی طرف سے اور یہ خط اصہبان کے ایک خوش اخلاق مسلمان کے ہاتھ بھیجا گیا سب سے پہلے وہ شہاب الدین غازی بن عادل کے پاس میا قارقین آیا اور اس نے اپنے علاقے کے عجیب و غریب واقعات بیان کیے۔

ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ سد کے ملحقہ علاقوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھیں ان کے کندھوں پر اور ان کے منہ ان کے سینوں پر ہیں وہ مچھلی کھاتے ہیں اور جب کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ ان کے پاس ایک بیج ہے جو بکریاں پیدا کرتا ہے اور اس کا بکروں و بکریوں میں ماہ زندہ رہتا ہے اور اس کی نسل نہیں ہوتی۔

اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مازندران میں ایک چشمہ ہے جس میں ہر تیس سال کے اندر مینار کی طرح ایک عظیم لکڑی نمودار ہوتی ہے جو دن بھر کھڑی رہتی ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ چشمے میں غائب ہو جاتی ہے اور تو اس وقت اس کی مثل نہیں دیکھے گا۔ اور یہ کہ بعض بادشاہوں نے اسے زنجیریں باندھ کر پکڑنے کی تدبیر کی مگر وہ چشمے میں دھنس گئی۔ اور ان زنجیروں کو توڑ دیا پھر جب وہ نمودار ہوگی تو تو ان زنجیروں کو اس میں دیکھے گا اور وہ اب بھی اسی طرح ہیں۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال زمین و آسمان کے پانیوں کی قلت ہو گئی اور بہت سی کھیتیاں اور پھل خراب ہو گئے۔ واللہ اعلم



اس سال میں وفات پانے والے اعیان و مشاہیر

حضرت محی الدین ابن عربی:

مؤلف الفصوص وغیرہ محمد بن علی بن محمد ابن عربی ابو عبد اللہ طائی اندلسی آپ نے شہروں کے چکر لگائے اور مدت تک مکہ میں قیام کیا اور وہیں اپنی کتاب فتوحات مکہ کو تقریباً بیس جلدوں میں تصنیف کیا اس میں ایسی باتیں ہیں جو سمجھ آتی ہیں اور ایسی بھی ہیں جو سمجھ نہیں آتیں اور ایسی بھی ہیں جن کا انکار کیا جاتا ہے اور ایسی بھی جو ناقابل انکار ہیں اور ایسی بھی ہیں جو معروف ہیں اور ایسی بھی ہیں جو غیر معروف ہیں اور آپ کی کتاب نصوص الحکم میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ظاہری طور پر صریح کفر ہیں اور آپ کی کتاب العبادلہ اور شاندار اشعار کا ایک دیوان بھی ہے اور آپ کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں آپ نے اپنی وفات سے قبل طویل مدت تک دمشق میں قیام کیا اور بنو الزکی آپ کو گھیرے رہتے تھے اور آپ کا خیال رکھتے تھے اور جو کچھ آپ کہتے تھے اس کو برداشت کرتے تھے ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ پر تصنیف کرنا سہل تھا اور تصوف کے طریق پر آپ نے طویل کلام کیا ہے اور آپ کے اشعار بھی اچھے ہیں آپ کا جنازہ بہت اچھا تھا آپ کو قاسیون میں قاضی محی الدین بن الزکی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

اور اس سال کی ۲۲ ربیع الآخر کو آپ کا جنازہ ہوا۔ ابن السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو اسم اعظم یاد ہے اور یہ کہ آپ کیسما کو بطریق منازلہ جانتے ہیں نہ کہ بطریق کسب آپ علم تصوف میں فاضل تھے اور آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔

قاضی نجم الدین ابوالعباس:

احمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسی، حنبلی، شافعی، جو ابن حنبلی کے نام سے مشہور ہیں، آپ شیخ، فاضل، دیندار اور علم خلافت میں مہارت رکھتے تھے اور حمیدی نے صحیحین کے درمیان جو توافقی کیا ہے اسے حفظ کرتے تھے اور آپ متواضع اور خوش اخلاق تھے اور آپ حصول علم کے لیے شہروں میں گھومے پھر دمشق میں ٹھہر گئے اور فدا دیہ، صامیہ، شامیہ، جوانیہ، اور ام الصالح میں درس دیا۔ اور قاضیوں کی ایک جماعت کی فیصلہ کرنے میں نیابت کی یہاں تک کہ آپ نے دمشق ہی میں وفات پائی، آپ رفیع جبلی کے نائب تھے اور آپ کی وفات ۶ شوال کو جمعہ کے روز ہوئی اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

یا قوت بن عبد اللہ امین الدین الرولی:

آپ اتابکی گھرانے کی طرف منسوب ہیں آپ شاہ موصل لؤلؤ کے ایلچی کے ساتھ بغداد آئے۔ ابن السامی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے آپ ایک ادیب اور فاضل نوجوان تھے آپ کی تحریر نہایت عمدہ تھی اور آپ اچھے اشعار نظم کرتے تھے۔ پھر اس نے آپ کے کچھ اشعار بیان کیے ہیں راوی بیان کرتا ہے آپ نے مجھوں نے کی حالت میں جمادی الآخرہ

میں وفات پائی۔

۶۳۹ھ

ان سال ملک جوادی نے صالح ایوب کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سرہانے کا قسمہ کیا اور جب وہ اہل پہنچا تو صالح ایوب کو اس کے متعلق بدگمانی ہو گئی اور اس نے کمال الدین ابن الشیخ کو اس کے پاس گرفتار کرنے کے لیے بھیجا پس جوادی نے واپس آ کر ناصر داؤد کی پناہ لے لی اور وہ اس وقت قدس شریف میں تھا اور اس نے قدس سے ایک فوج بھیجی جس نے ابن الشیخ کے ساتھ ڈبھڑکی اور اسے شکست دی اور اسے قیدی بنا لیا اور ناصر نے اسے زجر و توبیخ کر کے آزاد کر دیا اور جوادی ناصر کی خدمت میں ٹھہر گیا حتیٰ کہ اسے بھی اس کے متعلق بدگمانی ہو گئی اور اس نے اسے بیڑی ڈال کر زیر نگرانی بغداد بھیج دیا اور عرب کے ایک قبیلے نے اسے رہا کر دیا اور اس نے شاہ دمشق کی مدت تک پناہ لیے رکھی پھر وہ فرنگیوں کے پاس چلا گیا پھر دمشق واپس آ گیا۔ تو صالح اسماعیل نے اسے عزتاً قید کر دیا حتیٰ کہ وہ ۶۴۱ھ میں فوت ہو گیا۔

اور اس سال صالح ایوب نے مصر میں مدارس کی تعمیر شروع کی اور جزیرہ میں ایک قلعہ تعمیر کیا جس پر بیت المال سے بہت کچھ قرض لے کر خرچ کیا اور لوگوں کی املاک چھین لیں اور تیس سے زیادہ مساجد کو گرا دیا اور ایک ہزار کھجور کے درختوں کو کاٹا پھر ۶۵۱ھ میں ترکوں نے اس قلعے کو برباد کر دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اور اس سال شاہ حمص ملک منصور بن ابراہیم بن ملک مجاہد حلبیوں کے ساتھ گیا اور انہوں نے حران کے علاقے میں خوارزمیوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا اور کامیاب ہو کر اپنے ملک کو واپس آئے اور میا فارقین کے حکمران شہاب الدین غازی نے خوارزمیوں کے ساتھ صلح کر لی اور انہیں اپنے ملک میں پناہ دی تاکہ وہ اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال شیخ عز الدین دیار مصر میں آیا اور اس کے حاکم نے اس کی عزت کی اور اسے قاہرہ کی خطابت سپرد کی اور قاضی شرف الدین المرنغ کے بعد اسے مصر کا قاضی القضاة بنا دیا پھر آپ نے دو دفعہ علیحدگی اختیار کی اور اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال شمس بن الجناز نایب ناخوی نے ۷۷۰ھ کو وفات پائی اور فقیہ کمال بن یوسف نے ۱۵ شعبان کو وفات پائی اور یہ دونوں اپنے شہر میں اپنے اپنے فن کے فاضل تھے۔

شمس بن الجناز:

میں کہتا ہوں کہ شمس بن الجناز ابو عبد اللہ احمد بن حسین بن احمد بن معالی بن منصور بن علی نایب ناخوی، موصلی جو ابن الجناز کے نام سے مشہور ہے اس نے عربی زبان کے علم کو سیکھا اور المفصل، الايضاح، التکملة، عروض اور حساب کو حفظ کیا اور آپ لغت کی کتاب الجمل کو حفظ کرتے تھے اور شافعی المذہب تھے اور بہت سی نادر اور ظریفانہ باتیں آپ کو یاد تھیں اور آپ کے اشعار عمدہ ہیں اور آپ کی وفات ۱۰۰۰ھ رجب کو ۵۰ سال کی عمر میں ہوئی۔

کمال بن یونس:

کمال بن یونس بن محمد بن سعد بن مالک تثنیٰ ابوالثقفی موسیٰ آپ سوسل میں شیخ الشافعیہ تھے اور وہاں کے متعدد مدارس کے مدرس تھے آپ کو اصول و فروع، معتقبات، منطق، اور حلالیت میں معرفت نامہ حاصل تھی اور شہروں کے طالب علم آپ کی طرف سفر کرتے تھے آپ نے ۸۸ سال عمر پائی اور آپ نے اشعار عمدہ ہیں اور ان میں شاہ مؤسس بدرالدین لؤلؤ کی مدح بھی آپ آہتے ہیں۔

”اگر دنیا کو زینت دی گئی ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ دنیا کی حکومت تجھ سے شرف حاصل کرتی ہے تو ہمیشہ زندہ رہے اور تیرا امر نافذ رہے اور تیری کوشش کا تجھے بدلہ ملے اور تیرا فیصلہ منصفانہ ہوں۔“

آپ کی پیدائش ۵۵۱ھ میں ہوئی اور وفات اس سال کی ۱۵ شعبان کو ہوئی، ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سال دمشق میں وفات پائی ہے۔

صوفی عبدالواحد:

آپ ستر سال سے مریم کے گرجے میں راہب پادری تھے اور اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل مسلمان ہو گئے، پھر آپ نے کچھ عرصہ خانقاہ سمیساطیہ میں قیام کرنے کے بعد وفات پائی اور قبرستان صوفیا میں دفن ہوئے آپ کا جنازہ بھر پور تھا، میں بھی آپ کے دفن اور نماز جنازہ میں شامل تھا۔

ابوالفضل احمد بن اسفندیار:

ابن الموفق بن ابی علی البوسنجی واعظ اور خانقاہ ار جوانیہ کا شیخ، ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ آپ خوبصورت، خوش اخلاق بہت محبت کرنے والے، متواضع، عمدہ متکلم، منطقی، خوش بیان، عمدہ واعظ، خوش آواز اور شیریں بیان تھے، آپ کی نظم اچھی تھی، پھر اس نے خلیفہ مستنصر کی مدح میں آپ کا قصیدہ بیان کیا ہے۔

ابوبکر محمد بن یحییٰ:

ابن المظفر بن علم بن نعیم جو ابن الحسرا اسلامی کے نام سے مشہور ہیں، آپ شیخ عالم، فاضل تھے، آپ پہلے حنبلی تھے۔ پھر شافعی بن گئے، اور بغداد کے متعدد مدارس شافعیہ میں پڑھایا اور آپ وہاں معتبر آدمیوں میں سے تھے، آپ بہت سے کاموں کے منتظم تھے اور اصولی فقیہ اور خلائیات کے عالم تھے، آپ اپنے شہر آئے تو بہت بڑے بن گئے، پھر ابن فضالان نے دارالحریم میں آپ کو نائب مقرر کیا، پھر آپ نے نظامیہ میں درس دیا اور اس نے آپ کو نچر دیا اور اعیان آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ہمیشہ وہیں رہے۔ حتیٰ کہ ۸۰ سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور باب حرب میں دفن ہوئے۔

بغداد کے قاضی القضاة:

ابوالمعالی عبدالرحمن بن مقبل بن علی واسطی، شافعی آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا اور بعض مدارس میں اس کی دہرائی کی، پھر خلیفہ الظاہر بن الناصر کے زمانے میں قاضی القضاة عماد الدین ابوصالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر نے آپ کو نائب مقرر کیا،

پھر آپ بااختیار قاضی القضاة بن گئے پھر آپ نے مستنصریہ میں اس کے پہلے مدرس محمد بن فضل بن محمد بن فضل کی وفات کے بعد مدرس کا کام سنبھالا پھر آپ ان سب کاموں اور ایک خانقاہ کی منیجٹ سے الگ ہوئے اور آپ کی وفات اس سال میں ہوئی اور آپ فاضل دیندار اور متواضع آدمی تھے۔

۱۲۳۰ھ

اس سال خلیفہ مستنصر باللہ نے وفات پائی اور اس کا بیٹا مستنصر باللہ خلیفہ بنا اور امیر المؤمنین خلیفہ کی وفات ۱۰ جمادی الآخرہ کو جمعہ کی صبح کو ہوئی اور اس کی عمر ۵۱ سال ۴ ماہ ۲ دن تھی اور اس کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا حتیٰ کہ اس روز منابر پر اس کے لیے دعائیں کی گئیں اور اس کی مدت حکومت ۱۶ سال ۱۰ ماہ ۲۷ دن تھی اور اسے دارالخلافہ میں دفن کیا گیا پھر الرصافہ کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا وہ خوبصورت، خوب سیرت، نیک نیت، بہت صدقات خیرات اور عطیات دینے والا اور مقدور بھر رعیت سے حسن سلوک کرنے والا تھا اور اس کے دادا ناصر سے جو کچھ سونا حاصل کیا تھا اسے دارالخلافہ کے تالاب میں جمع کر دیا تھا اور وہ اس کے کنارے پرکھڑے ہو کر کہتا تھا کیا تیرے خیال میں اسے بھرنے تک زندہ رہوں گا؟ اور مستنصر اس کے کنارے پرکھڑے ہو کر کہتا: کیا تیرے خیال میں میں اس سارے مال کے خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا؟ اور وہ بقیہ جہات کے راستوں میں خانقاہیں سرائیں اور پل بناتا تھا اور اس نے بغداد کے ہر محلہ میں فقراء کے لیے مہمان خانے بنائے خاص طور پر رمضان شریف میں اور وہ ان لونڈیوں کا جو ۴۰ سال کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی تھیں قصد کرتا اور انہیں خرید کر آزاد کر دیتا اور انہیں جو چیز دیتا اور ان کا نکاح کر دیتا اور وہ ہر وقت سونے کے ہزاروں عطیات کو لے کر باہر نکلتا اور بغداد کے محلہ جات میں ضرورت مندوں، یتیم خانوں اور یتیمی وغیرہ میں تقسیم کر دیتا۔

تقبل اللہ منہ و جزاءہ خیراً۔

اور اس نے مذاہب اربعہ کے لیے بغداد میں مدرسہ مستنصریہ بنایا اور اس میں دارالحدیث حمام اور شفاخانہ بھی بنایا اور اس کے مستحقین کے لیے تنخواہیں، کھانے، مٹھائیاں اور پھل مقرر کیے۔ جن کے وہ اپنے اپنے اوقات میں حاجت مند ہوتے تھے۔ اور اس نے ان پر بڑے بڑے اوقات وقف کیے حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیداواری غلوں کی توڑی کی قیمت مدرسہ اور اہل مدرسہ کے لیے کافی ہوتی تھی اور اس نے اس میں ایسی کتابیں وقف کیں جن کی دنیا میں نظیر نہ تھی۔ اور یہ مدرسہ بغداد اور بقیہ بلاد کی زینت تھا۔

اور اس سال کے آغاز میں سامرا کا وہ مزار جل گیا جو ہادی اور حسن عسکری کی طرف منسوب ہے۔ اور اسے ارسلان البسایری نے ان نواح پر مغرب ہونے کے زمانے میں ۴۵۰ھ کی حدود میں تعمیر کیا تھا اور خلیفہ مستنصر نے اسے پہلے کی طرح دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اور رونق سے اس مزار کے جلنے کے عذر کے بارے میں طویل پھیسے اعتراضات کیے ہیں جو بے فائدہ ہیں اور انہوں نے اس بارے میں تاریخ لکھی ہے اور بہت اشعار سنائے ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں اور یہ وہ مزار ہے جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اس سے مہدی منتظر نکلے گا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عین و اثر ہے اور اگر وہ نہ بنایا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا اور وہ حسن بن علی بن محمد الجواد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن علی ابن محمد بن الباقر بن علی زین العابدین

بن الحسین شہید کر بلا، بن علی بن ابی طالب ہے اللہ ان سب سے راضی ہے اور جو ان کے بارے میں غلو کرے اور ان کی وجہ سے ان کے نفس آریوں سے بغض رکھے اللہ سے پاک کرے۔

اور مستنصر حلیم کریم نہیں اور لوگوں سے محبت کرنے والا تھا اور خوبصورت خوش اخلاق اور خوش منظر تھا اس پر بیت النبوة کا نور تھا۔ رضی اللہ عنہ، ارشاد:

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ غروب آفتاب سے قبل بعداد کے ایک محلے میں سے سوار ہو کر گزرا۔ تو اس نے ایک بڑے شیخ کو دیکھا جس کے پاس ایک برتن تھا جس میں کھانا تھا جسے وہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں اٹھا کر لے جا رہا تھا اس نے کہا اے شیخ تو نے اپنے محلے سے کھانا کیوں نہیں لیا؟ یا تو محتاج ہے کہ تو دو محلوں سے کھانا لیتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے آقا قسم بخدا ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسے معلوم نہ ہوا کہ یہ خلیفہ ہے۔ میں ایک بوڑھا شیخ ہوں اور مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے اور میں اپنے محلے سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں کھانے کے وقت ان سے مزاحمت کروں اور ہر وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھتا ہے مجھ پر ہنسی کرے اور میں دوسرے محلے میں آ کر کھانا لیتا ہوں اور میں اس وقت آتا ہوں جب لوگ نماز مغرب میں مصروف ہوتے ہیں اور میں کھانا لے کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں کہ مجھے کوئی شخص نہ دیکھے پس خلیفہ روپڑا اور اس نے اسے ایک ہزار دینار دینے کا حکم دیا اور جب میں نے اسے دینا دیکھا تو شیخ کو بہت خوشی ہوئی حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ خوشی کی شدت سے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ اس کے بعد صرف بیس دن زندہ رہا پھر وہ مر گیا اور اس نے خلیفہ کے لیے ایک ہزار دینار پیچھے چھوڑا کیونکہ اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ اور اس نے اس سے صرف ایک دینار خرچ کیا تھا پس خلیفہ اس بات سے متعجب ہوا اور کہنے لگا جس چیز سے ہم دست بردار ہو گئے ہیں وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ سکتی اس کے محلے کے فقراء پر انہیں صدقہ کر دو۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

اور اس نے تین لڑکے پیچھے چھوڑے ان میں دو سگے بھائی تھے امیر المومنین مستعصم باللہ جس نے اس کے بعد خلافت سنبھالی اور ابو احمد عبداللہ اور امیر ابو القاسم عبدالعزیز اور ان دونوں کی بہن ایک اور ماں سے تھی اللہ اس کے پردہ کی حفاظت کرے۔ اور لوگوں نے بہت سے اشعار میں اس کے مرثیے کہے ہیں جن میں ابن السامی نے اچھے اشعار بیان کیے ہیں اور اس نے کسی کو وزیر نہیں بنایا بلکہ ابوالحسن بن محمد بن محمد القمی کو نائب وزیر مقرر کیا پھر اس کے بعد نصر الدین ابوالاثر احمد بن محمد الناقد کو نائب وزیر مقرر کیا جو دار الخلافت کا استاد تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

مستنصر باللہ کی خلافت:

یہ بنی عباس کا بغداد میں آخری خلیفہ تھا اور یہ وہ شہید خلیفہ ہے جسے تاریخوں نے شاہ تار ہلا کو ابن تولى بن چنگیز خان کے حکم سے ۶۵۶ھ میں قتل کر دیا اللہ ان پر لعنت کرے اور ابھی اس کی تفصیل بیان ہوگی امیر المومنین مستعصم باللہ ابو احمد عبداللہ بن امیر المومنین مستنصر باللہ ابو جعفر منصور بن امیر المومنین الظاہر باللہ ابو نصر محمد بن امیر المومنین ناصر الدین اللہ ابو العباس احمد بن امیر المومنین المستنصر باللہ ابو محمد حسن بن امیر المومنین مستجد باللہ ابو المظفر یوسف بن امیر المومنین المتقصدی لامر اللہ ابو عبداللہ محمد بن امیر المومنین مستظہر باللہ ابو العباس احمد بن خلیفہ المقتدی بامر اللہ ابو القاسم عبداللہ اور اس کے بقیہ نسب کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک اس

کے دادانا صر کے حالات میں بیان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان سب نے یکے بعد دیگرے خلافت حاصل کی ہے اور مستعصم سے قبل ان کی علیحدہ کے لیے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے سبب میں بائیں جانب آئے انہوں نے خلافت حاصل کی ہو اور ان میں کوئی شخص نہ گھسا ہو اور وہ لوگوں خلیفہ تھا اللہ اس پر رحم فرمائے۔

اور سب اس کا باپ، اور ہمدانی آخرتہ ۶۳۰ھ کو بعد کی صبح کو فوت ہو گیا تو اس نے نماز کے بعد تاج نگویا اور اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس نے مستعصم کا لقب اختیار کیا اور اس وقت اس کی عمر ۳۰ سال کچھ ماہ تھی اور اس نے اپنی جوانی میں قرآن کریم کے حفظ و تجوید میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اور عربی زبان اور خوبصورت تحریر وغیرہ فضائل میں بھی شیخ شمس الدین ابوالمظفر علی بن محمد النبار سے مہارت حاصل کر لی تھی جو اپنے زمانے کے شافیہ کے ایک امام تھے اور اس نے اپنی خلافت میں شیخ شمس الدین کی عزت کی اور اس سے حسن سلوک کیا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے مستعصم بہت تلاوت کرنے والا حسن ادا والا اور خوش آواز تھا اس پر خشوع اور انابت طاری ہو جاتی اور اس نے تفسیر اور مشکلات کے حل میں بھی غور کیا تھا اور وہ نیکی میں مشہور قابل تعریف اور مقدر بھر اپنے باپ مستنصر کی پیروی کرنے والا تھا اور اللہ کے فضل سے اس کے زمانے میں سب امور سدا و استقامت سے چلتے رہے اور اس بیعت مستعصمیہ کا منتظم شرف الدین ابوالفضائل اقبال مستنصری تھا سب سے پہلے اس کے عمر اداوں اور اس کے اہل نے جو بنی عباس سے تھے اس کی بیعت کی پھر حکومت کے بڑے آدمیوں میں سے امراء و وزراء، فضلاء علماء اور فقہانے اور ان کے بعد ارباب حل و عقد اور عوام وغیرہ نے بیعت کی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور قابل تعریف مجمع اور سعادت مند رائے اور اچھی بات تھی اور بقیہ جہات واقطار اور ممالک و اقالم اور شرق و غرب کے بقیہ منابر پر دو روز تک اس کا خطبہ ہوا جیسا کہ اس کے آباؤ اجداد کے لیے ہوتا تھا۔

اور اس سال کچھ حوادث بھی پیش آئے اور وہ یہ کہ مستنصر کے آخری ایام میں عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور ادویہ گراں ہو گئیں اور خلیفہ مستنصر باللہ نے مریضوں کے لیے بہت سی شکر صدقہ کی۔ تقبل اللہ منہ

اور ۱۴ شعبان کو جمعہ کے روز خلیفہ مستعصم باللہ نے ابوالفرج عبدالرحمن بن محی الدین یوسف ابن الشیخ ابوالفرج بن الجوزی کو جو ایک دانہ اور فاضل جوان تھا۔ باب البدریہ میں وعظ کرنے کی اجازت دی اور اس نے بہت اچھا وعظ کیا اور ایک فصیح و طویل قصیدے میں خلیفہ مستعصم کی تعریف کی جسے ابن الساعی نے مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ اور جس نے اپنے باپ کی مشابہت کی اس نے ظلم نہیں کیا اور شیر کا بچہ تجربہ میں شیر کی مانند ہوتا ہے۔ اور اس سال حلبیوں اور خوارزمیوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوا اور خوارزمیوں کے ساتھ شہاب الدین غازی حاکم میافارقین بھی تھا پس حلبیوں نے انہیں نہایت بری طرح شکست دی اور ان کے بہت سے اموال کو حاصل کیا اور نصیبین دوبارہ لٹ گیا اور ان سالوں میں اس کے لٹنے کی یہ سترھویں دفعہ تھی، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور غازی میافارقین کی طرف واپس آ گیا اور خوارزمی اپنے پیش رو برکات خان کی صحبت میں فساد کرتے ہوئے منتشر ہو گئے اور شہاب غازی کے سامنے شہر خلاط کا سرکلر پیش کیا گیا اور اس نے اس کی اور اس کے ذخائر کی سپردداری لے لی۔

اور اس سال حاکم مصر صالح ایوب نے شام میں داخل ہونے کا عزم کیا تو اسے بتایا گیا کہ فوجیں آ رہی ہیں، سو اس نے ایک فوج مصر کی طرف روانہ کی اور خود مصر میں قیام کر کے اپنی مملکت کا انتظام کرنے لگا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

www.KitaboSunnat.com

خاتون بنت مرالدین مسعود:

امستصر باندا امیر المؤمنین کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں ابن مودود بن زنگی بن آقسٹر اتا بکیہ اور الصالحیہ کے مدرسہ اتا بکیہ کو وقف کرنے والی یہ سلطان ملک اشرف کی بیوی تھی اور اپنی وفات کی شب اس نے اپنے مدرسہ کو وقف کیا اور اس کی قبر جبل میں ہے یہ ابو شامہ کا قول ہے اور وہ ہیں اسے دفن کیا گیا اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس کے وقف کو قبول کرے۔

۶۳۱ھ

اس سال شاہ مصر صالح ایوب اور شاہ دمشق صالح اسماعیل کے درمیان جو صالح ایوب کا چچا بھی تھا۔ کے درمیان ایلیی آتے جاتے رہے کہ وہ اس کے بیٹے مغیث عمر بن صالح ایوب کو جو قلعہ دمشق میں قید تھا۔ واپس کر دے اور دمشق صالح اسماعیل کے ہاتھ میں رہے پس اس شرط پر صلح ہو گئی اور اس نے دمشق میں صالح ایوب کا خطبہ دیا اور وزیر امین الدولہ ابو الحسن غزالی المسلمانی جو صالح اسماعیل کا وزیر تھا اس امر کی مصیبت سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے مخدوم سے کہا اس نوجوان کو اس کے باپ کے پاس واپس نہ کر، شہر تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے یہ نوجوان شہروں کے لیے تیرے ہاتھ میں خاتم سلیمان ہے اور اس موقع پر اس نے صلح کو توڑ ڈالا اور نوجوان کو قلعے کی طرف واپس بھیج دیا اور صالح ایوب کا خطبہ بھی بند کر دیا اور دونوں بادشاہوں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی اور صالح ایوب نے خوارزمیوں کو پیغام بھیج کر انہیں حصار دمشق کے لیے بلا یا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون

اور خوارزمیوں نے اس سال بلاد روم کو فتح کیا اور انہیں ان کے بادشاہ ابن علاء الدین سے چھین لیا اور وہ کم عقل تھا جو کتوں اور درندوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور انہیں لوگوں پر مسلط کر دیتا تھا۔ اتفاق سے اسے ایک درندے نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا اور اس وقت وہ ان پر مغلوب ہو گئے۔

اور اس سال قاضی رفیع الجینی کے مددگاروں کی نگرانی کی گئی اور بعض کو کوڑوں سے مارا گیا اور واپس کیا گیا اور قاضی رفیع کو اس نے باب الفردیس کے اندر مدرسہ مقدمہ لکھ دیا پھر اس نے اسے رات کو نکالا اور اسے لے جا کر نواحی علاقے کی فقہ غار میں قید کر دیا پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اسے بلند چوٹی سے نیچے پھینک دیا گیا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ اس سال کے ذوی الحجہ میں ہوا۔

اور ۲۵ ذوی الحجہ کو جمعہ کے روز دمشق کی قضا کے سنبھالنے کا سرکلر محمد بن الدین بن محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ قرشی کے لیے جامع مسجد کی کمال کھڑکی میں پڑھا گیا۔ اور یہی بات شیخ شہاب الدین ابو شامہ نے بیان کی ہے۔ اور السبط کا خیال ہے کہ اس کی معزولی آئندہ سال ہوئی ہے۔ اور اس نے اس کی ہلاکت کے سبب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے ملک صالح کو خط لکھا کہ وہ اس کے خزانے میں لوگوں کے اموال سے ایک کروڑ دینار کے اموال لایا ہے صالح نے اس بات سے انکار کیا اور اسے جواب دیا کہ وہ

صرف ایک کروڑ درہم لایا ہے اور اس نے قاضی کو بھیجا کہ وہ کہے کہ میں وزیر کو حق پر سمجھتا ہوں اور صالح وزیر کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ نہیں اس نے اسی وقت صالح کو مشورہ دیا تو اس نے اسے معزول کر دیا تاکہ سلطان کا چوک بے بنیاد نہ ہوں سے پاک ہو جائے۔ اس نے اسے معزول کر دیا اور اس کا جوہر مالہ جو اسے ہوا اور اس نے اس کے ماہر کے معاملے کو شیخ تفتی الہ بن ابن الصلاح کے سپرد کر دیا۔ اور اس نے العادلیہ کو کمال تنہی اور اندراویہ کو نجی المدین ابن الزکی جس نے اس کے بعد قضا کو سنبھالا تھا اور امینیہ کو ابن عبد الکافی اور شامیہ برانیہ کو تفتی حموی کے لیے مخصوص کر دیا اور قاضی رفیع کو غائب کر دیا۔ اور اس کے گواہوں کی عدالت کو ساقط کر دیا۔ السبط نے بیان کیا ہے کہ امین نے اسے ایک جماعت کے ساتھ ایک عیسائی کے پالان دار نچر پر افقہ غار کی طرف بھیجا جو جبل لبنان میں ساحل کی جانب ہے اور اس نے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر اس نے بعلبک سے دو عادل گواہوں کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ ان کے متعلق گواہی دیں کہ اس نے امین الدولہ کی املاک کو فروخت کیا ہے اور ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا ہے اور اس پر ایک پوسٹین تھی اور اس نے ان دونوں کے زاد سے کچھ کھانے کو طلب کیا اور اس نے بیان کیا کہ اس نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا اور ان دونوں نے اسے اپنے اپنے زاد سے کھانا کھلایا اور انہوں نے اس کے متعلق گواہی دی اور واپس آگئے، پھر داؤد نصرانی نے اس کے پاس آ کر کہا اٹھ کھڑا ہو ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم تمہیں بعلبک لے جائیں اس وقت اسے موت کا یقین ہو گیا اور اس نے کہا چھوڑو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو اس نے اسے کہا اٹھ کھڑا ہو سو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگا اور اس نے نماز کو لمبا کر دیا اور نصرانی نے اس کے سینے پر لات ماری اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے وادی کی ترائی میں پھینک دیا۔ اور وہ نیچے پہنچنے تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ اس کا دامن پہاڑ کی نوک سے الجھ گیا اور داؤد مسلسل اسے پتھر مارتا رہا حتیٰ کہ اس نے اسے وادی کی ترائی میں پھینک دیا اور یہ واقعہ نہر ابراہیم کے قریبی چھت کے پاس ہوا۔

السبط نے بیان کیا ہے وہ خراب عقیدہ دہریہ اور شرعی امور سے ٹھٹھا کرنے والا تھا اور وہ مجلس میں مدہوش آتا تھا۔ اور اسی طرح جمعہ میں حاضر ہوتا تھا اور اس کا گھر شراب فروش کی دوکان کی طرح تھا۔ لاجول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم

راوی بیان کرتا ہے کہ موفق واسطی نے اس کے ایک امین۔ جو سب سے بڑی مصیبت تھا۔ کو پکڑ لیا، جس نے اپنے لیے لوگوں کے اموال سے چھ لاکھ درہم لیے تھے اسے سخت سزا دی گئی اور اس کی دونوں پنڈلیاں توڑ دی گئیں اور وہ مار کھاتے ہی مر گیا اور اسے یہود و نصاریٰ کے قبرستان میں پھینک دیا گیا اور اسے کتے کھا گئے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ شمس الدین ابو الفتوح:

اسعد بن المنجی القونجی المعری الحسینی، جو پہلے حران کے قاضی تھے، پھر دمشق گئے، اور آپ نے مسامیرہ میں درس دیا، اور حکومت معظمیہ میں آپ نے بہت کام کیے اور آپ نے ابن صابر اور قاضی شہر زوری اور ابن ابی عمروں سے روایت کی ہے اور آپ کی وفات اس سال ۷ ربیع الاول کو ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

شیخ حافظ صالح:

تقی الدین ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن المازہ الصریفی نے آپ حدیث کو جانتے تھے اور آپ کو اس کی بڑی اچھی معرفت تھی ابوشامہ نے آپ کی تعریف کی ہے اور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا آیا اور قاسیون میں دفن ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

واقف الکروسیہ:

محمد بن عقیل بن کروس، جمال الدین مختب دمشق، آپ ذہین اور متواضع تھے آپ نے شوال میں دمشق میں وفات پائی اور اپنے اسی گھر میں دفن ہوئے جسے آپ نے مدرسہ بنا دیا تھا۔ اور آپ کا دارالحدیث بھی تھا۔ رحمہ اللہ وعفا عنہ

ملک جواد یونس بن محمود:

ابن العادل ابی بکر بن ایوب ملک جواد اس کا باپ عادل کا بڑا بیٹا تھا اس کے احوال دگرگوں ہو گئے اور وہ اپنے چچا کامل محمد بن عادل کے بعد دمشق کا بادشاہ بنا، اور وہ ہقیقہ بہت اچھا اور صالحین سے محبت کرنے والا تھا لیکن اس کے دروازے میں ایک شخص تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور یہ ظلم اس کی طرف منسوب ہو جاتا تھا، پس عوام نے اس سے نفرت کی اور اسے گالیاں دیں اور اسے یہاں تک مجبور کر دیا کہ اس نے دمشق کے بدلے ملک صالح ایوب بن کامل سے سخا اور کیفا کا قلعہ لے لیا، پھر وہ ان دونوں کی حفاظت نہ کر سکا اور وہ دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور پھر نوبت بایں جا رسید کہ صالح اسماعیل نے اسے قلعہ عز قامیں قید کر دیا۔ حتیٰ کہ اس سال اس کی وفات ہو گئی اور شوال میں اسے قاسیون کے دامن میں معظم کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ اور ابن یغمو راس کے پاس قید تھا، پس صالح اسماعیل نے اسے قلعہ دمشق میں منتقل کر دیا اور جب صالح ایوب نے اس پر قبضہ کیا تو اس نے اسے دیار مصر کی طرف منتقل کر دیا اور اسے صالح اسماعیل کے وزیر امین غزال کے ساتھ اس کر قوت کی جزا میں، جو ان دونوں نے صالح ایوب مرحوم کے ساتھ کیا تھا، قلعہ قاہرہ میں پھانسی دے دی۔

اور ابن یغمو راس کا حاکم بن گیا، حتیٰ کہ اس نے دمشق کی بادشاہت کو صالح اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا۔ اور امین الدولہ نے صالح کو اس کے بیٹے عمر کو اس کے باپ کے حوالے کرنے سے روکا تھا، پس اس نے ان دونوں سے اس کا بدلہ لیا اور وہ اس بارے میں معذور تھا۔

مسعود بن احمد بن مسعود:

ابن مازہ الحارثی جو احناف کے فاضل فقہاء میں سے تھے اور آپ کے پاس علم تفسیر اور علم حدیث بھی تھا، اور آپ بہت خوبیوں کے حامل تھے آپ تاتاریوں کے ایلچی کے ساتھ حج کے لیے بغداد آئے اور کئی سال مجوس رہے، پھر رہا ہوئے تو آپ نے حج کیا، پھر واپس آئے اور اس سال میں بغداد میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

ابوالحسن علی بن یحییٰ بن الحسن:

ابن الحسین بن علی بن محمد البطریق بن نصر بن حمدون بن ثابت الاسدی الحلی ثم الواسطی ثم البغدادی، کاتب اور شیعہ شاعر اور شیعہ کا فقیہ، اس نے مدت تک دمشق میں قیام کیا اور بہت سے امراء اور ملوک کی مدح کی، جن میں کامل شاہ مصر بھی شامل ہے، پھر یہ

بجوں، واپس آئے۔ شیبہ کو اور کئی مناسب میر مشغول رکھتا تھا اور نہ فاضل ذہن اور بہت اچھی نظم و سطر لکھنے والا تھا لیکن مخدول اور حق سے دور تھا اور ابن السامی نے اس کے کچھ اشعار بیان کیے ہیں جو اس کے علم و ذہانت کی کثرت پر دلالت کرتے ہیں۔

۶۳۲ھ

اس سال خلیفہ مستعصم باللہ نے مؤید الدین ابوطالب محمد بن احمد بن علی بن محمد العتقی کو وزیر بنایا جو اپنے لیے اور اہل بغداد کے لیے مخوس تھا۔ جس نے اپنی وزارت میں مستعصم کو نہیں بچایا، بلاشبہ وہ اچھا وزیر اور پسندیدہ طریق نہ تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف ہلاکوں اور اس کی فوجوں کی مدد کی، اللہ اسے اور انہیں ہلاک کرے اور ابن العتقی اس وزارت سے قبل دار الخلافہ کا استاد تھا۔ اور جب نصر الدین محمد بن الناقد نے وفات پائی تو اس نے ابن العتقی کو وزیر بنایا اور شیخ محی الدین یوسف بن ابی الفرج ابن الجوزی کو استاد ریہ میں اس کی جگہ مقرر کیا اور آپ بہترین لوگوں میں سے تھے اور آپ دمشق میں نشا بین مقام پر الجوزیہ کے وقف کرنے والے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔

اور اس سال شیخ شمس الدین نے علی بن محمد بن الحسین بن النیار مؤدب الخلیفہ کو بغداد کا شیخ الشیوخ مقرر کیا اور اسے خلعت دیا اور خلیفہ عبد الوہاب ابن المطہر کو کالت مطلقہ سپرد کی اور اسے خلعت دیا۔ اور اس سال ان خوارزمیوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوا، جنہیں شاہ مصر صالح ایوب لایا تھا تاکہ شاہ دمشق صالح اسماعیل ابوالحسن کے خلاف ان سے مدد لے، پس وہ غزہ اترے اور صالح ایوب نے ان کی طرف خلعتیں، اموال، فرنیچر اور افواج بھیجیں، اور صالح اسماعیل اور شاہ الکمر ناصر داؤد اور شاہ حمص منصور نے فرنگیوں کے ساتھ اتفاق کر لیا اور انہوں نے خوارزمیوں کے ساتھ شدید جنگ کی اور خوارزمیوں نے ان کو نہایت بری طرح شکست دی اور فرنگی اپنی صلیبوں کے ساتھ شکست کھا گئے اور ان کے بلند جنڈے مسلمانوں کے طالبین کے سروں پر تھے اور جام ہائے شراب فوجوں کے درمیان گردش کر رہے تھے اور موت کے جام شراب کے پیالوں کے قائم مقام بن گئے اور ایک دن میں فرنگیوں کے تیس ہزار سے زیادہ آدمی مارے گئے اور انہوں نے ان کے بادشاہوں، پادریوں اور اساتذہ کی ایک جماعت اور بہت سے مسلمان امراء کو قیدی بنالیا اور انہوں نے قیدیوں کو صالح ایوب کے پاس مصر بھجوا دیا۔ اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ اور قابل تعریف کام تھا اور ایک مسلمان امیر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ ہم جب بھی فرنگی صلیبوں تلے کھڑے ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے اور خوارزمیوں نے فرنگیوں سے اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سے بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں، اور اس نے صالح ایوب کو دمشق کی طرف بھیجا کہ وہ اس کا محاصرہ کرے اور صالح اسماعیل نے اسے مضبوط بنایا تھا اور اس کے ارد گرد جو بہت سے گھر تھے اس نے انہیں گرادیا۔ اور باب تو ما کے پل کو بھی توڑ دیا اور دریا رواں ہو گیا اور پانی واپس آ گیا، حتیٰ کہ باب تو ما اور باب السلامہ کا ایک بکیرہ بن گیا اور ان دونوں کے درمیان جو آبادی تھی وہ غرق ہو گئی اور بہت سے لوگ محتاج ہو گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک مغیث عمر بن صالح ایوب:

صالح اسماعیل نے اسے قیدی بنایا تھا اور اسے قلعہ دمشق کے برج میں قید کر دیا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس نے صالح ایوب کی غیر حاضری میں اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے باپ نے ہر ممکن طریق پر اس کی رہائی کی کوشش کی مگر وہ اس کی سکت نہ پاسکا اور اس بارے میں امین الدولہ غزال المسلمانی نے اس کا مقابلہ کیا جو بعلبک کے مدرسہ امینیہ کا وقف کرنے والا ہے اور وہ نوجوان ۶۳۸ھ سے لے کر اس سال کی ۱۲ ربیع الآخر کی جمعہ کی رات تک مسلسل قلعہ میں محبوس رہا اور وہ غم و اندوہ سے قید خانے میں مر گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ واللہ اعلم

اور وہ بادشاہوں کے بیٹوں میں سے بہترین بیٹا اور ان سے خوش شکل اور ان سے کامل عقل والا تھا اور اسے اس کے دادا کامل کی قبر کے نزدیک جامع مسجد کے شمال میں دفن کیا گیا اور شاہ دمشق پر اس کے باپ صالح ایوب کا غصہ بڑھ گیا۔

تاج الدین ابو عبد اللہ بن عمر بن حمویہ:

شیخ الشیوخ تاج الدین نے دمشق میں وفات پائی آپ ایک فاضل مؤرخ مصنف تھے آپ کی کتاب آٹھ جلدوں میں ہے جس میں آپ نے اصول کو بیان کیا ہے اور آپ کی ایک کتاب سیاست الملوکہ بھی ہے جسے آپ نے کامل محمد وغیرہ کے لیے تصنیف کیا تھا اور آپ نے حدیث کا سماع کیا اور قرآن حفظ کیا اور آپ کی عمر ۸۰ سال تھی اور بعض کا قول ہے کہ آپ ۸۰ سال تک نہیں پہنچے تھے اور آپ نے ۵۹۳ھ میں بلاد مغرب کی طرف سفر کیا اور مرآش میں اس کے بادشاہ منصور یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن سے رابطہ کیا اور آپ نے وہاں ۶۰۰ھ تک قیام کیا اور پھر آپ دیار مصر میں آ گئے اور اپنے بھائی صدر الدین بن حمویہ کے بعد شیوخ کی مشیخت سنبھالی۔

وزیر نصر الدین ابوالازہر:

احمد بن محمد بن علی بن احمد الناقد البغدادی، مستنصر کا وزیر تھا، پھر اس کے بیٹے مستنصر کا وزیر بنا، یہ ایک تاجر کا بیٹا تھا، پھر وہ ان دونوں خلیفوں کا وزیر بنا۔ یہ یکتا فاضل حافظ قرآن اور بہت تلاوت کرنے والا تھا۔ اور اس نے بلند شان قراہتداروں میں پرورش پائی، پھر اسے بڑی وجاہت حاصل ہو گئی اور وہ آخر میں اپنا چہرہ ہو گیا، اس کے باوجود اس کا بہت اکرام و احترام تھا اور اس کے اشعار بہت اچھے ہیں جن میں سے ابن الساعی نے کچھ اشعار بیان کیے ہیں اور اس کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی۔

نقیب النقباء خطیب الخطباء:

وکیل الخلفاء ابوطالب الحسین بن احمد بن علی بن احمد بن معین بن ہبہ اللہ بن محمد بن علی ابن الخلیفہ المہدی باللہ العباسی آپ عباسیوں کے سردار، مسلمانوں کے امام اور مومنین کے خطیب تھے۔ آپ کے احوال مسلسل رو بہ رہے آپ خطابت سے کبھی الگ

نہیں ہوئے اور نہ کسی بیمار ہو۔ حق کہاں مال کی ۲۸ مارچ کو پہنچا کی بات آگئی آپ نے آپ کو اپنے کسی کام کے لیے اٹھنے اور جانے کے بل کر پڑے اور آپ کے منہ سے بہت سا خون بہ گیا اور آپ خاموش ہو گئے اور اس روزرات تک ایک لفظ بھی نہ بول سکے اور فوت ہو گئے اور آپ کا جنازہ بہت بھرپور تھا۔ رحمہ اللہ

۶۲۳ھ

یہ خوارزمیوں کا سال ہے اور یہ اس طرح کہ شاہ مصر صالح ایوب بن کامل نے خوارزمیوں کو ان کے بادشاہ برکات خان کی معیت میں معین الدین ابن الشیخ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے اس کے چچا صالح ابو الجیش، شاہ دمشق کا محاصرہ کرتے ہوئے دمشق کا گھیراؤ کر لیا، اور قصر حجاج، ذخیرہ ساق اور باب الصغیر کے باہر جامع جراح اور بہت سی مساجد کو نذر آتش کر دیا اور باب الصغیر اور باب الجابیہ کے پاس منجیق نصب کر دی اور اسی طرح شہر کے اندر بھی دو منجیقتیں نصب کر دیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے اور صالح اسماعیل نے امیر معین الدین ابن الشیخ کی طرف سجادہ چھڑی اور لوٹا بھیجا اور یہ پیغام بھی بھیجا کہ تیرے لیے ان چیزوں کے ساتھ اشتغال کرنا بادشاہوں کے محاصرہ کے اشتغال سے بہتر ہے اور معین نے اس کی طرف بانسری، باجا اور زرد اور سرخ ریشم کا شلو کہ بھیجا۔ اور یہ پیغام بھی بھیجا کہ سجادہ تو میرے مناسب حال ہے اور تیرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں پھر صبح کو ابن الشیخ نے دمشق کا محاصرہ سخت کر دیا اور صالح اسماعیل نے آدمی بھیجا جس نے اس کے باپ عادل کا محل جلا دیا اور آگ زقاق الرمان سے عقیقہ تک پھیل گئی اور اس نے اسے مکمل طور پر جلا دیا اور نہریں بند کر دی گئیں اور نرخ گراں ہو گئے اور راستے خوفناک ہو گئے اور دمشق میں نہایت بد مزگی ہو گئی جو کبھی وہاں نہ ہوتی تھی۔

اور اس سال جمادی الاولیٰ تک محاصرہ مہند ہو گیا اور امین الدولہ نے پیغام بھیج کر ابن الشیخ سے اس کے کچھ کپڑے طلب کیے اور اس نے قبائلیہ، قمیص اور رومال اس کے پاس بھیج دیا اور امین اس لباس کو پہن کر معین الدین کے پاس چلا گیا اور اس نے عشاء کے بعد اس سے طویل ملاقات کی پھر واپس آ گیا پھر دوبارہ گیا اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ صالح اسماعیل بعلبک کی طرف چلا جائے اور دمشق کو صالح ایوب کے سپرد کر دے، لوگ اس بات سے خوش ہو گئے اور صبح کو صالح اسماعیل بعلبک کی طرف چلا گیا اور معین الدین ابن الشیخ داخل ہو کر دار اسامہ میں اترے اور نصب و عزل اور قطع و وصل کیا اور صدر الدین بن سنی الدولہ کو قاضی القضاة بنا دیا اور قاضی محی الدین ابن الزکی کو معزول کر دیا اور ابن سنی الدولہ التفلیسی کو نائب مقرر کیا جو ابن الزکی اور الغرز السنجاری کا نائب تھا اور معین الدین ابن الشیخ نے امین الدولہ غزال بن المسلمانی کو جو صالح اسماعیل کا وزیر تھا، نگرانی کے تحت دیار مصر کی طرف بھیج دیا۔

اور خوارزمی صلح کے وقت موجود نہ تھے اور جب انہیں صلح کے طے ہو جانے کا علم ہوا تو وہ ناراض ہو گئے اور داریا کی طرف روانہ ہو گئے اور اسے لوٹ لیا اور بلاد مشرق کی طرف چلے گئے اور انہوں نے صالح اسماعیل سے خط و کتابت کی اور اسے صالح ایوب کے خلاف حلیف بنا لیا جس سے وہ خوش ہو گیا اور صلح اس نے کی تھی اسے توڑ دیا اور خوارزمیوں نے واپس آ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا اور صالح اسماعیل بعلبک سے ان کے پاس آیا اور دمشق کی حالت تنگ ہو گئی اور اموال ختم ہو گئے اور نرخ نہایت گراں ہو گئے حتیٰ کہ تھیلے کی قیمت سولہ سو اور ایک قنطار آٹے کی قیمت نو سو اور ڈیڑھ اونس روٹی کی قیمت ۴/۵ اور ہم اور گوشت ایک رطل کی قیمت سات

درہم ہو گئی۔ اور آنے کے عوض میں المہلک فروخت کی گئیں۔ اور بلیوں اور کتوں اور مردار کو کھایا گیا اور لوگ راستوں میں مرنے لگے اور وہ غسل و تمین اور قبروں میں دفن کرنے سے عاجز آ گئے۔ اور وہ اپنے مردوں کو گولوں میں پھینک دیتے تھے حتیٰ کہ شہر بدبودار ہو گیا اور لوگ ٹپک پڑ گئے۔ ان ایام میں شیخ الفی الدین ابن الصلاح فوت ہو گئے جو دار الحدیث اور دیگر مدارس کے شیخ تھے اور انہیں بڑی مشقت

اور انہی ایام میں شیخ الفی الدین ابن الصلاح فوت ہو گئے جو دار الحدیث اور دیگر مدارس کے شیخ تھے اور انہیں بڑی مشقت سے باب الفرج سے باہر نکال کر قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا۔ رحمہ اللہ

ابن السبط نے بیان کیا ہے اس صورت حال کے باوجود شراب کے دور چل رہے تھے اور اعلانیہ فسق و فجور ہو رہا تھا اور ٹیکس اپنے حال پر تھے۔

اور شیخ شہاب الدین نے بیان کیا ہے کہ اس سال نرخ نہایت گراں ہو گئے اور محتاج اور فقیر لوگ رستوں میں مر گئے وہ ایک لقمہ کا سوال کرتے تھے پھر وہ تھوڑی سی چیز کا سوال کرنے لگے پھر اس سے نیچے اتر کر ایک پیسے کا سوال کرنے لگے۔ جس سے وہ بھوسی خریدتے اور اسے بھگو کر مرغ کی طرح کھاتے۔

راوی بیان کرتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا ہے اور اس نے نرخوں کی تفصیل اور کھانوں وغیرہ میں اس کی گرانی کو بیان کیا ہے پھر یہ کیفیت سال کے آخر میں عید الاضحیٰ کے بعد دور ہو گئی۔

اور جب صالح ایوب کو اطلاع ملی کہ خوارزمیوں نے اس کے خلاف مدد دی ہے اور اس کے چچا صالح اسماعیل سے مصالحت کر لی ہے تو اس نے شاہ حمص ملک منصور ابراہیم بن اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ خط و کتابت کی اور اسے اپنی طرف مائل کیا اور دمشق کے نائب معین الدین حسین ابن الشیخ کا پہلو مضبوط ہو گیا۔ لیکن وہ اس سال کے رمضان میں فوت ہو گیا جیسا کہ ابھی الوفيات میں اس کا ذکر ہوگا اور جب شاہ حمص منصور نے صالح اسماعیل کی دوستی کو ترک کر دیا تو اس نے دمشق کو خوارزمیوں سے چھڑانے اور وہیں پران کا محاصرہ کرنے کے لیے حلبیوں، ترکمانوں اور اعراب کی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، خوارزمیوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ اس کی تباہی و ہلاکت سے خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے دمشق ہاتھ سے نہیں جائے گا اور مصالحت یہ ہے کہ اس کے شہر کے نزدیک اس سے جنگ ہو پس وہ بحیرہ حمص کی طرف روانہ ہو گئے اور ناصر نے اپنی فوج کے تیز رفتار آدمی، خوارزمیوں کے ساتھ صالح اسماعیل کے پاس بھیجے اور دمشق کی فوج آ کر شاہ حمص کے ساتھ شامل ہو گئی اور انہوں نے بحیرہ حمص کے پاس خوارزمیوں سے ٹڈ بھیر کی اور وہ جمعہ کا دن تھا جس میں اکثر خوارزمی قتل ہوئے اور ان کا بادشاہ برکات خاں بھی مارا گیا۔ اور اس کے سر کو نیزے پر رکھ کر لایا گیا اور اس کی جمعیت پریشان ہو گئی اور وہ تڑتڑ ہو گئے اور شاہ حمص منصور بعلبک کی طرف آیا اور صالح ایوب نے اس کی سپرد داری لے لی اور وہ دمشق آ کر بتان سامہ میں صالح ایوب کی خدمت کے لیے اتر آ پھر اسے اس پر قبضہ کرنے کی سوجھی تو اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا اور آئندہ سال میں فوت ہو گیا اور اسے حمص لایا گیا اور اس کے باپ کے بعد اس کی حکومت کی مدت دس سال تھی اور اس کے بعد اس کے بیٹے ملک اشرف نے دو سال حکومت کی پھر اس سے حکومت چھین گئی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور صالح ایوب کے نائبین نے بعلبک اور بصری کی سپرد داری لے لی اور صالح اسماعیل کے پاس پناہ لینے کے لیے بھی کوئی شہر نہ رہا اور نہ اہل و اولاد اور نہ مال رہا بلکہ اس کے

سب املاؤں جیسے سے گئے اور اس کے عمال بوز مرغلرانی و یار مصر کی طرف منتقل کر دیے گئے اور اس نے جا کر ملک ناصر بن العزیز بن الظہیر ہزاری تھا وہ اب سے پناہ مانگی تو اس نے اسے پناہ دی اور اس کا عزازہ و اکرام کیا اور اسے ایک لاکھ صحتی نے اپنے استناد ناصر کے لئے دیا اور وہ بیوی مہر کا جو ان سے تلم سے اس کا بیٹا اور بزرگ امیر کی جانب سے گئے اور شاہ امیرک ماسہ ۱۰۱۰ء نے ان کی عزت کی اور اس سے حسن سلوک کیا اور ان سے رشتہ داری کی اور انہیں الصلت میں ۱۰۱۳ء انہوں نے ان کے ساتھ ناموس لاکھ لے لیا اور صالح ایوب نے فخر الدین ابن الشیخ کے ساتھ ان کے مقابلے میں ایک فوج بھیجی اور اس نے انہیں الصلت میں شکست دی اور انہیں اس علاقے سے جلا وطن کر دیا اور اس نے الکرک میں ناصر کا محاصرہ کر لیا اور اس کی حد درجہ اہانت کی اور ملک صالح نجم الدین ایوب دیار مصر سے آیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا اور اس نے دمشق کے باشندوں سے حسن سلوک کیا اور فقراء اور مساکین کو صدقات دیئے اور بعلبک، بصری اور صرخد کی طرف گیا اور انہیں ان کے حکمران عزالدین ایوب المعظمی سے حاصل کر لیا اور اسے ان کا معاوضہ دیا پھر مظفر منصور ہو کر مصر واپس آ گیا اور یہ سارا واقعہ آئندہ سال میں بیان ہوگا۔

اور اس سال خلیفہ کی فوج اور تاتاریوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوا اللہ ان پر لعنت کرے اور مسلمانوں نے انہیں عظیم شکست دی اور ان کی جمعیت کو پریشان کر دیا اور وہ ان کے آگے شکست کھا گئے اور انہوں نے ان کے فریب کی ہلاکت کے خوف سے اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ترکوں کو چھوڑے رکھو۔ پر عمل کرتے ہوئے ان کا پیچھا اور تعاقب نہ کیا۔ اور اس سال بلاد خوزستان میں پہاڑ کی درز کے اندر عجیب و غریب عمارات ظاہر ہوئیں جنہیں دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا اور بعض نے بیان کیا ہے کہ یہ جنات کی تعمیرات ہیں۔ اور ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں ان کا حال بیان کیا ہے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ تقی الدین ابو الصلاح:

عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان امام علامہ شام کے مفتی اور محدث شہر زوری ثم الدمشقی آپ نے بلاد مشرق سے سماع حدیث کیا اور وہاں موصل اور حلب وغیرہ میں فقہ سیکھی اور آپ کا باپ حلب کے اسدیہ میں مدرس تھا جسے اسد الدین شیر کوہ نے وقف کیا تھا آپ شام آئے تو آپ کا شمار کبار فضلاء میں ہوتا تھا اور آپ نے ایک عرصہ تک قدس میں قیام کیا اور الصلاحیہ میں پڑھایا پھر آپ وہاں سے دمشق منتقل ہو گئے اور الرواحیہ میں پڑھایا پھر دارالحدیث اشرفیہ میں پڑھایا اور آپ اس کے پہلے شیخ الحدیث ہیں اور آپ ہی نے اس کے وقف کی کتاب تصنیف کی ہے پھر آپ نے شامیہ جوانیہ میں پڑھایا اور آپ نے علوم حدیث و فقہ میں بہت سی مفید کتب تصنیف کی ہیں۔ نیز آپ نے الوسیط اور الفوائد وغیرہ پر بہت اچھے حاشیے لکھے ہیں جن کی طرف لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔

اور آپ سلف کے طریق کے مطابق دیدار درویش، متقی اور عابد شخص تھے جیسا کہ اکثر متاخر محدثین کا طریق ہے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو بہت سے فنون میں کمال حاصل تھا اور آپ ہمیشہ اچھے طریق پر قائم رہے حتیٰ کہ دارالحدیث اشرفیہ میں آپ کے گھر

میں آپ کی وفات ۲۵ ربیع الثانی ۶۴۳ھ کو ہو چکی۔ اس کی اور جامع اہل سنت میں آپ ۶ سنارہ پڑھا گیا۔ اور باب الفتن کے اندر
شہادتوں کے آپ کی مشاہیرت کی اور ان کے لیے باہر نکالنا ممکن نہ تھا کیونکہ باہر سے نو ازمیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اور قبرستان
سویں تک آئیں اس میں آپ نے سہا بھرو گئے۔ بعمدہ اللہ برحمته

اور بعضی شہسازین ان خاکین نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ اس کے شیوخ میں سے ہیں۔ اسطے بیان کیا ہے کہ
شیخ تقی الدین نے اپنے یہ اشعار مجھے سنا کے۔

”چار واواٹ سے احتیاط کروہ موتیں ہیں وصیت و دیعت و کالت و قوف کی واؤ سے۔“

اور ابن خلکان نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے ان کلمات کا الہام ہوا کہ جہاں تک تجھ سے
ہوسکتا ہے سوال سے دور رہ بلاشبہ ہر روز کے لیے نیاز زق ہے اور جستجو میں اصرار کرنا حسن کو برباد کر دیتا ہے اور غم زدہ سے حسن سلوک
کرنا بہت اچھا ہے اور بسا اوقات تنگی آداب الہی کی ایک نوع ہوتی ہے اور نصیبی مراتب ہیں اور کسی پھل کے پکنے سے قبل اس کی
طرف جلدی نہ کر بلاشبہ تو اس کی وقت پر اسے حاصل کرے گا اور اپنی ضروریات میں جلدی نہ کر اس سے تیرا دل تنگ پڑ جائے گا اور
نامیدی تجھے ڈھانپ لے گی۔

حافظ ابن النجار مؤلف تاریخ:

محمد بن محمود بن الحسن بن ہبہ اللہ بن محاسن ابن النجار ابو عبد اللہ بغدادی آپ بہت بڑے حافظ تھے آپ نے کثیر سے سماع کیا
اور شرق و غرب میں سفر کیے آپ کی پیدائش ۵۳۳ھ میں ہوئی آپ نے پندرہ سال کی عمر میں اپنی کتاب تاریخ اور قراءت کو لکھنا
شروع کیا اور خود بھی بہت سے مشائخ کو سنا یا حتی کہ آپ نے تقریباً تین ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا اور ان میں تقریباً چار سو عورتیں
بھی شامل ہیں آپ ۲۸ سال وطن سے باہر رہے پھر بغداد آئے اور آپ نے بہت سی چیزیں اکٹھی کیں جن میں القمر المیر فی المسند
الکبیر بھی تھی جس میں ہر صحابی کی وہ روایت موجود ہے جسے اس نے روایت کیا ہے اور کنز الایام فی معرفۃ السنن والاحکام اور المختلف
والمؤتلف اور السابق واللاحق اور المختلف والمفترق اور کتاب اللقب اور نوح الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ اور الکافی فی اسماء الرجال
وغیرہ شامل تھیں جن میں اکثر مکمل نہ تھیں۔ اور آپ نے مدینۃ السلام کی تاریخ پر کتاب الذیل مکمل سولہ جلدوں میں لکھی ہے اور اخبار
مکہ والمدینہ و بیت المقدس بھی آپ کی تصنیف ہے اور غرر الفوائد پانچ جلدوں میں ہے اور بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جن کا ذکر ابن
السامی نے آپ کے حالات میں کیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ آپ جب بغداد واپس آئے تو آپ کو مدارس میں رہائش کی
پیشکش کی گئی تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا میرے پاس اتنا کچھ ہے جس نے مجھے اس سے بے نیاز کر دیا ہے پس آپ نے ایک
لوٹھی خریدی اور اس کے ہاں بچے ہوئے اور آپ ایک مدت تک اپنے آپ پر اپنے بٹوں سے خرچ کرتے رہے پھر آپ محتاج ہو
گئے یہاں تک کہ جب مدرسہ مستنصریہ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ اس کی محدثین کی جماعت میں شامل ہو گئے پھر آپ دو ماہ بیمار رہے اور

۱ واواٹ حرف ذ کی جمع ہے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ چار الفاظ جن میں واؤ آتی ہے ان سے اجتناب کر۔ مترجم

کی اور خود اس کی ہمشیرہ عصمت الدین خاتون سے نکاح کیا جو ملک نور الدین کی بیوی تھی جس نے خاتونہ جوانیہ اور خانقاہ برانیہ کو وقف کیا ہے پھر پسر امیر احمد الدین فوت ہو گیا تو اس نے اس کا مکان ماہاراش ملک شہزادہ میں سے لے لیا۔ اور یہ ارض میں چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ اس کے پاس رہی تھی کہ وہ فوت ہو گیا پھر وہ دمشق آگئی اور دارالافتی میں رہائش پذیر ہو گئی تھی کہ اس سال اس کی وفات ہوئی اور اس کی عمر ۸۰ سال سے زیادہ تھی اور قاسیون میں دفن ہوئی اور شہید صاحب کا امامۃ اللطیف بہت صالح حنبلی اس کی خدمت میں رہتی تھی۔

اور یہ ایک فاضل عورت تھی اور اس کی تصانیف بھی ہیں اور اسی نے قاسیون کے دامن میں حنابلہ پر مدرسہ وقف کرنے کی طرف اس کی راہنمائی کی تھی اور امامۃ اللطیف نے حنابلہ پر ایک اور مدرسہ وقف کیا جو اب تک رباط ناصر کے مشرق میں موجود ہے پھر جب خاتون فوت ہو گئی تو عالمہ مطالبات میں پڑ گئی اور مدت تک قید رہی پھر اسے رہا کر دیا گیا اور شاہ حمص اشرف نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ اس کے ساتھ الرحبہ اور تل راشد کی طرف چلی گئی پھر ۶۵۳ھ میں وفات پائی اور دمشق میں اس کے بہت سے ذخائر اور قیمتی جواہر پائے گئے جن کی قیمت املاک و اوقاف کے علاوہ چھ لاکھ درہم تھی۔ رحمہم اللہ تعالیٰ

معین الدین الحسن بن شیخ الشیوخ:

۱۰۔ آپ صالح نجم الدین ایوب کے وزیر تھے اس نے آپ کو دمشق کی طرف بھیجا اور اس نے خوارزمیوں کے ساتھ پہلی بار اس کا محاصرہ کیا تھی کہ اس نے اسے صالح اسماعیل کے ہاتھ سے چھین لیا اور وہاں صالح ایوب کی طرف نائب بن کر اقامت اختیار کر لی پھر خوارزمیوں نے صالح اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کے خلاف مدد دی اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس سال کے رمضان کے آخری عشرہ میں آپ نے ۵۶ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ نے ساڑھے چار ماہ دمشق پر امارت کی اور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون میں اپنے بھائی عماد الدین کے پہلو میں دفن ہوئے۔

سیف الدین بن قلیج:

اور اس سال احناف کے لیے التعلیجیہ کے وقف کرنے والے امیر سیف الدین بن قلیج کی وفات ہوئی اور مدرسہ مذکورہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جو دارفلوس میں ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمادے۔ اور خطیب الجلیل شرف الدین عبد اللہ بن الشیخ ابی عمر رحمہ اللہ اور سیف احمد بن عیسیٰ بن امام موفق الدین بن قدامہ نے بھی وفات پائی اور اس سال امام الکلاسیہ شیخ تاج الدین ابوالحسن محمد بن ابی جعفر نے بھی وفات پائی جو اپنے وقت کے مسند اور اپنے زمانے کے روایت اور صلحا شیخ الحدیث تھے اور دو بڑے محدثین اور مفید حافظوں شرف الدین احمد بن الجوزی اور تاج الدین عبد الجلیل الابہری نے بھی وفات پائی۔

۶۴۴ھ

اس سال منصور نے خوارزمیوں کو بحیرہ حمص کے پاس شکست دی اور صالح ایوب کے نائبین کا ہاتھ دمشق بعلبک اور بصری پر مضبوط ہو گیا۔ پھر جمادی الآخرة میں فخر الدین بن الشیخ نے خوارزمیوں کو الصلت پر شکست دی جس نے ان کی باقی ماندہ جمعیت کو بھی پریشان کر دیا پھر ناصر نے الکرک کا محاصرہ کر لیا اور اسے چھوڑ کر دمشق آ گیا اور ذوالقعدہ میں صالح ایوب دمشق آیا اور اس کے

یہ شخصوں کے پاس ہو گیا اور وہ شہریوں کی سپہ سالاری لے لی اور اس نے عبدالدین ایک کے ہاتھ سے سہ خد چھین کر اسے اس کا معاوضہ دیا اور انصاف کو ناصر داؤد بن القنم سے اور قلعہ الصبیہ سے سعید بن اسمر بن العادل سے چھین لیا اور اس کی تمام بہت بڑی کئی اور چھین کر اس نے یہی القنم کی زیارت کی اور اس کے احوال کو جان لیا اور اس کو فیصلہ دیا اور اسے اس طرح بناتے کا حکم دیا جسے وہ حکومت نامہ یہ میں تھیں اور یہ کہ خراج اور ریت المقدس سے جو نقد بات حاسس ہوتے ہیں انہیں اس پر خرچ کیا جائے اور اگر وہ کسی چیز کا متاج ہو تو وہ اسے اپنے پاس سے خرچ کرے گا۔

اور اس سال نصاریٰ کے پوپ کے پاس اپنی خبر دینے آئے کہ اس نے شاہ فرنگ ابدور کے خون کو مباح کر دیا ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں سہل انگاری سے کام لیا ہے اور اس نے اپنے پاس سے ایک جماعت اسے قتل کرنے کے لیے بھیجی اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کے لیے تیاری کی اور اس نے اپنے ایک غلام کو تخت پر بٹھایا اور انہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر قتل کر دیا اور اس موقع پر ابدور نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں قتل کرنے اور ان کی کھال کھینچنے اور ان کے چھڑوں میں توزی بھرنے کے بعد انہیں اپنے محل کے دروازے پر صلیب دے دیا اور جب پوپ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج روانہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔

اور اس سال مکہ میں منگل کے روز ۱۰ ربیع الآخر کو شدید آندھی چلی اور اس نے کعبہ مشرف کے غلاف کو گرا دیا جو پرانا ہو چکا تھا اسے چالیس سال سے ان سالوں میں خلیفہ کی جانب سے حج نہ ہونے کے باعث نیا غلاف نہیں پہنایا گیا تھا جو نبی ہوا تھی کعبہ برہنہ ہو چکا تھا اور اس سے سیاہ علامت دور ہو چکی تھی اور یہ بنو عباس کی حکومت کے زوال کا شگون اور اس کے بعد تاریخوں کی طرف سے ہونے والے واقعہ کا انتہا تھا اللہ ان پر لعنت کرے۔

پس یمن کے نائب عمر بن سول نے شیخ الحرم العفیف بن منعتہ سے کعبہ کو غلاف پہنانے کی اجازت طلب کی اس نے کہا یہ کام صرف خلیفہ کے مال سے ہوگا اور اس کے پاس مال نہیں ہے اور اس نے تین سو دینار قرض لیے ہیں اور اس نے سوتی کپڑے خریدے ہیں اور انہیں سیاہ رنگ دیا ہے اور اس پر پانی دھاریاں لگائی ہیں اور اسے کعبہ کو پہنا دیا ہے اور کعبہ ۲۱ راتیں بغیر غلاف کے رہا اور اس سال اس الاہیری کا افتتاح ہوا جسے وزیر مؤید الدین محمد بن احمد العفیفی نے دارالوزارۃ میں بنایا تھا۔ اور وہ الاہیری نہایت خوبصورت تھی اور اس نے اس میں بہت سی فائدہ مند اور نفیس کتب رکھیں اور شعراء نے خوبصورت قصائد و اشعار میں اس کی تعریف کی اور ذوالحجہ کے آخر میں خلیفہ مستعصم نے اپنے دو بیٹوں ابوالعباس احمد اور ابوالفضائل عبدالرحمن کو نائبل دیا اور اس سال میں خوشی کی مجالس منعقد کیں جن کی مثل لمبے زمانوں سے نہیں سنی گئی اور یہ اس زمانے میں بغداد اور اہل بغداد کی مسرتوں کی الوداعی تقریب تھی۔

اور اس سال شاہ الکمرک ناصر داؤد نے امیر عماد الدین داؤد بن موسک بن حسلو کی محافظت کی اور یہ بہترین نئی امراء میں سے تھا اس نے اس کے سب اموال لے لیے اور اسے اپنے پاس الکمرک میں قید کر دیا اور فخر الدین ابن الشیخ نے اس کے متعلق سفارش کی کیونکہ وہ الکمرک میں اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا سو اس نے اسے رہا کر دیا اور اس کے حلق میں ایک زخم ہو گیا اور اس نے اسے چیر

دیا۔ اور وہ مہاجرین اور عورتوں میں جعفر اور شہداء کی قبر کے پاس دفن ہوا۔

اور اس سال وادریوں سے بادشاہ نجد برہت خان سے اس وقت وفات پائی جب اس سے اسباب و تیسرہ اس سے پاس

شہدے میں ہونی حصار کے پہلے بیان ہو چکا ہے

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک منصور:

ناصر الدین ابراہیم بن ملک مجاہد اسد الدین شیر کوہ شاہ حمص نے صالح ایوب کو بعلبک کے سپرد کر دینے کے بعد دمشق میں وفات پائی اور اسے حمص لایا گیا اور سب سے پہلے اس کی آمد بستان سامہ میں ہوئی اور جب وہ بیمار ہوا تو اسے النیرب میں بستان اشرف میں الدہشتہ کی طرف لایا گیا اور وہ اس جگہ فوت ہو گیا۔

الصائغ محمد بن حسان:

ابن رافع العامری الخطیب نے اس سال وفات پائی آپ مسند کا بہت سماع کرتے تھے اور آپ کی وفات قصر حجاج میں ہوئی۔

فقہ علامہ محمد بن محمود بن عبدالمعتم:

المرانی الحسنی، آپ فاضل اور صاحب فنون تھے، ابوشامہ نے آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے پہلے آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ نے اپنے بعد حنابلہ میں دمشق میں اپنا مثل نہیں چھوڑا اور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیوں کے دامن میں آپ کو دفن کیا گیا۔

ضیاء عبدالرحمن الغماری:

المالکی، آپ نے شیخ ابو عمر ابن الحاجب کے کاموں کو اس وقت سنبھالا جب وہ ۶۳۸ھ میں دمشق سے باہر گئے اور آپ ان کے حلقہ میں بیٹھے اور آپ نے زادیہ مالکیہ میں ان کی جگہ پڑھایا اور فقیہ تاج الدین اسماعیل بن جمیل نے حلب میں پڑھایا اور آپ فاضل، دیندار اور سلیم الصدر آدمی تھے۔

۶۳۵ھ

اس سال سلطان صالح نجم الدین ایوب بن کامل شام سے دیار مصر کو واپس آیا اور راستے میں بیت المقدس کی زیارت کی اور وہاں کے باشندوں میں بہت اموال تقسیم کیے اور اس کی فضیلوں کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اس کے باپ کے چچا ملک ناصر فاتح المقدس کے زمانے میں تھیں۔ اور فرنگیوں کے محاصرہ کے لیے فوجیں آگئیں اور انہوں نے ۱۰ ارفرف کو طبریہ اور جمادی الآخرہ کے آخر میں عسقلان فتح کر لیا۔ اور رجب میں خطیب عماد الدین داؤد بن خطیب بیت الابار کو جامع اموی کی خطابت اور الغزالیہ کی تدریس سے معزول کر دیا گیا اور اس کام پر قاضی عماد الدین بن عبدالکریم بن الحرستانی کو مقرر کیا گیا، جو ابن الصلاح کے

بعد شیخ واراخذیث تھے۔

اور اس سال صالح ایوب نے ایمان دماشق کی ایک جماعت کو جن پر صالح اناہیل کی مدد کرنے کا اہتمام تھا، تاش کرنے لے لیے اور یے ایسے ان مصوبہ انجاس ہیں فاشی کی الدین ابن ابی سہری ابن السامہ، کاب صالح، عیل کا تدریس حلیم اور رائل بصرنی شہاب غازی شامل تھے۔ ان دنوں ۶۰۰ مسر پہنچے تو انہیں کوئی سزا دی گئی اور ان کی اہانت ہوئی۔ بلکہ اس نے بعض موضوعات دیے اور انہیں کی مرضی سے باعزت طور پر چھوڑ دیا گیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

حسین بن حسین بن علی:

ابن حمزہ العلوی الحسینی ابو عبد اللہ الانسانی، یہ قطب الدین کا نقیب تھا اور اصلاً کوئی تھا اس نے بغداد میں اقامت اختیار کی اور نقابت سنجدالی پھر کوفہ میں قید ہو گیا اور یہ فاضل ادیب اور زبردست شاعر تھا ابن الساعی نے آپ کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں۔

الشلو بین نحوی:

عمر بن محمد بن عبد اللہ ازدی ابو علی اندلسی اشبیلی جو الشلو بین کے نام سے مشہور ہے اور اندلسی زبان میں الشلو بین سرخ و سفید کو کہتے ہیں ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ پر ائمہ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور آپ میں غفلت پائی جاتی تھی۔ اور ابن خلکان نے آپ کے اشعار اور تصانیف کا بھی ذکر کیا ہے جن میں شرح الجزولین اور کتاب التولین بھی شامل ہے اور اس نے آپ کی وفات اس سال میں بیان کی ہے اور آپ ۸۰ سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ رحمہ اللہ وغفائہ

شیخ علی المعروف بالحریری:

اصلاً یہ بصری بستی کا ہے جو ذریعہ کے مشرق میں واقع ہے اور یہ مدت تک دمشق میں قیام کر کے ریشم بنانے کا کام کرتا رہا پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور شیخ علی المغربیل کے ہاتھ پر فقیری کرنے لگا اور اس نے اپنے لیے صافے کی چوٹی پر ایک زاد یہ بنایا اور اس سے ایسے افعال سرزد ہوئے جن پر فقہاء نے جیسے شیخ عز الدین بن عبد السلام شیخ تقی الدین ابن الصلاح اور شیخ مالکیہ ابو عمرو بن الحاجب وغیرہ نے اسے ملامت کی اور اشرافی حکومت کے زمانے میں اسے قلعہ غرقا میں دو سال تک قید رکھا گیا پھر صالح اسماعیل نے اسے رہا کیا اور اس پر شرط عائد کی کہ وہ دمشق میں قیام نہ کرے۔ پس وہ ایک عرصہ تک اپنی بستی بصری میں رہا حتیٰ کہ اس سال اس کی وفات ہو گئی۔

شیخ شہاب الدین ابو شامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ اسی طرح رمضان میں شیخ علی نے جو حریری کے نام سے مشہور ہے بصری میں اپنے زاد یہ میں وفات پائی اور وہ دمشق آیا کرتا تھا اور فقراء کی ایک جماعت نے اس کی پیروی کی اور وہ اصحاب الحریری کے نام سے مشہور ہیں یہ لوگ شریعت کے منافی کام کرتے ہیں اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی برا ہے ہاں جو اللہ کی طرف رجوع

کرنے اس کی بات الگ سے یہ حریری امام شریعت سے استہزا کرتا تھا اور فاسقوں اور عاصیوں کے شکار کا اظہار کر کے امور شریعت کی حقارت کرتا تھا اور اس کی وجہ سے دمشق کے بڑے بڑے آدمیوں نے بیچوں میں ایک بڑی ہمت نہراہ ہوئی اور انہوں نے اس کے اصحاب کا پاس اختیار کیا اور اس وجہ سے اس کی بیعت کی گئی۔ پڑھ دیا تھا اور یہ منشا اپنی مجلس میں قصر، سرہ اور مردوں کو جمع کرتا اور کسی کے فضل پر اسے مہامت نہ کرتا اور نماز کو ترک کرتا اور زیادہ اخراجات کرتا اس نے بہت سے لوگوں کو مگرا کر دیا اور بگاڑ دیا اور علماء شریعت کی ایک جماعت نے کئی بار اس کے قتل کا فتویٰ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے راحت دی یہ لفظ بہ لفظ اس کی عبارت ہے۔

امیر عزالدین ایک واقف العزیز:

استاذ دار المعظم، آپ بزرگ، سخی، عقلاء میں سے تھے معظم نے آپ کو صرخد پر نائب مقرر کیا اور آپ سے ترقی، کفایت اور راست روی کا ظہور ہوا اور آپ نے العزیزین، الجوانیہ اور البرانیہ کو وقف کیا اور جب صالح ایوب نے آپ سے صرخد کو لے لیا تو اس نے آپ کو اس کا معاوضہ دیا اور آپ نے دمشق میں اقامت اختیار کی پھر آپ کے خلاف چغلی کی گئی، کیونکہ آپ صالح اسماعیل سے خط و کتابت کرتے تھے، پس آپ کی اور آپ کے اموال و ذخائر کی نگرانی کی گئی اور آپ بیمار ہو گئے اور زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے یہ میری آخری ملاقات ہے اور مرنے تک آپ نے بات نہیں کی اور آپ کو مصر کے باب النصر میں دفن کیا گیا پھر آپ کو آپ کی قبر میں جو الوراقہ کے اوپر ہے اس میں منتقل کیا گیا اور السبط نے آپ کی تاریخ وفات ۶۳۷ھ میں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

شہاب غازی بن عادل:

میا فارقین، خلاط اور دیگر شہروں کا بادشاہ، یہ بنی ایوب کے عقلاء اور فضلاء میں سے تھا اور ان میں سے دیندار تھا۔ اور اس نے کہا ہے۔

”اور زمانے کے عجائبات میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ تو زمین پر بیٹھا ہے اور چل بھی رہا ہے اور تیرا یہ چلنا کشتی کے لوگوں کو لے کر چلنے کی طرح ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی تاقہ اڑ رہی ہوتی ہے۔“

۶۳۶ھ

اس سال سلطان صالح نجم الدین دیار مصر سے دمشق آیا اور اس نے فوجیں اور منجائین حمص کی طرف بھیجیں اس لیے کہ دمشق کے حکمران ملک اشرف بن موسیٰ بن منصور بن اسد الدین نے تل باشر کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا تھا جو حلب کے حکمران یوسف بن العزیز کی ملکیت تھا اور جب حلبیوں کو دمشق کے خروج کی اطلاع ملی تو وہ بھی بہت بڑے جوار لشکر کے ساتھ حمص کو ان سے بچانے کے لیے باہر نکلے اتفاق سے شیخ نجم الدین بادرانی بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے مدرس رسالہ میں موجود تھے انہوں نے فریقین کے درمیان صلح کروادی اور دونوں پارٹیوں کو اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف واپس کر دیا۔

اور اس سال ایک ترکی نوجوان غلام نے اپنے آقا کے نوجوان بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اسے اپنے ساتھ اس برائی کے کرنے سے روک دیا تھا جس کا وہ ارادہ کیے ہوئے تھا، پس اس غلام کو میخیں ٹھونک کر صلیب دیا گیا اور وہ نوجوان بڑا حسین تھا اور

۶۲۶ھ کے حالات واقعات کے بیان میں

اظہار کے ساتھ، بیداری کو اختیار کرے اور باطن کو خوبصورت بنائے اور سیرت کو اچھا بنائے اور سال کو اپنی معبود عبادت بنائے اور اس میں توجہ و تامل ہو، تو تم کو پروردگار کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بہت کچھ عطا کرے گا۔

یہ آپ نے فرمایا، طبیب کا معارضہ تعذیب کو واجب کرتے تھے، قیبت سے زیادہ نفع مند ہوتے ہیں، زیادہ شائبہ و گمراہی سے بچانے اور عیادت کرنے، اور عیادت میں تاب۔ قدر اس کے دل بگاڑوں سے اور اس کی عیبت میں تو اپنے بھائی کی عیادت میں ایسے خوش رہ جیسے تو اس کی محبت کا خیال رکھتا ہے، تو اسع بلندی کی شکار گاہ ہے، اس نکلن کیا اچھا ہے، اس میں لجز نہ سوا، اور بدعتی کیا بیری ہے، اس میں دانشمندی نہ ہو، اور آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر نے ایک خادم کے ساتھ کیا اور حضرت ابن عمر نے اس کے گناہ پر اسے سزا دینے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، میرے آقا! کیا آپ کا کوئی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے ڈرتے ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک، اس نے کہا، اس نے آپ کو مہلت دی ہے، آپ مجھے کیوں مہلت نہیں دیتے، پھر غلام نے دوبارہ گناہ کیا تو آپ نے اسے سزا دینی چاہی تو اس نے پھر اس قسم کی بات کہی تو آپ نے اسے معاف کر دیا، پھر اس نے تیسری بار گناہ کیا تو آپ نے اسے سزا دی اور وہ بات نہیں کرتا تھا، حضرت ابن عمر نے اسے کہا، جس طرح تو نے پہلے دو بار بات کی تھی اب کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، اپنے تکرار جرم کے ساتھ آپ کے حلم سے حیا آتی ہے، تو حضرت ابن عمر نے پڑے اور فرمایا میں اپنے رب سے حیا کرنے کا زیادہ سزاوار ہوں، تو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر آزاد ہے اور آپ نے خلیفہ کی مدح میں یہ اشعار کہے ہیں۔

”اے وہ ذات کہ جب بادل اپنے پانی کا بخل کرتے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ مخلوق پر سونا برساتے ہیں، اے حاتم کو بخل بنا دینے والے تو نے کسریٰ پر ظلم کیا ہے اور امید وارتیری طرف سجدہ کرنے لگے ہیں۔“

اور ابن السامی نے آپ کے بہت سے عمدہ اشعار کو بیان کیا ہے۔

شیخ ابو عمرو بن الحاحب:

الماکنی عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس الردینی ثم المصری علامہ ابو عمرو شیخ المالکیہ آپ کا باپ امیر عزالدین موسک الصلاحی کا ساتھی تھا۔ اس نے علم میں اشتغال کیا اور قرأت کو پڑھا اور نحو کو انتہائی فصیح و بلیغ تحریر میں لکھا، اور فقہ سیکھی اور اپنے اہل زمانہ کے سردار بن گئے، پھر بہت سے علوم میں جیسے اصول و فروع عربی، تفسیر، عروض اور تفسیر وغیرہ میں سرخیل ہو گئے، اور آپ نے ۶۱۷ھ دمشق کو وطن بنایا اور وہیں جامع مسجد میں مالکیہ کے لیے درس دیا، حتیٰ کہ شیخ عزالدین بن عبدالسلام کے ساتھ ۶۳۸ھ میں آپ کا خروج ہوا اور دونوں دیار مصر کو گئے، حتیٰ کہ اس سال اسکندریہ میں شیخ ابو عمر کی وفات ہو گئی، اور اس قبرستان میں دفن ہوئے جو مینار اور شہر کے درمیان ہے۔

شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ طبعاً ائمہ سے زیادہ ذہین تھے۔ اور ثقہ، حجت، متواضع، عقیف، کثیر الحیا، منصف، علم اور اہل علم کے محب تھے، علم کو پھیلانے والے، تکلیف کو برداشت کرنے والے، مصائب پر صبر کرنے والے تھے، آپ کئی دفعہ دمشق آئے، آخری بار ۶۱۷ھ میں آئے اور وہاں آپ نے مالکیہ کے مدرس اور علم قرأت اور علم عربی کے مستفیدین کے لیے شیخ

بن کر قیام کیا اور آپ علم و عمل میں ارکان دین میں سے ایک رکنِ علوم میں یکتا اور مالک بن انس رحمہ اللہ کے مذہب کے ماہر تھے۔ دورانِ حیات نے آپ کی ہمت شریعت کی ہے اور یوں کیا ہے کہ آپ بن کے پاس اور اس نہایت کے لیے اس وقت آپ سب آپ مصر میں نائب عدالت تھے اور انہوں نے آپ سے مسئلہ اعتراض الشرط علی الشرط کے بارے میں دریافت کیا، مثلاً جب وہ کسی کے کرتوت لکھا اگر تو نے یہاں تو مجھے حلاق، بوگٹی اور بھبھس نے پہلی بار یہاں تو حلاق کیوں نہ ہوگی؟ اور آپ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق بڑے سٹون سے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں آپ کی مختصر فی الفقہ مختصرات میں سب سے بہتر ہے آپ نے اس میں ابن شاش کے فوائد کو مرتب کیا ہے اور آپ کی مختصر فی الفقہ سیف الدین آمدی کی فوائد الاحکام کے عام فوائد پوری طرح بیان ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اسے حفظ کیا ہے اور میں نے کلام کے بارے میں پمفلٹ جمع کیے ہیں اور اسے میں نے احادیث نبوی کے مطابق لکھا ہے اور آپ نے المفصل کی شرح اور عربی زبان کے بارے میں نوٹس اور نحو کے بارے میں مشہور مقدمہ لکھا ہے اور اس میں آپ نے زحشری کی المفصل کا اختصار اور اس کی شرح کی ہے اور اسی طرح دوسروں نے بھی اس کی شرح کی ہے اور آپ کی التصریف اور اس کی شرح بھی کی ہے اور عروض کی کتاب بھی الشاطبیہ کے وزن پر ہے۔ رحمہ اللہ و رضی عنہ

۶۳۷ھ

اس سال ملک صالح ایوب کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا توران شاہ قتل ہو گیا اور المعزز الدین ایک ترکمانی کو حاکم مقرر کیا اور محرم سوموار کو ملک صالح دمشق سے پاکی میں دیا مصر گیا اور دمشق میں اعلان کیا گیا کہ جس کی ہمارے پاس کوئی چیز ہو وہ آجائے پس قلعہ میں بہت سی مخلوق جمع ہو گئی اور ان کے اموال ان کو دیئے گئے اور ۱۰ ہزار صفر کو اس کا نائب امیر جمال الدین بن یغمور جو صالح ایوب کی طرف سے تھا، دمشق آیا اور درب الشعارین میں باب الجابیہ کے اندر اترا اور جمادی الآخرة میں نائب نے باب البرید کے وسط میں نئی دوکانوں کے گرانے کا حکم دے دیا۔ اور اس نے حکم دیا۔ کہ ان میں سے کوئی دکان باقی نہ رہے سوائے ان دوکانوں کے جو دونوں جانب الحیا طین کی قبلی اور شامی جانب ہیں اور جو وسط میں ہیں انہیں گرا دیا جائے، ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ عادل نے انہیں گرا دیا تھا، پھر انہیں دوبارہ بنا دیا گیا، پھر ابن یغمور نے انہیں گرا دیا اور امید ہے کہ وہ اسی طرح رہیں گی۔

اور اس سال ناصر داؤد الکمرک سے حلب گیا اور صالح ایوب نے اپنے دمشق کے نائب جمال الدین بن یغمور کو پیغام بھیجا کہ وہ دار اسامہ کو جو دمشق میں ناصر کی طرف منسوب ہے گرا دے اور اس باغ کو جو قابون میں ہے اور وہ بتان القصر ہے اسے بر باد کر دے اور اس کے درختوں کو اکھاڑ دے اور محل کو گرا دے۔ اور صالح ایوب نے امجد حسن بن ناصر سے الکمرک کی سپرداری لے لی اور معظم کے گھر کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں نکال دیا، اور اس کے ذخائر و اموال پر قبضہ کر لیا، اس میں ایک کروڑ دینار کا سونا تھا، اور صالح نے اس امجد کو اچھی جاگیر دی۔ اور اس سال بغداد میں پانی چڑھ گیا، حتیٰ کہ اس نے بہت سے محلات اور مشہور گھروں کو تباہ کر دیا اور اس کی وجہ سے اکثر جوامع میں سوائے تین جوامع کے اکٹھا ہونا مشکل ہو گیا اور خلفاء کی ایک جماعت کے تابوت الرصافہ کے علاقے کی طرف اس خوف کی وجہ سے منتقل کیے گئے کہ ان کے محلات غرق نہ ہو جائیں، ان میں المقصد بن امیر ابی احمد المتوکل بھی تھا اور یہ اس کے فن کے تین سو پچاس سال سے زائد عرصہ بعد ہوا، اسی طرح اس کے بیٹے المقتدی اور المقصد بن المقصد رباللہ رحمہم اللہ

تھا، جو بھی منتقل کیا گیا۔

اور اس سال فرنگیوں نے دمیاط پر حملہ کیا اور اس میں جو سپاہی اور عوام تھے وہ بھاگ گئے اور فرنگی سرحد پر غالب آ گئے اور انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا اور یہ اس سال کے ربیع الاول میں ہوا پس خیمہ زن سلطان تمام نوج کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور فرنگیوں میں جو لوگ بھاگ گئے تھے انہیں پھانسی دے دی اور انہیں سہرے کے ترک کرنے پر ملاست کی تاکہ وہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ذرا نہیں۔ اور مرض بڑھ گیا اور سلطان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور جب ۱۵ شعبان کی رات آئی تو وہ منصورہ میں فوت ہو گیا اور اس کی لوٹھی ام خلیل نے جسے شجرۃ الدر کہا جاتا تھا اس کی موت کو پوشیدہ رکھا اور ظاہر کیا کہ وہ قریب المرگ مریض ہے اس تک پہنچا نہیں جاسکتا اور اس نے بڑے بڑے امراء کو بتایا اور انہوں نے اس کے بیٹے ملک معظم نور انشاء کو جو کیفا کے قلعہ میں تھا پیغام بھیجا اور انہوں نے جلدی سے اسے ان کی طرف آگے کیا اور یہ اکابر امراء کے اشارے سے ہوا جن میں فخر الدین شیخ بھی شامل تھا اور جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اور سب نے اس کی بیعت کر لی اور وہ شاہی فوجوں کے ساتھ گیا اور فرنگیوں سے جنگ کی اور ان کو شکست دی اور اس نے ان میں سے تیس لاکھ آدمیوں کو قتل کر دیا اور یہ واقعہ آنے والے سال کے آغاز میں ہوا پھر انہوں نے اس کی حکومت کے دو ماہ بعد قتل کر دیا۔ اسے ایک امیر عز الدین ایک ترکمانی نے مارا اس نے اس کے ہاتھ پر تلوار ماری اور اس کی بعض انگلیاں کاٹ دیں تو وہ ایک چوٹی محل کی طرف بھاگ گیا جو خیمہ گاہ میں تھا اور انہوں نے اس میں اس کا محاصرہ کر لیا اور اسے اس سمیت آگ لگا دی اور وہ اپنے دروازے سے خلیفہ کے ایلچی کی پناہ لینے نکلا مگر انہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور وہ نیل کی طرف بھاگ گیا اور اس میں ڈوب گیا پھر باہر نکلا اور اسے بری طرح قتل کر دیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے پاؤں سے اسے روندنا اور اسے مردار کی طرح دفن کر دیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اور جن لوگوں نے اسے مارا ان میں سے بندقداری نے اس کے کندھے پر تلوار ماری اور تلوار اس کی دوسری بغل کے نیچے سے نکل گئی اور وہ فریاد کر رہا تھا اور اس کی فریاد سنی نہیں جا رہی تھی۔

اس سال میں قتل ہونے والے اعیان

فخر الدین یوسف بن الشیخ بن حمویہ:

آپ فاضل دیندار بارعب باوقار حکومت کے سر اور تھے اور امراء آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اگر آپ صالح کے بعد اپنی بیعت کی طرف دعوت دیتے تو آپ کے بارے میں دو آدمی بھی اختلاف نہ کرتے لیکن آپ بنی ایوب کی حمایت کی وجہ سے یہ رائے نہ رکھتے تھے فرنگیوں میں سے الداویہ نے آپ کو معظم نور ان شاہ کے مصر آنے سے قبل ذوالقعدہ میں قتل کر دیا اور آپ کے اموال و ذخائر اور گھوڑے لوٹ لیے گئے اور آپ کا گھر گرا دیا گیا اور انہوں نے ہر ناروا کام کیا حالانکہ امراء میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے آپ کے اشعار میں یہ اشعار بھی ہیں۔

”میں نے چھپنے میں اپنے نفس کی خواہش کی نافرمانی کی اور جب زمانے نے مجھے بڑھاپے کا تیر مارا تو میں نے قضیہ

۱۳۰۰ھ میں اس نے ہر ایک کو کھانسی میں مبتلا کر دیا اور اس نے اس وقت تک زندہ رہا کہ اس نے

۶۴۸ھ

۱۳۰۰ھ میں اس نے ہر ایک کو کھانسی میں مبتلا کر دیا اور اس نے اس وقت تک زندہ رہا کہ اس نے
 دیکھا اور بعض نے ایک لاکھ بیان لیے ہیں اور انہوں نے بہت سی قیمت حاصل کی پھر اس نے امراء کی اس جماعت کو قتل کیا انہیں
 قیدی بنایا گیا تھا اور اسیروں میں ملک انیسس اور اس کا بھائی بھی تھا اور ملک انفرسیس کا بیٹا شق کی جانب بھیجا گیا جس کے
 نائب نے جنوں کے روز پہنا اور وہ ستر لاکھ سے بنا تھا جس کے نیچے سنبال کی پوشتین تھی اور اس بارے میں شعراء کی ایک جماعت
 نے خوشی سے اشعار سنائے اور فقراء مریم کے گرجا میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے خوشی منائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ پر فتح
 دی تھی اور قریب تھا کہ وہ اسے گرا دیں اور بعلبک کے نصاریٰ اس وقت خوش ہوئے تھے جب نصاریٰ نے دمیاط پر قبضہ کر لیا تھا اور
 جب انہیں یہ شکست ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور نائب شہر نے پیغام بھیجا تو وہ دیوانے ہو گئے اور اس نے یہود کو حکم دیا تو
 انہوں نے انہیں تھپڑ مارے۔ پھر محرم کا مہینہ نہیں گزرا کہ امراء نے اپنے استاد کے بیٹے نوران شاہ کو قتل کر دیا اور اسے نیل کی دوسری
 جانب دفن کر دیا۔

بنی ایوب کے بعد المعز الدین ایک ترکمانی کا مصر کا بادشاہ بنا:

جب بحری امراء اور دیگر صالحیہ نے اپنے معظم استاد غیاث الدین توران شاہ بن صالح ایوب بن کامل بن عادل بنی کبرنجیم
 الدین ایوب کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اپنے باپ کے بعد اس کی حکومت دو ماہ رہی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جب قتل کے
 ذریعے اس کا معاملہ منقطع ہو گیا تو انہوں نے آپس میں اعلان کیا کہ کوئی حرج نہیں اور انہوں نے اپنے میں سے امیر عز الدین
 ایک ترکمانی کو پایا اور اسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور اس کی بیعت کر لی اور اسے الملک المعز کا لقب دیا اور قاہرہ کی طرف گئے پھر پانچ دن
 کے بعد انہوں نے بنی ایوب کے ایک دس سالہ بچے ملک اشرف مظفر الدین موسیٰ بن ناصر یوسف ابن المسعود اقسیس بن کامل کو اپنا
 بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اور انہوں نے المعز کو اس کا اتالیق بنا دیا پس سکہ اور خطبہ دونوں کے درمیان درمیان تھا اور انہوں نے اس بارے
 میں امراءے شام سے خط و کتابت کی مگر شام میں ان کی حکومت مکمل نہ ہوئی بلکہ وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور صرف دیا مصر پر
 ان کی حکومت قائم ہوئی اور یہ سب کچھ خاتون شجرۃ الدرّام خلیل کے حکم سے ہوا جو صالح ایوب کی چینی لونڈی تھی سو اس نے المعز
 سے نکاح کر لیا اور سکہ اور خطبہ شجرۃ الدرّام کا ہوتا تھا اور مصر اور اس کے مضافات میں جمعہ کے ایام میں مناہر پر اس کے لیے دعا ہوتی تھی
 اسی سبب اس کے نام ام خلیل پر ڈھالا جاتا تھا۔

اور المعز سے تین ماہ قتل شاہی فرامین اور مہروں پر اس کے خط اور اس کے نام کی علامت لگائی جاتی تھی پھر نوبت بایں جارسید
 کہ وہ ذلت اور قتل تک پہنچی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

شاہ حلب ناصر بن العزیز بن الظاہر کا دمشق پر قبضہ کرنا:

جب دیا مصر میں معظم توران شاہ بن صالح ایوب کے امراء کے قتل کا واقعہ ہوا تو حلب کے باشندے اپنے استاد کے بیٹے

ناصر یوسف بن العزیز محمد بن العباس غازی بن ناصر یوسف فاتح بیت المقدس اور ملوک بنی ایوب میں سے جو ان کے پاس تھے کے ساتھ لے گئے جن میں صالح اسماعیل بن عادل بھی تھا اور وہ موجودہ لوگوں میں سے عمر اعداد حسرت اور ریاست کے لحاظ سے حکومت کا سب سے زیادہ وقت گزارنے والا اور ان میں ناصر بن معظم بن عادل اور شرف اوس بن منعم اور ابراہیم بن عبد اللہ بن شیبہ کوہ شاہ حصص وغیرہ بھی شامل تھے پس وہ دمشق آئے اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اس پر جلد ہی قبضہ کر لیا اور الملک اور الشوک ملک مغربت عمر بن عادل کے ساتھ ان کے لیے ناقابل حصول بن گئے وہ ان دونوں پر اس فتنہ میں متغلب ہوا تھا جس وقت معظم تورانشاہ قتل ہوا تھا پس مصریوں نے اسے طلب کیا تاکہ وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیں اور وہ اس مصیبت سے ڈر گیا جو اس کے دو عزاؤں پر نازل ہوئی تھی سو وہ ان کے پاس نہ گیا اور جب حلبیوں کا ہاتھ دمشق اور اس کے مضافات پر مضبوط ہو گیا تو ناصر قلعہ میں بیٹھا اور اس نے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا پھر وہ غزہ کی طرف گئے تاکہ دیار مصر کی سپرد داری لے لیں۔ اور مصری فوج ان کے مقابلے میں نکلی اور انہوں نے ان کے ساتھ شدید قتال کیا پہلے پہل تو مصریوں نے شکست دی اس لیے کہ اس نے وہاں ناصر کے لیے خطبہ دیا تھا پھر شامیوں کو شکست دی گئی اور ان کے اعیان میں سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا اور فوج سے صالح اسماعیل گم ہو گیا۔ اور اس موقع پر شیخ ابو شامہ نے کسی کے یہ اشعار ہمیں سنائے ہیں۔

”اسماعیل نے ہمارے اموال کو ضائع کر دیا ہے اور گھر کو کسی مطلب کے بغیر گرا دیا ہے اور وہ جلق سے چلا گیا ہے اور یہ

اس شخص کی جزا ہے جس نے لوگوں کو محتاج کیا ہے اور خود بھی غمی نہیں ہوا۔“

قبرستان صالح کا وقف کرنے والا صالح اسماعیل:

صالح رحمہ اللہ ایک عاقل اور دانا بادشاہ تھا اس کے حالات نے بڑے پلٹے کھائے اور اشرف نے اپنے بعد دمشق کے بارے میں اس کے لیے وصیت کی تھی اور وہ کئی ماہ تک اس پر قابض رہا پھر اس کے بھائی کامل نے اسے اس سے چھین لیا پھر اس نے مکرو فریب سے صالح ایوب کے ہاتھ سے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ چار سال سے زیادہ عرصہ اس پر قابض رہا پھر صالح ایوب نے خوارزمیوں کے سال ۶۴۳ھ میں اس سے اسے دوبارہ حاصل کر لیا اور اس کے ہاتھ میں اس کے دو شہر بعلبک اور بصری قائم رہے پھر اس سے چھن گئے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اس کے پاس پناہ لینے کے لیے بھی کوئی شہر نہ رہا اور وہ مملکت حلبیہ میں اس کے حکمران ناصر یوسف کی پناہ لینے پر مجبور ہوا اور جب یہ سال آیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس نے معرکہ میں دیار مصر کو بھی کھو دیا۔ اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا واللہ اعلم اور وہ دمشق میں قبرستان مدرسہ دارالحدیث اور چھٹنگلی کدہوں کا وقف کرنے والا ہے۔



اس سائل میں وفات پانے والے اعمیان

ملک معظم تو ران شاہ من صالح ایوب

ابن اکامل ابن العادل پہلے اپنے باپ کی زندگی میں کیفا قلعے کا مالک تھا اور اس کا باپ اسے اپنے زمانے میں بلاتا تھا اور یہ اسے جواب نہیں دیتا تھا اور جب اس کا باپ فوت ہو گیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو امراء نے اسے بلایا اور اس نے انہیں جواب دیا اور ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ ۲۷ محرم سوموار کے دن کا واقعہ ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ متخلف تھا اور حکومت کے مناسب نہ تھا اور اس کے باپ کو اس کے بیٹے کے قتل کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور وہ کہہ رہا تھا۔

”انہوں نے اسے بری طرح قتل کیا ہے اور وہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا اور انہوں نے اس بارے میں کسی عہد کی رعایت نہیں کی اور نہ اس سے پہلے کسی کی دوستی کی رعایت کی اور عنقریب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کم تر لوگوں کا کھا جا بن جائیں گے۔“

اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ مصریوں اور شامیوں کے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنے سے ہوا اور دونوں صفوں کے درمیان جو اعمیان امراء لاپتہ ہو گئے ان میں شمس لؤلؤ حلبیوں کے ممالک کا منتظم بھی تھا اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔

خاتون ارغوانیہ:

اس سال خاتون ارغوانیہ حافظیہ کی وفات ہوئی اس کا نام حافظیہ اس لیے رکھا گیا کہ اس نے قلعہ ہجر کے مالک حافظ کی خدمت اور تربیت کی تھی یہ عقلمند اور منتظم عورت تھی جس نے لمبی عمر پائی اور اس کے اموال بہت سے تھے اور یہی مغیث عمر بن صالح ایوب کے لیے کھانوں کو درست کرتی تھی سو صالح اسماعیل نے اس سے مطالبہ کیا اور اس سے مال کے چار سو صندوق لے لیے اور اس نے دمشق میں اپنے گھر کو اپنے خدام پر وقف کر دیا اور اس نے نجیب یاقوت کے باغ کو خرید لیا جو شیخ تاج الدین کندی کا خادم تھا اور اس نے اس میں قبرستان اور مسجد بنا دی اور اس نے اس میں اس پر بہت سے اوقاف وقف کیے۔

امین الدولہ ابو الحسن غزال طیبیہ:

بلبلک کے امینہ کا وقف کرنے والا صالح اسماعیل ابو الجیش کا وزیر جو اپنے اور اپنے سلطان کے بارے میں منحوس اور اس کی نعمت اور اس کے مخدوم کی نعمت کے زوال کا سبب تھا اور یہی وہ اس کا بڑا وزیر ہے جس پر السبط نے تہمت لگائی ہے کہ وہ دین کی ہتک کرنے والا تھا اور حقیقت میں اس کا کوئی دین ہی نہیں تھا پس اللہ تعالیٰ نے عوام مسلمانوں کو اس سے راحت دی اور جب صالح اسماعیل دیار مصر میں گم ہو گیا تو وہ اس سال قتل ہو گیا کچھ امراء نے اس کا اور ابن یغموں کا قصد کیا اور انہوں نے ان دونوں کو پھانسی دے کر قلعہ مصر پر آنے سے صلیب دے دیا اور اس امین الدولہ غزال کے اموال تخائف جو اہر اور اثاٹ پائے گئے جو تین کروڑ

دینار کے برابر تھے۔ اور اس ہزار کتابیں خط منسوب میں تھیں اور دیگر نفیس خطوط بھی تھے۔

۶۳۹ھ

اس سال ملک ناصر، صاحب، مشفق، الہیں آیا۔ مصر یوں کی فوجیں آئیں اور انہوں نے باہر سے اہل یرسلیا کے کنارے تک حکومت لی اور ملک ناصر نے ان کے لیے فوج تیار کی اور انہوں نے انہیں دھتکار دیا حتیٰ کہ انہوں نے انہیں دیار مصر تک واپس کر دیا۔ اور اس سال ام غلیل شجرۃ الدر نے ملک المعز عبدالدین ایک ترکمانی سے نکاح کیا جو اس کے خاوند صالح ایوب کا غلام تھا۔

اور اس سال صالح ایوب کا تابوت اس کے مدرسہ کی قبر میں منتقل کیا گیا اور ترکوں نے تعزیتی لباس پہنا اور ام غلیل نے اس کی طرف سے بہت سے اموال صدقہ دیے۔ اور اس سال ترکوں نے دمیاط کو ویران کر دیا اور باشندوں کو مصر لے گئے اور انہوں نے فرنگیوں کی واپسی کے خوف سے جزیرہ کو خالی کر دیا۔

اور اس سال کتاب نہج البلاغہ کی شرح میں جلدوں میں مکمل ہوئی جسے عبدالحمید بن داؤد بن ہبۃ اللہ بن ابی الحدید المدائنی نے تالیف کیا جو وزیر مؤید الدین بن اعلیٰ کا کا تب تھا پس وزیر نے اسے ایک سودینار خلعت اور گھوڑا دیا اور عبدالحمید نے ایک قصیدہ میں اس کی مدح کی اس لیے کہ وہ شیعہ معتزلی تھا اور رمضان میں شیخ سراج الدین نے عمر بن برکتہ النہرقلی کو بلایا جو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کا مدرس تھا اور اسے تدریس مذکور کے ساتھ بغداد کا قاضی القضاة مقرر کر دیا۔ اور اسے خلعت دیا۔ اور شعبان میں اس نے تاج الدین عبدالکریم بن شیخ محی الدین یوسف بن الشیخ ابوالفرج بن الجوزی کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بعد جس نے بے رغبتی سے احتساب کو چھوڑ دیا تھا بغداد کا محتسب مقرر کیا اور اسے چادر بطور خلعت دی اور اس کے سر پر ٹوپی رکھی اور اس کی خدمت میں پردہ لگایا۔ اور اس سال نماز عید الفطر عصر کے بعد پڑھی گئی اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔

اور اس سال شاہ یمن صلاح الدین بن یوسف بن عمر بن رسول کی طرف سے خلیفہ کو خط پہنچا جس میں اس نے بیان کیا کہ یمن میں ایک شخص نے خروج کر کے خلافت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے اس کی طرف فوج روانہ کی ہے جس نے اسے شکست دی ہے اور اس کے بہت سے اصحاب کو قتل کر دیا ہے اور ان سے صنعا کو چھین لیا ہے اور وہ اپنے باقی ماندہ اصحاب کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ اور اس سال خلیفہ نے اس کی طرف خلعت اور احکام بھیجے۔

بہاؤ الدین علی بن ہبۃ اللہ بن سلامۃ حمیری:

اس سال خطیب قاہرہ بہاؤ الدین علی بن ہبۃ اللہ نے وفات پائی آپ نے چھپنے میں عراق کی طرف سفر کیا اور وہاں اور دوسرے مقامات پر سماع کیا اور آپ فاضل آدمی تھے آپ نے شافعی مذہب میں مہارت حاصل کی آپ دیندار خوش اخلاق وسیع دل اور بہت نیک آدمی تھے جو شخص آپ کے پاس آتا آپ اسے کچھ نہ کچھ کھلاتے اور آپ نے کثیر سے سلفی وغیرہ کے طریق پر سماع کیا اور آپ نے اپنی مرویات سے لوگوں کو بہت کچھ سنایا اور آپ کی وفات اس سال کے ذی الحجہ میں ہوئی آپ کی عمر ۹۰ سال تھی اور آپ القرافہ میں دفن ہوئے۔

قاضی ابوالفضل عبدالرحمن بن عبدالسلام:

ابن اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابراہیم اللمعی اٹھنی آپ سم وفضائے کھراے سے تعلق رکھتے تھے آپ نے مزار ابوحنیفہ میں درس دیا اور قاضی القضاة ابن فہیمان الشافعی کی نیابت کی پھر قاضی القضاة ابوسالح انصر بن عبد الرزاق حنبلی کی نیابت کی پھر قاضی القضاة عبدالرحمن بن مقبل واسطی کی نیابت کی پھر ان کی وفات کے بعد ۶۳۳ھ میں قاضی عبدالرحمن اللمعی بغداد کے بااختیار قاضی بن گئے اور آپ کو قاضی القضاة کا لقب دیا گیا۔ اور آپ کو قاضی القضاة سے مخاطب نہیں کیا گیا اور آپ نے ۶۳۵ھ میں مستنصریہ میں حنفیہ کے لیے درس دیا آپ اپنے احکام اور نقض و ابرام میں قابل تعریف سیرت کے حامل تھے۔ اور جب آپ وفات پا گئے تو آپ کے بعد شیخ النظامیہ سراج الدین النہرقلی بغداد کے قاضی القضاة بنے۔

۶۵۰ھ

اس سال تاتاری جزیرہ 'سروج' راس العین اور ان شہروں کے مضافاتی علاقوں میں پہنچ گئے اور انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، قیدی بنایا، لوٹا اور برباد کیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون اور حران اور راس العین کے درمیان چلتے چلتے سنجر پر حملہ کیا اور ان سے چھ سو بوجھ شکر اور دیا مصر کی ساختہ چیزیں اور چھ لاکھ دینار چھین لیے۔ اور اس سال انہوں نے تقریباً دس ہزار اہل جزیرہ کو قتل کر دیا۔ اور اتنے ہی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

السط نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں نے بغداد سے حج کیا اور انہوں نے مستنصر کے زمانے سے دس سال ہوئے حج نہیں کیا تھا اور اس سال حلب میں آگ لگی جس کی وجہ سے چھ سو گھر جل گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرنگیوں نے ارادہ اس میں آگ پھینکی تھی، اللہ ان پر لعنت کرے اور اس سال قاضی القضاة عمر بن علی النہرقلی نے مدرسہ تاجیہ کے معاملہ کو لوٹا یا جس پر عوام کے الگ گروہ نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے قیساریہ کی طرح بنا دیا تھا اور وہ اس میں طویل مدت تک خرید و فروخت کرتے رہے اور یہ ایک بہت اچھا مدرسہ ہے جو نظامیہ کی مانند ہے اور اس کے بانی کو تاج الملک کہا جاتا تھا جو ملک شاہ سلجوقی کا وزیر تھا اور سب سے پہلے شیخ ابو بکر الشاشی نے اس میں درس دیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

جمال الدین مطروح:

آپ فاضل رئیس ذہین شاعر اور بڑے آسودہ حال لوگوں میں شامل تھے پھر ملک صالح ایوب نے آپ کو ایک وقت دمشق کا نائب مقرر کیا اور آپ نے فوجی لباس پہنا، السبط نے بیان کیا ہے اور وہ اس کے اہل نہیں تھے اور آپ نے ناصر داؤد شاہ الکمرک کے متعلق اس وقت اشعار کہے جب اس نے فرنگیوں سے القبس کو واپس لیا جبکہ ۶۳۳ھ میں حکومت کالمیہ میں اسے ان کے سپرد کر دیا گیا تھا اور ابن مطروح نے اس بارے میں کہا۔

”مسجد اقصیٰ کا ایک دستور ہے جو ایک مشہور مثال بن گیا ہے کہ جب وہ کافر کا وطن بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان ماسروں کو بھیج دیتا ہے جو سب سے پہلے ماسر نے اسے پناہ دیا اور آخر میں ہی ماسر نے ہی اسے پناہ دیا۔“

اسلوب صالح نے آپ کو نبیات سے معزول کیا تو آپ گما مہ گئے آپ فقراء اور مساکین کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے آپ نبی و وفات مصر میں ہوئی۔

شمس الدین محمد بن سعد المقدسی:

آپ خوش خط کا تہ اور بہت شائستہ تھے آپ نے حدیث کا بہت سماع کیا اور سلطان صالح اسماعیل اور ناصر داؤد کی خدمت کی آپ دیندار فاضل اور شاعر تھے آپ کا ایک قصیدہ بھی ہے جس میں آپ نے سلطان صالح اسماعیل اور اس کے وزیر اور قاضی اور دیگر خواص وغیرہ سے لوگوں کو جو تکالیف پہنچتی تھیں اس کے متعلق نصیحت کی ہے۔

عبدالعزیز بن علی:

ابن عبدالجبار المغربی آپ کا باپ بغداد میں پیدا ہوا اور وہیں حدیث کا سماع کیا اور حصول علم کے لیے مشقت اٹھائی اور حدیث میں حروف معجم کے متعلق کئی جلدوں میں کتاب تصنیف کی اور اس میں حضرت امام مالک کے مذہب کی حکایت لکھی۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عانم بن کریم:

اصہبانی آپ بغداد آئے تو آپ فاضل نوجوان تھے آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی شاگردی اختیار کی آپ کا طریق اچھا تھا اور تفسیر میں آپ کو مہارت حاصل تھا اور آپ میں لطافت پائی جاتی تھی اور آپ نے وعظ میں فرمایا: اس کی عظمت کی فضا میں عالم ایک ذرہ کی مانند ہے اور درہ اس کی کتاب حکمت میں عالم کی مانند ہے جب اس کی اولیت کا جمال روشن ہو تو اصول فروع بن جاتے ہیں رات کے پردے لگے ہوئے ہیں اور ستاروں کی شمعیں روشن ہیں اور قیبوں کی آنکھیں عشاق سے غافل ہیں اور ابواب وصل سے پردوں کا پردہ الگ ہو چکا ہے یہ معرکہ کیا ہے حالانکہ حبیب نے دروازہ کھولا ہوا ہے یہ کمزوری کیسی ہے جبکہ محبوب نے پردے کا کنارہ پھاڑ دیا ہے میرا بلا ارادہ عقیق کے اکناف میں قیام کرنا نافرمانی ہے جبکہ اس میں آنسو ہی عقیق ہیں اور جب میں الحی کے رہنے والے کے عشق میں مر نہ جاؤں تو میں اپنے دعویٰ میں سچا نہ ہوں گا اے لیلیٰ کی حویلی! سب عاشق عشق میں برابر نہیں ہوتے اور نہ ہر شراب خالص ہوتی ہے اور نہ ہر وہ شخص جسے تو ملے اس کا دل تجھ سے ملے گا اور نہ ہر وہ شخص جو تیرا مشتاق ہوگا وہ عاشق ہوگا محبت کے دعوے دار بہت ہیں اور محبت کی فریفتگی کا اسیر اور آزاد برابر ہو گئے ہیں۔

اے پرسکون لوگو! کیا تم میں کوئی شخص آسمان کی طرف چڑھ سکتا ہے؟ اے اپنے ناموں کے زمین دوز قید خانوں کے اسیر و! کیا تم میں کوئی صحیح سمجھ والا شخص ہے جو وحشی جانوروں اور پرندوں کے رموز کو سمجھتا ہو؟ کیا تم میں کوئی موسوی الشوق شخص ہے جو اپنی زبان شوق سے کہے مجھے دکھا میں تیری طرف دیکھوں انتظار طویل ہو گیا ہے اور جب لوگوں نے پانی مانگا تو آپ نے دعائے استسقاء کے بعد فرمایا جب عاشق کا دل اللہ کی طرف صعود کرتا ہے تو آفاق کی آنکھیں روتی ہیں اور بادل کی مرضہ موتی برساتی ہے اور مٹی کا شیر خوار رحمت کا دودھ چوستا ہے اور بادلوں کے اخلاف سے صاف پانی کے قطرے نکلتے ہیں جس سے بے آب و گیاہ زمین لہلہا اٹھتی

ہے اور مٹی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور باغات سبز ریشم سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور رنگ اس کی خوبصورتی کو اچھی طرح آراستہ کر دیتا ہے اور صبا کی انگلیوں سے کلیوں کے شکلوں کو کھل جاتے ہیں اور اس کی سانس لی پتیوں سے پھولوں کے تریبان پھٹ جاتے ہیں اور کائنات کے اجزاء اس کی صفات کی زبانوں سے بولتے ہیں اُسے حنہ والو! بیدار ہو جاؤ! اسے دور جانے والو! اُسے دُز کُرا (آثار رحمت الہی کی طرف دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ایسے زندہ کرتا ہے بلاشبہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

ابو الفتح نصر اللہ بن ہبہ اللہ:

ابن عبدالباقی بن ہبہ اللہ بن الحسین بن یحییٰ بن صاqqعہ الغفاری الکفانی، المصری ثم المدمشقی، آپ ملک معظم اور اس کے بیٹے ناصر داؤد کے خاص آدمیوں میں سے تھے اور آپ نے ۶۳۲ھ میں اس کے ساتھ بغداد کی طرف سفر کیا اور آپ خوش گفتار ادیب تھے آپ کے اشعار ہیں۔

”اے میرے سردارو! جب تم نے میری ملاقات سے انکار کیا اور تم نے مجھے قریب کے بدلے دوری دی اور تم نے حالت بیداری میں مجھے وصل کی اجازت نہ دی اور میرا دل رقت کی وجہ سے تم سے صبر نہ کر سکا تو میری آنکھوں نے خیال کے شکار کے لیے جال نصب کیا اور میں نے نیند اور راگ میں زندگی کی آسودگی کو پایا“۔

۶۵۱ھ

اس سال خلیفہ کے ایلچی نجم الدین البادرانی نے شاہ مصر اور شاہ شام کے درمیان ہو کر دونوں فوجوں کے درمیان صلح کروادی، حالانکہ ان کے درمیان سخت معرکہ آرائی ہو چکی تھی اور مصری فوج نے فرنگیوں کی مدد کی اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ انہیں شامیوں پر فتح دلا دیں تو وہ بیت المقدس کو ان کے سپرد کر دیں گے، اور بہت سی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پس اس نے ان کے درمیان صلح کروادی اور دیار مصر کے شاہی گھرانوں کی ایک جماعت کو اس نے بچا دیا۔ جس میں صالح اسماعیل کے بیٹے اور اشرف کی بیٹی اور شاہ حمص وغیرہ کے بیٹے بھی تھے۔ جزاہ اللہ خیراً

اور ابن السامی کے بیان کے مطابق ان سال بغداد میں ایک شخص تھا، جس کے سر پر خوبصورت پیالہ تھا، وہ شخص پھسلا تو پیالہ ٹوٹ گیا اور وہ کھڑا ہو کر رونے لگا، لوگوں کو اس کے فقر و حاجت کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی اور وہ اس کے سوا کسی اور چیز کا مالک نہ تھا، سو حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے ایک دینار دیا۔ اور جب اس نے اسے لیا تو اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا خدا کی قسم میں اس دینار کو پہچانتا ہوں اور یہ پہلے سال جملہ دنائیر میں میرے پاس سے چلا گیا تھا، تو حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے گالی دی اور اس شخص نے اسے پوچھا، تو نے جو بات کہی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا اتنا اتنا وزن ہے اور اس کے پاس ۲۳ دینار نکال کر اسے دے دیئے اور اسے وہ اس وقت ملے تھے جب وہ اس سے گر پڑے تھے، پس لوگ اس بات سے حیران رہ گئے، راوی بیان کرتا ہے اور اس کے قریب قریب ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں زمزم کے پانی سے غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور اس نے اپنے بازو سے ایک بازو بند نکالا، جس کا وزن پچاس مثقال تھا اور اس نے اسے اپنے کپڑوں کے ساتھ

رکھ دیا اور جب وہ اپنے غسل سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کپڑے پہنے اور بازو بند کو بھول گیا اور چلا گیا اور بغداد آ گیا اور اس کے بعد دو سال زندہ رہا اور اس سے مایوس ہو گیا اور اس کے پاس تھوڑا سا مال رہ گیا جس سے اس نے شیشہ اور برتن خریدے تاکہ انہیں زبردستی کر کے کمائی کرے۔ اسی روز اس میں کہ وہ ان کو لے کر چکر لگا رہا تھا کہ وہ بھسل گیا اور برتن گر کر ٹوٹ گئے اور وہ کٹڑاؤ کر دینے لگا اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر افسوس کرنے لگے اور اس نے اپنی جملہ کشتلو میں کہا اے جماعت قسم بخدا دو سال کی مدت سے مجھ سے سونے کا بازو بند گم ہو گیا ہے جس کا وزن پچاس دینار تھا میں نے اس کے گم ہو جانے کی اسی طرح پرواہ نہیں کی جیسے میں نے ان برتنوں کے ٹوٹنے کی پرواہ نہیں کی اور یہ پرواہ میں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ میں صرف انہی چیزوں کا مالک تھا۔ تو جماعت میں سے ایک شخص نے اسے کہا خدا کی قسم مجھے وہ بازو بند ملا ہے اور اس نے اسے اپنے بازو سے نکالا پس لوگ اور حاضرین متعجب ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب

الذہبی نے بیان کیا ہے کہ اس سال محرم میں ابوالبقاء صالح بن شجاع بن محمد بن سیدہم المدلبی الخیاط نے وفات پائی اور سبط السلفی ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابی الحرم المکی بن عبدالرحمن طرابلسی اسکندرانی نے شوال میں ۸۱ سال کی عمر میں وفات پائی اور ابو محمد بن جمیل البدینی البواب نے بھی وفات پائی یہ آخری شخص ہے جس نے عبدالحق یوسفی سے روایت کی ہے۔

۶۵۲ھ

سبط ابن الجوزی نے اپنی کتاب مرآة الزمان میں بیان کیا ہے اس میں مکہ کے متعلق خبریں بیان ہوئی ہیں کہ ارض عدن کے ایک پہاڑ میں آگ نمودار ہوئی کہ اس کے شرارے شب کو سمندر تک اڑ کر جاتے تھے اور دن کے دوران اس سے بہت دھواں اٹھتا تھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی پس لوگوں نے توبہ کی اور مظالم اور فساد کی روش کو چھوڑ دیا اور نیکی کے کاموں اور صدقات دینے میں مصروف ہو گئے۔

اور اس سال فارس اقطاعی، صعید سے آیا اور اس نے مسلمانوں کے اموال کو لوٹا اور بعض کو قیدی بنایا اور اس کے ساتھ البحر یہ کی ایک جماعت بھی تھی جو زمین میں فساد کرتے تھے انہوں نے بغاوت سرکشی اور تکبر اختیار کیا اور وہ ملک المعز ایک ترکمانی اور اس کی بیوی شجرۃ الدر کی طرف التفات کرتے تھے اور المعز نے اپنی بیوی شجرۃ الدر کے ساتھ اقطاعی کے قتل کے بارے میں مشورہ کیا تو اس نے اسے اجازت دے دی تو اس نے اس کے متعلق کوشش کی اور اسے اس سال مصر کے قلعہ منصورہ میں قتل کر دیا اور مسلمانوں نے اس کے شر سے راحت پائی۔

اور اس سال شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے دو حملات کے درمیان مدرسہ صالح ایوب میں درس دیا۔ اور اس سال شاہ روم کی بیٹی جو دمشق کے حکمران ناصر بن العزیز بن الظاہر بن الناصر کی بیوی تھی بڑی زیب و زینت اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ دمشق آئی اور اس کے باعث دمشق میں رونق ہو گئی۔



اس سال میں وفات پانے والے مشاہیر

عبد الحمید بن میسی:

شیخ شمس الدین بن الخمر و شاہی ایک مشہور متکلم تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فخر الدین رازی سے اصول وغیرہ میں اشتغال کیا ہے، پھر آپ شام آ گئے اور ملک ناصر داؤد بن معظم کے ساتھ رہنے لگے اور اس کے ہاں مرتبہ حاصل کیا۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے آپ بارعب فاضل، متواضع اور خوبصورت شیخ تھے، السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ متواضع، ذہین اور نیک کام کرنے والے تھے آپ کے متعلق یہ روایت منقول نہیں کہ آپ نے کسی کو ایذا دی ہو، اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تو پہنچا دیتے، ورنہ خاموش رہتے آپ نے دمشق میں وفات پائی اور قاسیون میں ملک معظم کی قبر کے دروازے پر دفن ہوئے۔ رحمہ اللہ

شیخ مجد الدین بن تیمیہ مؤلف الاحکام:

عبد السلام بن عبد اللہ بن ابی القاسم الخضر ابن محمد بن علی بن تیمیہ الحرانی الحسلبی تقی الدین ابن تیمیہ کے دادا، آپ ۵۹۰ھ کی حدود میں پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں اپنے چچا خطیب فخر الدین سے فقہ سیکھی اور کثیر سے سماع کیا اور شہروں کی طرف سفر کیا اور فقہ و حدیث وغیرہ میں مہارت حاصل کی اور درس اور فتویٰ دیا اور طلبہ نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور عید الفطر کے روز آپ نے حران میں وفات پائی۔

شیخ کمال الدین بن طلحہ:

آپ نے الدولعی کے بعد دمشق کی خطابت سنبھالی پھر معزول ہو کر جزیرہ کی طرف چلے گئے، اور نصیبین کی قضا سنبھالی، پھر آپ حلب گئے، اور اس سال وہیں وفات پا گئے، ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عالم، فاضل تھے آپ کو وزارت سنبھالنے کے لیے طلب کیا گیا تو آپ نے اس سے انکار کر دیا اور یہ تائید الہی کی بات ہے۔

السید بن علان:

آپ آخری شخص ہیں جنہوں نے دمشق میں سماع کر کے حافظ ابن عساکر سے روایت کی ہے۔

ناصح فرج بن عبد اللہ حبشی:

آپ مسند کا بہت سماع کرنے والے، صالح اور مواظبت کے ساتھ حدیث کا سماع کرنے اور کرانے والے تھے آپ کی وفات دار الحدیث نوریہ دمشق میں ہوئی۔ رحمہ اللہ

نصرت بن صلاح الدین یوسف بن ایوب:

آپ نے اس سال حلب میں وفات پائی اور دوسرے لوگوں نے بھی وفات پائی۔ رحمہم اللہ اجمعین

۶۵۳ھ

السبط نے بیان کیا ہے کہ اس سال ناصر داؤد انبار سے دمشق واپس آیا، پھر واپس آ کر عراق سے حج کیا اور عراقیوں اور اہل مکہ کے

درمیان صلح کروائی، پھر وہ ان کے ساتھ محلہ کی طرف واپس آ گیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۸ صفر موہالی شب کو شیخ الفقیہ حلب میں فوت ہو گئے۔

نسیاء الدین - قمر بن یحییٰ بن سالم۔

آپ دیندار فاضل آدمی تھے آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”جو شخص یہ ادعا کرے کہ اس کی ایسی حالت ہے جو اسے شرع کے طریق سے باہر نکال دیتی ہے تو اس کا نہ بن، وہ ضرر ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔“

ابوالمعز^۱ اسماعیل بن حامد:

ابن عبدالرحمن الانصاری القوسی آپ نے اہل حدیث کے لیے اپنا وہ گھر وقف کر دیا جو الرجبہ کے قریب ہے اور وہیں آپ کی قبر ہے اور آپ جمال اور سلام کے حلقہ میں جو البدارہ^۲ کے سامنے ہے مدرس تھے اور وہ آپ کے نام سے مشہور ہے، آپ فطرۃ ذہین اور خوش گفتار تھے اور آپ نے ایک عجم تالیف کیا ہے جس میں اپنے مشائخ سے بہت سی مفید باتیں بیان کی ہیں۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کی تحریر میں اسے پڑھا ہے اور میں نے اس میں اسماء الرجال کے بارے میں غلط اور وہمی باتیں دیکھی ہیں اور ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ آپ نے سعد بن عبادہ ابن دلم کی طرف اپنا انتساب کیا ہے۔

اور سعد بن عبادہ بن الصامت نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور خرقة تصوف کی شدت کے بارے میں بیان کیا ہے اور غلطی کی ہے۔ اور جی ابو محمد حسین کو لکھنے میں غلطی کی ہے، ابوشامہ نے بیان کیا ہے، میں نے آپ کی تحریر میں یہ بات دیکھی ہے، آپ نے اس سال ۷۱۱ھ میں الاؤل کو موہالی کے روز وفات پائی اور حلب کے نقیب الاشراف شریف المرتضیٰ نے بھی حلب میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ

۶۵۴ھ

اس سال ارض حجاز میں وہ آگ ظاہر ہوئی جس نے بھری کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور اس بارے میں شیخ امام علامہ حافظ شہاب الدین ابوشامہ مقدسی نے اپنی کتاب الذیل اور اس کی شرح میں مفصل طور پر بیان کیا ہے اور اسے بہت سی کتب سے بیان کیا ہے، جو حجاز سے دمشق تک متواتر آئی ہیں، جس میں اس آگ کا بیان ہے جسے آنکھوں سے دیکھا گیا اور اس کے خروج کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات السیرۃ النبویہ کی کتاب دلائل النبوة میں لکھی گئی ہے جو اس کتاب کے آغاز میں ہے۔

اور جو کچھ ابوشامہ نے بیان کیا ہے اس کا مخلص یہ ہے کہ مدینہ نبویہ سے دمشق خطوط آئے جن میں ان کے ہاں اس سال کی ۱۵ جمادی الآخرة کو آگ کے ظاہر ہونے کا بیان تھا، اور خطوط ۵/۷ جب کو لکھے گئے اور آگ اپنی حالت پر قائم تھی اور ۱۰ شعبان کو خطوط ہمارے یہاں پہنچے پھر اس نے بیان کیا ہے:

① ایک نسخہ میں ابوالمعز ہے۔ ② ایک نسخہ میں البرارہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اہل شعبان ۶۵۴ھ کو مدینہ الرسول ﷺ سے شہر دمشق میں خطوط آنے جن میں ایک عظیم واقعہ کی شرح کی آئی ہے جو وہاں ظہور پذیر ہوا اور اس میں صحابین کی اس حدیث کی تصدیق پائی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ارض تجاز سے آگ ظاہر ہوگی جو بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی اور مجھے ایک قابل اعتبار شخص نے جس نے اس آگ کو دیکھا ہے بتایا ہے کہ اس نے قیام میں اس آگ کی روشنی میں خطوط لکھے اس نے بیان کیا ہے کہ ہم ان راتوں میں اپنے گھروں میں تھے اور ہمارے ہر گھر میں چراغ تھا اور اس کی بڑائی کے باوجود اس کی گرمی اور لپٹ نہیں تھی اور وہ اللہ کے نشانات میں سے ایک نشان تھی ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس بارے میں جو خطوط آئے ہیں ان کے مطابق اس کی صورت یہ تھی۔

جب ۳ جمادی الآخرة ۶۵۴ھ کو بدھ کا روز آیا تو مدینہ نبویہ میں ایک عظیم گونج پیدا ہوئی، پھر عظیم زلزلہ آیا جس سے زمین دیواریں، چھت، لکڑیاں اور دروازے ماہ مذکور کی پانچ تاریخ تک جمعہ تک لمحہ بہ لمحہ لرزتے رہے پھر اس سیاہ سنگ زمین میں جو قریظہ کے قریب سے بڑی آگ ظاہر ہوئی جسے ہم شہر کے اندر سے اپنے گھروں سے یوں دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے پاس ہے اور وہ بہت بڑی آگ تھی جس کا شعلہ تین میناروں سے بھی زیادہ تھا اور وادی حفا تک وادیاں آگ سے پانی کی طرح بہہ پڑیں اور حفا کی پانی کی گزرگاہ بھیل گئی اور وہ دوبارہ نہیں بے گی اور قسم بخدا ہم ایک جماعت اسے دیکھنے کو چڑھی کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ آگ سے بہ رہے ہیں اور اس نے سیاہ سنگ زمین کو جو عراقی حاجیوں کا راستہ ہے بند کر دیا اور وہ چل کر سیاہ سنگ زمین تک پہنچ گئی اور جب ہم ڈر گئے کہ وہ ہمارے پاس ہی نہ آجائے تو وہ ٹھہر گئی اور وہ پلٹ کر مشرق میں بہنے لگی اور اس کے وسط سے آگ کے پہاڑ نکلے جو پتھروں کو کھاتی تھی اور اس میں اس آگ کا نمونہ تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے (وہ محلات کی مانند شرارے پھیلتی ہے گویا وہ زرد اونٹ ہیں) اور اس نے زمین کو کھالیا اور میں نے یہ خط ۵/۵ جمادی ۶۵۴ھ کو لکھا اور آگ میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ سیاہ سنگ زمین کی طرف قریظہ میں عراقی حاجیوں کے قافلے کے راستے میں پلٹ آئی اور سیاہ سنگ زمین ساری کی ساری آگ سے بھڑک رہی تھی ہم اسے رات کو مدینہ سے دیکھ رہے تھے گویا وہ حاجیوں کی مشعلیں تھیں اور بڑی آگ کی اصل آگ کے سرخ پہاڑ تھے اور بڑی اصل سے قریظہ کے پاس آگئیں بہہ پڑیں اور ان میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگوں کو دوبارہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد کون سی چیز مکمل ہوگئی اور اللہ اس کا انجام بخیر کرے اور میں اس آگ کی صفت بیان نہیں کر سکتا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے خط میں ہے کہ جمادی الآخرة ۶۵۴ھ کے پہلے جمعہ میں مدینہ کے مشرق میں ایک عظیم آگ ظاہر ہوئی جس کے درمیان اور مدینہ کے درمیان نصف دن کی مسافت تھی وہ زمین سے پھوٹ پڑی اور اس سے آگ کی ایک وادی بہہ پڑی حتیٰ کہ وہ جبل احد کے برابر ہوگئی پھر وہ ٹھہر گئی اور ساعت کی طرف واپس آگئی اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم کیا کریں اور اس کے ظہور کے وقت اہل مدینہ اپنے نبی کے پاس اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے گئے اور یہ قیامت کے دلائل ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ایک اور خط میں ہے کہ جب جمادی الآخرہ ۶۵۴ھ کے آغاز میں سسوار کا دن آیا تو مدینہ میں کبھی کبھی اس لڑک کی مانند جو دور ہوا و آسانی یہ حالت دو دن رہی اور جب ماہ مذہوری ثلث مارچ کو بدھ کا روز آیا تو اس واقعے سے بعد تین دن تھے زلزلے آئے اور جب ماہ مذکورہ کی پانچ تاریخ کو جمعہ کا دن آیا تو سیاہ سنگ زمین سے عظیم آگ بھوٹ پڑی، جو رسول اللہ ﷺ کی مسجد کے برابر تھی اور وہ مدینہ سے آٹھ گز کے پھیلنے کے فاصلہ پر تھی، ہم اسے دیکھ رہے تھے اور وہ قول الہی کے مطابق محل کی مانند شرارے پھینک رہی تھی اور وہ اس جگہ پر تھی جسے اجمیلین کہا جاتا ہے اور اس آگ سے ایک وادی بہہ پڑی جس کی مقدار چار فراسخ تھی اور اس کی چوڑائی چار میل تھی اور اس کی گہرائی ڈیڑھ قامت تھی اور وہ سطح زمین پر دوڑ رہی تھی اور اس سے پست زمینیں اور چھوٹے پہاڑ نکلنے لگے اور وہ سطح زمین پر چل رہے تھے اور وہ چٹان پگھل رہی تھی حتیٰ کہ وہ سیسے کی مانند ہو گئی اور جب وہ جم جاتا تو سیاہ ہو جاتا اور جم جانے سے قبل اس کا رنگ سرخ تھا اور اس آگ کے باعث لوگ گناہوں سے رُکے اور طاعات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا اور امیر مدینہ نے اہل مدینہ سے بہت سی ناصیایاں چھوڑ دیں۔

اور شیخ شہاب الدین ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ شمس الدین بن سنان بن عبد الوہاب بن نمیلہ حسینی قاضی مدینہ نے اپنے ایک دوست کو لکھا، جب ۳ جمادی الآخرہ کو بدھ کی رات کو آخری تہائی کا وقت آیا تو ایک عظیم زلزلہ آیا جس سے ہم ڈر گئے اور بقیہ رات میں تقریباً دس دفعہ زلزلہ آیا خدا کی قسم ایک زلزلہ آیا تو ہم رسول اللہ ﷺ کے حجرے کے ارد گرد تھے جس سے منبر ہل گیا، حتیٰ کہ ہم نے اس سے اس لوہے کی آواز سنی جو اس میں لگا ہوا ہے اور حرم شریف کی قدیلیں ہلنے لگیں اور جمعہ کی چاشت کو زلزلہ مکمل ہوا اور اس کی گونج توڑنے والی گرج کی طرح تھی پھر جمعہ کے روز سیاہ سنگ زمین کے راستے میں اجمیلین کی چوٹی پر مدینہ کی مانند آگ ظاہر ہوئی اور وہ ہمارے سامنے ہفتہ کی رات کو ظاہر ہوئی اور ہم اس سے سخت خوفزدہ ہو گئے اور میں نے امیر کے پاس جا کر اسے کہا، عذاب نے ہمارا گھراؤ کر لیا ہے اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیجیے اور لوگوں کو ان کے اموال واپس کیجیے اور جب اس نے یہ کام کر دیے تو میں نے کہا ہمارے ساتھ اتر کر حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس ایک ساعت کے لیے چلے، پس وہ اتر اور ہم نے اور سب لوگوں نے اور عورتوں نے ہفتہ کی رات گذاری اور جو شخص بھی کھجوروں اور مدینہ میں موجود تھا وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس تھا، پھر اس سے آگ کی نہرواں ہو گئی اور وادی اجمیلین میں اثر انداز ہونے لگی اور راستہ بند ہو گیا، پھر وہ حجرۃ الحاج کی طرف بڑھی اور وہ آگ کا ایک رواں سمندر تھا اور اس کے اوپر انگارے چل رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے وادی شفا کو طے کر لیا اور پھر کبھی وادی میں سیلاب نہیں آیا، کیونکہ اس نے اسے دو آدمیوں کی قامت اور اس کی بلندی کے ایک تہائی تک اسے کھود دیا تھا، اے میرے بھائی قسم بخدا ہمارا زندگی مکدر ہو گئی ہے اور مدینہ کے سب بندوں نے توبہ کی اور اس میں چنگ درباب سننے والا اور شراب پینے والا کوئی نہ رہا اور آگ یوں پہنے لگی کہ اس نے حاجیوں کے ایک راستے اور حجرۃ الحاج کے بعض حصے کو بند کر دیا اور وادی میں سے ہمارے پاس اس کا کچھ حصہ آیا اور ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہ وہ ہمارے پاس آئے گا، پس لوگ جمع ہو کر حضرت نبی کریم ﷺ

① مصری نسخہ میں الراجلین اور نجوم الزاہرہ میں اجمیلین اور اس کے حاشیے پر تاریخ مکہ والمسجد الحرام والمدینۃ الشریفہ میں اجمیلین ہے۔

کے پاس گئے اور سب نے جمعہ کی شب آپ کے پاس توبہ کرتے گزاری اور اس کا کچھ حصہ جو ہمارے پاس تھا وہ قدرت الہی سے بچھ گیا اور وہ اس موٹک اسی طرح ہے اور اس میں کمی نہیں ہوتی اور لوگوں کی مانند پتھروں کو دیکھنے کا اور ان کی گونج نہ ہمیں سونے دیتی ہے اور کھانے پینے دیتی ہے اور میں اس کی بڑائی اور اس کے احوال کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور اہل بیع نے بھی اسے دیکھا ہے اور انہوں نے اپنے قاضی ابن سعد کو متوجہ کیا تو وہ اس کی طرف آیا اور وہ بھی اس کی بڑائی کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور ۵۵۰ھ جب کو خط لکھا گیا اور آگ اسی حالت پر تھی اور لوگ اس سے خوفزدہ تھے اور سورج اور چاند گہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے عافیت کے دعا گو ہیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں دمشق میں اس کے نور کی کمی کی وجہ سے دیواروں پر کسوف کا نشان تھا اور ہم اس بات سے حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے پاس اس آگ کی اطلاع آگئی۔

میں کہتا ہوں ابوشامہ نے خطوط کے آنے سے قبل اس آگ کے بارے میں تاریخ بیان کی تھی اور کہا تھا کہ ۱۶ جمادی الآخرة کو سوموار کی شب کو رات کے پہلے حصہ میں چاند کو گرہن لگا اور وہ بہت سرخ تھا پھر وہ روشن ہو گیا اور سورج کو کسوف ہو گیا اور دوسرے روز وہ اپنے طلوع و غروب کے وقت سرخ ہو گیا اور باقی ایام میں بھی وہ اسی طرح بدلے ہوئے رنگ والا اور کمزور روشنی والا رہا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس نے بیان کیا ہے کہ اس سے وہ تصور واضح ہو گیا جو امام شافعیؒ نے کسوف اور عید کے اجتماع کے بارے میں بیان کیا ہے اور اہل نجوم نے اسے مستبعد خیال کیا ہے۔

پھر ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ایک اور خط میں جو مدینہ کے بنی الفاشانی میں سے ایک شخص نے لکھا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جمادی الآخرة میں عراق سے ہمارے پاس کچھ شرفا پہنچے اور انہوں نے بغداد کے بارے میں بتایا کہ وہاں بڑی غرقابی ہوئی ہے حتیٰ کہ پانی بغداد کی فصیلوں کے اوپر تیر گیا ہے اور اس کے بہت سے لوگ غرق ہو گئے اور پانی شہر کے اندر دار الخلافت میں داخل ہو گیا ہے اور وزیر ہاؤس اور تین سو اسی گھر منہدم ہو گئے ہیں اور خلیفہ کا خزانہ بھی منہدم ہو گیا ہے اور ہتھیاروں کے خزانے میں سے بھی بہت سی چیزیں تباہ ہو گئی ہیں اور لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں اور کشتیاں شہر کے وسط تک آتی ہیں اور بغداد کی گلیوں کو چیرتی جاتی ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے اب رہے ہم تو ہمارے ہاں ایک عظیم واقعہ ہوا وہ یہ کہ جب ۳ جمادی الآخرة کو بدھ کی رات آئی اور اس سے دو روز قبل بھی لوگ رعدی مانند آواز سننے لگے اور سب لوگ اس سے گھبرا گئے اور اپنی خواب گاہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہوئے شور ڈال دیا اور مسجد کی پناہ لی اور اس میں نماز پڑھی اور صبح تک گھٹنے بعد لوگوں پر زلزلہ آتا رہا اور یہ کیفیت بدھ کا پورا دن اور جمعرات کی پوری رات اور جمعہ کی رات تک رہی اور جمعہ کی صبح کو زمین پر سخت لرزہ آیا حتیٰ کہ مسجد کے مینار کے حصے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور مسجد کی چھت سے ایک عظیم آواز سنائی گئی اور لوگ اپنے گناہوں سے ڈر گئے اور جمعہ کی صبح کے بعد ظہر سے قبل زلزلہ تھم گیا پھر ہمارے ہاں سیاہ سنگ زمین میں قریظہ کے پیچھے سوار قیہ کے راستے پر المقاعد میں جو صبح سے ظہر تک کا سفر ہے بڑی آگ ظاہر ہوئی جو زمین سے پھوٹی تھی پس لوگ اس سے سخت خوفزدہ ہو گئے پھر آسمان میں اس کا

بہت دھواں نمایاں ہوا، حتیٰ کہ وہ سفید بال کی طرح باقی رہ گیا اور وہ جمعہ کے رہ زغروب آفتاب سے قبل تک رہا، پھر آگ خاہر ہوئی جس کے سرخ شعلے آسمانوں کی طرف قلعوں کی طرف بند ہوتے اور لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور عاجزی کی اور اس کے نبی وہاں پناہ لی۔ اور حجرہ کو گھیر لیا اور اپنے ریل کو بچھا کر ۱۰۰۰ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور عاجزی کی اور اس کے نبی علیؑ کی پناہ لی اور لوگ ہر راستے سے اور ہر کھجور کے درخت سے مسجد کی طرف آئے اور عورتیں اور بچے گھروں سے نکل آئے اور سب نے جمع ہو کر اللہ کے حضور اظہارِ اخلاص کیا اور آگ کی سرخی نے سارے آسمان کو ڈھانپ لیا اور لوگ یوں باقی رہ گئے، گویا وہ چاند کی روشنی میں ہیں اور آسمان تو تھڑے کی طرح رہ گیا اور لوگوں کو ہلاکت یا عذاب کا یقین ہو گیا، اور لوگوں نے یہ رات نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، رکوع و سجود کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے اور اپنے گناہوں سے دستکش ہوتے اور توبہ و استغفار کرتے گذری، اور آگ اپنی جگہ پر قائم رہی اور اس کا زور اور شعلے کم ہو گئے اور فقیہ اور قاضی امیر کو نصیحت کرنے گئے اور اس نے ٹیکس ساقط کر دیا اور اس نے اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے قبضے میں ہمارا جو مال تھا، اس نے سب ہمیں اور دوسرے لوگوں کو واپس کر دیا۔ اور یہ آگ اپنی حالت پر شعلہ زن رہی، اور وہ بلندی میں پہاڑ اور چوڑائی میں شہر کی طرح تھی، اور اس سے سنگریزے نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوتے اور اس میں گرتے تھے اور اس سے عظیم پہاڑ کی طرح آگ نکلتی اور رعد کی طرح پھینکتی، اور وہ کئی دن تک ایسے ہی رہی، پھر وادی اجلیین کی طرف رواں ہو گئی، جو وادی کے ساتھ الشظا کی طرف ڈھل گئی، حتیٰ کہ اس کی روانی بحرۃ الحجاج تک جا پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر بھی حرکت کرتے اور چلتے حتیٰ کہ وہ حرۃ العریض کے قریب پہنچ گئی، پھر وہ ٹھہر گئی اور کئی روز تک ٹھہری رہی، پھر دوبارہ اپنے آگے پیچھے پتھر پھینکنے لگی، حتیٰ کہ پتھروں کے دو پہاڑ بن گئے، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان سے جو جگہ باقی رہ گئی اس سے کئی روز تک شعلہ نکلتا رہا، پھر وہ شعلہ بڑا ہو گیا اور اس کی چمک اب تک موجود ہے اور وہ جس قدر زیادہ سے زیادہ بھڑک سکتی ہے بھڑک رہی ہے اور ہر روز رات کے آخری حصے میں چاشت تک اس کی بڑی آواز ہوتی ہے اور اس کے ایسے عجائبات ہیں جن کی میں پوری تشریح کرنے کی سکت نہیں رکھتا، یہ تو صرف ان عجائبات با کفایت کا حصہ ہے۔ اور آفتاب و ماہتاب اب تک یوں ہیں گویا انہیں گرہن لگا ہوا ہے، اور یہ خط لکھا گیا اور آگ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوئی اور اسے ایک مہینہ ہو گیا ہے۔

اور ایک شخص نے اس کے متعلق اشعار بھی کہے ہیں۔

”اے تکالیف کے دور کرنے والے ہمارے جراثیم سے درگزر فرما، اے ہمارے رب ہمیں مصائب نے گھیر لیا ہے، ہم تیرے پاس ان مصائب کی شکایت کرتے ہیں، جن کے اٹھانے کی ہم سکت نہیں رکھتے، حالانکہ ہم ان کے حقدار ہیں، ایسے زلازل ہیں جن کے سامنے ٹھوس پہاڑ سر جھکتے ہیں، پس بلند پہاڑ زلازل کے مقابلے میں کیسے قوت پاسکتے ہیں، وہ سات روز تک زمین کو ہلاتا رہا اور وہ پھٹ گئی، اور اس کے منظر سے سورج کی آنکھ چندھی ہو گئی، آگ کے سمندر کے اوپر پہاڑوں کی کشتیاں چلتی ہیں، جو زمین میں استوار ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ تیرے ہیں، اس کے اوپر موجیں خوبصورتی کے باعث ٹوٹی پڑتی ہیں، وہ محل کی مانند اپنے شراروں کو ادھر ادھر پھینکتی ہے، گویا وہ بارش ہے جو موسلا دھار برسا رہی ہے اور اگر وہ آواز دے تو خوف سے چٹانوں کے دل

پھٹ جانے میں اور کھجور کی شاخ کی مانند روئشیاں کا پتی ہیں اس سے فضا میں اس قدر دھواں اٹھا ہو گیا ہے کہ اس سے سورج سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی پیت نے ماہ تمام میں بھی نشان ڈال دیا ہے اور کئی رات نور کے بعد سیاہ ہوئی ہے ساتوں ریشیاں اپنی زبانوں سے اس کیفیت کو بیان کر رہی ہیں جس سے پانی زیر زمین ۱۰۰ چار ہے اور اس کے شعلوں نے رواج کا احاطہ کر لیا ہے اور قریب ہے کہ گراوٹ آئیں زمین سے ملا دے اس نشان کے کیا سبب جو عجزات رسول میں سے ہے اور اسے عقلمند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں تیرے پوشیدہ اسم اعظم کی قسم اگر ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں اور دل کی حالت بری ہو گئی ہے تو تو درگزر کر بخش دے مہربانی فرما گناہوں کو مناد نے معاف کر رہا تھا، فرط جہالت سے ہوئی ہے۔

جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو تو نے ان سے عذاب کو دور کر دیا اور لوگوں کو نعمتوں سے ڈھانپ دیا۔ اور ہم امت مصطفیٰ ہیں ہم تجھ سے اس عفو کی دعا کرتے ہیں جس کی ہمیں امید ہے اور اگر یہ رسول نہ ہوتا تو خدا کی طرف کوئی روشن راہ نہ جاتی پس تو اس وقت تک اپنے رسول مختار پر درود پڑھتا رہتا رہتا جب تک اور اراق کے منبر پر کبوتری بولتی ہے۔ ﷺ میں کہتا ہوں اس آگ کے بارے میں بیان ہونے والی حدیث صحیحین میں زہری کے طریق سے سعید بن المسیب سے بحوالہ حضرت ابو ہریرہؓ بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ارض حجاز سے آگ نکلے گی جو بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

اور یہ واقعہ اس سال یعنی ۶۵۴ھ میں ہوا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور قاضی القضاة صدر الدین علی بن ابی القاسم تمیمی حنفی حاکم دمشق نے گفتگو میں ایک روز مجھے بتایا اور اس آگ والی حدیث کا ذکر چل پڑا اور جو کچھ اس سال میں اس آگ کا واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بدو کو سنا وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے ان راتوں میں بصری میں حجاز میں ظاہر ہونے والی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔

میں کہتا ہوں آپ ۶۴۲ھ میں پیدا ہوئے آپ کا والد بصری میں حنفیہ کا مدرس تھا اور اسی طرح آپ کا دادا بھی وہاں مدرس تھا پھر آپ دمشق آگئے اور اصدار یہ اور المعتمدیہ میں پڑھایا پھر حنفیہ کے قاضی القضاة بن گئے آپ احکام میں قابل تعریف کردار کے مالک تھے اور جس وقت حجاز میں یہ آگ ظاہر ہوئی اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی اور اس عمر کے بچے جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ کہ ایک بدو نے انہی راتوں میں آپ کے والد کو خبر دی۔

وصلوات اللہ و سلامہ علی نبیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسليماً كثيراً

اور ایک شاعر نے اس حجازی آگ اور غرق بغداد کے متعلق اشعار کہے ہیں۔

”پاک ہے وہ ذات جس کی مشیت مخلوقات میں ایک اندازے کے مطابق جاری ہے اس نے بغداد کو پانیوں سے اس طرح غرق کیا جس طرح اس نے ارض حجاز کو آگ سے جلایا۔“

ابوشامہ نے بیان کیا ہے صحیح قول یہ ہے کہ۔

”اس نے ایک سال میں عراق کو غرق کیا اور اس نے ارض حجاز کو آگ سے جلادیا ہے۔“

اور ابن السامی نے ۶۵۴ھ کی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱۸ ربیع کو جمعہ کے روز میں وزیر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک قاصد مدینہ الرسول ﷺ سے اس کے پاس خط آیا جو قیما زعلوی اسی مدنی کے نام سے معروف تھا اس نے خط کو لے کر پڑھا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ ۱۲ جمادی الآخر کو منگل کے روز مدینہ الرسول میں زلزلہ آیا حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک اور لوہے کی آواز سنی گئی اور زنجیریں بننے لگیں اور مدینہ سے چار فرسخ کے فاصلے پر آگ ظاہر ہوئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند آگ پھینکتی تھی اور وہ چند روز رہی قاصد نے بیان کیا ہے کہ میں آیا تو وہ اس وقت تک ختم نہ ہوئی تھی بلکہ اپنی حالت پر قائم تھی اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرف آگ پھینکتی ہے اس نے کہا مشرق کی طرف اور میں اور میں کے شرفاء اس کے پاس سے گزرے اور ہم نے اس میں کھجور کی شاخ پھینکی تو اس نے اسے نہ جلایا بلکہ وہ پتھروں کو جلاتی اور پگھلاتی تھی اور قیما زعلوی نے ایک جلا ہوا پتھر نکالا جو رنگ اور ہلکا ہونے کے لحاظ سے پتھر کے کوئلے کی طرح تھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے خط میں بیان کیا اور وہ قاضی مدینہ کی تحریر میں تھا کہ جب ان پر زلزلہ آیا تو وہ حرم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے سروں کو برہنہ کر دیا اور استغفار کیا اور یہ کہ نائب مدینہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس نے تمام بے انصافیوں کو چھوڑ دیا اور وہ مسلسل استغفار کرتے رہے حتیٰ کہ زلزلہ ختم گیا مگر جو آگ ظاہر ہوئی تھی وہ ختم نہ ہوئی اور قاصد کو آئے ہوئے پندرہ دن ہو چکے تھے ابن السامی نے بیان کیا ہے کہ میں نے العدل محمود بن یوسف بن الامعانی شیخ حرم مدینہ نبویہ کی تحریر میں پڑھا آپ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو حجاز میں ظاہر ہوئی یہ ایک عظیم نشان ہے اور قرب قیامت کے متعلق ایک صحیح اشارہ ہے خوش بخت وہ ہے جو موت سے قبل موقع سے فائدہ اٹھائے اور موت سے پہلے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لے اور یہ آگ ایک پتھریلی زمین میں تھی جس میں درخت اور روئیدگی نہ تھی اگر اسے کھانے کو کچھ نہ ملے تو اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے اور وہ پتھروں کو جلاتی اور انہیں پگھلاتی تھی حتیٰ کہ وہ گیلی مٹی کی مانند ہو جاتی تھی پھر اسے ہوا لگتی تھی اور وہ دھوکئی سے نکلنے والے لوہے کے میل کی طرح ہو جاتی تھی اے اللہ سے حمد اور آپ کی آل ظاہرہ کے طفیل مسلمانوں کے لیے عبرت اور عالمین کے لیے رحمت بنا دے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال رمضان کے آغاز میں جمعہ کی شب کو مسجد مدینہ جل گئی اس کی آگ کی ابتداء شمال سے اس کے غربی کونے سے ہوئی اور ایک آدمی خزانہ کے پاس آیا اور اس کے پاس آگ تھی جو وہیں دروازوں سے لپٹ گئی اور جلد ہی چھت کو جا پہنچی پھر چھتوں میں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور قبیلے لوگ گئی اور لوگوں نے اسے ختم کرنے میں سرعت سے کام لیا اور ایک ہی لمحے میں مسجد کے تمام چھت جل گئے اور اس کے بعض ستون گر گئے اور ان کا سکہ پگھل گیا اور یہ سب کچھ لوگوں کے سونے سے پہلے پہلے ہو گیا اور حجرہ نبوی کا چھت بھی جل گیا اور جو کچھ اس سے ہونا تھا ہو اور وہ اپنے حال پر قائم رہا حتیٰ کہ اس کی اور مسجد نبوی کی چھت کی تعمیر شروع ہوئی اور صبح کو لوگوں نے نماز کے لیے الگ جگہ بنالی اور اس باہر نکلنے والی آگ اور مسجد کے جلے ہوئے حصے میں جو واقعات ہوئے اس نے انہیں نشانات میں شمار کیا ہے گویا یہ آگ آئندہ سال میں ہونے والے واقعات کے متعلق اہانتہ کرنے والی تھی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے یہ بیان شیخ شہاب الدین ابوشامہ کا ہے۔ اور ابوشامہ نے اس سال اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں اشعار کہے ہیں۔

پاس قبزیہ کے نیچے آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے بیان کی تائید کرتے اور آپ نے العزیزۃ البرزانیہ میں جسے امیر عزالدین ایبک آتشی سے تیسرا لیا ہے درس دیا آپ العظیم کے گھرانے سے استاد تھے اور آپ ابن سہب اللہ میں العزیزۃ الجوانیہ و وقف کیا ہے جو قدیم میں اور ابن منقذ کے نام سے مشہور تھا اور اسی طرح السلط نے بھی جسے کھیل کے نزدیک جبل میں اشلہ میں درس دیا اور اس کے سامنے جو ابدریہ ہے اسے بھی آپ کے سپرد کر دیا گیا اور وہیں آپ کی رہائش تھی اور آپ نے اس سال کی ۲۱ ذی الحجہ کو منگل کے روز وہیں وفات پائی اور آپ کے جنازہ میں شہر کا حاکم ناصر بن العزیز اور اس سے کم درجے کے افسران شامل ہوئے اور شیخ شہاب الدین نے آپ کے علوم و فضائل، سرداری، حسن و عطف، خوش آوازی، چہرے کی تروتازگی تو اضع اور زہد و محبت کی تعریف کی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی وفات کی شب کو بیمار تھا میں نے بیداری سے پہلے خواب میں آپ کی وفات کو دیکھا اور میں نے آپ کو ناپسندیدہ حالت میں دیکھا اور میرے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کو اسی حالت میں دیکھا، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے دعا گو ہیں، اور میں آپ کے جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا اور آپ کا جنازہ بڑا بھر پور تھا، جس میں سلطان اور دوسرے لوگ شامل ہوئے اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا، آپ عالم، فاضل، دانا، گوشہ نشین اور ارباب دول کے ناپسندیدہ افعال پر ملامت کرنے والے تھے اور اپنے لباس میں میانہ رو اور مواعظت کے ساتھ مطالعہ کرنے، علم سیکھنے اور تالیف و تصنیف میں لگے رہتے تھے، اور اہل علم و فضل کے ساتھ انصاف کرنے والے اور جہلاء سے الگ رہنے والے تھے، بادشاہ اور عہدہ دار آپ کی ملاقات کو آتے تھے اور آپ کی مجلس و عطف خوش کن اور آپ کی آواز خوبصورت اور اچھی تھی۔ رحمہ اللہ

اور شاہ حلب ملک ناصر کے زمانے میں عاشورہ کے روز آپ سے استدعا کی گئی، کہ آپ قتل حسینؑ کے بارے میں لوگوں کو کچھ بتائیں تو آپ منبر پر چڑھے اور بغیر بات کیے کافی دیر بیٹھے رہے پھر آپ نے اپنے چہرے پر رومال رکھا اور سخت روئے، پھر روتے ہوئے کہنے لگے۔

”اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے سفارشی اس سے جھگڑا کرنے والے ہوں اور مخلوق کو اٹھانے کے بارے میں صور پھونکا گیا ہو، ضروری ہے کہ قیامت کے روز حضرت فاطمہؑ ہی دعا آئیں اور آپ کی قمیص خون حسینؑ سے لت پت ہو۔“

پھر آپ منبر سے اتر آئے اور آپ رورہے تھے پھر آپ اسی حالت میں الصالحیہ کی طرف چلے گئے۔ رحمہ اللہ

الصالحیہ کے ہسپتال کا وقف کرنے والا:

امیر کبیر سیف الدین ابوالحسن یوسف ابن ابی النوار بن موسیٰ القمیری، الکردی، آپ القمیریہ کے سب سے بڑے امیر تھے اور وہ بادشاہوں کے دستور کے مطابق آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور آپ کی سب سے بڑی نیکی اس ہسپتال کا وقف ہے، جو قاسیون کے دامن میں ہے اور آپ کی وفات اور تدفین دامن کوہ میں اس گنبد میں ہوئی جو مذکورہ ہسپتال کے سامنے ہے اور آپ بہت مال و ثروت والے تھے۔

مجیر الدین یعقوب بن ملک عادل ابو بکر بن ایوب:

آپ کو اپنے باپ کے پاس قبرستان عادلیہ میں دفن کیا گیا۔

امیر مظفر الدین ابراہیم:

شاہ مصر خد عز الدین ایک استاد دار المعظم اور حنفیہ کے لیے المعروف تین (البرانیہ اور الجوانیہ) کے وقف کرنے والے کا بیٹا ہے۔ اس کے والد کے پاس قبرستان میں، اور اتنے کے نزدیک دفن کیا گیا۔
 شیخ شمس الدین عبدالرحمن بن نوح:

المقدسی شافعی فقیہ اور شیخ آفتی الدین ابن الصلاح کے بعد الرواحیہ کا مدرس، آپ کو قبرستان النوفیہ میں دفن کیا گیا اور آپ کا جنازہ بڑا بھر پور تھا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے اس سال اچانک موتیں بہت ہوئیں اور اس کے باعث بہت سی مخلوق مر گئی۔ اور اس سال مرنے والوں میں دمشق کے معتبر شخص زکی الدین ابوالغوریہ^۱ اور دمشق کے رئیس بدر الدین ابن السنی، عز الدین عبدالعزیز بن ابی طالب بن عبدالغفار شعلی ابی الحسین شامل ہیں جو قاضی جمال الدین الحرستانی کے نواسے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ وعفانہم اجمعین

۶۵۵ھ

اس سال شاہ مصر ملک معظم عز الدین ایک اپنے گھر میں مردہ پایا گیا اور اس کے بعد اس کے استاذ صالح نجم الدین ایوب نے چند ماہ حکومت سنبھالی اور اس میں تو ران شاہ معظم بن الصلاح بادشاہ بنا، پھر شجرۃ الدرّام خلیل نے اسے تین ماہ پیچھے کر دیا۔ پھر اسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اور ملک اشرف موسیٰ بن الناصر یوسف بن اقسیس ابن الکامل مدت تک اس کے ساتھ رہا، پھر وہ بلا منازعت باختیار بادشاہ بن گیا اور جب ناصر نے دیار مصر کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ناصر کو شکست دی اور فارس اقتطای ۶۵۳ھ میں قتل ہوا اور اس کے بعد اشرف کو بھی معزول کر دیا گیا اور اکیلا خود مختار بادشاہ بن گیا، پھر اس نے شجرۃ الدرّام خلیل سے نکاح کر لیا اور یہ کریم شجاع، حیا دار اور دیندار شخص تھا، پھر ۲۳ ربیع الاول کو منگل کے روز اس کی وفات ہو گئی، اور وہ مصر میں مدرسۃ المعریہ کا وقف کرنے والا ہے اور اس کا راستہ بہترین چیزوں میں سے ہے اور جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے غلاموں نے اس کی بیوی ام خلیل شجرۃ الدرّام پر اس کی تہمت لگائی، اور اس نے شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا عزم کیا اور اس نے اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کی خاطر پکڑ لیں۔ اور وہ مسلسل اسے اپنی کھڑاؤں سے مارتی رہی اور لونڈیاں اس کے نازک مقامات کو گرگرتی رہیں، حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور جب اس کے غلاموں نے سنا تو وہ اس کے بڑے غلام سیف الدین قطر کے ساتھ آئے اور انہوں نے اسے قتل کر کے برہنہ کر کے کوڑی پر پھینک دیا، حالانکہ اس سے قبل وہ سخت پردے اور بلند مقام کی حامل تھی، اور اس نے شاہی فرامین اور مہروں پر نشان لگائے، اور خلیجوں نے اس کے نام کے خطبے دیئے اور اس کے نشان کا سکہ ڈھالا گیا اور وہ مر گئی اور اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ (تو کہہ دے اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے بلاشبہ

① ایک نسخہ میں ابن القویۃ بیان ہوا ہے۔

تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔)

اور ترلوں نے اپنے استاد عزالدین ٹرکمانی کے بعد اس کے بڑے غلام امیر سیف الدین مظہر کے مشورے سے اس کے بیٹے نور الدین علی کو کھڑا کر دیا اور نیک ملک منہ در کا لقب دیا۔ اور ان پر اس کے خطبات دینے گئے اور اس کے نام کا کلمہ ڈھانسا گیا اور اس کے مشورے اور عظمیٰ کے مطابق معاملات چلنے لگے۔

اور اس سال بغداد میں رافضہ اور اہل سنت کے درمیان بڑی جنگ ہوئی اور الکرک اور رافضہ کے گھروں کو لوٹ لیا گیا حتیٰ کہ وزیر ابن العتقی کے قریب تداروں کے گھروں کو بھی لوٹ لیا گیا اور یہ تاریخوں کو اس کے مدد دینے کا سب سے بڑا سبب تھا اور اس سال فقرائے حیدریہ شام آئے اور ان کی علامت کھلا لباس اور لمبی نوکدار ٹوپی پہننا تھا وہ اپنی داڑھیوں کو منڈاتے تھے اور مونچھوں کو چھوڑتے تھے اور یہ خلاف سنت ہے انہوں نے اپنے شیخ حیدر کی متابعت میں انہیں اس وقت چھوڑا جب ملاحدہ نے اسے قیدی بنا کر اس کی داڑھی مونڈ دی اور اس کی مونچھیں چھوڑ دیں اور انہوں نے اس بارے میں اس کی اقتداء کی اور وہ معذور ماجور ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اور انہیں اس بارے میں شیخ کا نمونہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور دمشق کے باہر العونیہ کے قریب ان کا زاد یہ بنا ہوا ہے۔

اور اس سال کی ۱۸ رذی الحجہ کو بدھ کے روز البادرا سیہ کے وقف کرنے والے شیخ نجم الدین عبداللہ بن محمد البادرائی البغدادی مدرس النظامیہ اور امور مہمہ میں آفاق کے بادشاہوں کے پاس خلافت کے اپیلچی اور سخت احوال کی اصلاح والے کی تعزیت کی وہ فاضل یگانہ رئیس باوقار اور متواضع شخص تھے اور انہوں نے امیر اسامہ کے گھر کی جگہ پر دمشق میں ایک شاندار مدرسہ تعمیر کیا۔ اور وہاں پر قیام کرنے والے کے لیے بجز درہنہ کی شرط لگائی اور یہ کہ وہ کسی دوسرے مدرسے میں فقیہ نہ ہو اور آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ فقیہ کا دل اور توجہ علم کی طرف زیادہ ہو لیکن اس سے بعض لوگوں کو بڑی خرابی اور شر حاصل ہوا۔

اور ہمارے شیخ علامہ امام جو شام وغیرہ میں شیخ الشافعیہ تھے یعنی برہان الدین ابواسحاق ابراہیم بن شیخ تاج الدین فزاری جو اس مدرسہ کے مدرس اور اس کے مدرس کے بیٹے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب وقف کرنے والا پہلے دن حاضر ہوا تو اس نے وہاں درس دیا۔ اور سلطان ناصر بھی اس کے پاس حاضر ہوا اور اس نے وقف کی تحریر پڑھی جس میں یہ ذکر تھا کہ اس میں کوئی عورت داخل نہ ہو سلطان نے کہا کوئی بچہ بھی داخل نہ ہو وقف کرنے والے نے کہا اے مولانا سلطان! ہمارا رب دولاٹھیوں سے نہیں مارتا اور جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو مسکرا پڑے۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں درس دیا پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے کمال الدین نے درس دیا اور اس کی نگرانی وجیہ الدین بن سوید کے سپرد کر دی پھر وہ نگرانی اب تک ان کی اولاد میں چلی آتی ہے۔ اور ایک وقت قاضی شمس الدین ابن الصائغ نے بھی اس کی نگرانی کی پھر اس سے نگرانی لے لی گئی کیونکہ نگرانی ان کے لیے ثابت تھی۔ اور البادرائی نے اس مدرسہ پر بہت اچھے اوقاف وقف کیے اور اس میں آپ نے مفید کتابوں کی ایک لائبریری بنائی۔ اور اس سال آپ بغداد واپس آ گئے اور بادل نحو استہ وہاں کے قاضی القضاة بنے اور ۷۱۰ھ میں قاضی رہے پھر اس سال کے ذی الحجہ کے آغاز میں فوت ہو گئے اور الشونیزیہ میں دفن ہوئے۔

اور ذی الحجہ ہی میں البادرانی کی موت کے تھوڑے دنوں بعد ۳۳۳ری اپنے بادشاہ بلاکو بن تولی بن چنگیز خان کے ساتھ بغداد آئے ان پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور انہوں نے آئندہ سال کے آغاز میں استیفا لیا اور اس پر زیادتیاں لیں اس کی تفسیل آئی ہیں۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

البادرانیہ کے وقف کرنے والے البادرانی نے اس سال دمشق میں وفات پائی اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

شیخ تقی الدین عبدالرحمن بن ابی الفہم:

البادرانی، آپ نے ۸ ربیع الاول کو دمشق میں وفات پائی، اور وہیں دفن ہوئے، آپ صالح، شیخ اور حدیث کے سماع و اسماع اور کتابت میں مشغول رہتے تھے، آپ نے سو سال کی عمر میں وفات پائی۔

میں کہتا ہوں آپ کی اکثر کتب اور مجموعات الکلاسہ کے مدرسہ فاضلیہ کی لائبریری کے لیے وقف ہیں، اور آپ نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ میں ایک اچھا آدمی ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک تو ایک اچھا آدمی ہے۔ رحمہ اللہ و اکرم مشوہ

شیخ شرف الدین:

محمد بن ابی الفضل المرسی، آپ فاضل شیخ، یگانہ تحقیق کے ماہر اور بہت حج کرنے والے تھے، اکابر کے ہاں آپ کا مقام تھا، آپ نے بہت سی کتب اکٹھی کیں، آپ کا اکثر قیام حجاز میں تھا، اور جہاں بھی اترے اس شہر کے رؤسائے آپ کی عزت کی اور آپ اپنے امور میں میاں رو تھے۔ آپ کی وفات اس سال کی ۱۵ ربیع الاول کو العریش اور الداردم کے درمیان الذعقہ مقام پر ہوئی۔

المشہد الشاعر امیر سیف الدین:

علی بن عمر بن قول، دمشق میں کونسل کو مضبوط کرنے والا، یہ بڑا شاعر تھا اور اس کا دیوان بھی مشہور ہے، اور ایک شخص نے اسے اس کی موت کی بعد دیکھا تو اس سے اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگا۔

”مجھے قبر کی مٹی اور اس کی تنگی میں اٹھا کر لایا گیا اور مجھے اپنے گناہوں کے باعث خیال تھا کہ وہ مجھ سمیت لرز جائے گی اور میں نے حرم روف اور نعمتوں سے ملا اور اس نے مجھے میرے ڈرنے کی وجہ سے حوض دیا، اور جو شخص موت کے وقت عفو الہی کے متعلق حسن ظن کرے گا، وہ عفو کے زیادہ لائق ہوگا۔“

بشارہ بن عبداللہ:

اصلاً ارمنی ہے، بدرالدین کا تب جو شہل الدولہ کا غلام تھا، اس نے الکندی وغیرہ سے سماع کیا ہے اور یہ بہت اچھا لکھتا تھا۔ اس کے آقا نے اپنے اوقات کی نگرانی اسے سپرد کی تھی اور اسے اپنی اولاد میں شامل کیا اور وہی اب تک الشبلتین کے نگران ہیں اور اس کی وفات اس سال ۱۵ رمضان کو ہوئی۔

قاضی تاج الدین:

ابو بکر محمد بن قاضی القضاة جمال الدین مہرین آپ نے اپنے باپ کی نیابت کی اور انتہائی ہیبت میں درس دیا اور آپ کے اشعار بھی ہیں جن میں یہ شعر بھی ہیں۔

”میرا منہ اس کے منہ کے لیے بوسہ دینے کی وجہ سے نقاب بن گیا ہے اور میں نے محمد اس کے دانتوں سے شراب کو پوسا ہے، اس نے ترپھی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا توفیقہ میں امام ہے اور میرا العابد دین شراب ہے اور تیرے نزدیک شراب حرام ہے۔“

ملک ناصر:

داؤد بن المعظم عیسیٰ بن العادل یہ اپنے باپ کے بعد دمشق کا بادشاہ بنا، پھر دمشق اس کے ہاتھوں سے چھن گیا اور اس کے چچا اشرف نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس نے انکرک اور نابلس پر اکتفاء کیا۔ پھر احوال اسے لیے پھرے اور اس کے مصائب کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ محلات میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا، اور اس نے خلیفہ مستنصر کے ہاں تقریباً ایک لاکھ دینار امانت رکھے اور اس نے ان سے انکار کر دیا اور اسے واپس نہ کیے اور یہ بڑا فصیح اور اچھے اشعار کہنے والا تھا، اور اس کے فضائل بہت سے ہیں، اور اس نے فخر رازی کے شاگرد شمس الخسر و شاہی سے علم کلام پڑھا اور وہ علوم الاوائل کو بہت جانتا تھا، اور انہوں نے اس سے ایسی باتیں روایت کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ اس کی بد عقیدگی پر دلالت کرتی ہیں۔ واللہ اعلم

بیان کیا گیا ہے کہ وہ مستنصریہ کے پہلے درس میں شامل تھا، جو ۶۳۲ھ کو دیا گیا اور شعراء نے مستنصر کی بہت مدح کی اور ایک نے اپنے قصیدہ میں کہا۔

”اگر تو سقیفہ میں حاضر ہوتا تو تو ہی مقدم اور امام اعظم ہوتا۔“

ناصر داؤد نے شاعر سے کہا خاموش رہ تو نے غلط بات کہی ہے، امیر المؤمنین کے دادا حضرت عباس اس روز موجود تھے اور وہ مقدم نہیں تھے، اور امام اعظم صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ خلیفہ نے کہا آپ نے درست فرمایا ہے، اس سے جو باتیں روایت کی گئی ہیں ان میں سے یہ بات سب سے اچھی ہے اور اس کا معاملہ یہاں تک کوتاہ ہو گیا کہ ناصر بن العزیز نے اس کے چچا مجد الدین یعقوب کو البویقانامہ ہستی لکھ دی اور وہ اس سال وہیں پر فوت ہو گیا۔ اور لوگ اس کے جنازہ میں جمع ہوئے اور اسے وہاں سے اٹھا کر اس کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں اس کے والد کے پاس اسے دفن کر دیا گیا۔

ملک المعز:

عز الدین ایک ترکمانی ترکوں کا پہلا بادشاہ، یہ صالح نجم الدین ایوب بن کامل کے غلاموں میں سب سے بڑا تھا، اور دیندار، پاکدامن، عیاف اور کریم تھا، اس نے سات سال حکومت کی، پھر اس کی بیوی شجرۃ الدرّام خلیل نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا نور الدین علی بادشاہ بنا اور ملک منصور کا لقب اختیار کیا۔ اور اس کی مملکت کا انتظام اس کے باپ کا غلام سیف الدین قطر تھا، پھر اس نے اسے معزول کر دیا۔ اور اس کے بعد تقریباً ایک سال تک خود مختار بادشاہ بنا رہا اور مظفر لقب اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے عین

حیوات پر اس کے ہاتھوں تاجاروں کی شکست مقرر کی تھی اور قبل ازیں حادثہ میں ہم اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کچھ بیان ہوگا۔

شجرۃ الدر بنت عبداللہ:

ام غلیل ترکیہ یہ ملک صالح نجم الدین ایوب کی جیتی لونڈیوں میں سے تھی اور اس سے اس کا بیٹا ضلیل بہت خوبصورت تھا جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا اور یہ اس کی شدت محبت کی وجہ سے سفر و حضر میں اس سے جدا نہیں ہوتی تھی اور اس کی خدمت میں حاضر رہتی تھی اور اس نے اپنے خاوند کے بیٹے معظم توران شاہ کے قتل کے بعد دیار مصر پر قابض ہو گئی اور اس کا خطبہ دیا جاتا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا جاتا اور اس نے تین ماہ تک شاہی فرامین پر نشان لگائے پھر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں المعز بادشاہ بن گیا پھر اس نے دیار مصر کا بادشاہ بننے کے چند سال بعد اس سے نکاح کر لیا پھر جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اس پر غیرت آئی اور اس نے اس کے خلاف تدبیر کر کے اسے قتل کر دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس المعز کے غلاموں نے اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اسے تین دن تک کوڑی پر پھینک دیا پھر اسے اس کی قبر میں منتقل کر دیا گیا جو سیدہ نفیسہ کی قبر کے قریب ہے اور یہ بڑی مضبوط دل عورت تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا گھبراؤ ہو گیا ہے تو اس نے بہت سے نفیس جوہر اور قیمتی موتی ضائع کر دیئے اس نے انہیں ہادن میں ڈال کر توڑ دیا تاکہ وہ نہ اس کے کام آئیں اور نہ کسی دوسرے کے کام آئیں اور اس کی حکومت میں اس کا وزیر الصاحب بہاؤ الدین علی بن محمد بن سلیمان تھا جو ابن حنا کے نام سے مشہور ہے اور وہ اس کا پہلا منصب دار تھا۔

شیخ الاسعد ہبۃ اللہ بن صاعد:

شرف الدین الفارسی قدیم سے ملک الفارسی سابق الدین ابراہیم بن الملک العادل کی خدمت میں تھا اور یہ نصرانی تھا پھر مسلمان ہو گیا اور بہت صدقہ و خیرات اور نیک کام کرنے والا تھا المعز نے اسے وزیر بنا لیا اور اس کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ تھا اور وہ اس کی نظر ثانی اور مشورہ کے بعد کوئی کام کرتا تھا اور اس سے پہلے قاضی تاج الدین^۱ ابن بنت المعز وزیر تھا اور اس سے پہلے بدر الدین سجاری تھا پھر اس کے بعد یہ سب کچھ شیخ الاسعد المسلمانی کے پاس آ گیا اور الفارسی سے المعز ایک غلام کے ذریعے خط و کتابت کرتا تھا پھر جب المعز قتل ہو گیا تو الاسعد کی توہین کی گئی حتیٰ کہ وہ بد بخت بن گیا اور امیر سیف الدین القطر نے اس کی خط و کتابت کو ایک لاکھ دینار میں لے لیا اور بہاؤ الدین زہیر بن علی نے اس کی بھوکے ہے وہ کہتا ہے۔

اللہ اس پر زیادہ لعنت کرے اور اس کے باپ پر اس سے بھی زیادہ کرے اور پھر یکے بعد دیگرے اس کے بیٹوں پر کرنے پھر ان باتوں کے بعد وہ قتل ہو گیا اور القرافہ میں دفن ہوا اور قاضی ناصر الدین ابن المیر نے اس کا مرثیہ لکھا ہے اور اس کے اس کے متعلق نہایت شاندار اور فصیح اشعار ہیں۔

① ایک نسخہ میں جمال لکھا ہے۔

ابن ابی الحدید الشاعر العراقي:

امیر المومنین ہبۃ اللہ بن محمد بن محمد بن اسمین ابو حامد بن ابی الحدید محمد بن الدین المدائنی کا تبار درست شاعر اور غالی شیعہ اس نے بیس جلدوں میں بیچ المائے کی شرح کی ہے ۵۸۶ھ میں المدائنی میں پیدا ہوا پھر بغداد آ گیا اور خلفی دیوان میں یہ ایک کاتب اور شاعر تھا اور وزیر ابن العلقمی کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ تھا کیونکہ ان دونوں کے درمیان تشیع ادب اور فضیلت میں مناسبت مقاربت اور مشابہت پائی جاتی تھی اور ابن الساعی نے اس کی بہت سی مدائح اور شاندار اشعار کو بیان کیا ہے اور یہ اپنے بھائی المعالی موفق الدین بن ہبۃ اللہ سے ادب و فضیلت میں زیادہ تھا اگرچہ دوسرا بھی یکتا فاضل تھا اور دونوں نے اسی سال میں وفات پائی۔

۱۵۶ھ

بغداد پر تاتاریوں کا قبضہ اور اس کے اکثر باشندوں کا خلیفہ سمیت قتل ہونا اور بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ:

اس سال کا آغاز ہوا اور تاتاریوں کی فوجوں نے ان دو امیروں کی محبت میں جو تاتاریوں کے بادشاہ ہلا کو خان کی ہراول فوجوں کے امیر تھے بغداد سے جنگ کی اور شاہ موصل کی افواج بھی بغدادیوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے آگئیں اور شاہ موصل نے انہیں غلہ ہدایا اور تحائف سے بھی مدد دی اور یہ سب کچھ اس نے اپنے بارے میں تاتاریوں کے خوف اور انہیں رشوت دینے کے لیے کیا اللہ ان کا برا کرے۔ اور بغداد کو چھپا دیا گیا اور اس میں مجانبین اور دیگر دفاعی آلات نصب کر دیئے گئے جو اللہ کی تقدیر کو نال نہیں سکتے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احتیاط قضا و قدر کے مقابلہ میں کچھ کام نہ دے گی۔ اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ”بلا شہ جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہو سکتا“۔

اور فرماتا ہے ”تحقیق اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اور نہ اس کے سوا ان کا کوئی دوست ہے“۔

اور تاتاریوں نے دار الخلافہ کو گھیر لیا اور ہر طرف سے اسے تیر مارنے لگے حتیٰ کہ وہ ایک لونڈی کو لگے جو خلیفہ کے سامنے کھیل رہی تھی اور اسے ہنسا رہی تھی اور وہ اس کی چیمٹی لونڈیوں میں سے تھی اور وہ مولدہ تھی جس کا نام عرفہ تھا اسے ایک کھڑکی سے آ کر تیر لگا جس نے اسے خلیفہ کے سامنے رقص کرتے ہوئے قتل کر دیا پس خلیفہ اس سے گھبرا گیا اور سخت خوفزدہ ہو گیا اور اس کے سامنے وہ تیر لایا گیا جو اسے لگا تھا کیا دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قضا و قدر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو عقلمندوں کی عقلوں کو ماردیتا ہے۔ اس موقع پر خلیفہ نے زیادہ بچاؤ اختیار کرنے کا حکم دیا اور دار الخلافہ پر زیادہ پردے ڈال دیئے گئے اور ہلا کو خان اپنی تمام فوجوں کے ساتھ۔ اور وہ تقریباً دو لاکھ جانباڑوں پر مشتمل تھیں۔ اس سال کی ۱۲ محرم کو بغداد آیا اور وہ اس مقدمہ امر کے باعث جس کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا اور اسے جاری و نافذ کیا۔ خلیفہ پر بہت غصے تھا اور وہ یہ کہ جب شروع شروع میں ہلا کو خان کا ہمدان میں ظہور ہوا اور وہ عراق کی جانب جا رہا تھا تو وزیر مؤید الدین محمد بن العلقمی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس کی طرف قیمتی تحائف بھیجے تاکہ جو وہ ان کے شہروں کا قصد کیے ہوئے ہے اس کے لیے یہ بطور مدارات ہوں پس دویدارہ صغیر ایک وغیرہ نے خلیفہ کو اس بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے لگے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کر شاہ تاتار کو رشوت دینا چاہتا ہے اور انہوں

نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی معمولی ہی چیز بھیج دے، پس اس نے کچھ بدایا بھیجے جنہیں ہلاکو خان نے حقیر سمجھا، خلیفہ کو پیغام بھیج کر اس کو دیدارہ مذکور اور سلیمان شاہ کو اس سے طلب کیا، پس اس نے ان دونوں کو اس کے پاس نہ بھیجا اور نہ اس کی پروا دی۔ حتیٰ کہ اس کی آمد کا وقت قریب آ گیا اور وہ اپنی بہت سی کاٹھنا بڑا خالم اور غائب فوج کے ماتھے بندھا پہنچ گیا، چونکہ اتنا اور نہ یوم آخرت یہ ایمان لائی تھیں، اور انہوں نے بغداد کو اس کی شرعی اور عربی جانب سے ٹھیر لیا۔ اور بغدادی فوجیں بہت کم اور نڈر تھیں، جن کی تعداد دس ہزار سواروں تک بھی نہ پہنچتی تھی، انہوں نے اور باقی ماندہ سب فوج نے اپنے دستوں سے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سوں نے بازاروں اور مساجد کے دروازوں پر عطیات مانگے اور شعراء نے ان کا مرثیہ کہتے ہوئے اور اسلام اور اہل اسلام پر غم کرتے ہوئے ان کے بارے میں قصائد کہے اور یہ سب کچھ وزیر ابن العلقمی رافضی کے مشوروں سے ہوا، کیونکہ گذشتہ سال اہل سنت اور رافضہ کے درمیان عظیم معرکہ آرائی ہوئی تھی، جس میں الکرج اور رافضہ کا حملہ لٹ گیا، حتیٰ کہ وزیر کے قریب تاروں کے گھر بھی لوٹ لیے گئے، جس پر اسے سخت غصہ آیا اور اس بات نے اسے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کرنے پر اکسایا، جس سے وہ فوج واقعہ پیش آیا، جس سے بڑھ کر گھناؤنا واقعہ تعمیر بغداد سے لے کر آج تک پیش نہیں آیا، اس لیے وہ سب سے پہلے تاروں کے پاس گیا اور وہ اپنے اہل و اصحاب اور خدم و حشم کو بھی ساتھ لے گیا اور اس نے سلطان ہلاکو خان سے ملاقات کی، اللہ اس پر لعنت کرے، پھر اس نے واپس آ کر خلیفہ کو اس کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور اس کے پیش نظر یہ بات تھی، کہ مصالحت اس شرط پر ہو کہ عراق کا نصف خراج ان کے لیے اور نصف خلیفہ کے لیے ہوگا، پس خلیفہ محتاج ہو کر سات سو سواروں کے ساتھ روانہ ہوا، جو قضاۃ، فقہاء، صوفیاء اور اعیان و امراء اور حکومت کے سرکردہ لوگوں پر مشتمل تھے اور جب وہ ہلاکو خان کی فرودگاہ کے قریب ہوئے، تو انہوں نے سترہ آدمیوں کے سوا باقی لوگوں کو خلیفہ کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ پس خلیفہ مذکورہ لوگوں کے ساتھ گیا، اور بقیہ کو ان کی سواروں سے اتار دیا گیا اور انہیں لوٹ لیا گیا اور سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور خلیفہ کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے اس سے بہت سی باتوں کے متعلق دریافت کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اہانت و جبروت کے خوف کو جو دیکھا تو اس کی گفتگو میں گڑ بڑ ہو گئی، پھر وہ بغداد واپس آ گیا اور خواجہ نصیر الدین طوسی اور وزیر ابن العلقمی وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے اور خلیفہ نگرانی اور مطالبات کے تحت تھا، پس اس نے دار الخلافہ سے سونے، زیورات، ڈھلے ہوئے زیورات، جواہر اور نفیس اشیاء وغیرہ کثرت کے ساتھ منگوائیں، اور رافضہ کے سرداروں اور دیگر منافقین نے ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ وہ خلیفہ سے مصالحت نہ کرے اور وزیر نے کہا، جب نصف نصف پر صلح ہو گئی تو یہ ایک دو سال تک قائم رہے گی، پھر پہلے والی بات ہو جائے گی اور انہوں نے اسے خلیفہ کے قتل کو اچھا کر دکھایا، پس جب خلیفہ سلطان ہلاکو خان کے پاس واپس آیا تو اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے قتل کا مشورہ وزیر ابن العلقمی اور نصیر الدین طوسی نے دیا تھا، اور نصیر الدین اس وقت ہلاکو خان کی خدمت میں تھا، جب اس نے الموت کے قلعوں کو فتح کیا تھا، اور اس نے انہیں اسماعیلیہ کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور نصیر الدین شمس الشمس کا وزیر تھا، اور اس سے پہلے اس کے باپ علاؤ الدین بن جلال الدین کا وزیر تھا اور وہ نزار بن المستنصر العبیدی کی طرف منسوب ہوتے تھے، اور ہلاکو خان نے نصیر الدین کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کی خدمت میں مشیر وزیر کی طرح رہے، پس جب ہلاکو خان آیا تو وہ خلیفہ کے قتل کرنے سے خوفزدہ ہوا، مگر وزیر نے اسے یہ کام معمولی کر

دکھایا اور انہوں نے اسے اٹھ مار مار کر قتل کر دیا اور وہ یورے میں بند تھا تا کہ اس کا خون زمین پر نہ گریے اور وہ ڈر گئے کہ اس کا بد نہ نیا جائے جیسا کہ بیان نیا جائے اور اس نے خیال کیا ہے کہ اس کا کا خون نہ دیا گیا تھا اور جس کا قول ہے کہ اسے ڈبو دیا گیا تھا۔ واللہ اعلم

پس وہ اس کے ساتھ جو علیاً لفضلاً کا بر روضا امراء اور اس کے ملک کے ارباب صل و عقد تھے ان کے ساتھ ساتھ لوٹے۔ خلیفہ کے حالات ابھی الوفیات میں بیان ہوں گے۔ اور وہ شہر پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، ادھیڑ عمر لوگوں اور جوانوں میں سے جن پر بھی قابو پایا، ان سب کو قتل کر دیا اور بہت سے لوگ کنوؤں اور کھجوروں کے جھنڈوں اور گڑھوں میں داخل ہو گئے اور اسی طرح کئی روز تک باہر نکلے بغیر چھپے رہے اور کچھ لوگ سراؤں میں جمع ہو جاتے اور دروازے بند کر لیتے تو تاری انہیں توڑ کر یا آگ لگا کر کھول لیتے، پھر اندر داخل ہو جاتے اور وہ ان سے خائف ہو کر بلند جگہوں کی طرف بھاگ جاتے اور وہ انہیں چھتوں پر قتل کر دیتے، حتیٰ کہ گلیوں میں خون کے پرنا لے رواں ہو جاتے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اور یہی حال مساجد، جوامع اور خانقاہوں کا تھا اور ان سے صرف یہود و نصاریٰ کے اہل ذمہ نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کی پناہ لے لی تھی، نجات پائی اور ان لوگوں نے بھی نجات پائی جنہوں نے وزیر اعظمی رافضی کے گھر میں پناہ لی تھی اور تاجروں کی ایک جماعت نے اپنے لیے امان حاصل کی اور انہوں نے اس پر بہت اموال خرچ کیے، حتیٰ کہ وہ اور ان کے اموال بچ گئے اور بغداد تمام شہروں سے قابل دید شہر ہونے کے بعد ویران ہو گیا۔ اور اس میں صرف تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے اور وہ بھی خوف، بھوک، ذلت اور قلت کی حالت میں تھے اور اس واقعہ سے پہلے وزیر ابن اعظمی فوجوں کے ہٹانے اور رجسٹرے ان کا نام ساقط کرنے کے بارے میں بہت کوشش کرتا تھا اور مستنصر کے آخری ایام میں فوج تقریباً ایک لاکھ جانباڑوں پر مشتمل تھی اور ان میں سے بعض امراء وہ بھی تھے جو اکابر کا سر بادشاہوں کی طرح تھے وہ ہمیشہ ان کے کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ صرف دس ہزار رہ گئے، پھر ابن اعظمی نے تاتاریوں سے خط و کتابت کی اور انہیں ملک پر قبضہ کرنے کا لالچ دیا۔ اور اس نے ان کے لیے یہ بات آسان کر دی اور ان کے سامنے حقیقت حال بیان کی اور انہیں مردوں کی کمزوری کے متعلق بتایا اور اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ اہل سنت کا کلیتہً خاتمہ کر دے اور یہ کہ رافضی کی بدعت غالب آجائے اور وہ فاطمیوں کے خلیفہ کو کھڑا کرے اور علماء اور مفتیوں کو تباہ کر دے اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے اس نے اس کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور اسے پائیدار عزت کے بعد ذلیل کر دیا۔ اور وہ خلفاء کا وزیر ہونے کے بعد تاتاریوں کا دم چھلکا بن گیا اور اس نے بغداد کے مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل کا گناہ کمایا اور فیصلہ رب السموات والارض ہی کا ہے۔

اور بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تقریباً وہی واقعہ ہوا جو اہل بغداد کو پیش آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں ہمارے لیے بیان کیا ہے:

”اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات پہنچادی کہ تم دو مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور بڑی بلندی حاصل کرو گے، پس جب ان دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ آئے گا تو ہم تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجیں گے اور وہ گھروں

میں گھس گئے اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔“

اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے صلحاء قتل ہو گئے اور انبیا، نبی اولاد کی ایک جماعت قیدی بن گئی اور بیت المقدس اعباد و زہاد اور اہل بار و انبیا، سے سمور ہونے کے بعد ویران ہو گیا اور کمزور بنیاد، دو کراچی چھتوں کے بل کہ پڑا۔ اس معرکہ میں بغداد کے جو مسلمان قتل ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں نے اختلاف لیا ہے، بعض آٹھ لاکھ اور بعض ایک کروڑ آٹھ لاکھ بیان کرتے ہیں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ مقتولین کی تعداد دو کروڑ تک ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ولاحول ولاقوة الا باللہ العلی العظیم۔

اور بغداد میں ان کی آمد محرم کے آخر میں ہوئی اور تلوار مسلسل چالیس روز تک اس کے باشندوں کو قتل کرتی رہی۔ اور خلیفہ مستعصم باللہ ۱۴ صفر کو بدھ کے روز قتل ہوا اور اس کی قبر منادی گئی، اس وقت اس کی عمر ۳۶ سال ۴ ماہ تھی اور اس کی مدت خلافت ۱۵ سال ۸ ماہ اور کچھ دن تھی، اور اس کے ساتھ اس کا بڑا بیٹا ابوالعباس احمد بھی قتل ہو گیا جس کی عمر ۱۵ سال تھی، پھر اس کا منجھلا بیٹا ابوالفضل عبدالرحمن بھی قتل ہو گیا اس کی عمر ۱۳ سال تھی، اور اس کا چھوٹا بیٹا مبارک قیدی بن گیا اور اس کی تینوں بہنوں فاطمہ، خدیجہ اور مریم کو بھی قیدی بنایا گیا اور دار الخلافہ سے تقریباً ایک ہزار دو شیزگان کو قیدی بنایا گیا، واللہ اعلم، انا للہ وانا الیہ راجعون

اور دار الخلافہ کے استاذ شیخ محی الدین یوسف بن شیخ ابوالفرج ابن الجوزی کو بھی قتل کر دیا گیا، وہ وزیر کا دشمن تھا، اور اس کے تینوں بیٹوں عبداللہ، عبدالرحمن اور عبدالکریم اور اکابر حکومت کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا گیا، جن میں دیودار صغیر مجاہد الدین ایک، شہاب الدین سلیمان شاہ اور امرائے اہل سنت اور اکابر شہر کی ایک جماعت بھی شامل تھی اور دار الخلافہ سے بنوعباس کے ایک شخص کو بلایا جاتا اور وہ اپنی اولاد اور بیویوں سمیت آتا اور اسے الخلال کے قبرستان میں تماشا گاہ کے سامنے لے جایا جاتا اور اسے بکری کی طرح ذبح کر دیا جاتا، اور اس کی بیٹیوں اور لونڈیوں میں سے جسے وہ پسند کرتے قیدی بنا لیا جاتا اور شیخ الشیوخ مؤدب الخلیفہ صدر الدین علی بن النیار کو قتل کر دیا گیا، اور خطباء ائمہ اور حفاظ قرآن کو بھی قتل کر دیا گیا اور کئی ماہ تک بغداد میں مساجد جماعات اور جمعہ کی نمازیں معطل رہیں اور وزیر ابن العلقمی نے۔ خدا اس پر لعنت کرے۔ چاہا کہ وہ بغداد میں مساجد مدارس اور خانقاہوں کو بیکار کر دے اور رافضیوں کے محلات اور مزارات کو قائم رہنے دے۔ نیز یہ کہ وہ رافضہ کے لیے ایک عظیم مدرسہ تعمیر کرے اور وہ اپنے علم اور علم کو وہاں پھیلا میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی طاقت نہ دی بلکہ اس کی آسودگی کو ختم کر دیا اور اس واقعہ کے چند ماہ بعد اس کی عمر کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے پیچھے اس کے بیٹے کو بھی بھیج دیا اور وہ دونوں دوزخ کے نچلے گڑھے میں اکٹھے ہو گئے۔ واللہ اعلم

اور جب امیر مقتدر گزر گیا، اور چالیس دن بھی گزر گئے، تو بغداد اپنی چھتوں کے بل گرا پڑا تھا۔ اور وہاں کوئی شاذ آدمی ہی تھا، اور راستوں میں مقتولین ٹیلوں کی طرح پڑے تھے اور ان پر بارش ہوئی اور ان کی شکلیں بدل گئیں اور شہران کی مردار لاشوں سے بدبودار ہو گیا، اور ہوا بدل گئی، جس کے باعث سخت بیماری پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ وہ متعدی ہو کر ہوا میں سرایت کر کے بلا دسام کو چلی گئی، اور فضا کے بدل جانے اور ہوا کے خراب ہو جانے سے بہت سے لوگ مر گئے، اور لوگوں پر گرانی، وبا، فناء اور طاعون اکٹھی ہو گئی۔ انا للہ وانا

الیہ راجعون

اور جب بغداد میں امان کا اعلان کیا گیا تو وہ لوگ جو زیر زمین زمین دوز قید خانوں، گڑھوں اور قبرستانوں میں پوشیدہ تھے باہر آئے اور جب انہیں ان کی قبریں آہیتر نکالا گیا تو وہ مردوں کی طرح تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو چپا اور باپ اپنے بیٹے کو اور بھائی اپنے بھائی کو نہ پہچانتا تھا اور انہیں سخت بیماری نے آلبا اور وہ فنا ہو گئے اور اپنے میلے مقتولین کے ساتھ جا ملے اور وہ زمین سے نیچے اس کے حکم سے جمع ہو گئے جو پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے۔

اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنیٰ

اور سلطان مسلط ہلاکو خان اس سال کے جمادی الاولیٰ میں بغداد سے اپنے ملک کے ہیڈ کوارٹر کو کوچ کر گیا اور بغداد کے معاملے کو امیر علی بہادر کے سپرد کر دیا۔ اور اس نے اسے الشعلنیہ اور وزیر ابن العتیمی کے سپرد کر دیا، مگر اللہ نے اسے مہلت نہ دی۔ اور نہ اسے چھوڑا۔ بلکہ اسے جمادی الآخرہ ۶۶۳ھ کے آغاز میں مقتدر غالب کی طرح گرفت میں لے لیا اور اسے ان شاء اور ادب میں فضیلت حاصل تھی، لیکن وہ سخت شیعہ اور خبیث رافضی تھا پس وہ غم و اندوہ اور ندامت سے مر گیا اور موت نے اس کے کجاوے کو گرا دیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے عز الدین بن الفضل محمد نے وزارت سنبالی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس سال کے باقی ماندہ ایام میں اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔

اور ابو شامہ اور ہمارے شیخ ابو عبد اللہ الذہبی اور قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں کو شام میں سخت وبا نے آیا، اور انہوں نے اس کا سبب فضا اور ہوا کی خرابی بیان کی ہے جو بلاد عراق میں مقتولین کی کثرت سے خراب ہو گئی تھی، اور یہ خرابی پھیل کر بلاد شام تک پہنچ گئی۔

اور اس سال مصریوں نے شاہ الکرک ملک مغیث عمر بن العادل الکبیر سے جنگ کی اور اس کی قید میں بحری امراء کی ایک جماعت تھی جن میں رکن الدین بھیرس الہندقداری بھی شامل تھا پس مصریوں نے انہیں شکست دے دی اور ان کے پاس جو اموال و ائصال تھے انہیں لوٹ لیا۔ اور انہوں نے سر کردہ امراء کی ایک جماعت کو قیدی بنا لیا اور انہیں باندھ کر قتل کر دیا اور وہ نہایت برے حال میں الکرک کی طرف واپس آ گئے اور زمین میں فساد کرنے لگے اور شہروں میں خرابی کرنے لگے، سو اللہ نے شاہ دمشق ناصر کو بھیج دیا، اس نے انہیں اس بات سے روکنے کے لیے فوج بھیجی تو بحریہ نے انہیں شکست دی اور انہوں نے مدد طلب کی تو ناصر خود ان کے مقابلہ میں گیا، مگر انہوں نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور رکن الدین بھیرس کے مشورہ سے اس کے خیمے کی جس میں وہ موجود تھا، طنائیں کاٹ دیں اور جنگوں اور مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن کی تفصیل طویل ہے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

خلیفہ وقت مستعصم باللہ:

عراق میں بنو عباس کا آخری خلیفہ امیر المؤمنین ابو احمد عبد اللہ بن المستصر باللہ ابی جعفر منصور بن الظاہر بامر اللہ ابی نصر محمد بن ناصر لدین اللہ ابی العباس احمد بن المستضی بامر اللہ ابی محمد الحسن بن المستجد باللہ ابی المظفر یوسف بن المستضی لامر اللہ ابی عبد اللہ محمد بن

المستظہر باللہ ابی العباس احمد بن المعتدی باللہ ابی القاسم عبد اللہ بن الذخیرہ ابی العباس محمد بن القاسم ہامر اللہ عبد اللہ بن القادر باللہ ابی العباس الامیر اسحاق بن المصعب باللہ ابی النسل اشعر بن المصعب باللہ ابی العباس احمد بن الامیر اموی بن عبد اللہ بن اسحاق بن اسحاق بن المعتصم باللہ ابی اسحاق محمد بن الرشید ابی محمد بارون بن المہدی ابی عبد اللہ محمد بن المنصور ابی جعفر عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب بن ہاشم ابی العباس اس کی پیدائش ۶۰۹ھ میں ہوئی اور اس کی بیعت خلافت ۲۰ جمادی الاولیٰ ۶۴۰ھ کو ہوئی اور اس کا قتل ۱۲ صفر ۶۵۶ھ کو بدھ کے روز ہوا اور قتل کے روز اس کی عمر ۴۷ سال تھی وہ خوبصورت نیک نیت صحیح العقیدہ اور عدل و انصاف اور کثرت صدقات اور علماء و عباد کے اکرام میں اپنے باپ المستنصر کی اقتداء کرنے والا تھا اور اس کے لیے حافظ ابن التجار نے مشائخ خراسان کی ایک جماعت سے اس کے لیے اجازت طلب کی جس میں المؤمنید طوسی ابو روج عبد العزیز بن محمد الہروی ابو بکر القاسم بن عبد اللہ الصغیر وغیرہ شامل تھے اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جس میں اس کا مؤدب شیخ الشیوخ صدر الدین ابوالحسن علی بن محمد النیر بھی شامل ہے اور اس نے امام محی الدین ابن الجوزی اور شیخ نجم الدین الباردی کو خود اجازت دی اور وہ اپنے باپ اور دادا کی طرف سلف کے طریق اور جماعت کے اعتقاد کے مطابق بنی تھا لیکن اس میں نرمی بے احتیاجی اور مال کی محبت اور اس کے جمع کر کے عادت پائی جاتی تھی۔ اور اس کی جملہ عادات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے اس امانت کو جائز سمجھا جسے ناصر بن داؤد بن المعظم نے اس کے پاس امانت رکھا تھا اور اس کی قیمت تقریباً ایک لاکھ دینار تھی اور خلیفہ جیسے آدمی سے یہ بات بری ہے اور اس سے کم تر آدمی کے لیے بھی یہ بات بہت بری ہے بلکہ اہل کتاب میں سے اگر تو کسی کو ایک ڈھیر پرائین بنائے تو وہ اسے تجھے ادا کر دے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اور ان میں سے کسی کو تو اگر ایک دینار پرائین بنائے تو وہ اسے تجھے ادا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تو ہمیشہ اس کی نگرانی کرتا رہے)

تاریخوں نے اسے مظلومانہ طور پر اس سال ۱۲ صفر کو بدھ کے روز قتل کر دیا اور اس کی عمر ۴۶ سال چار ماہ تھی اور اس کی مدت خلافت ۱۵ سال ۸ ماہ کچھ دن تھی رحمہ اللہ واکرم صلوٰۃ اور اس کے بعد اس کے دونوں بیٹے بھی قتل ہو گئے اور تیسرا بیٹا اس کی تین صلیبیوں کے ساتھ قیدی بن گیا اور اس کے بعد منصب خلافت زائل ہو گیا اور بنو عباس میں اس کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہ رہا اور یہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے والے خلفائے بنو عباس میں سے آخری خلیفہ تھا اور ان میں سے تھا جن سے بخشش کی امید رکھی جاسکتی ہے اور جن کی جنگ سے خوف کھایا جاتا ہے وہ جس طرح عبد اللہ بن سفاح سے شروع ہوئے تھے اسی طرح عبد اللہ مستعصم پر ختم ہو گئے اور سفاح کی بیعت خلافت اور اس کی حکومت کا ظہور بنی امیہ کی حکومت کے خاتمہ پر ۱۳۲ھ میں ہوا جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے اور ان کا آخری خلیفہ عبد اللہ مستعصم تھا جس کی حکومت و خلافت کا اس سال خاتمہ ہو گیا ان کا مجموعی زمانہ پانچ سو چوبیس سال بنتا ہے اور عراق سے ان کی حکومت کا کلیتہً خاتمہ چار سو پچاس سال بعد البسائری کے زمانے میں ہوا پھر وہ پہلے کی طرح دوبارہ قائم ہو گئی اور ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہامر اللہ کے زمانے میں بیان کیا ہے۔

اور بنو عباس تمام بلاد پر اس طرح حکمران نہ تھے جیسے بنو امیہ تمام بلاد و اقطار و امصار پر غالب تھے بلاشبہ بلاد مغرب بنو عباس کے ہاتھوں سے نکل گئے شروع شروع میں بنی امیہ کے ایک شخص نے جو ان میں سے عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک کی

اولاد میں سے بچ گیا تھا اس پر قبضہ کیا پھر لمبے زمانے کے بعد اس پر ملوک متغلب ہو گئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس نے بنو عباس کو مدینہ کی حکومت سے ملایا ہے کہ وہ بلاد مصر اور بلخ بلاد مغرب میں فاطمیوں میں سے ہیں اور بعض اوقات بلاد شام اور جرہین میں بھی انہیں لوٹنے کا حکم دیا گیا اور اس طرح ان کے ہاتھوں سے ہزار ہا انسان اور ماورالنہر کا ملاقہ چھین گیا جنہیں بادشاہ باری باری لیتے رہے حتیٰ کہ خلیفہ کے پاس بغداد اور چند بلاد عراق کے سوا پھر باقی نہ رہا اور یہ ان کی خلافت کی کمزوری اور شہوات میں اشتغال اور اکثر اوقات اموال جمع کرنے کی وجہ سے ہوا جیسا کہ حوادث اور الوفيات میں سے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

فاطمیوں کی حکومت تقریباً تین سو سال تک قائم رہی حتیٰ کہ ان کا آخری خلیفہ العاضد تھا جو ۵۶۰ھ کے بعد حکومت صلاحیہ ناصریہ قدسیہ میں فوت ہوا اور فاطمی بادشاہوں کی تعداد ۱۴ ہے اور ان کی آزاد حکومت کی مدت ۲۹۷ھ سے العاضد کی وفات تک ہے جو ۵۶۰ھ سے چند سال اوپر ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے بعد آنے والی خلافت نبوت تیس سال تھی جیسا کہ صحیح حدیث نے بیان کیا ہے اور اس میں حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم پھر آپ کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما چھ ماہ تک خلیفہ رہے حتیٰ کہ تیس سال پورے ہو گئے جیسا کہ ہم نے دلائل النبوة میں بیان کیا ہے پھر وہ حکومت بن گئی اور سب سے پہلا اسلامی بادشاہ بنی ابی سفیان میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحرا بن حرب بن امیہ تھا پھر اس کا بیٹا یزید پھر اس کے بیٹے کا بیٹا یزید بن معاویہ بادشاہ بنا اور یہ بطن جس کا آغاز حضرت معاویہ سے ہوا معاویہ پر ختم ہو گیا پھر مروان بن الحکم ابن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن مناف بن قصی بادشاہ بنا پھر اس کا بیٹا عبد الملک پھر ولید بن عبد الملک پھر اس کا بھائی سلیمان پھر اس کا عمراذ حضرت عمر بن عبد العزیز پھر یزید بن عبد الملک پھر ہشام بن عبد الملک پھر ولید بن یزید پھر یزید بن ولید پھر اس کا بھائی ابراہیم النقص وہ بھی ولید کا بیٹا تھا پھر مروان پھر محمد بن مروان جس کا لقب حمار تھا اور یہ ان کا آخری خلیفہ تھا اور ان کے پہلے خلیفہ کا نام مروان تھا اور آخری کا نام بھی مروان تھا پھر ان کا اول سے آخر تک خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کا پہلا خلیفہ عبد اللہ سفاح تھا اور آخری عبد اللہ مستعصم تھا اور اسی طرح فاطمیوں کے پہلے خلیفہ کا نام عبد اللہ العاضد تھا اور آخری کا نام بھی عبد اللہ العاضد تھا۔

اور یہ اتفاق نہایت ہی عجیب و غریب ہے اور بہت کم لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم

اور یہ اشعار ایک فاضل شخص کے ہیں جن میں اس نے سب خلفاء کا ذکر کیا ہے۔

اس خدا کی تعریف ہے جس کا عرش عظیم ہے اور وہ غالب یگانہ اور اس کی گرفت سخت ہے جو زمانے کو پلٹنے والا اور لوگوں کو نشور کے لیے جمع کرنے والا ہے پھر محمد ﷺ پر ہمیشہ صلوة و سلام ہو اور آپ کی آل اصحاب اور ائمہ اعلام پر بھی ہو میں نے اختصار کے ساتھ یہ اشعار نظم کیے ہیں جن میں میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد کھڑے ہونے والے خلفائے راشدین کو نظم کیا ہے پھر ان کے بعد اب تک جو خلفاء بنے ہیں میں نے نصیحت اور غور و فکر کے لیے انہیں بیان کیا ہے تاکہ عقلمند کو معلوم ہو جائے کہ واقعات کیسے رونما ہوئے ہیں تمام صاحب اقتدار اور بادشاہ ہلاکت و فنا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اور ہر عبرت حاصل کرنے والے کے لیے گردش لیل و نہار میں غور و فکر کی باتیں موجود ہیں اور اصلاح کرنے والا بادشاہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک میں وارث بنا دیتا ہے۔ تمام

مخلوق اور بادشاہ بنا ہونے والے جن اور پیدا کرنے والے بادشاہ کے سا کوئی بادشاہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہ ملک قبیلہ پاک ہے اور عراق میں منفرد ہے اور اس کے سوا باقی ہر چیز ختم ہونے والی ہے حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے پہلے ابن ابی قحافہ نے بیعت خلافت ہوئی یہی حضرت صدیق امام ہادی بنے پھر آپ کے بعد فاروق بنے آپ نے باوجود ۱۰۰۰ مسار کو فتح کیا اور آپ کی تلواروں نے کفار کی بیخ کنی کی اور آپ نے عدل کر کے زمین آسمان کے جبار کو راضی کیا اور لوگوں نے ذوالنورین کو بھی پسند کیا پھر سبطین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پسند کیا پھر حضرت مسیح کے ساتھ فوجیں آئیں قریب تھا کہ وہ از سر نو فتنے پیدا کریں مگر اللہ نے آپ کے ہاتھ پر اصلاح کر دی جیسا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے آپ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے اور لوگوں نے حضرت معاویہؓ پر اتفاق کر لیا اور یہ واقعہ سب راویوں نے بیان کیا ہے اور آپ نے اپنی مرضی کے مطابق حکومت کو استوار کیا پھر آپ کے بعد یزید خلیفہ بنا پھر اس کے بیٹا جو نیک اور ہدایت والا تھا خلیفہ بنا یعنی ابولہیٰ جو درویش تھا اس نے امارت کو چھوڑ دیا۔ کسی کے غلبہ سے نہیں بلکہ اسے اس کی خواہش ہی نہ تھی اور حضرت ابن زبیر حجاز میں حکومت کی جستجو میں کوشاں تھے اور شام میں انہوں نے مروان کی بیعت اس کے حکم سے کی جو کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے اور اس نے ایک سال ہی حکومت کی اور اس کے ساتھ موت کے تیروں نے کشتی کی اور عبدالملک کے لیے حکومت مضبوط ہو گئی اور اس کا سعد ستارہ فلک میں روشن ہوا اور جس نے بھی حکومت میں اس سے کشاکش کی وہ ہلاکت کی تلواروں سے قتل ہو کر گرا۔

اور مصعب عراق میں قتل ہو گئے اور اس نے پھاڑنے والے حجاج کو انتقام کی تلواروں کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ کیا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما حرم کی پناہ لیے ہوئے تھے اور اس نے آپ کے قتل کے بعد آپ کو صلیب دے کر ظلم کیا اور ان کے بارے میں اپنے رب سے نہ ڈرا اور جب اس کے معاملات صاف ہو گئے تو زمانہ اس سے پلٹ گیا پھر اس کے بعد ولید آیا پھر سلیمان آیا جو صاحب رشد جوان ہے پھر مخلوق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عدل پھیل گیا آپ نے حکم الہی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت کی اور آپ کو زخمی سروالا اور صوم و صلوة کا پابند اور متقی کہا جاتا تھا۔ آپ نے عدل و احسان کیا اور ظالموں اور سرکشوں کو رکاوٹ کی اور سنت رسول کی اقتداء کی اور خلفائے راشدین کی اقتداء کی اور اسلام نے آپ کی موت کا پیمانہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیا اور لوگوں نے آپ کے بعد آپ کی مثال نہیں دیکھی پھر یزید بن ہشام پھر ولید خلیفہ بنا جس کی کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر یزید ان کا قص خلیفہ بنا اور اس کے پاس اس کی موت کشتی کرتی ہوئی آئی اور ابراہیم کی مدت دراز نہ ہوئی اور اس کے ہر معاملے میں ستم تھا پھر مروان کو بادشاہت ملی اور جو کچھ ہوتا تھا ہوا اور اس کے ہاتھوں حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور حوادث زمانہ نے اس پر حملہ کیا اور اس کا قتل الصعید میں ہوا اور کثرت تعداد نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور اس میں آل الحکم کی موت تھی اور ان سے کئی قسم کی نعمتیں چھن گئیں پھر بنو عباس کی حکومت آگئی جو ہم میں پختہ بنیاد کے ساتھ قائم رہی اور ارض عجم سے بیعت آگئی اور سب قوموں نے ان کی بیعت گلے میں ڈالی اور لوگوں میں سے جس نے بھی ان سے کشاکش کی وہ ہاتھوں اور منہ کے بل قتل ہو کر گرا۔

اور میں نے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت کیا ہے جب مستعصم نے حکومت سنبھالی ہے ان کی پہلے کی صفت سفاح بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد منصور ذوالجناح ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مہدی ہوا اور اس کے پیچھے موسیٰ ہادی ہوا اس

کے بعد ہارون الرشید ہوا پھر جب اس نے موت کا مزہ چکھا تو امین خلیفہ بنا اور اس کے قتل کے بعد مامون خلیفہ بنا اور اس کے بعد اسمٰعیل خلیفہ بنا اور مقتدر کے بعد واق خلیفہ بنا پھر اس کے بعد مہدی بیان کا پورا سرے والا المعتمد خلیفہ بنا اور حدیث کے عرس سے نیے متوکل کے پاس میں نیت صاف کہہ اور اس نے اپنے زمانے میں بیعت کو غایا ثابت کیا اور سنت اس کے زمانے میں قائم ہوئی اور اس کے زمانے میں لوئی گمراہ کن بدعت نہ رہی اور اس نے معتزلی کو ذلت کا لباس زیب تن کر دیا جب تک آسمان میں ستارے طلوع و غروب ہوتے ہیں اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت ہو اس کے بعد معتد خلیفہ بنا اور اس نے حکومت کو استوار کیا اور اس کی شہادت پر المستنصر کھڑا ہوا اور اس کے بعد المستعین خلیفہ بنا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی وفات کے بعد المعز آ گیا۔ جو ہدایت کا جویاں اور صاحب عزت ہے اور المکلفی کا ذکر بلند صحائف میں لکھا ہے اور اس کے بعد المقتدر نے امور کا انتظام کیا اور القاہر کی عزت سے حکومت مضبوط ہوئی اور اس کے بعد الراضی فخر والا ہوا اور المکلفی کے بعد المکلفی ہوا، پھر مطیع خلیفہ بنا، جس کی کوئی اولاد نہیں، پھر القادر خلیفہ بنا جو زاہد و شاکر تھا، پھر المقتدی اور اس کے بعد المستنصر، پھر المسترشد خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد الراشد، پھر المستنصر خلیفہ بنا اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے یوسف سے مدد طلب کی، جو اپنے افعال میں عادل اور اپنے اقوال میں صادق و مصدوق ہے اور ناصر لوگوں میں جب تک رہا وہ تیز فہم سخت جنگجو تھا، پھر اس کے بعد الظاہر آیا جس کے عدل کو ہر جاننے والا جانتا ہے اور اس کی حکومت چند ماہ ہی رہی اور وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا زمانہ المستنصر تک رہا جو عادل اور شریف الاصل تھا اور وہ سترہ سال چند ماہ تک نیک ارادوں کے ساتھ لوگوں کا انتظام کرتا رہا، پھر وہ جمادی الآخرہ ۶۴۰ء میں فوت ہو گیا اور لوگوں نے مستنصر کی بیعت کر لی، ہمارا رب اس پر رحم فرمائے، اس نے اطراف میں ایچی بھیجے جو بیعت اور اتفاق کا فیصلہ کرتے تھے اور انہوں نے اس کے ذکر سے مناہر کو شرف بخشا اور اس کی سخاوت میں اچھے کاموں کی اشاعت کی اور آفاق میں اس کے حسن سیرت اور رعیت میں اس کے بے پناہ عدل کا چرچا ہو گیا۔

شیخ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ اشعار کہے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تاتاریوں کے ذریعے آزما یا جو سرکش چنگیز خان کے پیروکار تھے وہ اس کے پوتے ہلا کو خان کے ساتھ رہا مگر اس کی حکومت سے اسے رہائی نہ ہوئی، انہوں نے اس کی افواج اور جمیعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسے اور اس کے اہل کو قتل کر دیا اور بغداد اور دیگر شہروں کو برباد کر دیا۔ اور پوتوں اور دادوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کے ساتھ اموال بھی لوٹ لیے اور وہ خدائے عظیم کی سطوت سے نڈرے اور اس کے حلم اور مہلت نے انہیں دھوکہ دیا اور یہ اس کے علم و حکمت کا تقاضا تھا، اور اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اس جیسی آفت تاریخ نے بیان نہیں کی۔

پھر الظاہر نے حکومت قائم کی جو المستنصر کا خلیفہ تھا، پھر اس کے بعد امام عالم بھیرس حاکم بنا پھر اس کا بیٹا خلیفہ المستنصر ہوا، پھر اس کے بعد ایک جماعت حکمران بنی جس کے پاس نہ علم تھا نہ پونجی تھی پھر ہمارے وقت کا متولی المعتمد ہوا اور زمانہ اس جیسے شخص کے حسن اخلاق و اعتقاد اور شیرینی میں نظیر نہیں پاتا اور اس کی نظیر کیسے نہ ہو جبکہ وہ پہلے لوگوں کی نشانی ہے وہ خدا کے فضل سے بلاد و عباد کے سردار بنے اور انہوں نے علاقوں کو عدل اور انصاف سے بھر دیا، وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے چچا کے بیٹے ہیں جو بلاشبہ سب مخلوق سے افضل ہیں، جب تک کہ زمانہ قائم ہے خدائے ذوالجلال ان پر رحمت فرمائے۔

باب:

اور فاطمی مہم تعداد میں تھے لیکن ان کی مدت دراز ہوئی اور اس سے بعد انہوں نے دو سو ساٹھ سال سے کچھ اور پر حکومت کی اور ربیع الاول سن ۶۵۶ھ میں تھی، یعنی القاسم المصعب اور المعتمد یعنی المعتمد بن عباد نے قاسم کی بنیاد رکھی، پھر العزیز جو کوفہ کا حاکم تھا اور الظاہر المستنصر اور المستنصر اور الامر اور الحافظ اور الظافر اور الظاهر اور سب کے آخر میں العاصم خلیفہ بن اور اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں، وہ پانچ سو سال کے چند سالوں بعد ہلاک ہو گیا اور ان کی اصل یہود ہے اور وہ شریف الاصل نہیں، یہ سرکردہ ائمہ نے فتویٰ دیا ہے اللہ کے دین کے مددگار اس امت سے ہوں گے۔

باب:

اسی طرح خلفائے بنو امیہ کا حال ہے ان کی تعداد و افضیہ کی تعداد کی مانند ہے، لیکن ان کی مدت سو سال سے کم ہے اور امام عمر متقی کے سوا وہ سب ناصبی تھے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھر آپ کا بیٹا یزید پھر آپ کا پوتا معاویہ جو راست رو تھا، پھر مروان پھر اس کا بیٹا عبد الملک، جو ابن زبیر کا ان کی وفات تک مقابلہ کرتا رہا، پھر وہ آپ کے بعد بقیہ علاقے میں خود مختار بادشاہ بن گیا، پھر شریف الاصل ولید جو جامع کا بانی ہے جس کی مانند کوئی جامع نہیں، پھر تنجی سلیمان اور عمر، پھر یزید ہشام اور عہد شکن یعنی ولید بن یزید فاسق پھر یزید بن ولید جس کا لقب ناقص تھا، حالانکہ وہ کامل تھا، پھر ابراہیم جو عقلمند تھا، پھر مروان الحمار الجعدی، یہ ان کا آخری خلیفہ ہے اور تکمیل پر اللہ کا شکر ہے اسی طرح انعام ہم پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر عدوی تکمیل کے مطابق حضرت نبی کریم ﷺ پر درود ہو اور آپ کے آل و اصحاب پر دیگر اوقات و اعصار میں بھی درود ہو، یہ اشعار کا تب نے نظم کیے ہیں اور آٹھ مناقب کا تمہ ہے۔

اور خلیفہ کے ساتھ قتل ہونے والوں میں دمشق میں الجوزیہ کا وقف کرنے والا استاد دار الخلافہ محی الدین یوسف بن الشیخ جمال الدین ابو الفرج الجوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ بن حماد بن احمد بن جعفر بن عبداللہ بن القاسم بن النضر بن محمد بن ابی بکر الصدیق القرشی البیہمی، البکری البغدادی الحسینی المعروف بابن الجوزی بھی شامل تھا۔

آپ ذوالقعدہ ۵۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھ کر خوبصورت جوان بنے اور جب آپ کا باپ فوت ہوا تو آپ نے اس کی جگہ پر بہت اچھا وعظ کیا، پھر آپ ہمیشہ ہی مناصب دنیا میں متقدم رہے اور آپ اچھے وعظ اور اچھے اشعار کے ساتھ بغداد کے محتسب بھی بنے، پھر آپ نے ۶۳۲ھ میں المستنصر یہ میں حنا بلکہ تدریس کا کام سنبھالا اور آپ اور بھی تدریس کراتے تھے اور آپ نے دار الخلافہ کے استاد کا کام بھی سنبھالا اور آپ بنی ایوب وغیرہ خلفاء کی طرف سے ملوک کے ایلچی تھے اور آپ کی جگہ آپ کا بیٹا عبدالرحمن احتساب اور وعظ کے لیے کھڑا ہوا، پھر احتساب اس کے تین بیٹوں عبدالرحمن، عبداللہ اور عبدالکریم میں منتقل ہو گیا، اور یہ بھی اس کے ساتھ قتل ہو گئے۔ رحمہم اللہ

اور یحییٰ الدین احمد کے مذہب کا مصنف ہے۔ اور ابن الساعی نے آپ کے اچھے اشعار بیان کیے ہیں جن میں وہ اجتماعات اور اعیاد میں خلیفہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے جو فضیلت و فصاحت پر دلالت کرتے ہیں اور اس نے دمشق میں الجوزیہ کو وقف کیا اور یہ بہترین مدارس میں سے ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔

المصری الماریح رحمہ اللہ:

یحییٰ بن یوسف بن یحییٰ بن سوسر بن اہمر عبد السلام شیخ امام علامہ جوینی قسم نے علوم میں یگانا فاضل تھے جمال الدین ابو زکریا نصرصری فاضل ماریح، سنبلی تابعین بغدادی آپ کے ایشیا کا بڑا احقر۔ دل اللہ علیہ السلام کی مدح میں ہے اور آپ کا دیوان ان بارے میں مشہور و معروف ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لغت میں آپ لوصحاح ابو جبری عمل طور پر حفظ تھی اور آپ نے شیخ عبد القادر کے شاگرد شیخ علی بن ادریس کی صحبت اختیار کی آپ تیز فہم تھے اور نور سے بھڑکتے تھے اور آپ فی البدیہہ سرعت کے ساتھ فصیح و بلیغ اشعار نظم کرتے تھے اور آپ نے موفق الدین بن قدامہ کی تالیف الکافی اور مختصر الخرقی کو بھی نظم کیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں آپ کی جو مدائح ہیں ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیس جلدوں تک پہنچتی ہیں اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے مخلوقات میں سے صرف انبیاء کی مدح کی ہے اور جب تاتاری بغداد آئے تو آپ کو کرمون بن ہلا کو کی طرف بلا گیا تو آپ نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ نے اپنے گھر میں پتھر تیار کیے اور جب تاتاری آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو ان پتھروں سے مارا اور ان میں سے ایک جماعت کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان میں سے ایک کو اپنے سوئے سے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور آپ کی عمر ۶۸ سال تھی اور قطب الدین ایوبینی نے آپ کے دیوان سے کچھ اچھے اشعار الذیل میں آپ کے حالات میں بیان کیے ہیں جو پورے حروف ابجد پر حاوی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے طویل قصائد بیان کیے ہیں۔

البھاز ہیر صاحب الدیوان:

زہیر بن محمد بن علی بن یحییٰ بن الحسین بن جعفر البہلی العتقی، المصری، آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور قوص میں پروان چڑھے اور قاہرہ میں قیام کیا، آپ زبردست شاعر اور نہایت خوشخط شخص تھے، آپ کا دیوان مشہور ہے آپ سلطان صالح ایوب کے پاس آئے اور آپ لوگوں سے بھلائی کرنے اور ان سے شکر و دور کرنے میں بہت مروت کرنے والے تھے اور ابن خلکان نے آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دیوان کی روایت کی اجازت دی ہے اور قطب ایوبینی نے آپ کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔

حافظ زکی الدین المنذری:

عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد اللہ بن سلامہ بن سعد بن سعید امام علامہ محمد ابو زکی الدین المنذری الشافعی المصری، آپ اصلاً شامی ہیں اور مصر میں پیدا ہوئے اور وہاں طویل مدت تک شیخ الحدیث رہے اور طویل سالوں سے وفارہ اور رحلت آپ کی طرف ہو رہی تھی اور بعض کا قول ہے کہ آپ ۵۸۱ھ میں شام میں پیدا ہوئے اور کثیر سے سماع کیا اور سفر کیا اور طلب کیا۔ اور اس مقام کے لیے مشقت برداشت کی، حتیٰ کہ اپنے اہل زمانہ سے اس میں فوقیت لے گئے اور تصنیف کی اور مہارت حاصل کی اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کا اختصار کیا اور یہ پہلے اختصار سے بہترین ہے اور آپ کو لغت فقہ اور تاریخ میں ید طولیٰ حاصل تھا اور آپ ثقہ، حجت، متلاشی اور زاہد تھے اور آپ نے اس سال کی ۴۲ ذیقعدہ کو ہفتہ کے روز دار الحدیث کا ملیہ مصر میں وفات پائی اور القرافہ میں دفن ہوئے۔

انوار البوکر بن محمد بن محمد بن عبد العزیز:

ابن عبد الرحیم بن رستم اشعری مشہور یہودہ گو شاعر قاضی صدر الدین بن سناؤ الدولہ نے اسے گواہوں کے ساتھ کھڑیوں کے نیچے بٹھایا پھر حاتم شہر ناصر نے اسے بلایا اور اسے اپنے منشیوں اور مذہبیوں میں متامل کر لیا اور اسے فوجی خدمت دیے اور آپ اس فن سے کسی دوسرے فن کی طرف نکل گئے اور آپ نے ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام آپ نے ”الرجحان فی الخلاء والمجون“ رکھا ہے اور اس میں نظم و نثر اور یہودہ گوئی کی بہت سی باتیں بیان کی ہیں اور آپ کے ناقابل تعریف اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”عمر کی لذت پانچ چیزوں میں ہے اسے تو بے حیا شخص سے حاصل کروادیب فقیہ ہو جائے گا، وہ لذت شراب نوش

ساتھی، گلوکارہ لونڈی، محبوب، شراب اور اس شخص کو گالی دینے میں ہے جو اس کے بارے میں ملامت کرے۔“

وزیر ابن العلقمی رافضی:

محمد بن احمد بن محمد بن علی بن ابی طالب وزیر مؤید الدین ابوطالب ابن العلقمی وزیر المستعصم البغدادی اور اس نے المستعصم کے زمانے میں طویل مدت تک دار الخلافہ کا استاد بن کر اس کی خدمت کی، پھر مستعصم کا وزیر بنا۔ اپنے بارے میں اور مستعصم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بڑا وزیر بن گیا، حالانکہ وہ ان شاء وادب میں فاضل تھا اور وہ خبیث رافضی اور اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں بری نیت رکھتا تھا اور اسے مستعصم کے زمانے میں اس قدر تعظیم اور وجاہت حاصل تھی جو کسی دوسرے وزیر کو حاصل نہ تھی، پھر اس نے اسلام کے خلاف مدد دی اور اس کے ساتھی کفار ہلا کو خان تھے، حتیٰ کہ اس نے اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے، پھر اسے ان تاتاریوں کے ہاتھوں جن کی اس نے مدد کی تھی، ذلت اور اہانت پہنچی اور اس سے اللہ کا پردہ ہٹ گیا اور اس نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھا اور آخرت کا عذاب بڑا سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اسے ایک عورت نے دیکھا اور وہ تاتاریوں کے زمانے میں ذلت و رسوائی کی حالت میں ایک ٹوپر سوار تھا، اور اس پر نشان لگا ہوا تھا، اور اسے ایک ہانکنے والا ہانک رہا تھا، اور اس کے گھوڑے کو مار رہا تھا اور وہ اس کے ایک طرف کھڑے ہو کر اسے کہنے لگی اے ابن العلقمی بنو عباس اس طرح تیرے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے؟ یہ بات اس کے دل میں گڑھی اور وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا، یہاں تک کہ غم، دھوکے، تنگی اور قلت و ذلت میں اس سال کے جمادی الآخرہ کے آغاز میں مر گیا اور اس کی عمر ۶۳ سال تھی اسے روافض کی قبور میں دفن کیا گیا اور اس نے اپنے دونوں کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی ایسی اہانت دیکھی جو بیان نہیں کی جاسکتی اور اس کے بعد اس کے خبیث بیٹے نے وزارت سنبھالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم بستیوں کی طرح اسے جلد ہی پکڑ لیا، اور ایک شاعر نے اس کی بھوکرتے ہوئے اس کے بارے میں کہا ہے۔

”اے فرقہ ہائے اسلام نو، کرو اور افسوس کے ساتھ اس مصیبت پر جو مستعصم پر نازل ہوئی ہے مذہب کرو۔ وزارت کا صدر مقام اس کے زمانے سے قبل ابن فرات کے لیے تھا، پس وہ ابن العلقمی کے لیے ہو گیا۔“

محمد بن عبد الصمد بن عبد اللہ بن حیدرہ:

فتح الدین ابو عبد اللہ العدل محتسب دمشق، آپ قابل تعریف اچھے طریق پر تھے اور آپ کا دادا العدل نجیب الدین ابو محمد

عبداللہ بن حیدرہ تھا اس نے ۵۹۰ھ میں اس مدرسہ کو وقف کیا جو الزبدائی مقام پر ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور اسے نیک جزا دے۔

القرطبی مؤلف المفہم شرح مسلم

احمد بن محمد بن ابراہیم بن عمر ابو العباس الفزاری قرظی مالکی فقیہ محدث اور اسکندریہ کا مدرس آپ ۵۷۸ھ میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور وہاں کثیر سے سماع کیا اور صحیحین کا اختصار کیا اور صحیح مسلم کی شرح لکھی جس کا نام المفہم ہے اور اس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔

کمال اسحاق بن احمد بن عثمان:

آپ شافعیہ کے ایک مشائخ ہیں آپ سے شیخ محی الدین النووی وغیرہ نے علم حاصل کیا ہے آپ الروایہ میں مدرس تھے آپ نے اس سال کے ذوالقعدہ میں وفات پائی۔

العماد داؤد بن عمر بن یحییٰ بن عمر بن کامل:

ابو المعالی ابو سلیمان الزبیدی المقدسی ثم الدمشقی خطیب بیت الآبار آپ نے ابن عبدالسلام کے بعد جامع اموی میں چند سال خطابت کی اور الغزالیہ میں درس دیا پھر آپ بیت الآبار میں واپس آگئے اور وہیں وفات پائی۔

علی بن محمد بن الحسین صدر الدین ابوالحسن بن النیرار شیخ الشیوخ بغدادی آپ پہلے امام مستصم کے مودب تھے اور جب تھوڑے وقت کے لیے خلافت اس کے پاس آئی تو اس نے آپ کو بلند کیا اور عظمت دی اور آپ کو اس کے ہاں وجاہت حاصل ہوئی اور امور کی باگ ڈور آپ کے پاس آگئی پھر آپ تاتاریوں کے ہاتھوں یوں ذبح ہوئے جیسے کبریٰ ذبح ہوتی ہے۔

شیخ علی عابد خباز:

بغداد میں آپ کے اصحاب و اتباع تھے اور آپ کا زادیہ بھی تھا جس کی زیارت کی جاتی تھی تاتاریوں نے آپ کو قتل کر کے آپ کے زادیہ کے دروازے کی کوڑی پر پھینک دیا آپ تین دن وہاں پڑے رہے حتیٰ کہ کتے آپ کا گوشت کھا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے اس حال کی خبر دے دی تھی۔

محمد بن اسماعیل بن احمد بن ابی الفرج ابو عبد اللہ المقدسی:

آپ راد کے خطیب تھے آپ نے کثیر سے سماع کیا اور نوے سال زندہ رہے اور ۵۵۳ھ میں پیدا ہوئے اور لوگوں نے آپ کو کثیر سے سماع کرایا اور آپ نے اس سال اپنے شہر راد میں وفات پائی۔

شاہ موصل بدر لؤلؤ:

اس کا لقب الملک الرحیم ہے اس نے سو سال^۱ کی عمر میں وفات پائی اور اس نے تقریباً پچاس سال موصل پر حکومت کی یہ

① مصری نسخہ میں ۸۰ سال کی عمر میں وفات پانے کا ذکر ہے۔

عقلمندانہ اور فریب کار شخص تھا یہ اپنے اتنا کے چہرے کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے انہیں تباہ کر دیا اور موصل سے اتنا کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور جب عظیم فتوح معز کے بعد بلا کوخان بغداد سے الگ ہوا تو یہ اس کی خدمت میں اس کا صحیح بن کر گیا اور اس کے پاس مدانا اور تحائف بھی تھے سو اس نے اس کا اعزاز و انعام بھی لیا اور یہ اس نے ہاں سے واپس آ کر تھوڑے دن ہی موصل میں ٹھہرا پھر مر گیا اور اسے اس کے مدرسہ بدریہ میں دفن کیا گیا اور لوگوں نے اس کی حسن سیرت اور عدل گستری کے باعث اس پر غم و افسوس کیا اور شیخ عز الدین نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ کو اس کے لیے تصنیف کیا تو اس نے انہیں انعام دیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور یہ ایک شاعر کو ایک ہزار دینار دیا کرتا تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹے صالح اسماعیل نے حکومت سنہالی اور یہ بدر الدین لؤلؤ ارمنی تھا اسے ایک درزی نے خرید لیا پھر یہ ملک نور الدین ارسلان شاہ بن عز الدین مسعود بن مودود بن زنگی ابن آقسقہ شاہ موصل کے پاس آ گیا اور یہ خوبصورت شخص تھا پس اس نے اس کے ہاں رتبہ حاصل کر لیا اور اس کی حکومت میں پیش پیش رہا حتیٰ کہ سب باتیں اس کے گرد گھومتی تھیں اور ان کے ملک کی بقیہ جہات کے وفود اس کے پاس آنے لگے پھر اس نے اپنے استاد کے بیٹوں کو یکے بعد دیگرے دھوکے سے قتل کیا حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی اس کے پاس نہ رہا اور یہ خود مختار بادشاہ بن گیا اور اس کے معاملات صاف ہو گئے اور یہ ہر سال مزار علی پر ایک سنہری قندیل بھیجا کرتا تھا جس کا وزن ایک ہزار دینار ہوتا تھا اس نے تقریباً نوے سال عمر پائی اور یہ اپنے چہرے کی تروتازگی کی وجہ سے خوبصورت جوان تھا اور عوام اسے قضیب الذہب (سونے کی شاخ) کا لقب دیتے تھے اور یہ بڑا عالی ہمت، زیرک، زبردست مکار اور کبریٰ نظر کا آدمی تھا اور ہر سال اس کا مزار علی پر سنہری قندیل بھیجا اس کی کمی عقل اور اس کے شیعہ ہونے کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم

ملک ناصر داؤد معظم:

قطب الدین ایبونی نے اپنی التذیبل علی المرآة میں اس سال میں آپ کے حالات لکھے ہیں اور آپ کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اول سے آخر تک بیان کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کے حالات کو حوادث میں بیان کیا ہے اور یہ کہ آپ نے خلیفہ مستصمم کے پاس ۶۴۷ھ میں ایک امانت رکھی جس کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی، خلیفہ نے اس امانت سے انکار کر دیا اور آپ کے وفود بار بار اس کے پاس آئے اور اس نے اس کی واپسی کے بارے میں لوگوں سے توسل کیا لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اس شاعر سے جس نے خلیفہ کی مدح میں یہ شعر کہا تھا کہ۔

”اگر تو سقیفہ کے روز حاضر ہوتا تو تو ہی مقدم اور حسن و شجاعت کے باعث حیرت میں ڈالنے والا امام ہوتا۔“

کہا: تو نے غلط کہا ہے، امیر المومنین کے دادا حضرت عباسؓ، سقیفہ کے روز حاضر تھے، لیکن وہ مقدم نہیں تھے اور وہ امیر المومنین سے افضل ہیں اور مقدم صرف حضرت ابو بکرؓ تھے، خلیفہ نے کہا تو نے درست کہا ہے اور اسے خلعت دیا۔ اور اس شاعر ابو جیہ الفراری کو مصر کی طرف جلا وطن کر دیا اور ناصر داؤد کی وفات ابو یوسف سستی میں ہوئی جو اس کے نام لکھی ہوئی ہے اور اس کے جنازے میں شاہ دمشق بھی شامل ہوا۔

۱۵۷ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور دمشق اور حلب کا سلطان ملک ناصر صلاح الدین یوسف بن العزیز محمد بن ابی الظاہر غازی بن الناصر صلاح الدین تھا اور وہ اس کے اور مصریوں کے درمیان رہے والا تھا اور انہوں نے نور الدین علی بن امعر ایک ترکمانی کو اپنا بادشاہ بنالیا تھا اور اسے منصور کا لقب دیا تھا اور منصب بادشاہ ہلاکو خان نے شاہ دمشق ملک ناصر کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا۔ تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے العزیز کو بہت سے ہدایا کے ساتھ اس کے پاس بھیجا مگر ہلاکو خان نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ وہ اس کے باپ پر اپنے پاس نہ آنے کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا اور کہنے لگا میں خود اس کے ملک کی طرف جاؤں گا پس اس بات سے ناصر گھبرا گیا اور اس نے اپنی بیوی اور اہل کو الکرک کی طرف بھیج دیا تاکہ انہیں وہاں محفوظ کر دے اور اہل دمشق سخت خوفزدہ ہو گئے خصوصاً اس وقت جب انہیں اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے فرات کو کاٹ دیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ موسم سرما میں مصر کی طرف سفر کر گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ مر گئے اور لٹ گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

اور ہلاکو خان اپنے جنود و عساکر کے ساتھ شام آیا اور میا فارقین کو وہ ڈیڑھ سال سے سر کر رہا تھا سو اس نے اپنے بیٹے اشموط کو اس کی طرف روانہ کیا اور اس نے اسے بزور قوت فتح کر لیا اور اس کے بادشاہ کامل بن شہاب غازی بن عادل کو اتار کر اپنے باپ کے پاس بھیج دیا جو حلب کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اس نے اسے اپنے سامنے قتل کر دیا اور اشرف کے ایک غلام کو اس پر نائب مقرر کیا اور کامل کے سر کو شہروں میں گھمایا گیا اور وہ اس کے سر کو دمشق لائے اور اسے باب الفردائیس البرانی پر نصب کر دیا گیا پھر اسے باب الفردائیس الجوانی کے اندر مسجد الراس میں دفن کر دیا گیا اور ابو شامہ نے اس بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا ہے جس میں وہ اس کے فضل و جہاد کا ذکر کرتا ہے اور اسے مظلومانہ طور پر قتل ہونے میں حضرت حسینؑ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور اس کے سر کو آپ کے سر کے پاس دفن کیا گیا ہے۔

اس سال خواجہ نصیر الدین طوسی نے مراغہ شہر میں رصد گاہ بنائی اور بغداد میں اوقاف کی جو بہت سی کتب تھیں انہیں یہاں لے آیا اور اس نے ایک دارالحدیث بھی بنایا جس میں فلاسفہ کو مقرر کیا اور ہر ایک کے لیے دن رات کا تین درہم وظیفہ مقرر کیا اور دارالطب میں طبیب کے لیے ایک دن کے دو درہم مقرر کیے اور مدرسہ میں ہر فقیہ کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا اور دارالحدیث میں ہر محدث کے لیے ایک دن کا نصف درہم مقرر کیا۔

اور اس سال قاضی وزیر کمال الدین عمر بن ابی جرادہ جو ابن الحدیم کے نام سے مشہور ہے شاہ دمشق ناصر بن العزیز کی طرف سے ایلچی بن کر مصریوں سے تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدد مانگتا ہوا آیا اور وہ شام کے نزدیک آیا ہی چاہتے تھے اور وہ بلاد جزیرہ وغیرہ پر قابض ہو چکے تھے اور اشموط بن ہلاکو خان فرات کو پار کر کے حلب کے قریب آ گیا۔ اس موقع پر انہوں نے منصور بن المعز ترکمانی کے سامنے ایک مجلس منعقد کی اور قاضی مصر بدر الدین سنجاری اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام حاضر ہوئے اور انہوں نے فوج کی امداد کے لیے عوام کے کچھ اموال لینے کے بارے میں باہم گفتگو کی اور ابن عبدالسلام کی بات قابل اعتماد تھی اور اس کی گفتگو کا حاصل یہ تھا اس نے کہا جب بیت المال میں کچھ نہ رہے تو پھر تم سنہری حوضوں کے اموال اور دیگر چاندی اور زینت

کے ساتھ ساتھ ہی کہ انہوں نے جو مال دہرائے اور جو مال لوگوں کے ہاتھ سے لیا وہ سب لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اموال اور انفس کے ذریعے اسے دور کریں۔

ملک مظفر قنطر کی حکومت:

اس سال امیر سیف الدین قنطر نے اپنے استاد کے بیٹے نور الدین کو جس کا لقب منصور تھا، گرفتار کر لیا اور یہ کارروائی اس کے باپ کے غلاموں کے اکثر امراء کی غیر حاضری اور دوسروں کے شکار پر چلا جانے کی وجہ سے ہوئی اور جب اس نے اسے پکڑ لیا تو اسے اس کی ماں اور دونوں بیٹوں اور بہنوں کے ساتھ بلادالاشکری کی طرف بھجوا دیا اور خود سلطان بن گیا اور اپنا نام ملک مظفر رکھا اور یہ شخص مسلمانوں کے لیے رحمت تھا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست دی جیسا کہ اس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی۔ ان شاء اللہ اور اس کا وہ عذر جو اس نے فقہاء قضاة اور ابن العدم کے سامنے پیش کیا تھا واضح ہو گیا، اس نے کہا مسلمانوں کے لیے ایک قاہر سلطان کا ہونا ضروری ہے جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے اور یہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو مملکت کے انتظام کو نہیں جانتا۔

اور اس سال شاہ دمشق ملک ناصر فناء کی طرف گیا، وہ بہت سی افواج رضا کاروں اور بدوؤں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ مغلوں کے مقابلہ میں کمزور ہے تو اس نے اس فوج کو چھوڑ دیا اور نہ وہ چلا اور نہ وہ چلے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

صدر الدین اسعد بن المنجاء بن برکات بن مؤمل:

التونخی المغربي ثم الدمشقی الحنبلی، آپ ایک معتبر مالدار صاحب مروت اور بہت صدقات کرنے والے تھے آپ نے حنابلہ کے لیے مدرسہ وقف کیا، اور آپ کی قبر وہاں پر قاضی مصر کی قبر کے پہلو میں درب الریحان کے سرے پر جامع اموی کی طرف ہے۔ آپ نے مدت تک جامع کی نگرانی کی، اور بہت سی نئی چیزیں بنائیں، جن میں سے جامع کے سامنے سوق النخاسین بھی ہے اور اب آپ نے سناروں کو اس کی جگہ منتقل کر دیا ہے اور اس سے قبل وہ پرانے سناروں میں سے تھے اور آپ نے ان دوکانوں کو جو زیارت کے ستونوں کے درمیان میں از سر نو تعمیر کیا اور جامع میں بہت سے اموال پھیلا دیئے، اور آپ کے صدقات بہت سے تھے۔ اور آپ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیمیا کے فن کو جانتے تھے اور اس کے ساتھ آپ نے صحیح چاندی بھی بنائی اور میرے نزدیک یہ صحیح نہیں اور نہ آپ کے متعلق یہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم

شیخ یوسف الاقمینی:

آپ اقمینی کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ آپ قمین حمام نور الدین شہید میں ٹھہرتے تھے اور آپ لمبے کپڑے پہنتے تھے جو

زمین پر نشان ڈالتے جاتے تھے اور آپ کپڑوں میں پیشاب کر دیتے تھے اور آپ کا سر ننگا ہوتا تھا، لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے انوائس و سٹوف بہت ہیں اور بہت سے محوام اور دوسرے لوگ آپ کی آنکھی اور ولایت کا استناد رکھتے ہیں اور یہ خیال اس دہہ سے ہے کہ وہ صلاح و ولایت کی شروط کو نہیں جانتے اور انہیں یہ بھی علم نہیں کہ کشف، تک، فاجر، مومن، کافر، رہبان، دجال اور ابنِ صادق وغیرہ سے بھی صادر ہوتے ہیں، ہاں بہت پوری پوری سنتے ہیں اور اسے انسانوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، خصوصاً اس شخص کے کانوں میں، جو مجنون نجاست آلود کپڑوں والا ہو۔

ضروری ہے کہ صاحبِ حال کا امتحان کتاب و سنت سے کیا جائے اور جس کا حال کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ صالح شخص ہوگا، خواہ اسے کشف ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اور جس کا حال کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو وہ صالح شخص نہیں، خواہ اسے کشف ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی شخص کو پانی پر چلتے اور ہوا میں اڑتے دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، حتیٰ کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرو۔

اور جب یہ شخص فوت ہوا تو اسے قاسیون کے دامن میں جو قبرستان ہے اس میں دفن کیا گیا اور وہ الرواحیہ کے مشرق میں ایک مشہور قبرستان ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اور بعض معتقد عوام نے اس کا اہتمام کیا ہے، پس آپ نے اسے آراستہ کیا اور آپ کی قبر پر لکھے ہوئے پتھر لگائے اور یہ سب بدعتیں ہیں۔

اور اس کی وفات اس سال کی ۶ شعبان کو ہوئی اور شیخ ابراہیم بن سعید جیعانہ کا خیال تھا کہ وہ قمینی کی زندگی میں شہر میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اور جس روز قمینی فوت ہوا وہ شہر میں داخل ہو گیا اور عوام بھی اس کے ساتھ تھے، وہ دمشق میں چینٹے ہوئے داخل ہوئے اور آواز دے رہے تھے کہ ہمیں شہر میں داخل ہونے کا اذن مل گیا ہے اور وہ ہر کائیں کائیں کرنے والے کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ نور علم سے روشنی حاصل نہیں کرتے، جیعانہ سے دریافت کیا گیا آج سے پہلے تجھے شہر میں داخل ہونے سے کس نے منع کیا تھا؟ اس نے کہا میں جب بھی شہر کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر آیا میں نے اس درندے کو اس میں بیٹھے پایا اور میں داخل ہونے کی سکت نہ پاسکا اور اس نے شاعور میں سکونت اختیار کر لی تھی اور یہ جھوٹ، مکروہت، پیر اور شعبہ ہے اور جیعانہ کو اس کی قبر کے پاس دامن کوہ میں دفن کیا گیا، اور اللہ بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے۔

شمس علی بن الشعسی محدث:

آپ احتساب میں صدر البکری کے نائب تھے آپ نے کثیر سے پڑھا اور سماع کیا اور سماع کروایا اور اپنی تحریر میں بہت کچھ لکھا۔

ابو عبد اللہ الفاسی شارح شاطبیہ:

آپ نے کنیت سے شہرت پائی، بعض نے بیان کیا ہے کہ آپ کا نام قاسم ہے آپ نے حلب میں وفات پائی، آپ عربی زبان اور قرأت وغیرہ کے فاضل تھے اور آپ نے شاطبیہ کی بہت اچھی شرح کی ہے اور شیخ شہاب الدین ابو شامہ نے اس کی تحسین کی ہے اور انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے۔

انعم احوال بدر مفضل:

آپ اللہ سیہ میں فاضلیہ سے نکحے اور آپ کو انسفی خطیب العقیبہ بدر الدین یحییٰ بن اشع بن خالد بن عبد السلام سے اجازت حاصل تھی اور آپ کو باب الصغیر میں آپ کے ۱۰۱۰ کے پاس فہم کیا گیا اور آپ کا جنازہ بھر پور تھا۔ رحمہ اللہ

سعد الدین محمد بن اشع محی الدین بن عربی:

ابوشامہ نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی فنسلیت ادب اور شعر کی تعریف کی ہے۔ اگرچہ آپ اپنے باپ کے اتباع میں سے نہ تھے اور ابوشامہ نے اس سال میں ناصر داؤد کی وفات کا ذکر کیا ہے۔

سیف الدین بن صبرہ:

دمشق کی پولیس کا منتظم ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو ایک سانپ نے آکر اس کی رانوں کو ڈس لیا۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے کفن میں لپٹ گیا اور لوگ اس کے ہٹانے سے عاجز آ گئے راوی نے بیان کیا ہے کہ بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ نصیری رافضی خبیث اور ہمیشہ شراب پینے والا تھا ہم اللہ سے پردہ داری اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

انجیب بن شعیشہ دمشقی:

دمشق کا ایک گواہ ہے اس نے سماع حدیث کیا اور اپنے درب البانیاسی والے گھر کو وقف کر کے دارالحدیث بنا دیا۔ اور یہی وہ گھر ہے جس میں ہمارے شیخ الحمزی دارالحدیث اشرفیہ میں منتقل ہونے سے پہلے رہائش رکھتے تھے۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن شعیشہ یعنی انجیب ابوالفتح نصر اللہ بن ابی طالب الشیبانی کذب اور بے دینی میں مشہور ہے اور یہ ان گواہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قدح کی گئی ہے اور یہ اس لائق نہیں کہ اس سے علم حاصل کیا جائے اور احمد بن یحییٰ الملقب بالصدر ابن سنی الدولہ نے قاضی ہونے کی حالت میں اسے بٹھایا تو ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا۔

”بد بخت شعیشہ گواہی دینے بیٹھا ہے تم ہلاک ہو جاؤ جو کچھ ظاہر ہوا ہے اس میں اس نے تجاؤ نہیں کیا، کیا زلزال نے بلا دیا ہے؟ یا دجال کا خروج ہو گیا ہے یا ہدایت والے لوگ ناپید ہو گئے ہیں؟ اس کمزور عقیدہ شخص پر تعجب ہے جو شریعت سے جاہل ہے اور انہوں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔“

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ۶۵۷ھ میں ایک زندیق فوت ہو گیا جو فلسفہ اور علوم اوائل میں غور و فکر کرتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مدارس میں رہتا تھا اور میری اطلاع کے مطابق اس نے نوجوان طالب علموں کے عقاید کو بگاڑ دیا۔ اور اس کے باپ کا خیال تھا کہ وہ ری کے خطیب رازی کا شاگرد ہے جو صاحب تصانیف ہیں۔ سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔

۶۵۸ھ

اس سال کا آغاز جمعرات کے روز ہوا اور لوگوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور عراقین اور خراسان وغیرہ بلاد مشرق پر شاہ تاتار ہلاکو خان کا اقتدار تھا اور دیا مصر کا سلطان ملک مظفر سیف الدین قطز تھا جو المعز ایک ترکمانی کا غلام تھا اور دمشق و حلب کا سلطان ملک ناصر بن العزیز بن الظاہر تھا اور بلاد الکوک اور الشوبک پر ملک مغیث بن عادل بن کامل محمد بن عادل ابی بکر بن ایوب کی حکومت تھی

اور وہ شاہ دمشق ناصر کے ساتھ مل کر مسریوں کے خلاف مسروف پیکار تھا اور ان دونوں کے ساتھ امیر رکن الدین بیہ س البندقداری بھی تھا انہوں نے مسریوں کے ساتھ ہتک کرے اور ان سے مسر کو کھین لینے کا عزم کر لیا اور لوگ ان کی حالت میں تھے کہ متواتر اطاعات آنے لگیں کہ تاتاری بادشاہ کا قصد کیے ہوئے ہیں اور اچانک مغللوں کی ایک فوج نے اپنے بادشاہ ملا کو خان کے ساتھ فرات کو ان پیوں کے ذریعے پار کیا جو انہوں نے بنائے تھے۔ اور وہ اس سال کی ۲۲ ستمبر کو حلب پہنچے اور انہوں نے سات رو رات تک اس کا محاصرہ کیے رکھا پھر انہوں نے امان کے ذریعے اسے فتح کر لیا۔ پھر اس کے باشندوں کے ساتھ خیانت کی اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا جن کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے اور اموال لوٹ لیے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اور ان کے ساتھ کبھی وہی کچھ ہوا جو اہل بغداد کے ساتھ ہوا اور وہ گھروں میں گھس گئے۔ اور انہوں نے وہاں کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون

اور قلعہ ایک ماہ تک ان سے سر نہ ہوسکا پھر انہوں نے امان کے ذریعے اس کی سپرد داری لے لی اور شہر کی فضیلیں اور قلعے کی فضیلیں گرا دیں اور حلب ایک خارشگی گدھے کی طرح باقی رہ گیا اور اس کا نائب ملک معظم تو ران شاہ بن صلاح الدین دانا اور علقند شخص تھا، لیکن فوج نے جنگ کرنے کے بارے میں اس سے اتفاق نہ کیا اور اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہوتا ہے اور ہلا کو خان نے اہل حلب کو پیغام دینے کے لیے آدمی بھیجا کہ وہ انہیں کہے کہ ہم دمشق کے مالک ناصر سے جنگ کرنے آئے ہیں تم ہمارے لیے رسالے کا دست تیار کرو اگر ہمیں فتح ہوئی تو تمام شہر ہماری حکومت میں ہوں گے اور اگر ہم نے شکست کھائی تو تم اپنی پسند کے متعلق اگر رسالے کے دستے کو قبول کرنا چاہو تو قبول کر لینا ورنہ اسے آزاد کر دینا انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہمارے پاس تلوار کے سوا اور کوئی چیز نہیں پس وہ ان کی کمزوری اور ان کے جواب سے حیران رہ گیا اور اسی وقت اس نے دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ کر شہر کا گھیراؤ کر لیا اور جو کچھ ہوا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوا اور جب حلب فتح ہو گیا تو سہ ماہ کے حکمران نے اس کی چابیاں ہلا کو خان کے پاس بھیج دیں اور اس نے ایک عجمی شخص کو اس پر نائب مقرر کیا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذریت سے ہے اسے خسرو شاہ کہا جاتا تھا اس نے حلب شہر کی طرح اس کی فضیلیں گرا دیں۔

دمشق پر قبضہ کرنے اور اس سے ان کی حکومت کے جلد زوال پذیر ہونے کا بیان:

ہلا کو خان نے حلب میں فروکش ہونے کی حالت میں اپنی حکومت کے ایک امیر کبیر کتبغا نوین کے ساتھ ایک فوج روانہ کی اور وہ صفر کے آخر میں دمشق پہنچی اور اس نے کسی رکاوٹ کے بغیر اس پر قبضہ کر لیا بلکہ شہر کے بڑے لوگوں نے اسے فراخ دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور ہلا کو خان نے اہل شہر کے لیے امان لکھی جسے میدان اخضر میں پڑھا گیا اور شہر میں اس کا اعلان کیا گیا اور لوگوں نے خیانت کے ڈر سے مان لیا جیسا کہ اہل حلب کے ساتھ ہوا تھا یہ اور قلعہ مضبوط اور مستور تھے اور اس کے اوپر مجانبق نصب تھیں اور حالت بہت نازک تھی پس تاتاری بھی ایک منجلیق لائے جو ایک چھکڑے پر لدی ہوئی تھی اور گھوڑے اسے کھینچ رہے تھے اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے ہتھیار بہت سی گایوں پر تھے پس اس نے قلعہ کی غربی جانب مجانبق نصب کر دیں اور بہت سی دیواروں کو گرا دیا اور انہوں نے اس کے پتھروں کو لے کر قلعہ پر موسلا دھار بارش کی طرح سنگباری کی اور اس کے بہت سے برجوں کو گرا دیا اور وہ گرنے کے لیے ترخ گئیں اور اس کے متولی نے دن کے آخری حصے میں انہیں مصالحت کا جواب دیا اور انہوں نے اسے

فتح کر لیا اور جو زبر میں اس میں موجود تھیں انہیں برباد کر دیا اور اس کے بلند برجوں کو گرا دیا اور یہ اس سال کی ۱۵ جمادی الاولیٰ کا واقعہ ہے اور انہوں نے اس نے متولی بدرالدین قراچا اور اس کے لقب جمال الدین ابن اسیر فی سنی توشل سردیا اور انہوں نے تہران کا قلعہ کو ان کے ایک امیر اہل بیان کے سپرد کر دیا اور وہ بلعوں دین انصاری کی عزت کے ساتھ ان کے اساتذہ اور مشیخوں نے اس سے ملاقات کی اور اس نے ان کی بہت عزت کی اور ان کے گرجوں کی زیارت کی اور اس کی وجہ سے انہیں حکومت اور غلبہ حاصل ہو گیا اور نصاریٰ کی ایک پارٹی ہلاکو خان کے پاس گئی اور اپنے ساتھ ہدایا و تحائف بھی لے گئی اور وہ اس کے پاس آئے تو ان کے پاس اس کی جانب سے امان کا فرمان بھی تھا اور وہ باب تو ما سے داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک منصوب صلیب بھی تھی جسے وہ لوگوں کے سروں پر رکھتے تھے اور وہ اپنے شعار کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے صحیح دین، دین مسیح ظاہر ہو گیا ہے اور وہ دین اسلام اور اہل اسلام کی مذمت کرتے تھے اور ان کے برتن بھی تھے جن میں شراب تھی اور وہ جس مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرتے اس کے نزدیک شراب کا چھڑکاؤ کرتے اور جو شخص بھی گلی کوچوں میں اس کے پاس سے گزرتا اسے حکم دیتے کہ وہ ان کی صلیب کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ درب الحجر سے داخل ہوئے اور شیخ ابوالیمان کی خانقاہ کے پاس ٹھہر گئے اور انہوں نے اس کے پاس شراب کا چھڑکاؤ کیا اور اسی طرح درب الحجر کی مسجد کے چھوٹے اور بڑے دروازے پر چھڑکاؤ کیا اور بازار سے گزر کر درب الریحان یا اس کے پاس پہنچ گئے اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں کلیسائے مریم کے بازار کی طرف لوٹا دیا اور ان کے خطیب نے ایک دوکان کے چبوترے پر جو بازار کے کونے پر تھا کھڑے ہو کر دین نصاریٰ کی تعریف کی اور دین اسلام اور اہل اسلام کی مذمت کی انا للہ وانا الیہ راجعون پھر اس کے بعد وہ کلیسائے مریم میں داخل ہوئے جو آباد تھا اور یہی اس کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ قطب الدین نے اپنی کتاب الذیل علی المرآة کہ انہوں نے کلیسائے مریم میں ناقوس بجایا۔

راوی بیان کرتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب لے کر جامع مسجد میں داخل ہو گئے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر تاتاریوں کی مدت دراز ہو تو وہ بہت سی مساجد وغیرہ کو گرا دیں گے اور جب شہر میں یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں کے قضاة، گواہ اور فقہاء جمع ہوئے اور اس واقعہ کی شکایت کرنے کے لیے قلعہ کی سپردداری لینے والے اہل سیان کے پاس قلعہ میں گئے پس ان کی اہانت کی گئی اور انہیں دھتکار دیا گیا اور نصاریٰ کی بات کو اس نے ان پر مقدم کیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

یہ واقعہ اس سال کے آغاز میں ہوا اور سلطان شام ناصر بن العزیز و طاعة برزہ میں مقیم تھا اور اس کے ساتھ امراء اور شاہزادگان کی بہت سی افواج تھیں تا اگر تاتاری ان کے پاس آئیں تو وہ ان سے جنگ کریں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں امیر بیہر س البندقداری بھی بحر یہ کے ایک دستے کے ساتھ موجود تھے لیکن افواج کے درمیان اتفاق نہ تھا اس لیے کہ منشاء الہی بھی تھا اور امراء کی ایک جماعت نے ناصر کو معزول کرنے اور اسے قید کرنے اور اس کے سگے بھائی ملک الظاہر علی کی بیعت کرنے کا عزم کیا پس جب ناصر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور فوجیں ادھر ادھر منتشر ہو گئیں اور امیر رکن الدین بیہر س اپنے اصحاب کے ساتھ غزہ کی طرف آیا اور ملک مظفر قطر نے اسے اپنی طرف بلایا اور اسے مقدم کیا اور قلیوب اسے جاگیر میں دیا۔ اور اسے وزیر ہاؤس میں اتارا اور اس کے ہاں اس کی شان بڑھ گئی اور اس کی موت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی۔

عینِ جالوت کا معرکہ:

اس سال کے رمضان کے آخری دن میں ان سب باتوں کا نوٹ ہوا اور اسی میں دن ہی گزرے تھے۔ تین جالوت میں تیار ہوئے۔ مسلمانوں کے فتح پانے کی بشارت آگئی اور یہ ائمہ یوں ہے کہ جب شاہِ مصر ملکِ مظفر نظر کو اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے شام میں وہ پتھ لیا ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے سب شہروں کو لوٹ لیا ہے اور غزہ تک پہنچ گئے ہیں اور وہ مصر میں داخل ہونے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور شاہِ دمشق ملکِ ناصر نے بھی مصر کی طرف کوچ کرنے کا عزم کر لیا۔ کاش وہ ایسا کرتا۔ اور ملکِ ناصر کے ساتھ حمہ کا حکمران اور بہت سے امراء اور شہزادگان بھی تھے اور وہ قطیف پہنچ گیا اور ملکِ مظفر قطر نے حمہ کے حکمران کی عزت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ وفاداری کے صلہ میں اسے اس کا شہر دے گا، مگر ملکِ ناصر مصر میں داخل نہ ہوا بلکہ بنی اسرائیل کے تیبہ کی جانب واپس پلٹ گیا اور جو عوام اس کے ساتھ تھے وہ مصر میں داخل ہو گئے اور اگر وہ بھی داخل ہو جاتا تو معاملہ اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا لیکن وہ عداوت کی وجہ سے ان سے ڈر گیا اور انکرک کی جانب مڑ گیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا اور کاش وہ وہیں رہتا، لیکن وہ مضرب ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اور کاش وہ اس میں چلتا چلا جاتا۔ اور اس نے اعراب کے ایک امیر سے پناہ مانگی اور تاتاریوں نے اس کا قصد کیا اور وہاں جو اموال تھے انہیں تلف کر دیا اور گھروں کو گرا دیا اور چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا اور ان نواح میں جو اعراب تھے انہوں نے ان پر حملہ کر کے ان میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا اور ان کی اولاد اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اور اس کے بعد عربوں نے ان سے قصاص لیا اور انہوں نے ان کے چرنے والے گھوڑوں پر ۱۵ اشعبان کو غارت گری کی اور سب کو ہانک کر لے گئے اور تاتاریوں نے بھی ان کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے غبار کو بھی نہ مل سکے اور نہ ان سے کوئی گھوڑا یا گدھا واپس لاسکے اور تاتاریوں نے مسلسل ناصر کے تعاقب میں رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے زیزی کے تالاب پر پکڑ لیا اور اسے اس کے چھوٹے بیٹے اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنے بادشاہ ہلاکو خان کے پاس بھیج دیا جو حلب میں اتر ا ہوا تھا اور وہ اس کے قیدی رہے، حتیٰ کہ آئندہ سال اس نے انہیں قتل کر دیا، جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔

حاصل کلام یہ کہ مظفر قطر کو جب ان واقعات کی اطلاع ملی جو تاتاریوں نے محروسہ شام میں کیے تھے اور یہ کہ وہ شام میں اپنی حکومت کے استوار کرنے کے بعد دیارِ مصر میں داخل ہونے کا عزم کیے ہوئے ہیں تو اس نے ان کے سبقت کرنے سے قبل ان کی طرف سبقت کی اور اپنی فوجوں کے ساتھ باہر نکلا اور وہ اس پر متفق تھیں، حتیٰ کہ شام پہنچ گیا اور مغل فوج بھی اس کے لیے بیدار ہوئی اس کا سالار کتبغا نوین تھا اور اس وقت وہ بقا میں تھا، پس اس نے شاہِ حمص اشرف اور مجیر ابن الزکی سے مشورہ کیا اور انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو سے مدد لیے بغیر مظفر کا سامنا نہیں کر سکتا، مگر اس نے اس کے ساتھ جلد جنگ کرنے کے سوا اور کوئی بات نہ مانی، پس وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے اور مظفر ان کی طرف روانہ ہو گیا اور ۲۵ رمضان بروز جمعہ عینِ جالوت پر ان کا اجتماع ہوا اور انہوں نے زبردست جنگ کی اور اللہ کے فضل سے اسلام اور اہل اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے انہیں زبردست شکست دی اور مغلوں کا امیر کتبغا نوین اور اس کے گھر کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔

کہتے ہیں کہ کتبغا نوین کو امیر جمال الدین آقوش شمشی نے قتل کیا اور اسلامی فوج نے ہر مقام پر قتل کرتے ہوئے ان کا

تعاقب کیا اور حماد کے حکم ان ملک منصور نے ملک مظفر کے ساتھ مل کر سخت جنگ کی اور اس طرح امیر فارس الدین اقطاعی المستعرب سے کسب کی اور وہ خون کا امیر بنا اور اس سے پہلے کونین کی جماعت سے ملک حمید بن اعزیز بن معاویہ کو مدین بنا لیا اور مظفر نے اس سے قتل کرنے کا حکم دیا اور شہر شمس اشرف نے امان طلب کی یہ تاریخوں کے ساتھ تھا اور ہلاکو خان نے اسے سارے شام کا نائب مقرر کیا تھا اسے ملک مظفر نے امان کی اور اس کو حمس واپس کر دیا اور اس طرح اس نے منصور کو حماد واپس کر دیا اور مزید اسے المعروف وغیرہ کا علاقہ بھی دے دیا اور اس نے امیر شرف الدین عیسیٰ بن مہنا بن مانع امیر العرب کو سلمیہ کا علاقہ دے دیا۔ اور امیر تیسرے البندقداری اور بہادری کی ایک جماعت تاریخوں کا تعاقب کر کے انہیں ہر جگہ قتل کرنے لگے یہاں تک کہ ان کے پیچھے پیچھے حلب پہنچ گئے اور ان میں سے جو لوگ دمشق میں تھے۔ وہ اتوار کے روز ۲۷ رمضان کو بھاگ گئے اور دمشق کے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں قتل کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں سے قیدیوں کو چھڑانے لگے اور اس کی بشارت بھی آگئی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے لطف سے اسے درست کیا اور قلعہ سے خوشخبریوں کی آواز نے اسے جواب دیا اور مومنین نصرت الہی سے شاداں و فرحاں ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی اور یہود و نصاریٰ اور منافقین کو ذلیل کیا اور ان کی ناپسندیدگی کے باوجود اللہ کا دین غالب آ گیا اس موقع پر مسلمانوں نے اس کلیسا کی طرف سبقت کی جس سے صلیب نکلی تھی اور جو کچھ اس میں موجود تھا اسے لوٹ لیا اور اسے جلادیا اور اس کے ارد گرد آگ پھینک دی اور نصاریٰ کے بہت سے گھر جل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے پر کر دیا اور ایک شخص نے کلیسا الیعاقبہ کو جلادیا اور ایک گروہ نے یہود کو لوٹنے کا ارادہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں وہ پرستار ان صلیب کی طرح سرکش نہیں پائے گی اور عوام نے جامع کے درط میں ایک رافضی شیخ کو قتل کر دیا جو لوگوں کے اموال پر تاریخوں کو رقیق بناتا تھا اسے فخر محمد بن یوسف بن محمد الخنی کہا جاتا تھا وہ بدنیت اور مسلمانوں کے اموال پر ان کی مدد کرنے والا تھا اللہ اسے ہلاک کرے اور انہوں نے اس جیسے منافقین کی ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ظالموں کی بیخ کنی ہوگی واللہ رب العالمین اور ہلاکو خان نے تمام شہروں مدائن شام جزیرہ موصل مار دین اور اکراد وغیرہ ذالک کے لیے قاضی کمال الدین عمر بن بدار التغلیسی کو قاضی بنانے کا حکم بھیجا اور آپ دمشق میں پندرہ سال سے قاضی صدر الدین احمد بن یحییٰ بن ہبہ اللہ ابن سنی الدولہ کے نائب عدالت تھے اور ۲۶ ربیع الاول کو حکم پہنچا تو اسے میدان اخضر میں پڑھا گیا اور وہ دمشق میں باختیار فیصلہ کرنے والے بن گئے اور آپ ایک فاضل آدمی تھے اور دونوں معزول قاضی صدر الدین بن سنی الدولہ اور محی الدین ابن الزکی حلب میں ہلاکو خان کی خدمت میں گئے اور ابن الزکی نے ابن سنی الدولہ کو دھوکہ دیا اور بہت سے اموال خرچ کیے اور دمشق کی قضا سنبھال لی اور دونوں واپس آ گئے اور ابن سنی الدولہ نے بعلبک میں وفات پائی اور ابن الزکی قضا پر راضی ہو گیا اور اس کے پاس اس کا حکم اور سنہر اخلعت بھی تھا اس نے اسے پہنا اور قبۃ النسر کے نیچے بڑے دروازے کے پاس اہل سان کی خدمت میں بیٹھا اور ان دونوں کے درمیان اہل سان کی زوجہ خاتون منہ سے نقاب ہٹائے موجود تھی اور اسی حالت میں حکمنامہ پڑھا گیا اور جب ہلاکو کے نام کا ذکر ہوا تو سونا اور چاندی لوگوں کے سروں پر بچھا کر دیا گیا انا اللہ وانا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ اس قاضی امیر بیوی اور سلطان کا برا کرے۔ اور ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن الزکی اس تھوڑی سی مدت میں بہت سے مدارس پر قابض ہو گیا بلاشبہ اسے سال کے سر پر معزول کیا گیا اور اس نے

اس مدت میں انداریہ السلاطین الفلکیہ المکنیہ القبریہ اور العزیز یہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں دوسرے بقویہ اور العزیز یہ بھی تھے اور اس نے اپنے بیٹے کنسی کے لیے اسمیہ کی تدوین اور ثبات الثبوت کا حاصل کیا اور اس سے اسمیہ کو اپنے ایک ساتھی العمراء المصیری کے لیے حاصل کیا اور الشامیہ البانیہ کو اپنے ایک دوست کے لیے حاصل کیا اور اپنے ایک ماں جانے بھائی شہاب الدین اسماعیل بن اسعد بن قیش کو قضا میں نائب مقرر کیا اور اسمیہ اور الشامیہ البانیہ کا نائب مقرر کیا۔ ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے وقف کرنے والے نے شرط عائد کی ہے کہ اسے اور کسی دوسرے مدت کو اٹھانا نہ کیا جائے اور جب دمشق اور دوسرے شہر مسلمانوں کو واپس ملے تو اس نے قضا کے بارے میں کوشش کی اور اموال خرچ کیے تاکہ وہ اس پر اور جو مدائن اس کے ہاتھ میں ہیں ان پر برقرار رہے مگر وہ برقرار نہ رہا بلکہ قاضی نجم الدین ابی بکر بن صدر الدین بن سنی الدولہ کے ذریعے معزول کیا گیا۔ اور قضا کے بارے میں شاہی فرمان ۲۱ رذی القعدہ کو نماز جمعہ کے بعد جامع دمشق میں مزار عثمان کی کمالی کھڑکی کے پاس پڑھا گیا اور جب ملک مظفر قطر نے عین جالوت پر تاتاریوں کو شکست دی تو وہ ان کے پیچھے پیچھے آیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ دمشق میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے بہت دعائیں کیں اور اس نے شاہ جمص اشرف کو محض پر برقرار رکھا اور اسی طرح حماہ کے حکمران کو بھی برقرار رکھا اور اس نے ہلاکو کے ہاتھ سے حلب کو واپس لے لیا اور حق اپنے اصل کی طرف واپس آ گیا اور اس نے قواعد و ضوابط کو درست کیا اور اس نے اپنے آگے امیر رکن الدین بھیرس البندقداری کو بھیجا کہ وہ تاتاریوں کو حلب سے نکال باہر کرے اور اس کی سپردداری لے لے اور اس نے اس کی نیابت کا وعدہ کیا اور جب اس نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا اور دھک کار دیا اور مسلمانوں نے اس کی سپردداری لے لی تو اس نے کسی اور کو اس کا نائب مقرر کر دیا اور وہ شاہ موصل کا بیٹا علاؤ الدین تھا اور یہی ان دونوں کے درمیان نفرت کا سبب تھا جس نے ملک مظفر قطر کے جلد قتل کا تقاضا کیا واللہ الامر من قبل و من بعد۔

اور جب مظفر شام سے فارغ ہوا تو اس نے مصر کی طرف واپسی کا عزم کیا اور اس نے امیر علم الدین شجر الخلی الکبیر اور امیر مجیر الدین ابن الحسین بن آق شتر کو مصر پر نائب مقرر کیا اور قاضی ابن الزکی کو دمشق کی قضا سے معزول کر دیا۔ اور ابن سنی الدولہ کو قاضی مقرر کیا پھر وہ دیار مصر کی طرف واپس آ گیا اور اسلامی افواج اس کی خدمت میں تھیں اور اعیان کی آنکھیں اس کی شدت بہت سے اسے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔

ملک الظاہر بھیرس البندقداری کی سلطنت کا بیان:

اور یہ ایک شیر ذیاں تھا اور یہ واقعہ یوں ہے کہ سلطان ملک مظفر قطر جب مصر جانے کے ارادے سے واپس لوٹا اور الغزالی اور الصالحیہ کے درمیان پہنچا تو امراء نے اس پر حملہ کر کے اسے وہاں پر قتل کر دیا۔ اور یہ ایک صالح شخص تھا جو جماعت کے ساتھ بہت نمازیں پڑھتا تھا اور منشیات کا استعمال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ایسی باتوں میں مشغول رہتا تھا جن میں بادشاہ مشغول رہتے ہیں اور جب سے اس نے اپنے استاد کے بیٹے منصور علی بن المعز ترکانی کو معزول کیا تھا اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو ذوالقعدہ کا آخر ہے اس کی مدت حکومت تقریباً ایک سال بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اسے اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے

نہ دے اور امیر رکن الدین بھروسہ بند قداری نے امراء کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے قتل کے متعلق اتفاق کیا اور جب وہ اس مقام تک پہنچا تو اس نے اپنی ڈیوڑھی کو مارا اور ایک حرگوش سے پیچھے لگ گیا اور وہ امراء بھی اس کے ساتھ گئے اور اس نے رکن الدین بھروسہ کے پاس کسی چیز کے بارے میں سفارش کی تو اس نے اسے قبول کر لیا اور اس نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے پکڑا تو اس نے اسے روک لیا اور ان امراء نے تمواروں کے ساتھ اس پر حملہ کر کے اسے مارا اور اسے اس کے گھوڑے سے گرادیا اور اسے تیر مارنے لگی کہ اسے قتل کر دیا رحمہ اللہ پھر وہ خیمہ گاہ کی طرف پلٹے اور ان کے ہاتھوں میں سوتی ہوئی تلواریں تھیں اور وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے انہیں اطلاع دی تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا اسے کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا رکن الدین بھروسہ نے انہوں نے پوچھا تو نے اسے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا پھر تو تو بادشاہ ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو امراء آپس میں حیران رہ گئے کہ وہ کسے بادشاہ بنائیں اور ان میں سے ہر کوئی اس کے شر سے ڈرتا تھا کہ وہ اسے بھی جلد ہی پہنچے گا جو اس کے غیر کو پہنچا ہے پس انہوں نے اتفاق کر کے بھروسہ بند قداری کی بیعت کرنی حالانکہ وہ اکابر پیشروؤں میں سے نہ تھا، لیکن انہوں نے اس کا تجربہ کرنا چاہا اور اسے ملک الظاہر کا لقب دیا، پس وہ تخت حکومت پر بیٹھا اور بشارتوں کا کھڑاگ ہوا اور طبل و بگل بج گئے اور شور ڈالنے والوں نے سیٹیاں بجا کیں اور بھینٹوں بکریوں نے شور ڈالا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس نے اللہ پر توکل کیا اور اس سے مدد مانگی پھر وہ مصر میں داخل ہوا اور فوجیں اس کی خدمت میں تھیں پس وہ قلعہ جبل میں داخل ہوا اور اس کی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے حکم و عدل، قطع و وصل اور نصب و عزل کیا اور وہ تیز فہم اور بہادر آدمی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شاید احتیاج کے وقت کھڑا کیا، سب سے پہلے اس نے ملک قاہرہ کا لقب اختیار کیا تو وزیر نے اسے کہا یہ لقب اس شخص کو کامیاب نہیں کرے گا جو اسے اختیار کرے گا۔ القاہرہ بن المعتمد نے یہ لقب اختیار کیا تو اس کا زمانہ لمبا ہوا حتیٰ کہ وہ معزول ہوا اور اس کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی اور شاہ موصل نے قاہرہ کا لقب اختیار کیا تو اسے زہر دیا گیا اور وہ مر گیا، تو اس نے اسی وقت اسے چھوڑ کر ملک الظاہر کا لقب اختیار کر لیا، پھر اس نے اکابر امراء میں سے ان کو پکڑنا شروع کیا جو اپنے آپ کو امیر خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ اس نے حکومت کو استوار کر لیا اور جب ہلاکو خان کو اس سلوک کی اطلاع ملی جو مسلمانوں نے اس کی فوج کے ساتھ عین جالوت پر روا رکھا تھا، تو اس نے اپنی بہت سی فوج میں سے ایک دستے کو بھیجا۔ کہ وہ شام کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لے لیں، پس وہ ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو گیا اور وہ خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹ آئے، اس لیے کہ طاقتور شیر اور شمشیر براں ملک الظاہر نے سرعت کے ساتھ ان پر حملہ کیا تھا، پس وہ دمشق آیا اور اس نے سرحدوں اور قلعوں کی حفاظت کے لیے ہر طرف مسلح افواج بھیج دیں اور تاری اس کے قریب پھٹکنے کی بھی سکت نہ پاسکے اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت بدل چکی ہے اور کلانیات تیار ہو چکی ہیں اور شام اور اہل شام کو عنایت الہی حاصل ہو چکی ہے اور اس کی رحمت ان پر نازل ہو چکی ہے، اس موقع پر ان کے شیاطین اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے اور اس خدا کا شکر ہے جس کے فضل سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔

اور ملک مظفر قطز رحمہ اللہ نے ایک ترک امیر علم الدین سخر علی کو دمشق پر نائب مقرر کیا اور جب اسے مظفر کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے قلعے میں داخل ہو کر اپنے لیے دعا کی اور ملک مجاہد کا نام اختیار کیا اور جب ملک الظاہر کی بیعت آئی اور ۶ ذوالحجہ کو جمعہ کے

۶۵۸ھ کا خطبہ تو خطیب نے سب سے پہلے مجاہد کے لیے اور پھر الطاہر کے لیے، غازی اور ابن ہشام کے لیے اور پھر امیر کھٹک کے لیے پڑھا۔ پھر اس مجاہد کو درمیان سے اٹھا دیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہو گا۔

اور اس سال عجیب امور کا اتفاق ہوا اور وہ یہ کہ اس سال کے آغاز میں شام سلطان ناصر ابن العزیز کے تصرف میں تھا پھر ۵۱۵ھ صفر کو شاہ تاتار ہلاکو خان کے تصرف میں آ گیا، پھر رمضان کے آخر میں منظر قطر کے تصرف میں آ گیا اور پھر ذوالقعدہ کے آخر میں الظاہر بیہس کے تصرف میں آ گیا اور دمشق میں ملک مجاہد سبخر بھی اس کا شریک ہو گیا، اسی طرح شام میں اس کے شروع میں قضاء ابن سنی الدولہ صدر الدین کے پاس تھی، پھر ہلاکو خان کی طرف سے کمال عمر التفلیسی کو، پھر ابن الزکی کو، پھر نجم الدین ابن سنی الدولہ کو مل گئی۔

اسی طرح طویل سالوں سے عماد الدین بن الحرستانی جامع دمشق کا خطیب تھا، پھر اسے العماد الاسودی کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ اور یہ عیوب سے محفوظ اور اچھا قاری تھا پھر اس سال کے ذوالقعدہ کے آغاز میں دوبارہ الحرستانی کو خطیب بنا دیا گیا فسبحان من بیدہ الامور بفعل ما یشاء و یحکم ما یرید۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

قاضی القضاة صدر الدین ابوالعباس ابن سنی الدولہ:

احمد بن یحییٰ بن ہبہ اللہ بن الحسین بن یحییٰ بن محمد بن علی یحییٰ ابن صدقہ بن الخياط قاضی القضاة صدر الدین ابوالعباس ابن سنی الدولہ، تغلیسی، مشقی، شافعی اور سنی الدولہ الحسین بن یحییٰ مذکورہ ۵۰۰ھ کی حدود میں دمشق کے ایک بادشاہ کا قاضی تھا اور اس نے اس کی اولاد کو اوقاف بھی دیئے ہیں اور ابن الخياط شاعر صاحب دیوان ہے اور وہ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن علی بن یحییٰ بن صدقہ تغلیسی ہے جو سنی الدولہ کا چچا ہے، سنی الدولہ ۵۵۹ھ میں پیدا ہوا اور الخشوعی اور ابن طبرزد اور الکندی وغیرہ سے سماع کیا اور کئی مدارس میں حدیث بیان کی اور پڑھایا اور فتویٰ دیا، اور وہ مذاہب کا جاننے والا قابل تعریف سیرت کا حامل تھا، لیکن ابوشامہ اسے سب دشتم کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ واللہ اعلم

اور اس نے دمشق میں ۶۳۳ھ میں باختیار ہو کر غدر الت سنبھالی اور مسلسل ایک سال تک قاضی رہا اور جب اسے کمال التفلیسی کے ذریعے معزول کیا گیا تو اس نے اور ابن الزکی نے ہلاکو خان کی طرف اس وقت سفر کیا جب اس نے حلب پر قبضہ کیا پس اس نے ابن الزکی کو قاضی بنا دیا۔ اور ابن سنی الدولہ نے بعلبک کو منتخب کیا۔

اور وہ یہاں آیا اور وہ بیمار تھا، پس وہ یہیں مر گیا اور اسے شیخ عبد اللہ ایوبینی کے پاس دفن کیا گیا اور ملک ناصر اس کی اسی طرح تعریف کرتا تھا، اور جب ملک الظاہر بیہس کی حکومت قائم ہو گئی تو اس نے اس کے بیٹے نجم الدین ابن سنی الدولہ کو قاضی بنا دیا، اور وہ وہی ہے جس نے زرد آلو کے زمانے میں اسباق کے بیکار ہونے کی بات بیان کی تھی، کیونکہ ارض السہم میں اس کا ایک باغ تھا، اور اسے زرد آلو سے مفارقت کرنا اور مدارس کی طرف جانا گراں گزرتا تھا، پس اس نے ان ایام میں لوگوں کو بیکار کر دیا اور انہوں نے

اس وقت میں اس قبضہ میں گیا اور اٹھ سو تیس سال کا اور راحت کو ترجیح دے کر وہیں خصوصاً مقامات کے مالک پہلوں کے ایام میں اور ان ایام میں کثرت خواہشات ہوتی ہیں اور خصوصاً قضاة کو۔

شاہ مار دین ملک سعید۔

نجم الدین بن ایل غازی بن منصور رزق بن ارطلان بن ایل غازی بن الحسن بن ترقاش ابن ایل غازی بن اریستی نامی یہ شجاع شخص تھا اس نے یوما پر قبضہ کیا اور اس کے قلعے میں نوران شاہ بن ملک سلاح الدین داخل ہوا اور وہ ملک الظاہر بن العزیز بن الظاہر بن الناصر شاہ دمشق کا حلب پر نائب تھا اور اس نے ایک ماہ تک حلب کو مغلوں کے ہاتھوں سے بچایا پھر شدید محاصرہ کے بعد صلح کے ساتھ اس کی سپردداری دے دی اور اس کی وفات اس سال ہوئی اور اسے اپنے گھر کی ڈیوڑھی میں دفن کیا گیا۔

ملک سعید حسن بن عبدالعزیز:

ابن العادل ابی بکر بن ایوب یہ اپنے باپ کے بعد الصبیہ اور بانیاس کا مالک تھا پھر یہ دونوں مقامات اس سے لے لیے گئے اور اسے قلعہ منیرہ میں قید کر دیا گیا اور جب تاتاری آئے تو یہ ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس کے شہروں کو اسے واپس کر دیا اور جب عین جالوت کا معرکہ ہوا تو اسے قیدی بنا کر مظفر قطز کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا اس لیے کہ اس نے تاتاریوں کا سر قوج پہنا ہوا تھا اور اس نے مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی خیر خواہی کی تھی۔

عبدالرحمن بن عبدالرحیم بن الحسن بن عبدالرحمن بن طاہر:

ابن محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب شرف الدین بن العجمی الحلیمی الشافعی آپ حلب کے علمی اور امارتی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے الظاہریہ میں پڑھایا اور وہاں ایک مدرسہ کو وقف کیا اور وہیں دفن ہوئے اور جب تاتاری حلب میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے صفر میں وفات پائی سوانہوں نے آپ کو سزا دی اور آپ پر موسم سرما میں ٹھنڈا پانی ڈالا جس سے آپ کو تشنج ہو گیا حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

ملک مظفر قطز بن عبداللہ:

سیف الدین ترکی المعز ترکمانی کا اخص غلام اور صالح ایوب بن کامل کے غلاموں سے ایک غلام جب اس کا استاد المعز قتل ہو گیا تو یہ اس کے بیٹے نور الدین منصور علی کا متولی بن گیا اور جب اس نے تاتاریوں کے بارے میں سنا تو اپنے استاد کو بیٹے کی صغریٰ کی وجہ سے اختلاف سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اسے معزول کر کے اپنی طرف دعوت دی اور ذوالقعدہ ۶۵۷ھ میں اس کی بیعت ہوئی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر یہ تاتاریوں کے مقابلے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں اسلام کی نصرت کی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ دلیر شجاع بہت بھلائی کرنے والا اور اسلام اور اہل اسلام کا خیر خواہ تھا اور لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اور اس کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عین جالوت کے معرکہ کے روز اپنے گھوڑے کو قتل کر دیا اور اس نازک گھڑی میں اس نے الو شاقیہ میں سے جن کے پاس کو قتل گھوڑے تھے کسی ایک کو بھی نہ پایا تو وہ پیادہ ہو گیا اور زمین پر جم کر کھڑا ہو گیا اور میدان کارزار میں جنگ جاری تھی اور وہ قلب میں سلطان کی جگہ پر تھا اور جب ایک امیر نے اسے دیکھا

تو اپنے گھڑے سے اتر کر آیا، وہ منگیا اور اس نے سلطان کو حلف دیا کہ وہ ضرور اس گھوڑے پر سوار ہو جائے مگر اس نے انکار کیا اور اس امیر سے کہنے لگا میں مسلمانوں کو تیرے فائدے سے محروم کرنے کا نہیں اور وہ اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ اوشا قیہ گھوڑوں کے ساتھ اس کے پاس آگے تو وہ سوار ہو گیا اور ایک امیر نے اسے ملامت کی اور کہا اب اچھوڑے یہ کیوں نہیں سوار کئے؟ اگر کسی دشمن نے آپ کو، کیوں کیا تو وہ آپ کو قتل کر دے گا فلاں فلاں قتل ہو چکے ہیں اور اس نے بہت سے بادشاہوں کو شہر کیا۔ اور اس نے اسلام کو دوسروں سے بچانے کے لیے آدمی کھڑے کر دیئے اور اسلام کو خالص نہیں کیا اور جب وہ مصر سے روانہ ہوا تو بحر یہ کے بہت سے بڑے بڑے امراء وغیرہ اس کی خدمت میں تھے اور اس کے ساتھ حمہا کا حکمران منصور اور شاہزادگان کی ایک جماعت بھی تھی اور اس نے حمہا کے حکمران کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ ان ایام میں دسترخوان بچھانے کی مشقت نہ اٹھائے بلکہ سپاہی کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا ہو جسے وہ کھائے جلدی کرو جلدی کرو اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں دشمن کے ساتھ اس کی ملاقات رمضان کے آخری عشرہ میں جمعہ کے روز ہوئی اور یہ ایک عظیم بشارت تھی بلاشبہ بدر کا معرکہ بھی رمضان میں جمعہ کے روز ہوا تھا اور اس میں اسلام کو فتح ہوئی تھی اور جب وہ شوال میں دمشق آیا تو اس نے وہاں عدل و انصاف کیا اور معاملات کو مرتب کیا اور بیہوش کو تاتاریوں کے پیچھے بھیجا کہ وہ انہیں حلب سے نکال باہر کرے اور انہیں بھگا دے اور اس نے اس سے حلب کی نیابت کا وعدہ کیا لیکن مصلحت کے تحت اس سے یہ وعدہ پورا نہ کیا، جس کے باعث دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی اور جب وہ مصر واپس آیا تو امراء نے بیہوش کے ساتھ مل کر اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی اور انہوں نے اسے القرابی اور الصالحیہ کے درمیان قتل کر دیا اور وہ محل میں مدفون ہوا اور اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔

اور جب الظاہر نے حکومت پر قابو پایا تو اس نے اس کی قبر کی طرف آدمی بھیج کر اسے لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور اس کے بعد اسے پہچانا نہ جاتا تھا۔ اور وہ ۱۶۶۷ھ و القعدہ کو ہفتہ کے روز قتل ہوا۔

شیخ قطب الدین الیونینی نے الذیل علی المرآة میں شیخ علاؤ الدین بن غانم سے بحوالہ المولوی تاج الدین احمد بن الاثیر جو ناصر شاہ دمشق کے زمانے میں پرائیویٹ سیکرٹری تھا بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہم ناصر کے ساتھ و طہا ہرزہ میں تھے تو اپنی خبر لائے کہ قطر نے مصر کی حکومت سنبھال لی ہے میں نے سلطان کو یہ خبر سنائی تو اس نے کہا فلاں فلاں شخص کو جا کر یہ خبر بتاؤ۔

راوی بیان کرتا ہے جب میں اس کے ہاں سے نکلا تو مجھے ایک سپاہی ملا اور اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس مصر سے خبر آئی ہے کہ قطر بادشاہ بن گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں، تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟

اس نے کہا خدا کی قسم وہ عنقریب مملکت کا والی بن کر تاتاریوں کو شکست دے گا، میں نے پوچھا تجھے اس بات کا علم کہاں سے ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ چھوٹا تھا اور میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا اور اسے بہت جو میں پڑی ہوئی تھیں اور میں اس کی جو نہیں نکالتا تھا اور اس کی اہانت و مذمت کیا کرتا تھا، ایک روز اس نے مجھے کہا تو ہلاک ہو جائے، جب میں دیا مصر کا بادشاہ بنوں گا تو تو جو چیز چاہے گا، میں تجھے دوں گا، میں نے اسے کہا تو مجنون ہے اس نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ تو دیا مصر کا بادشاہ بنے گا اور تاتاریوں کو شکست دے گا اور رسول اللہ ﷺ کا قول حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور

میں نے اسے اس وقت کہا اور دو سہاقتوں میں تجھ سے پچاس سواروں کی امداد چاہتا ہوں اس نے کہا بہت اچھا خوش رہو۔

ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اسے کہا یہ مصریوں کے خطوط ہیں اس نے سلطنت کو سنبھال لیا ہے اس نے بہا تہم بخدا وہ ضرورتاً تاریخوں و کتابت سے کا اور ایسے ہی وقوع میں آیا اور جب ناسر دیار سر کی طرف نوا اور اس نے اس میں داخل ہوتا پایا تو اس نے اسے تھوڑا دیا اور اکثر شامی افواج اس میں داخل ہو گئیں اور یہ حکایت بیان کرنے والا امیر بھی دیار مصر میں داخل ہونے والوں میں شامل تھا پس مظفر نے اسے پچاس سواروں کی امداد دے دی اور اس سے وعدہ پورا کر دیا۔ اور وہ امیر جمال الدین ترکمانی تھا ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ وہ امیر بننے کے بعد مجھے مصر میں ملا اور اس نے مجھے وہ بات یاد دلائی جو اس نے مجھے مظفر کے بارے میں بتائی تھی سو میں نے اسے یاد کیا اس کے بعد تاریخوں کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی اور اس نے انہیں شکست دی اور انہیں شہروں سے نکال باہر کیا۔

اور اس سے روایت کی گئی ہے کہ جب اس نے تاتاری فوجوں کو دیکھا تو اس نے ان امراء اور افواج سے جو اس کے ساتھ تھیں کہا ان سے اس وقت جنگ کرو جب سورج ڈھل جائے اور سائے پلٹ آئیں اور ہوائیں چل پڑیں اور خطباء اور لوگ اپنی نمازوں میں ہمارے لیے دعائیں کریں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

اور اس سال بلاد شام پر ہلاکو کا نائب کتبغا نوین ہلاک ہو گیا اللہ اس پر لعنت کرے اور نوین کے معنی ہیں دس ہزار کا امیر اور اس خبیث نے اپنے استاذ ہلاکو کے لیے بلاد عجم کے دور دراز علاقوں سے لے کر شام تک کے علاقے فتح کیے اور اس نے ہلاکو کے دادا چنگیز خان کو بھی دیکھا اور یہ کتبغا مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں ایسی باتوں پر اعتقاد کرتا تھا جن کی طرف کسی نے سبقت نہیں کی جب یہ کسی شہر کو فتح کرتا تو اس شہر کے جاننازوں کو دوسرے نزدیک شہر میں لے جاتا اور اس شہر کے باشندوں سے مطالبہ کرتا کہ وہ ان کو اپنے ہاں پناہ دیں اور اگر وہ ایسا کرتے تو اس کا مقصد یعنی ان پر کھانے پینے کی تنگی کرنا حاصل ہو جاتا اور اس کے محاصرہ کی مدت کم ہو جاتی کیونکہ اہل شہر کو اپنی خوراک کی تنگی ہو جاتی اور اگر وہ انہیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کرتے تو وہ ان جاننازوں کے ساتھ ان سے جنگ کرتا۔ جو اس سے پہلے مفتوحہ شہر کے باشندے ہوتے تھے اگر فتح ہو جاتی تو ٹھیک بصورت دیگر وہ ان کے ذریعے ان کو کمزور کر دیتا حتیٰ کہ یہ جانناز فنا ہو جاتے پس اگر فتح حاصل ہو جاتی تو ٹھیک ورنہ وہ اپنے سپاہیوں اور اصحاب کے ساتھ اپنے اصحاب کی راحت اور اہل شہر کی تھکن اور کمزوری کے ساتھ ان سے جنگ کرتا اور جلد ہی ان پر فتح حاصل کر لیتا اور وہ قلعے کی طرف فوج بھیج کر کہتا تمہارا پانی کم ہو گیا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم تم کو زبردستی پکڑ لیں گے اور تم سب کو قتل کر دیں گے اور تمہارے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے اور تمہارے پانی کے خاتمے کے بعد تمہاری بقاء کیا ہوگی صلح سے قلعے کو کھول دو قبل اس کے کہ ہم تم کو زبردستی پکڑ لیں اور وہ اسے کہتے ہمارے پاس بہت پانی ہے ہم پانی کے محتاج نہیں ہوں گے اور وہ کہتا میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک میں اپنی طرف سے کسی شخص کو اس کے دیکھنے کے لیے نہ بھیجوں پس اگر پانی زیادہ ہوا تو میں تمہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا اور وہ کہتے کسی آدمی کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجو اور وہ اپنی فوج کے کچھ جوانوں کو بھیج دیتا جن کے پاس کھوکھلے اور زہر سے بھرے ہوئے نیزے ہوتے اور جب وہ اس قلعے میں داخل ہو جاتے جس نے اسے در ماندہ کر دیا ہوتا تو وہ نیزوں کے ساتھ اس پانی میں دوڑتے گویا وہ

اس کا اندازہ کر رہے ہیں، پس یہ زہر کھل جانا اور اس پانی میں ٹمھر جانا اور وہ ان کی بلاکت کا سبب بن جاتا۔ اور انہیں پتہ بھی نہ ہوتا، اس پر اللہ کی ایسی لعنت ہو جو قبر میں اس کے ساتھ داخل ہو جائے اور وہ عمر رسیدہ بوڑھا تھا اور نساوری کے دین کی طرف میلان رکھتا تھا، لیکن پیگیڑخان کے حکم کے مطابق اس کے لیے ابا اسحاق میں ٹمھنا ممکن نہ تھا۔

شیخ قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ جب اس نے بعلبک کے قلعے کا محاصرہ کیا تو میں نے اسے دیکھا وہ ایک خوبصورت بوڑھا تھا اور اس کی داڑھی طویل اور سیدھی تھی، اس نے اسے اس کی طرح گوندھا ہوا تھا اور کبھی کبھی وہ اسے پیچھے سے اپنے کان کے ساتھ بھی لٹکا لیتا تھا اور وہ بڑا بارعب اور سخت حملہ کرنے والا تھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ وہ جامع میں داخل ہو کر مینار پر چڑھا تا کہ وہاں سے قلعہ کو دیکھے، پھر وہ غربی دروازے سے باہر نکل گیا اور ایک ویران دوکان میں داخل ہو کر اس نے قضاے حاجت کی اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ پوشیدہ اعضا کو برہنہ کیے ہوئے تھا اور جب وہ قضاے حاجت سے فارغ ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اسے گتھی ہوئی روئی سے ایک ہی بار پونجھا۔ راوی بیان کرتا ہے جب اسے اطلاع ملی کہ مظفر اپنی افواج کے ساتھ مصر سے روانہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنے معاملے میں دیر کی اور حیران رہ گیا کہ وہ کیا کرنے، پھر اس کے متکبر نفس نے اسے اس کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور اس نے خیال کیا کہ وہ حسب عادت فتح پائے گا، سو اس روز اس نے میسرہ پر حملہ کر کے اسے شکست دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی اور انہیں میدان کارزار میں ثابت قدم رکھا اور انہوں نے تاتاریوں پر بہادرانہ حملہ کیا اور انہیں ایسی شکست دی جس کا زخم کبھی درست نہ ہو سکے گا، اور ان کا امیر کتبغا نوین میدان کارزار میں قتل ہوا اور اس کا بیٹا اسیر ہوا اور وہ خوبصورت جوان تھا، اسے مظفر قطر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا کیا تیرا باپ بھاگ گیا ہے؟ اس نے کہا وہ نہیں بھاگے گا، پس انہوں نے اسے تلاش کیا تو اسے مقتولین کے درمیان پایا، اور جب اس کے بیٹے نے اسے دیکھا تو وہ رویا اور چلایا، اور جب مظفر نے اسے دیکھا تو اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، پھر کہنے گا میں میٹھی نیند سوؤں گا، اور یہ شخص تاتاریوں کی سعادت تھا، اور اس کے قتل ہونے سے ان کی سعادت جاتی رہی اور اسی طرح ہوا جیسے کہ فرمایا تھا، کہ اس کے بعد وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور وہ ۲۵ رمضان کو جمعہ کے روز قتل ہوا اور اسے امیر آقوش الشمسی رحمہ اللہ نے قتل کیا۔

شیخ محمد الفقیہ الیونینی:

الحسنی البعلبکی الحافظ محمد بن احمد بن عبد اللہ بن عیسیٰ بن ابی الرجال احمد بن علی ابن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن اسحاق بن جعفر الصادق اسی طرح یہ نسب شیخ قطب الدین الیونینی نے اپنے بڑے بھائی ابوالحسین علی کی تحریر سے نقل کیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ اس کے والد نے اسے بتایا کہ ہم جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے یہ بات موت کے وقت کہی تاکہ وہ قبول صدقات سے باہر رہے۔

ابو عبد اللہ بن ابی الحسن الیونینی الحسنی تقی الدین الفقیہ الحسنی الحافظ المفید البارع العابد الناسک آپ کی پیدائش ۵۷۲ھ میں ہوئی اور آپ نے الخشوعی، حنبلی، الکلندی اور حافظ عبدالغنی سے سماع کیا اور آپ اس کی تعریف کرتے تھے اور آپ نے الموفق سے فقہ سیکھی اور شیخ عبد اللہ الیونینی کے ساتھ رہے اور آپ سے فائدہ اٹھایا اور شیخ عبد اللہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو

مقتدہ مکررتے تھے اور آپ سے فائدہ اٹھایا اور شیخ عبد اللہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو مقدم کرتے تھے اور فتاویٰ میں آپ کی اقتدا کرتے تھے اور آپ نے ان کے شیخ کے شیخ عبد اللہ البطائی سے خرقة پہنا اور علم حدیث میں مہارت حاصل کی اور صحیحین کے درمیان فاء اور واؤ سے مطابقت لے کر حفظ کیا اور آپ نے مسند احمد کا ایک اچھا حصہ یاد لیا اور آپ عربی زبان کو جانتے تھے اس لیے آپ نے تاج الکندی سے سیکھا اور بہت خوبصورت لکھا اور لوگ آپ کے فنون کثیرہ سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور آپ سے ایسے طریق سیکھتے تھے۔ اور بادشاہوں کے ہاں آپ کو بڑی وجاہت حاصل تھی۔

ایک دفعہ آپ نے ملک اشرف کے پاس قلعہ میں زبیدی کو بخاری کا سماع کرانے کے حال میں وضو کیا اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو سلطان نے اپنے چہرے کا مصلیٰ جھاڑا اور اسے زمین پر بچھا دیا تاکہ آپ اسے پامال کریں۔ اور سلطان نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا کہ وہ پاک ہے اور ضروری ہے آپ اسے اپنے پاؤں سے پامال کریں تو آپ نے ایسے ہی کیا اور کامل اپنے بھائی اشرف کے پاس دمشق آیا تو اس نے اسے قلعہ میں اتارا اور اشرف نے دارالسعادت کا حیلہ کیا اور کامل کے سامنے شیخ فقیہ کے محاسن بیان کرنے لگا، کامل نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں سو اس نے بعلبک کی طرف خط بھیجا اور اسے بلا لیا اور وہ دارالسعادت تک پہنچ گیا اور کامل اس کے پاس گیا اور دونوں نے علم کے بارے میں کچھ مذاکرات کیے تو بھاری چیز کے ساتھ قتل کرنے کا مسئلہ شروع ہو گیا اور اس لوٹڈی کی حدیث کا ذکر بھی چل پڑا جسے ایک یہودی نے قتل کر دیا تھا اور اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا سو رسول اللہ ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا، کامل نے کہا اس نے اعتراف نہیں کیا تھا، شیخ فقیہ نے کہا صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے اعتراف کیا تھا، کامل نے کہا میں نے صحیح مسلم کا اختصار کیا ہے اور میں نے اس میں یہ لفظ نہیں پایا پس کامل نے پیغام بھیجا تو اس نے صحیح مسلم کا جو اختصار کیا تھا اس کی پانچ جلدیں حاضر کی گئیں ایک جلد کامل نے اور دوسری جلد اشرف نے اور تیسری جلد عماد الدین موسک نے اور چوتھی جلد شیخ فقیہ نے پکڑ لی اور سب سے پہلے اس نے جو اسے کھولا تو شیخ فقیہ کے قول کے مطابق حدیث پائی سو کامل اس کی حاضر جوابی اور سرعت کشف سے حیران رہ گیا اور اس نے آپ کو اپنے ساتھ دیا مرصر لے جانا چاہا لیکن اشرف نے جلدی سے آپ کو بعلبک کی طرف بھیج دیا اور کامل سے کہنے لگا، وہ بعلبک پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، پس کامل نے اسے بہت ساسونا بھیجا۔ آپ کے بیٹے قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ میرے والد ملوک کے عطیات کو قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بیت المال میں میرے اس سے بھی زیادہ عطیات ہیں، لیکن امراء اور وزراء سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھانے وغیرہ کا کوئی ہدیہ ہو اور آپ اس میں سے نہیں بھیجتے تھے اور وہ اسے تبرک اور شفا یابی کے لیے قبول کر لیتے تھے۔

آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا مال زیادہ ہو گیا، اور آپ صاحب ثروت ہو گئے اور آپ کو بہت مالی وسعت حاصل ہو گئی اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اشرف نے آپ کو یونین ہستی سے خط لکھا اور اسے محی الدین بن الجوزی کو دیا کہ وہ خلیفہ کے خط کی نگرانی کرے اور جب میرے والد کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے خط لکھ کر پھاڑ دیا اور کہنے لگے میں اس سے بے نیاز ہوں اور میرے والد صدقہ کو قبول نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذریت سے خیال کرتے تھے۔ یعنی جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی نسل سے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ اس سے قبل فقیر تھے۔ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اور شیخ عبداللہ کی بیوی بھی تھی اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی اور شیخ اسے کہا کرتا تھا کہ شیخ محمد کے ساتھ اس کا نکاح کر دو اور وہ کہتی وہ فقیر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ایک جنت ہو اور شیخ عبداللہ کہتے کہ میں ان دونوں کو ایک گھر میں دیکھ رہا ہوں جس میں برکت اور بہت رزق ہے اور بادشاہ اس کی ملاقات آتے ہیں اس نے اس لڑکی کا اس سے نکاح کر دیا اور واقعہ ایسے ہی ہوا اور یہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ اور سب بادشاہ آپ کا احترام کرتے تھے اور بنو عادل وغیرہ آپ کے شہر میں آتے تھے اور اسی طرح فقہاء کے مشائخ جیسے ابن الصلاح، ابن عبدالسلام، ابن الحاجب، المصری، شمس الدین بن سنی الدولہ اور ابن الجوزی وغیرہ آپ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے علم و عمل اور امانت و دیانت کی وجہ سے آپ کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کے بہت سے احوال و مکاشفات اور کرامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ آپ ۱۲ سال کی عمر سے قطب تھے۔ واللہ اعلم

اور شیخ فقیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے حران جانے کا عزم کیا اور مجھے اطلاع ملی کہ وہاں ایک شخص علم الفرائض کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور جب وہ رات آئی جس کی صبح کو میں سفر کرنا چاہتا تھا تو میرے پاس شیخ عبداللہ الیونینی کا خط آیا جس میں آپ نے مجھے قدس شریف آنے کی قسم دی اور میں نے اسے پسند نہ کیا اور میں نے مصحف کو کھولا تو یہ قول الہی سامنے آیا (اس کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتا اور وہ ہدایت پانے والے ہیں) پس میں آپ کے ساتھ قدس کی طرف گیا اور میں نے اس حرانی شخص کو قدس شریف میں دیکھا اور میں نے اس سے علم الفرائض سیکھا حتیٰ کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس میں اس سے بھی زیادہ ماہر ہو گیا ہوں اور شیخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ شیخ فقیہ ایک فریب آدمی تھے اور آپ کو امراء وغیرہ میں قبولیت حاصل تھی اور آپ شیخ عبداللہ الیونینی کی طرح کھال کی ٹوپی پہنتے تھے جس کی اون باہر کو ہوتی تھی۔

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے معراج کے بارے میں ایک تصنیف کی ہے اور میں نے ایک کتاب میں اس کا رد کیا ہے جس کا نام میں نے الواضح الجلی فی الرد علیٰ الحسنبی رکھا ہے اور آپ کے بیٹے قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سال کی ۱۹ رمضان کو ۸۸ سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔

محمد بن خلیل بن عبدالوہاب بن بدر:

ابو عبداللہ الہیطار الالکالی آپ اصلاً جبل بنی بلال سے ہیں آپ کی پیدائش قصر حجاج میں ہوئی آپ الشافعیوں میں مقیم تھے اور آپ میں بھلائی اور دینداری اور فقراء محتاجین اور قیدیوں کے لیے خاصی توجہ پائی جاتی تھی اور آپ کی حالت عجیب تھی کسی کی چیز اجرت کے بغیر نہ کھاتے تھے اور اہل شہر آپ کے پاس آتے تھے تاکہ آپ کی اچھی اور طیب چیزوں کو کھائیں مگر آپ اچھی اجرت کے بغیر انکار کر دیتے تھے اور جوں جوں آپ اس سے بچتے لوگوں کو بھلے معلوم ہوتے اور وہ آپ کو پسند کرتے اور آپ کی طرف مائل ہوتے اور آپ کے پاس بہت سی چیزیں جیسے مٹھائیاں اور بھنے ہوئے گوشت وغیرہ لاتے تو آپ انہیں واپس کر دیتے اور اس کے باوجود انہیں معاوضہ میں اچھی اجرت دیتے اور یہ بہت عجیب بات ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

۶۵۹ھ

دسمبر کے کچھ دن گزر چکے تھے کہ سوموار کے روز اس کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور مکہ کا حکمران ابوحنیفہ بن ابی سعید بن علی بن قنادہ الحنفی اور اس کا شریک اور رئیس بن علی اور مدینہ کا حکمران امیر عزالدین جواز بن شیبہ الحنفی اور مصر و شام کا حکمران سلطان ملک الظاہر بصرہ البندقداری اور دمشق بعلبک الصدیق اور بانیاس میں اس کا شریک امیر علم الدین خنجر جس کا لقب ملک مجاہد تھا اور حلب میں اس کا شریک امیر حسام الدین لاشین الجوکنداری العزیزی اور الکوک اور الشوبک ملک مغیث فتح الدین عمر بن العادل بن سیف الدین ابی بکر الکامل محمد بن العادل الکبیر سیف الدین ابی بکر بن ایوب کے زیر نگین تھے۔ اور جیہون کا قلعہ اور بازریا امیر مظفر الدین عثمان بن ناصر الدین مکورس کے قبضے میں تھے اور حماہ کا حکمران منصور بن قتی الدین محمود تھا اور حمص کا حکمران اشرف بن منصور ابراہیم بن اسد الدین الناصر تھا اور موصل کا حکمران ملک صالح بن بدر لؤلؤ تھا اور اس کا بھائی ملک مجاہد جزیرہ ابن عمر کا حکمران تھا اور مار دین کا حکمران ملک سعید نجم الدین ایل غازی بن ارتق تھا اور بلاد روم کا حکمران رکن الدین قلیج ارسلان بن کینسر و سلجوقی تھا اور حکومت میں اس کا شریک اس کا بھائی کیکاؤس تھا اور ملک دونوں کے درمیان نصف نصف تھا اور بقیہ بلاد مشرق تاتاریوں کے قبضے میں تھے۔ جو ہلاک کے ساتھی تھے۔ اور بلاد یمن میں کئی بادشاہ تھے اور اسی طرح بلاد الجوکندی المغرب کے ہر علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔

اور اس سال تاتاریوں نے حلب پر غارت گری کی اور حلب کے حکمران حسام الدین العزیزی حماہ کے حکمران منصور اور حمص کے حکمران اشرف نے ان کے ساتھ جنگ کی اور حمص کے شمال میں حضرت خالد بن ولید کی قبر کے نزدیک معرکہ آرائی ہوئی تاتاری چھ ہزار تھے اور مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی پس اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور مسلمانوں نے ان کی اکثریت کو قتل کر دیا۔ اور تاتاریوں نے حلب واپس آ کر اس کا چار ماہ تک محاصرہ کیے رکھا اور اس کو خوراک کی تنگی دی۔ اور بہت سے مسافروں کو باندھ کر قتل کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اور جن افواج نے انہیں حمص میں شکست دی تھی وہ حمص میں مقیم تھیں وہ حلب واپس نہیں آئیں بلکہ وہ مصر کو چلی گئیں اور ملک الظاہر نے سلطنت کی شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور حلب محصور ہو کر رہ گیا اور اس مدت میں اس کا کوئی مددگار نہ تھا لیکن اللہ نے بچالیا۔

اور ۷ صفر سوموار کے روز الظاہر شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور امراء اور افواج اس کے آگے آگے پیدل چلیں اور یہ اس کی پہلی سواری تھی اور اس کے بعد وہ لگا تار سوار ہو کر پولو کھیلتا رہا۔

اور ۱۷ صفر کو امراء دمشق نے اس کے بادشاہ علم الدین خنجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور وہ قلعہ میں داخل ہو گیا اور انہوں نے اس میں اس کا محاصرہ کر لیا اور وہ وہاں سے قلعہ بعلبک کی طرف بھاگ گیا اور قلعہ دمشق کی سپرد داری امیر علم الدین ایدکین البندقداری نے لے لی جو جمال الدین بنمور اور پھر صالح ایوب بن کامل کا غلام تھا اور ملک الظاہر اس کی طرف منسوب ہے الظاہر نے اسے بھیجا کہ وہ علم الدین خنجر حلبی سے دمشق کی سپرد داری لے لے سواس نے دمشق

پر قبضہ کر لیا۔ اور الظاہر کی نیابت میں اس کے قلعہ میں رہائش اختیار کر لی پھر انہوں نے بعلبک میں حلیٰ کا محاصرہ کر لیا حتیٰ کہ اسے پکڑ کر اور ایک پھر پر تھا۔ ملک الظاہر نے صرف مسرت کیج دیا اور یہ رات وہاں سے پاس لیا تو اس نے اسے ملامت کی پھر اسے چیزیں دیں اور اس کی عزت کی۔

اور ۸ رجب الاول کو سوموار کے روز الظاہر نے بہاؤ الدین علی بن محمد المعروف بابن الحنا کو وزیر مقرر کیا اور رجب الآخر میں الظاہر نے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اسے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ماہ میں اس نے الشوبک کی طرف پیغام بھیجا اور اسے الکرک کے حکمران مغیث کے نائبین کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اور اس میں الظاہر نے ایک فوج حلب کی طرف بھیجی تاکہ وہ تاتاریوں کو وہاں سے بھگا دے۔ اور جب فوج غزہ پہنچی تو فرنگیوں نے تاتاریوں کو انتباہ کا خط لکھ دیا اور وہ جلدی سے وہاں سے کوچ کر گئے اور حلب پر اہل حلب کی ایک جماعت قابض ہو گئی اور انہوں نے مطالبات کیے اور لوٹ مار کی اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا اور الظاہر کی فوج نے ان کے مقابلے میں آ کر ان سب باتوں کا خاتمہ کر دیا اور اس کے باشندوں سے ایک کروڑ چھ لاکھ کا مطالبہ کیا، پھر الظاہر کی طرف سے امیر شمس الدین آقوش ترکی نے آ کر شہر کی سپرد داری لے لی اور جوڑ توڑ کیا اور فیصلہ اور انصاف کیا۔

اور ۱۰ جمادی الاول منگل کے دن تاج الدین عبدالوہاب بن قاضی الاعرابی القاسم خلف بن رشید الدین بن ابی النعمان محمود بن بدر العلائکی نے مصر کی قضا سنبھالی اور اس بات کو اس نے الظاہر کے سامنے سخت شرط پیش کرنے کے بعد قبول کیا، پس الظاہر ان شروط کے تحت آ گیا اور اس نے بدر الدین ابوالحسن یوسف بن علی سنجاری کو معزول کر دیا اور کئی دن تک اسے لکھا، پھر اس سے الگ ہو گیا۔
مستنصر باللہ ابوالقاسم احمد بن امیر المومنین الظاہر کی بیعت خلافت:

یہ بغداد میں قید تھا، اسے رہا کر دیا گیا اور یہ اعراب کی ایک جماعت کے ساتھ عراق کے علاقے میں تھا، پھر جب الظاہر کو حکومت ملی تو اس نے اس کا قصد کیا اور اعراب کے دس امراء کے ساتھ مصر آیا، جن میں سے امیر ناصر الدین مہنا ۸ رجب کو آیا، پس سلطان باہر نکلا اور اس کے ساتھ وزیر گواہ اور اطلاع دینے والے بھی تھے اور انہوں نے اس کا استقبال کیا اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور اہل تورات اپنی تورات کے ساتھ اور نصاریٰ اپنی انجیل کے ساتھ باہر نکلے اور وہ باب النصر سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا اور جب ۱۳ رجب کو سوموار کا دن آیا تو سلطان اور خلیفہ قلعہ جبل کے ایوان میں بیٹھے اور وزیر قاضی اور امراء اپنے اپنے طبقات کے مطابق بیٹھے اور خلیفہ مذکور کے نسب کو حاکم تاج الدین بن الاعز نے ثابت کیا اور یہ خلیفہ، مستنصریہ کے بانی المستنصر کا بھائی اور مستنصر کا چچا ہے اس کی بیعت خلافت مصر میں ہوئی اور ملک الظاہر اور قاضی اور امراء نے اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے ساتھ دیا مصر گیا اور امراء اس کے آگے آگے اور لوگ اس کے ارد گرد تھے، اور وہ ۱۳ رجب کو قاہرہ سے گزرا اور یہ خلفائے بنو عباس میں سے اڑتیسواں خلیفہ تھا، اس کے اور حضرت عباسؓ کے درمیان چوبیس آباء ہیں اور سب سے پہلے قاضی تاج الدین نے اس کی بیعت کی کیونکہ اس نے اس کے نسب کو ثابت کیا تھا، پھر سلطان، پھر شیخ عز الدین ابن عبدالسلام پھر امراء اور پھر حکومت نے بیعت کی اور منابر پر اس کا خطبہ دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا، اس لیے کہ

مستعصم ۶۵۶ھ کے شروع میں قتل ہوا تھا اور اس کی بیعت اس سال کی ۱۳ ربیع الثانی کو سوموار کے روز ہوئی۔ یعنی ۱۳ ربیع الثانی ۶۵۹ھ کو اور وہ اندم نوں خوبصورت تندید الفتویٰ مالی ہمت ولید اور جری تھا اور انہوں نے اسے مستعصم کا لقب دیا جیسا کہ اس کے بھائی بنی مدرکے کا تھا اور یہ بات اس سے پہلے نہیں ہوئی کہ وہ خلیفہ جو بھائی ہوں ایک ہونے کا لقب اختیار کریں ان میں ان بھائیوں کی طرح سفاح اور اس کے بھائی منصور نے بھی خلافت سنبھالی اور اسی طرح محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس اور ہادی اور رشید نے بھی اور المسترشد اور مقتضی نے بھی جو مستظہر کے بیٹے تھے۔

اور خلافت سنبھالنے والے تین بھائی امین مامون اور معتصم ہیں جو رشید کے بیٹے ہیں اور المنصر اور المعز اور المطیع بھی ہیں جو المقتدر کے بیٹے ہیں اور خلافت سنبھالنے والے چار بھائی عبدالملک بن مروان کے بیٹے ہیں یعنی ولید سلیمان یزید اور ہشام اور اس کی مدت خلافت جیسا کہ ابھی بیان ہوگا پانچ ماہ بیس دن ہیں بنو عباس کے خلفاء سے اس کی مدت کم ہے اور بنو امیہ میں سے معاویہ بن یزید بن معاویہ کی مدت خلافت چالیس روز ہے اور ابراہیم بن یزید الناقص کی ستر روز اور اس کے بھائی یزید بن ولید کی پانچ ماہ ہے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی مدت خلافت اپنے باپ کے بعد سات ماہ گیارہ دن ہے اور مروان بن الحکم کی مدت خلافت نو ماہ دس دن ہے اور خلفائے بنو عباس میں سے جنہوں نے ایک سال کی مدت پوری نہیں کی ان میں المنصر بن التوکل کی مدت چھ ماہ اور المہجد بن الواثق کی مدت گیارہ ماہ اور کچھ دن ہیں اور اس خلیفہ کو قلعہ جبل کے ایک برج میں اس کے قرابتداروں اور نوکروں کے ساتھ اتارا گیا اور جب ۷ ربیع الثانی کا دن آیا تو وہ عوام کے ساتھ سوار ہو کر قلعہ کی جامع کی طرف آیا اور اس نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جس میں بنو عباس کے شرف کا ذکر کیا پھر اس نے آغاز خطبہ میں سورہ انعام کا ابتدائی حصہ پڑھا پھر رسول کریم ﷺ پر درود پڑھا پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی رضامندی چاہی اور سلطان الظاہر کے لیے دعا کی پھر اس نے اتر کر لوگوں کو نماز پڑھائی لوگوں نے اس کے اس کام کو بخیر استحسان دیکھا اور یہ ایک اچھا وقت اور جمعہ کا دن تھا۔

مستعصم باللہ کی خلافت ملک الظاہر کے سپرد کرنا:

جب ۴ شعبان کو سوموار کا دن آیا تو خلیفہ سلطان وزیر قضاة امراء اور ارباب حل و عقد ایک عظیم خیمہ کی طرف گئے جو قاہرہ کے باہر لگایا گیا تھا اور وہ اس میں بیٹھ گئے اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے سلطان کو سیاہ خلعت پہنایا اور اس کی گردن میں طوق ڈالا اور اس کے پاؤں میں بیڑی ڈالی اور یہ دونوں چیزیں سونے کی تھیں اور ہیڈ کاتب فخر الدین ابراہیم بن لقمان منبر پر چڑھا اور اس نے لوگوں کو سلطان کا حکم سنایا اور وہ اس کا اپنا وضع کردہ اور اس کی اپنی تحریر میں تھا پھر سلطان اس شان کے ساتھ گیا کہ بیڑی اس کے پاؤں میں تھی اور طوق اس کی گردن میں تھا اور وزیر اس کے آگے آگے تھا اور اس کے سر پر حکمنامہ تھا اور امراء اور حکومت وزیر کے سوا اس کی خدمت میں پیدل چل رہے تھے اس نے قاہرہ کو پار کیا اور اسے اس کی خاطر سجایا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور شیخ قطب الدین نے اس مکمل حکمنامے کو بیان کیا ہے اور وہ لہا ہے۔ واللہ اعلم

خلیفہ کی بغداد کی طرف روانگی:

پھر خلیفہ نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بغداد بھجوادے سو سلطان نے اس کے لیے ایک عظیم فوج منظم کی اور اس کے

لیے ہر اس چیز کا انتظام کیا جو خلفاء اور ملوک کے لیے ضروری ہے پھر سلطان اس کے ساتھ دمشق گیا اور سلطان کے مصر سے شام ہونے کا سبب یہ تھا کہ پتہ بیاں کیا با پچھتے کہ رکن حسب پر قاضی بن ہو چکا تھا اور اسے امیر محمد الدین تہرانی و ہود سنق پر متغلب ہو چکا تھا اس کی طرف بھیجا تو اس نے اسے حاکم سے بھگا دیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اس نے وہاں سلطان کی طرف سے نائب مقرر کیا، پھر ترکی مسلسل کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس سے عقب کو واپس لے لیا اور اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکال دیا۔ اور الظاہر نے عز الدین ایمر الصلی کو مصر پر نائب مقرر کیا اور مملکت کا انتظام وزیر بہاؤ الدین بن الحنا کے سپرد کر دیا اور اس کے بیٹے فخر الدین کو بھی اس کے ساتھ وزیر بنا دیا اور افواج و عساکر کا انتظام امیر بدر الدین بعلبک الخازندار کے سپرد کر دیا پھر وہ سارے چل کر ۷ ذی القعدہ کو سوموار کے روز دمشق آگئے اور یہ جمعہ کا دن تھا اور دونوں نے جامع دمشق میں نماز جمعہ پڑھی اور خلیفہ باب البرید سے داخل ہوا اور سلطان باب الزیارة سے داخل ہوا اور یہ بھی جمعہ کا دن تھا پھر سلطان نے خلیفہ کو بغداد بھیجا اور اس کے ساتھ شاہ موصل کے بیٹے بھی تھے اور اس نے اس پر اور ان پر اور فوج کے جو جوان اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا دفاع کرتے تھے ان پر اس قدر خرچ کیا جس کی اللہ نے طاقت نہیں دی تھی، یعنی ایک کروڑ دینار کا خالص سونا اور اس نے اسے دے دیا اور مزید دیا۔ جزاہ اللہ خیراً

اور شاہ حمص ملک اشرف اس کے پاس آیا تو اس نے اسے خلعت دیا اور مال دیا اور مزید اسے قتل با شری بھی دے دیا۔ اور حمہا کا حکمران منصور آیا تو اس نے اسے خلعت دیا اور اسے مال دیا اور اس کے ملک کا حکم نامہ اسے لکھ دیا۔ پھر اس نے امیر علاؤ الدین البندقداری کے ساتھ حلب کی طرف فوج بھیجی تاکہ وہ اس ترکی سے جنگ کرے جو اس پر متغلب ہو کر اس میں فساد کر رہا ہے اور اس سال کے معرکوں کے متعلق ہمیں جو معلومات پہنچی ہیں یہ ان کا خلاصہ ہے۔

۶۶۰ھ

اس سال کے آغاز میں ۳ محرم کو خلیفہ مستنصر باللہ قتل ہو گیا، جس کی گذشتہ سال رجب میں بیعت ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جو افواج تھیں ان کی شکست کے بعد وہ ارض عراق میں قتل ہو گیا (انا للہ وانا الیہ راجعون) اور سارے مصر و شام پر الظاہر خود مختار بادشاہ بن گیا اور اس کے حالات ٹھیک ہو گئے اور ترکی کے سوا اس سے کشاکش کرنے والا اور کوئی نہ رہا، اس نے المنیرہ جا کر اس پر قبضہ کر لیا اور اس کی نافرمانی شروع کر دی اور اس سال ۳ محرم کو سلطان ملک الظاہر نے بلاد مصر کے تمام امراء، خواص، وزیر، قاضی تاج الدین اور پسر دختر اعز کو خلعت دیئے اور وہاں سے برہان الدین سنجاری کو معزول کر دیا، اور محرم کے آخر میں امیر بدر الدین بعلبک الخازندار شاہ موصل امیر لولؤ کو بیٹی کو دلہن بنا کر لایا اور اس دعوت و لیمہ پر الظاہر نے بڑا زبردست انتظام کیا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس سال الظاہر کے ایک امیر نے حماة کی حدود میں ایک جنگلی گدھے کو شکار کیا اور اسے پکایا، مگر وہ نہ پکا اور نہ ہی ایندھن کی کثرت اس پر اثر انداز ہوئی پھر انہوں نے اس کے چمڑے کو تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کان پر بہرام جور لکھا ہوا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ وہ اسے میرے پاس لائے تو میں نے بھی اسے اسی طرح پڑھا، یہ بات اس امر کی مقتضی ہے کہ وہ گدھا تقریباً آٹھ سو سال کا تھا بلاشبہ بہرام جور بعثت نبوی سے طویل مدت پہلے ہوا ہے اور جنگلی گدھے لمبا عرصہ زندہ رہتے

ہیں میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ بہرام شاہ ملک امجد ہو کیونکہ اس قسم کی چیز کا شکار کیے بغیر اتنی طویل مدت زندہ رہنا مستبعد ہے اور کاتب نے تسمی کی ہے اور اس نے بہرام شاہ کی بجائے بہرام جور لکھ دیا ہے جس سے یہ اشتباہ پیدا ہو گیا ہے۔ واللہ اعلم
الحکم بامر اللہ عباسی کی بیعت کا بیان

۲۷ ربیع الآخر خلیفہ ابو العباس الحاکم بامر اللہ احمد بن امیر ابی علی التیمی بن امیر علی بن امیر ابی بکر بن امام مسترشد باللہ بن مستظہر باللہ ابی العباس احمد بلا دشرقی سے آیا اور اس کے ساتھ اس علاقے کے سرکردہ لوگوں کی بھی ایک جماعت تھی اور وہ ایک جماعت کے ساتھ میدان کارزار سے بھاگا اور بیچ گیا اور جب اس کی آمد کا دن آیا تو سلطان الظاہر نے اس کا استقبال کیا اور خوشی کا اظہار کیا اور جلسہ کیا اور قلعہ جبل کے بڑے برج میں اسے اتارا اور اس کی مستقل رسد کا اجراء کر دیا اور اس سے حسن سلوک کیا اور ربیع الآخر میں ملک الظاہر نے امیر جمال الدین آقوش اتیمی کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس کی بجائے کسی دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے اسے شام کا نائب بنا کر بھیج دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

۹۹۰ھ رجب منگل کے روز سلطان الظاہر ایک کنوئیں کے محاکمہ میں دار العدل میں قاضی تاج الدین عبدالوہاب ابن بنت الاعز کے گھر حاضر ہوا تو قاضی کے سوا سب لوگ کھڑے ہو گئے اس نے اسے حکم دیا کہ وہ کھڑا نہ ہو اور دونوں نے دعویٰ کیا اور حق سلطان کے ساتھ تھا اور اس کے پاس عادلانہ گواہی تھی پس قرض خواہ کے ہاتھ سے کنواں چھین لیا گیا۔ اور قرض خواہ ایک امیر تھا۔

اور شوال میں الظاہر نے امیر علاؤ الدین ایدکین الشہابی کو حلب پر نائب مقرر کیا اور اس وقت سیس کی فوج ارض حلب سے قلعہ پر سمت آئی اور الشہابی ان کے مقابلہ میں ڈٹ گیا اور اس نے انہیں شکست دی اور ان میں سے ہر ایک جماعت کو قیدی بنایا اور اس نے انہیں مصر بھیج دیا۔ اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اس سال سلطان نے امیر جمال الدین آقوش اتیمی کو دمشق پر نائب مقرر کیا اور وہ اکابر امراء میں سے تھا اور اس نے علاؤ الدین طبریس الوزیری کو وہاں سے معزول کر دیا۔ اور اسے قاہرہ لے گیا۔

اور ذوالقعدہ میں قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز کو سلطان کا شاہی فرمان پہنچا کہ وہ تینوں مذاہب سے نائب مقرر کرے پس اس نے حنفیہ سے صدر الدین سلیمان انحنفی اور حنابلہ سے شمس الدین محمد بن الشیخ العماد اور مالکیہ سے شرف الدین السبکی المالکی کو نائب مقرر کیا۔

اور ذوالحجہ میں تاتاریوں کے بہت سے وفود ملک الظاہر کے پاس امان طلب کرتے ہوئے آئے سو اس نے ان کا اکرام کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور ان کو اچھی جاگیریں دیں اور یہی سلوک اس نے شاہ موصل کے لڑکوں سے کیا اور ان کے کافی وظائف مقرر کر دیئے۔

اور اس سال ہلاکونے اپنی فوج ایک ٹکڑی کو جو دس ہزار جوانوں پر مشتمل تھی بھیجا اور انہوں نے موصل کا محاصرہ کر لیا اور اس پر ۲۴ جانیق نصب کر دیں اور وہاں خوراک کی تنگی ہو گئی۔

اور اس سال ملک صالح نے اسماعیل بن لؤلؤ کو ترکی کے پاس مدد طلب کرتے ہوئے بھیجا پس وہ اس کے پاس آیا اور تاتاری شکست کھا گئے پھر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کے پاس سات سو جانیق تھے سو انہوں نے

اسے شکست دی اور وہ البیرہ کی طرف واپس آ گیا اور اس کے اکثر اصحاب اسے چھوڑ گئے اور وہ دیار مصر میں داخل ہو گئے پھر وہ ملک الظاہر کے پاس آیا اور اس نے اس پر انعام کیا اور اس سے 'ان سوک' کیا اور اسے سز سوار دیئے اور نارمنی موسیٰ کی طرف واپس آ گئے اور وہیں رہے حتیٰ کہ انبعاث نے اس کے حکمران ملک صالح کو اپنی طرف اتار لیا اور انہوں نے شہ میں امان کا اعلان کر دیا۔ حتیٰ کہ لوگ مطمئن ہو گئے پھر انہوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں نو دن تک قتل کیا اور ملک صالح اسماعیل اور اس کے بیٹے علاء الدین کو بھی قتل کر دیا۔ اور شہر کی فصیلوں کو گرادیا اور اسے ویران کر کے چھوڑ دیا پھر وہ واپس پلٹ گئے اللہ ان کو ہلاک کرے۔

اور اس سال ہلاکو خان اور اس کے عمراد سلطان برکہ خان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور برکہ نے اس کی طرف مفتوحہ بلاد کا حصہ طلب کرتے ہوئے پیغام بھیجا اور اس سے اموال اور اسرار حاصل کیے جیسا کہ ان کے ملوک کا دستور ہے پس اس نے اس کے ایلیچوں کو قتل کر دیا اور برکہ کا غصہ شدت اختیار کر گیا اور اس نے الظاہر سے خط و کتابت کی تاکہ وہ دونوں ہلاکو کے خلاف اتفاق کر لیں۔

اور اس سال شام میں شدید گرانی ہو گئی اور گندم کا ایک بورا چار سو اور جو کا ایک بورا دو سو پچاس میں فروخت ہوا اور ایک رطل گوشت چھ یا سات درہم میں فروخت ہوا اور ۱۵ شعبان کو تاریوں کا شدید خوف پیدا ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے مصر کی تیاری کر لی اور غلہ جات کو فروخت کیا گیا حتیٰ کہ قلعہ اور امراء کے ذخائر بھی فروخت کر دیئے گئے اور اولیان امر نے حکم دیا کہ جسے طاقت حاصل ہو وہ دمشق سے بلاد مصر کی طرف سفر کر جائے۔ اور شام اور بلاد روم میں عظیم زلزلہ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تاری بلاد کو بھی ایسے ہی شدید خوف لاحق ہوا پس پاک ہے وہ ذات جو چاہتی ہے کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔

اور اہل دمشق کو دمشق سے مصر منتقل ہونے کا حکم دینے والا مصر کا نائب امیر علاء الدین طہیرس الوزیری تھا اور سلطان نے ذوالقعدہ میں اس کی طرف آدمی بھیجا اور اسے پکڑ لیا اور بہاؤ الدین التیمی کو اس پر نائب مقرر کیا اور دمشق میں عز الدین بن دواعہ کو وزیر بنایا۔

اور اس سال ابن خلکان ابو شامہ کے لیے "الرنکیہ" کی تدریس سے دستبردار ہو گیا اور جب اس نے درس دیا تو وہ اس کے پاس حاضر ہوئے اور مختصر المرئی کے آغاز سے شروع کیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

خليفة مستنصر بن الظاهر بامر الله العباسي:

جس کی مصر میں الظاہر نے بیعت کی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس سال کی ۳ محرم کو اس کا قتل ہوا اور وہ تیز فہم شجاع بہادر اور دلیر تھا اور الظاہر نے اس پر خرچ کیا حتیٰ کہ اس نے اس کے لیے ایک کروڑ دینار یا اس سے زیادہ کی فوج کھڑی کی اور وہ اس کی خدمت میں مشہور ہو گیا اور اس کے ساتھ بہت سے اکابر امراء اور شاہ موصل کے بیٹے بھی تھے اور ملک صالح اسماعیل اس وفد کے لوگوں میں تھا جو الظاہر کے پاس آئے تھے اور اس نے اسے خلیفہ کی صحبت میں بھیج دیا اور جب معرکہ ہوا تو مستنصر مر گیا اور صالح

اپنے ملک کی طرف واپس آ گیا اور تاری اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس نے ملک و ویران کر دیا اور اس نے اس وقت سڑیا۔ امانتدوانا البیہ راہنمون العزیز الفخری الخوی اللغوی:

آپ ۵۷۷ھ میں محمد بن احمد بن نجاشی آپ اہل نصیبین میں سے آپ نے اربل میں پرورش پائی اور علوم الاوائل کے بہت سے علوم سے اشتغال کیا اور اہل ذمہ وغیرہ اس سے اشتغال کرتے تھے اور آپ کی طرف اُتھال بے دینی اور ترک نماز کو منسوب کیا گیا ہے اور آپ ذہین نہیں تھے زبان کے عالم اور دل کے جاہل تھے باتوں کے دانہ اور افعال کے خبیث تھے اور آپ کے اشعار بھی ہیں جن میں سے بعض اشعار کو شیخ قطب الدین نے آپ کے حالات میں بیان کیا ہے اور آپ ابو العلاء المصری کی مانند تھے اللہ ان دونوں کا برا کرے۔

ابن عبد السلام:

عبد العزیز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المہذب، الشیخ عز الدین بن عبد السلام ابو محمد السلمی الدمشقی الشافعی، شیخ المذہب اور اہل مذہب کو فائدہ دینے والا اور آپ کی تصنیفات خوبصورت ہیں جن میں التفسیر اختصار النہایہ، القواعد الکبریٰ کتاب الصلوٰۃ، الفتاویٰ الموصلیہ وغیرہ شامل ہیں۔

آپ ۵۷۷ھ یا ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئے اور آپ نے بہت سماع کیا اور فخر الدین بن عساکر وغیرہ سے اشتغال کیا اور مذہب میں ماہر ہو گئے اور بہت سے علوم کو جمع کیا اور طلبہ کو علم عطا کیا اور دمشق کے کئی مدارس میں پڑھایا اور اس کی خطابت سننیالی پھر مصر کی طرف سفر کر گئے اور وہاں پڑھایا اور خطبہ دیا اور فیصلہ کیا اور شافعیہ کی سرداری آپ کو ملی اور آفاق سے آپ کے پاس فتاویٰ آئے اور آپ مہربان اور دانا تھے اور اشعار سے استشہاد کرتے تھے اور شام سے آپ کے خروج کا سبب یہ تھا کہ آپ نے صالح اسماعیل کو صفد اور ثقیف کے فرنگیوں کو سپرد کرنے پر ملامت کی اور شیخ ابو عمرو بن الحاجب الماسکی نے آپ سے موافقت کی اور اس نے ان دونوں کو اپنے شہر سے نکال دیا اور ابو عمرو و الکرک کے حکمران ناصر داؤد کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کی عزت کی اور ابن عبد السلام مصر کے حکمران ملک صالح ایوب بن کامل کے پاس چلے گئے اور اس سے آپ کو مصر کا قاضی اور پرانی جامع کا خطیب مقرر کر دیا پھر اس نے آپ سے یہ دونوں عہدے چھین لیے اور آپ کو الصالحیہ کی تدریس پر مقرر کر دیا۔ اور جب آپ کو موت آئی تو آپ نے قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز کو الصالحیہ کے بارے میں وصیت کی اور آپ نے ۱۰ ہجری اولیٰ کو ۸۰ سال سے زیادہ عمر کے ہو کر وفات پائی اور دوسرے دن المعظم کے دامن میں دفن ہوئے اور آپ کے جنازہ میں سلطان الظاہر اور بہت سے لوگ شامل ہوئے۔

کمال الدین بن العدیم الحنفی:

عمر بن احمد بن ہبۃ اللہ بن محمد بن ہبۃ اللہ بن احمد بن یحییٰ بن زہیر بن ہارون بن موسیٰ بن عیسیٰ بن عبد اللہ بن محمد بن ابی جرادۃ عامر بن ربیعہ بن خویلد بن عوف بن عامر بن عقیل الحنفی الحنفی ابو القاسم بن العدیم الامیر الوزیر رئیس الکبیر۔ آپ ۵۸۶ھ میں پیدا

ہوئے آپ نے حدیث کا سماع کیا اور حدیث بیان کی اور فقہ کیسکی فتویٰ دیا اور سن دیا اور تصنیف کی آپ فنون کثیرہ میں امام تھے آپ نے متعدد بار خلفاء اور ملوک سے خط و کتابت کی آپ بہت اچھا کہتے تھے اور آپ سے تقریباً چالیس ہندوں میں سلب کی مفید تاریخ لکھی آپ حدیث کی بہت اچھی معرفت رکھتے تھے، اور فقہاء اور صالحین سے حسن ظن رکھتے تھے اور ان سے بہت مسن سلوک کرتے تھے اور آپ نے حکومت ناصریہ متاخرہ میں دمشق میں قیام کیا اور مصر میں وفات پائی اور ابن عبدالسلام کے دن بعد از ظہر کے دامن میں دفن ہوئے اور قطب الدین نے آپ کے ایتھے اشعار کو بیان کیا ہے۔

یوسف بن یوسف بن سلامہ:

ابن ابراہیم بن الحسن بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن سلیمان بن محمد القاتانی الزینی بن ابراہیم ابن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالطلب محی الدین ابوالمعز اور آپ کو ابوالمحاسن الباشمی العباسی الموصلی المعروف بابن زبلاق الشاعر بھی کہا جاتا ہے جب تاتاریوں نے اس سال موصل پر قبضہ کیا تو آپ کو ۵۵ سال کی عمر میں قتل کر دیا آپ اپنے اشعار میں کہتے ہیں:

”تو نے اپنی آنکھوں کے سحر سے ہمارے لیے اگلے بھیجی ہے بے خوابی نیند کو دور کر دیتی ہے کہ وہ آنکھوں سے مالوف نہ ہو اور میرے جسم نے تیری باریک کمر کے حسن کو دیکھا تو اس کے مشابہ ہو گیا لیکن وہ مفہوم کی باریکی میں بڑھ گئی اور تو نے ایسے چہرے کو نمایاں کیا، جس نے طلوع ہوتی صبح کو جھل کر دیا، اور تو باریک کمر کے ساتھ لچکدار شاخ پر فوقیت لے گئی ہے۔“

تو چاند کی تکمیل کی رات کو اپنے بھائی ماہ تمام سے مشابہ ہو گئی ہے اور تم دونوں کی روشنی ایک جیسی ہو گئی ہے۔“

اور اسی طرح آپ کو ایک جگہ بلایا گیا تو آپ نے ان دو اشعار کے ذریعے معذرت کی۔

”میں اپنے گھر میں ہوں اور اللہ نے مجھے شراب نوش رفیق، گلوکارہ لونڈی اور جاگیر بخشی ہے، عذر کو پھیلاؤ کہ میں تم سے پیچھے رہ گیا ہوں، عشق سے خالی شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس پر عیب لگایا جائے۔“

البدرا المرائی الخلانی:

المعروف بالطویل یہ بے دین تارک الصلوٰۃ اور متاخرین کی اصطلاح کے مطابق جدل و خلاف کا دلدادہ اور بے فائدہ باتوں

کو پسند کرنے والا تھا ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۲ جمادی الآخرہ کو اس نے وفات پائی۔

محمد بن داؤد بن یاقوت الصارمی:

المحدث آپ نے طبقات وغیرہ لکھا، آپ بہت اچھے دیندار تھے اور اپنی کتابوں کو عاریتہ دیتے تھے اور مداومت کے

ساتھ سماع حدیث میں مشغول رہتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

۱۶۱ھ

اس سال کا آغاز ہوا اور شامی اور مصری علاقے کا سلطان الظاہر بیہرس تھا اور شام پر اس کا نائب آقوش التیمی تھا اور دمشق کا

قاضی ابن خلکان اور وہاں کا وزیر عز الدین بن دواع تھا اور لوگوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور مقتول مستنصر کے نام کا سکہ ڈھالا جاتا تھا۔

الحاکم بامر اللہ ابی العباس کی خلافت کا بیان:

احمد بن الامیر ابی اسحاق بن الامیر علی بن الامیر ابی بکر بن الامام الامیر شہداء امیر المؤمنین ابی منصور انصاری بن الامام المستظہر باللہ احمد العباسی الباسطی جب ۲ محرم جمعرات کا دن آیا تو سلطان الظاہ اور امراء قلعہ جبل کے سے ایوان میں بیٹھے اور خلیفہ الحاکم بامر اللہ سوار ہو کر آیا اور ایوان کے پاس اتر گیا اور سلطان کے پہلو میں اس کے لیے فرش بچھایا گیا اور یہ کام اس نے ثبوت نسب کے بعد ہوا پھر اس کا نسب لوگوں کو سنایا گیا پھر الظاہر بیہمس اس کے پاس آیا اور اس نے اس کی بیعت کی اور اس کے بعد لوگوں نے اس کی بیعت کی اور یہ جمعہ کا دن تھا اور جب دوسرا جمعہ آیا تو خلیفہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور اس نے اپنے خطبہ میں کہا۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے آل عباس کو کھڑا کیا اور ہم مددگار تھے اور اپنی جناب سے ان کے لیے مددگار سلطان بنایا۔ میں خوشحالی اور تنگی میں اس کا شکر کرتا ہوں اور جو اس نے مکمل نعمتیں دی ہیں، میں شکر ادا کر کے اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس سے دشمنوں کے دور کرنے کے لیے مدد مانگتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد لا شریک ہے اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو ہدایت کے ستارے اور فداکاری کے امام ہیں، خصوصاً چار خلفاء پر، اور حضرت عباسؓ پر جو آپ کے غم کو دور کرنے والے اور سادات خلفاء کے باپ ہیں اور تمام بقیہ صحابہؓ پر اور قیامت کے دن تک ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں پر رحم کرے، اے لوگو! یاد رکھو امامت فرائض اسلام میں سے ایک فرض ہے اور جہاد تمام بندوں پر واجب ہے اور جہاد کا علم بندوں کے اتحاد سے کھڑا ہوتا ہے اور حرم کو حرام کی بے حرمتی سے آرام پہنچایا جاسکتا ہے اور ارتکاب جرائم سے خون ریزی ہوتی ہے اور اگر تم دشمنان اسلام کو دیکھتے تو وہ دارالسلام میں داخل نہ ہوتے، انہوں نے خون اور اموال کو مباح کیا اور رجال و اطفال کو قتل کیا اور بچوں اور بچیوں کو قیدی بنایا، اور انہیں آباء و امہات سے یتیم کر دیا اور حرم خلافت اور حریم کی بے عزتی کی اور اس طویل دن کے خوف سے چیخیں بلند ہوئیں، کتنے ہی بوڑھے ہیں جن کے بالوں کی سفیدی کو ان کے خون سے رنگ دیا گیا اور کتنے ہی بچے ہیں جو رو پڑے اور ان کے رونے پر حرم نہ کیا گیا، اے بندگان خدا! فرض جہاد کے احیاء کے لیے تیار ہو جاؤ اور حقیقی المقدور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو (اور سمع و اطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچائے جائیں گے وہی لوگ فلاں پانے والے ہوں گے) اور دشمنان دین سے رکنے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے سے کوئی عذر باقی نہیں رہا اور یہ سلطان ملک الظاہر عظیم سردار عالم عادل مجاہد مؤید دین و دنیا کا ستون ہے اور انصار کی قلت کے وقت وہ امامت کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے جیوش کفار کو گھروں کے درمیان گھس جانے کے بعد بھگا دیا ہے اور اس کی ہمت سے بیعت مرتب ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے حکومت عباسی کی افواج بکثرت ہو گئی ہیں، اے بندگان خدا! اس نعمت کے شکر ادا کرنے میں سبقت کرو اور اپنی نیتوں کو صاف کرو تمہاری مدد کی جائے گی اور شیطان کے مددگاروں سے جنگ کرو، تم کامیاب ہو گے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہیں خوفزدہ نہ کرے، جنگ کا پانسہ پلٹتا رہتا ہے اور انجام متقین کے لیے ہے اور زمانہ دودن ہے اور اجر مومنین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے امر کو ہدایت پر جمع کرے اور ایمان سے تمہاری مدد کو قوت دے اور میں اللہ سے اپنے لیے اور بقیہ مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اس سے بخشش طلب کرو بلاشبہ وہ غفور رحیم ہے، پھر اس نے دوسرا خطبہ دیا اور اتر کر نماز پڑھی۔

اور اس نے اطراف کو اپنی بیعت کے لیے لکھا کہ اس کا خطبہ دیا جائے اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱۶ محرم کو جمعہ کے دن جامع دمشق اور بقیہ جو جامع میں اس کا خطبہ دیا گیا اور یہ خلفائے بنی عباس میں سے امنا لیسواں خلیفہ تھا اور سحان اور نسور کے بعد بومہاں میں اس کے سوا کسی نے خلافت نہیں منجائی جس کا باپ اور ابا خلیفہ ہو اور جن کا والد خلیفہ نہیں تھا وہ بہت ہیں اور ان میں سے المستعین احمد بن محمد ابن المغصم المعتمد بن طلحہ بن المتوکل القادر بن اسحاق بن المقتدر اور المقتدی بن الذخیرہ ابن القائم بامر اللہ شامل ہیں۔

الظاہر کا الکرک پر قبضہ کرنا اور اس کے حکمران کو پھانسی دینا:

الظاہر مصر سے فتح مند افواج کے ساتھ بلاد الکرک کی جانب گیا اور اس نے اس کے حکمران ملک مغیث عمر بن عادل ابی بکر بن کامل کو بلایا اور جب وہ بڑی مشقت کے بعد اس کے پاس آیا تو اس نے اسے قید کر کے مصر کی طرف بھیج دیا اور یہ اس کی آخری ملاقات تھی اور یہ واقعہ یوں ہے کہ اس نے ہلاکو خان سے خط و کتابت کی اور اسے دوبارہ شام آنے کی ترغیب دی اور نیابت بلاد اور ثبات کے متعلق تاریخوں کے خطوط بھی اس کے پاس آئے اور یہ کہ وہ دیار مصر کی فتح کے لیے بیس ہزار کی تعداد میں اس کے پاس آ رہے ہیں اور سلطان نے اس کے قتل کے بارے میں فقہاء کے فتاویٰ نکال اور انہیں ابن خلکان کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے آپ کو دمشق سے بلایا تھا اور امراء کی ایک جماعت کے سامنے بھی وہ فتاویٰ پیش کیے پھر اس نے چل کر ۱۳ جمادی الاولیٰ کو جمعہ کے روز الکرک کی سپردداری لے لی اور اس روز اس میں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا پھر مظفر و منصور ہو کر مصر واپس آ گیا۔ اور اس سال برکہ خان کے ایلچی الظاہر کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے تو میری محبت اسلام کو جانتا ہے اور جو کچھ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اسے بھی جانتا ہے پس تو بھی ایک طرف سے سوار ہو اور میں بھی ایک طرف سے آتا ہوں تاکہ ہم اس کے بارے میں صلح کریں یا اسے ملک سے نکال دیں اور میں وہ تمام شہر تجھے دے دوں گا جو اس کے قبضے میں ہیں پس الظاہر نے اس رائے کو درست خیال کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ایلچیوں کو خلعت دیئے اور ان کی عزت کی۔

اور اس سال موصل میں زبردست زلزلہ آیا اور اس کے اکثر گھر گر گئے اور رمضان میں الظاہر نے رسول اللہ ﷺ کی مسجد کے جل جانے کے بعد اس کی تعمیر کے لیے کاریگر لکڑیاں اور آلات بھیجے اور ان لکڑیوں اور آلات کو خوشی اور ان کی شان کی عظمت کے لیے مصر میں پھرایا گیا پھر وہ انہیں مدینہ نبویہ لے گئے اور شوال میں الظاہر اسکندریہ کی طرف گیا اور اس نے اس کے احوال و امور میں غور و فکر کیا اور اس کے قاضی اور خطیب ناصر الدین احمد بن الہمیز کو معزول کر دیا اور کسی اور کو مقرر کر دیا۔

اور اس سال برکہ خان اور ہلاکو خان کی مدد بھیڑ ہوئی اور ہر ایک کے ساتھ بڑی افواج تھیں پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کو بری طرح شکست دی اور اس کے اکثر اصحاب قتل ہو گئے اور باقی بچ رہنے والوں سے زیادہ ڈوب گئے اور وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ وللہ الحمد

اور جب برکہ خان نے مقتولین کی کثرت کو دیکھا تو کہنے لگا مجھے یہ بات گراں گزرتی ہے کہ مغل ایک دوسرے کو قتل کریں لیکن اس شخص کے بارے میں کیا حیلہ ہو سکتا ہے جو چنگیز خاں کی سنت کو بدل دے پھر برکہ خان نے بلاد قسطنطنیہ پر غارت گری کی اور

اس کے حکمران نے اسے رشوت دی اور الظاہر نے بڑا گناہ کی طرف بڑے تحائف بھیجے اور ترکی نے حلب میں ایک اور خلیفہ کھڑا کر دیا اور اسے الحاکم کا لقب دیا اور جب مستنصر اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کے ساتھ عراق روانہ ہو گیا اور دونوں نے مصلحت اور مستنصر کو کم بنانے پر اتفاق کر لیا چونکہ وہ اس سے بڑا تھا لیکن تاتاریوں کی ایک جماعت نے ان دونوں کے خلاف بغاوت کر دی اور انہوں نے ان دونوں کی جمعیت کو پریشان کر دیا۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں قتل کر دیا اور مستنصر مارا گیا اور الحاکم بدوہوں کے ساتھ بھاگ گیا اور اس مستنصر نے شام سے عراق جاتے ہوئے بہت سے شہروں کو فتح کیا اور جب بغداد کے کو تو ال بہادر علی نے اس سے جنگ کی تو مستنصر نے اسے شکست دی اور اس کے اکثر اصحاب کو قتل کر دیا، لیکن تاتاریوں کی گھاتی فوج مدد کے لیے نکل آئی اور العریان اور اکراد جو مستنصر کے ساتھی تھے بھاگ گئے اور وہ اپنے ترک ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدم رہا اور ان کی اکثریت قتل ہو گئی اور وہ ان کے درمیان سے کھو گیا اور الحاکم ایک جماعت کے ساتھ بچ گیا۔

اور یہ معرکہ یکم محرم ۶۶۰ھ کو ہوا۔ اور یہ کثرت افواج کے ساتھ ارض عراق میں گھسنے کے لحاظ سے حضرت حسین بن علیؑ کے مشابہ تھا اور اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ بلاد شام میں پھرتا حتیٰ کہ اس کے حالات روبرو ہوجاتے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس نے جو چاہا کیا اور سلطان نے ایک اور فوج دمشق سے بلاد فرنگ کو بھیجی اور انہوں نے قتل و غارت کی اور قیدی بنائے اور صحیح سالم واپس آگئے اور فرنگیوں نے اس سے مصالحت کرنے کا مطالبہ کیا اور اس نے حلب اور اس کے مضافات میں اشتغال کی وجہ سے ایک مدت تک ان سے مصالحت کر لی۔

اور اس نے شوال میں قاضی مصر تاج الدین ابن بنت الاعز کو معزول کر دیا اور برہان الدین الخضر بن الحسین سنجاری کو اس کا قاضی مقرر کر دیا اور اس نے دمشق کے قاضی نجم الدین ابو بکر بن صدر الدین احمد ابن شمس الدین بن ہبہ اللہ بن سنی الدولہ کو معزول کر دیا اور شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر بن خلکان کو اس کا قاضی مقرر کر دیا اور یہ قاہرہ میں طویل مدت تک بدر الدین سنجاری کا نائب عدالت رہا اور اس نے اس کے ساتھ اسے اوقاف جامع، ہسپتال اور سات مدارس العادلیہ الناصریہ، الندرادیہ، الفلکیہ، الرکینیہ، الاقبالیہ اور البہنیہ کی تدریس کی نگرانی بھی سپرد کر دی اور اس کا حکم عرفہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جامع دمشق کی کمال کھڑکی سے سنایا گیا اور نسبتے قاضی نے نشان مند ہو کر سفر کیا اور شیخ ابو شامہ نے اس کی متعلق اعتراض کیا اور بیان کیا ہے کہ اس نے سونے کی امانت میں خیانت کی ہے اس نے اسے پیسے بنا لیا تھا۔ واللہ اعلم

اور اس کی مدت حکومت ایک سال چند ماہ تھی اور عید کے روز ہفتہ کو سلطان نے مصر کی طرف سفر کیا اور اسما علیہ کے ایلچی دمشق میں سلطان کے پاس اسے ڈراتے اور دھمکاتے اور اس سے بہت سی جاگیریں طلب کرتے ہوئے آئے اور سلطان مسلسل ان سے جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے ان کی بیخ کنی کر دی اور ان کے شہروں پر قابض ہو گیا۔

اور ۲۶ ربیع الاول کو سلطان الناصر صلاح الدین یوسف ابن العزیز محمد بن الظاہر غازی بن الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب بن شادی فاتح بیت المقدس کی تعزیت کا اہتمام ہوا اور اس تعزیت کا اہتمام سلطان الظاہر رکن الدین بیہر کے حکم سے مصر میں قلعہ جبل پر ہوا اور یہ کام اس وقت ہوا جب انہیں اطلاع ملی کہ شاہ تاتار ہلاکو خان نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اور وہ مدت سے اس

کے قبضے میں تھا اور جب ہلاکو کو اطلاع ملی کہ اس کے اصحاب میں جاننا برکت کھا گئے ہیں تو اس نے اسے اپنے سامنے بلایا اور اسے کہنے لگا تو نے مصر میں فوج کو بیچنا بھیجا اور انہوں نے آ کر مغلوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دینی ہے پھر اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کے پاس عذر کیا اور اسے بتایا کہ مصری اس کے دشمن ہیں اور اس کے اور ان کے درمیان دشمنی ہے تو اس نے اسے معاف کر دیا لیکن اس کا مقام اس کے ہاں گر گیا حالانکہ وہ اس کی خدمت میں تلامذہ تھا اور اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ مصر کا بادشاہ بنے گا تو اسے شام میں نائب مقرر کرے گا۔

اور جب اس سال قحط کا معرکہ ہوا اور اس میں ہلاکو کے ساتھی اپنے پیشرو بیدرہ کے ساتھ قتل ہو گئے تو وہ ناراض ہو کر اسے کہنے لگا العزیز یہ میں تیرے اصحاب تیرے باپ کے امراء ہیں اور تیرے انصاریہ کے اصحاب نے ہمارے اصحاب کو قتل کیا ہے پھر اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اور مؤرخین نے اس کے قتل کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اسے تیر مارے اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے معافی مانگ رہا تھا مگر اس نے اسے معاف نہ کیا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بھائی علی کو اس کے سگے بھائی الظاہر نے قتل کر دیا اور اس نے ان دونوں کے بیٹوں العزیز محمد بن الناصر اور زبالہ بن الظاہر کو رہا کر دیا جو دونوں چھوٹے بچے تھے اور بہت خوبصورت تھے العزیز تو وہیں تا تاریخوں کی قید میں فوت ہو گیا اور زبالہ مصر چلا گیا اور وہ بھی خوبصورت تھا اور اس کی ماں ام ولد تھی جسے ماہ رو کہا جاتا تھا اور اس کے استاد کے بعد ایک امیر نے اس سے نکاح کر لیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہلاکو نے ناصر کے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے چار درختوں کے متعلق حکم دیا جو ایک دوسرے سے دور تھے اور ان کی چوٹیوں کو رسیوں سے اکٹھا کر دیا گیا پھر ناصر کے ہاتھ پاؤں کو ان چاروں درختوں کی چوٹیوں سے باندھ دیا گیا پھر رسیوں کو کھول دیا گیا تو ہر درخت اس کے ایک ایک عضو کو لے کر اپنے مرکز کی طرف واپس آیا اور بعض کا قول ہے کہ یہ ۲۵ رشوال ۶۵۸ھ کا واقعہ ہے اور اس کی پیدائش ۶۲۷ھ میں حلب میں ہوئی تھی اور جب ۶۳۴ھ میں اس کا باپ فوت ہوا تو حلب میں اس کی سلطنت کی بیعت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور اس کی مملکت کا انتظام اس کے باپ کے غلاموں کی ایک جماعت نے کیا اور سب معاملات اس کی دادی ام خاتون بنت العادل ابی بکر بن ایوب کے مشورے سے طے ہوتے تھے اور جب ۶۴۰ھ میں وہ فوت ہوئی تو ناصر با اختیار بادشاہ بن گیا اور رعیت کے ساتھ اس کی روش اچھی تھی اور وہ انہیں محبوب تھا اور بہت اخراجات کرنے والا تھا خصوصاً اس وقت جب وہ حلب اور اس کے مضافات بعلبک، حران اور بلاد جزیرہ کے بہت سے حصے کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی بادشاہ بن گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر روز اس کا دسترخوان مرغوں، بطخوں اور مختلف قسم کے پرندوں کے علاوہ چار سو بکریوں کے سروں پر مشتمل ہوتا تھا جس میں بھنے ہوئے اور کڑا ہی میں پکے ہوئے گوشت کے علاوہ کئی قسم کے کھانے پکتے تھے اور دسترخوان پر روزانہ مجموعی طور پر بیس ہزار درہم خرچ اٹھتا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا اکثر حصہ یوں نکلتا تھا کہ گویا اس سے کچھ بھی نہیں کھایا گیا اور اسے قلعہ کے دروازے پر نہایت سستی قیمت پر فروخت کر دیا جاتا تھا حتیٰ کہ بہت سے گھرانے اپنے گھروں میں کوئی کھانا نہ پکاتے تھے بلکہ سستی قیمت پر اس کھانے کو خرید لیتے تھے اور اس جیسا کھانا وہ بہت سے خرچ اور تکلیف کے بغیر نہ پکا سکتے

تھے اور ان میں سے ایک شخص نصف درہم یا ایک درہم میں ۹۰ چیز خرید لیتا جس کی وہ بہت نقصان کے بغیر سکت نہ رکھتا تھا اور شاید وہ اس کی مانند کھانا پکانے کی طاقت ہی نہ رکھتا تھا۔ اور اس کے زمانے میں رزق بہت تھا اور وہ بے دیاؤ بین خوش شکل، ادیب اور متوسط درجے کا شاعر تھا۔

اور شیخ قطب الدین نے الذیل میں اس کے کچھ اچھے اشعار کو بیان کیا ہے جو تعجب میں ڈالنے والے اور مناسب ہیں۔
اسے بلاد مشرق میں قتل کیا گیا اور وہیں دفن ہوا اور اس نے قاسیون کے دامن میں اپنی تعمیر کردہ خانقاہ میں اپنی قبر تیار کی تھی لیکن وہ وہاں دفن نہ ہو سکا اور دامن کوہ میں الناصریہ اور البرانیہ جامع اخزم کے سامنے بہت عجیب و غریب خوبصورت عمارت ہیں اور اس نے اس خانقاہ کو ان کے بہت عرصہ بعد بنایا۔

اور اسی طرح باب الفردیس کے اندر اس نے جو الناصریہ الجوانیہ تعمیر کیا وہ بھی خوبصورت ترین مدارس میں سے ہے۔
اور اس نے الزنجاری کے سامنے ایک بہت بڑی سرائے بنوائی اور باورچی خانہ بھی ادھر ہی منتقل کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے وہ قلعہ کے مغرب میں تھا جہاں آج کل سلطان کا اصطبل ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

احمد بن محمد بن عبداللہ:

ابن محمد بن یحییٰ سید الناس ابو بکر الیمری الاندلسی الحافظ آپ ۵۹۷ھ میں پیدا ہوئے اور کثیر سے سماع کیا اور بہت کتابیں حاصل کیں اور اچھی چیزوں کو تصنیف کیا۔ اور اس علاقے میں آپ خاتم الحفاظ تھے۔ آپ نے اس سال کی ۲۷ ربیع کو تونس شہر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن عبداللہ:

ابن ابی بکر بن خلف عز الدین ابو محمد الرعینی الحمدث المفسر، آپ نے کثیر سے سماع کیا اور حدیث بیان کی آپ ادباء فضلاء میں سے تھے اور شاہ موصل بدر لؤلؤ کے ہاں آپ کو بڑا مرتبہ حاصل تھا اور اسی طرح شاہ سنجاہ کے ہاں بھی آپ کو مقام حاصل تھا اور آپ نے ۱۲ ربیع الآخر کو جمعہ کی شب کو سنجاہ میں وفات پائی اور آپ کی عمر ۷۷ سال سے زیادہ تھی۔
آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”کوئے نے کانیں کانیں کی اور اس نے اپنی کانیں کانیں سے ہمیں بتایا کہ محبوب کی غیبت کا وقت قریب آ گیا ہے
اے وہ شخص جو ان کے بعد میری زندگی کی خوشگواہی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے میرے لیے زندگی کی سخاوت کر
پھر اس کی خوشگواہی کے متعلق پوچھ“۔

محمد بن احمد بن عنتر السلمی الدمشقی:

آپ دمشق کے مقتسب عادل اور بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہاں آپ کے املاک و اوقاف بھی تھے آپ نے قاہرہ میں

وفات پائی اور المعظم میں دفن ہوئے۔

علم الدین ابوالقاسم بن احمد:

ابن الموفق بن جعفر المرسی البغدادی اللغوی النجفی المقرئ آپ نے اشاطیہ کی مختصر شرح کی اور المفصل کی متعدد جلدوں میں شرح کی اور الجزویہ کی بھی شرح کی اور آپ نے اس کے مصنف سے بھی ملاقات کی اور اس سے اس کے بعض مسائل کے متعلق دریافت کیا اور آپ متعدد فنون کے ماہر تھے خوش شکل اور خوب رو تھے آپ کی ہیبت اور لباس خوبصورت تھا آپ نے الکندی وغیرہ سے سماع کیا ہے۔

شیخ ابو بکر الدینوری:

آپ الزادیۃ الصالحیہ کے بانی ہیں اور وہاں آپ کے مریدوں کی ایک جماعت ہے جو خوش آوازی سے ذکر الہی کرتی ہے۔
شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی پیدائش:

شیخ شمس الدین ذہبی نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۰ ربیع الاول ۶۶۱ھ کو سوموار کے روز ہمارے شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن الشیخ شہاب الدین عبدالحلیم بن ابی القاسم بن تمیہ حران میں پیدا ہوئے۔

امیر کبیر مجیر الدین:

ابوالہیجا، عیسیٰ بن حنبلہ الکرندی، الاموی، آپ اعیان اور بہادر امراء میں سے تھے اور آپ نے عین جالوت کے معرکہ میں تاریخوں کو شکست دینے میں کارنامہ کیا اور جب معرکہ کے بعد ملک مظفر دمشق آیا تو اس نے آپ کو امیر علم الدین سنجر کے ساتھ دمشق کا نائب، مشیر اور فرامین اور انتظام اور مشورے میں حصہ دار بنا دیا۔ اور آپ دار العدل میں اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے پاس بڑی جاگیریں اور کھلارزق تھا، یہاں تک کہ اس سال میں آپ کی وفات ہو گئی۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا باپ امیر حسام الدین ملک اشرف کی فوج میں بلاد مشرق میں فوت ہو گیا اور امیر عماد الدین احمد بن المشطوب نے بھی وہیں وفات پائی۔

میں کہتا ہوں اور اس کا بیٹا امیر عز الدین شہر دمشق کا مدت کا امیر رہا۔ اور اس کی سیرت قابل تعریف تھی، اور الصاغۃ العتیقہ میں در ب ابن سنون اسی کی طرف منسوب ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ در ب ابن ابی الہیجا بھی اسی کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ یہ وہاں رہتا تھا اور اس میں حکمرانی کرتا تھا اور وہ اسی کے نام سے مشہور ہو گیا اور اس کی موت کے تھوڑے عرصہ بعد حران سے آتے ہوئے ہمارا نزول وہاں ہوا، اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، اور میں نے اس میں قرآن پاک ختم کیا۔ ولله الحمد

۶۶۲ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ عباسی خلیفہ تھا، اور اللظاہر بنیہر سلطان تھا اور نائب دمشق امیر جمال الدین آقوش اتجیبی تھا اور اس کا قاضی ابن خلکان تھا۔ اور اس کے آغاز میں القصرین کے درمیان مدرسہ ظاہریہ کی تکمیل ہوئی۔ اور وہاں پر شافعیہ کی

تدریس کے لیے قاضی تقی الدین محمد بن حسین بن رزین کو اور حنفی کی تدریس کے لیے محمد بن عبد الرحمن بن کمال الدین عمر بن العدیم کو مقرر کیا گیا۔ اور حدیث کی مشجحت کے لیے شیخ شرف الدین عبد المؤمن بن خلف الحافظ الدمیاطی کو مقرر کیا گیا۔ اور اس سال الظاہر نے قدس میں ایک سرائے آبادی اور وہاں آنے والوں کے لیے اوقاف وقف کیے تاکہ ان کے ذریعے ان کی جوتوں کی مرمت اور کھانے وغیرہ کا انتظام ہو اور اس نے وہاں ایک چکی اور چولہا بھی بنایا۔ اور اس سال برکہ خان کے اچھی ملک الظاہر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ اشرف بن شہاب غازی بن عادل بھی تھا اور ان کے پاس خطوط اور زبانی باتیں بھی تھیں جن میں ہلاکو اور اس کے اہل پرنازل ہونے والی مصیبت کے باعث اسلام اور اہل اسلام کو خوشی کا سامان تھا۔

اور اس سال کے جمادی الاخرہ میں شیخ شہاب الدین ابوشامہ عبدالرحمن بن اسماعیل المقدمی نے عماد الدین بن الحرستانی کی وفات کے بعد دارالحدیث اشرفیہ میں درس دیا اور قاضی ابن خلکان اور اعیان وقضاة کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوئی۔ اور آپ نے اپنی کتاب المبعث کے خطبہ کا ذکر کیا اور حدیث کو اس کی سند اور متن کے ساتھ بیان کیا اور بہت سے اچھے فوائد کا ذکر کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی مراجعت نہیں کی اور نہ ہی اسے پڑھا ہے اور آپ جیسا آدمی اس پر فخر نہیں کرتا۔ واللہ اعلم اور اس سال نصیر الدین طوسی ہلاکو خاں کی جانب سے بغداد آیا اور اس کے اوقاف اور شہر کے احوال پر غور کیا اور بقیہ مدارس سے بہت سی کتابیں لیں اور انہیں اپنی اس دصد گاہ میں منتقل کر دیا جو اس نے مراغہ میں بنائی تھی پھر وہ واسط اور بصرہ کی طرف چلا گیا۔

ملک اشرف کی وفات:

اس سال ملک اشرف موسیٰ بن ملک منصور ابراہیم بن ملک مجاہد اسد الدین شیرکوه بن ناصر الدین محمد بن اسد الدین شیرکوه اکبیر نے وفات پائی۔ یہ بڑے بڑوں سے اس وقت تک حصص کے بادشاہ چلے آ رہے تھے اور قابل تعریف سخی اور داماشقہ کے بڑے سرمایہ داروں میں سے تھے اور کھانے پینے پہننے سواری کرنے اور خواہشات و ضروریات کے پورا کرنے اور خوبصورت اور محبوب عورتوں سے بکثرت آسودہ رہنے میں مشغول رہتے تھے۔ پھر یہ حالت جاتی رہی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ یا یہ ایک پریشان خواب تھا یا مٹ جانے والا سایہ تھا۔ اور اس کے تاوان سزائیں حساب اور عار باقی رہ گئی۔ اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے نفیس جواہر اور کثیر اموال کے ذخائر پائے گئے اور اس کی حکومت الظاہری حکومت کی طرف منتقل ہو گئی۔ اور اس سال اس کے ساتھ حلب کے نائب امیر حسام الدین الجوکندار نے بھی وفات پائی۔

اور اسی سال تاتاریوں کو حصص میں شکست ہوئی اور خدا تعالیٰ کی خوبصورت قضا و قدر سے ان کا پیشرو بیدرہ قتل ہو گیا۔ اور اسی سال رشید عطار محدث نے مصر میں وفات پائی جس نے ملک اشرف موسیٰ بن عادل کے مخزے اور مشہور تاجر الحاج نصر بن وس کو حاضر کیا تھا اور یہ جامع میں نماز کا پابند تھا اور بڑا آسودہ حال اور پر آسائش تھا۔

خطیب عماد الدین بن الحرستانی:

عبدالکریم بن جمال الدین عبدالصمد بن محمد بن الحرستانی آپ دمشق میں خطیب تھے اور اشرفی حکومت میں ابن الصلاح کے

بعد اپنے باپ کے نائب عدالت تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے ۲۹ جمادی الاولیٰ کو دارالخطابہ میں وفات پائی اور جامع میں آپ کا جامع جنازہ پڑھا گیا۔ اور آپ اپنے باپ کے پاس قاسیون میں دفن ہوئے۔ اور آپ کا جنازہ بھر پور تھا۔ اور آپ کی عمر ۸۵ سال تھی اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے مجد الدین نے خطابت اور الغزالیہ کو سنبھالا اور دارالحدیث کی مشیخت شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے لے لی۔

محی الدین محمد بن احمد بن محمد:

ابن ابراہیم بن الحسین بن سراقہ حافظ محمد ث انصاری شاطبی، ابوبکر المغربی دین کے عالم و فاضل، آپ نے مدت تک حلب میں قیام کیا۔ پھر مصر جاتے ہوئے دمشق سے گزرے اور آپ نے زکی الدین عبدالعظیم المنذری کے بعد دارالحدیث الکاملیہ کی ذمہ داری لی۔ اور آپ نے بغداد اور دیگر بلاد میں خوب سماع کیا۔

آپ کی عمر ۷۰ سال سے زائد تھی۔

شیخ صالح محمد بن منصور بن یحییٰ شیخ ابی القاسم القباری الاسکندرانی:

آپ اپنے باغ میں مقیم تھے اور اسی سے خوراک حاصل کرتے اور اسی میں کام کرتے تھے۔ اور بہت صاحب ورع تھے اور لوگوں کو اس کے پھل کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے ۶ رمضان کو ۷۵ سال کی عمر میں اسکندریہ میں وفات پائی۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ اور حکمرانوں کو ظلم سے روکتے تھے اور وہ آپ کی سنتے تھے اور آپ کی درویشی کی وجہ سے آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ اور جب لوگ آپ کی ملاقات کو آتے تو آپ ان کے ساتھ گھر کی کھڑکی سے بات کرتے۔ اور وہ آپ کی اس بات سے خوش ہو جاتے۔ اور آپ سے یہ عجیب بات روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اپنا ایک جانور کسی شخص کے پاس فروخت کر دیا، پھر وہ شخص جس نے جانور خریدا تھا، کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا، اے میرے آقا میں نے آپ سے جو جانور خریدا تھا وہ میرے ہاں کوئی چیز نہیں کھاتا۔ شیخ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو کون سا کام کرتا ہے اس نے کہا، میں والی کے پاس رقص کرتا ہوں، آپ نے فرمایا، ہمارا جانور حرام نہیں کھاتا۔ اور آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اسے دراہم عطا کیے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے دراہم تھے جو ان کے ساتھ مل جل گئے تھے اور ان کی شناخت نہیں رہی تھی، پس لوگوں نے برکت کی خاطر اس رقاص سے ہر دراہم کو تین دراہم کے عوض خریدا لیا اور آپ نے اپنا جانور لے لیا۔

اور جب آپ نے وفات پائی تو آپ نے پچاس درہم کے مساوی بنیاد چھوڑی جسے بیس ہزار میں فروخت کیا گیا۔

محی الدین عبداللہ بن صفی الدین:

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ۲۴ ربیع الآخر کو محی الدین عبداللہ بن صفی الدین ابراہیم بن مرزوق نے اپنے دمشق والے گھر میں جو مدرسہ نوریہ کے نزدیک ہے وفات پائی۔

میں کہتا ہوں، آپ کا یہ گھر وہ ہے جسے شافعیہ کے لیے مدرسہ بنا دیا گیا ہے جسے امیر جمال الدین آقوش التجیبی نے جسے التجیبہ کہا جاتا ہے وقف کیا تھا۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور وہیں ہماری اقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بعد ازاں فوز عظیم کا دارالقرار بنا

دے۔ اور ابو جمال الدین التیمی، ملک اشرف کا وزیر صفی الدین ہے۔ اور وہ الماک و اثاث اور ساز و سامان کو چھوڑ کر چھ لاکھ دینار کا مالک تھا۔ اور اس کے باپ کی وفات ۶۵۹ھ میں مصر میں ہوئی اور اسے المعظم کے پاس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ مصر سے فخر عثمان مصری کی وفات کی خبر آئی جو عین عین کے نام سے مشہور ہے۔

اور ۱۰ ارذو الحجہ کو خمس دہار موصلی نے وفات پائی۔ اور اس نے کچھ علم ادب حاصل کیا تھا۔ اور اس نے مدت تک المزہ کی جامع میں خطبہ دیا۔ اور اس نے خود مجھے بڑھا پئے اور اس کے خضاب کے بارے میں یہ اشعار سنائے۔

جب سے میرے رخسار پر سبزہ آیا، میں اور وہ ایک جسم میں دو روحوں کی طرح تھے اور میں نے عہد شکنی نہیں کی۔ اور جب بڑھا پیا میرے پاس ہمارے درمیان قطع کرتے ہوئے آیا تو میں نے اسے تلوار خیال کیا اور میں نے اسے میان چڑھا دیا۔

اور اس سال ملک ہلاکو خان نے الزین الحافظی کو بلا دیا۔ اور وہ سلیمان بن عامر العقر بانی ہے جو الزین الحافظی کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس نے اسے کہا، تمہاری خیانت میرے نزدیک ثابت ہو چکی ہے، جب تا تاروی ہلاکو خان کے ساتھ دمشق وغیرہ آئے، تو اس فریب خوردہ شخص نے مسلمانوں کے خلاف اسے مدد دی اور ان کو اذیت دی اور ان کی کمزوریاں اسے بتائیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر انواع و اقسام کی سزاؤں کے ساتھ مسلط کر دیا (اور ہم اسی طرح ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں) اور جو ظالم کی مدد کرتا ہے وہ اسے اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ پھر وہ سب ظالموں سے انتقام لے گا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے انتقام غضب اور عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

۶۱۳ھ

اور اس سال سلطان الظاہر نے ایک بڑی فوج کو فرات کی طرف البیرہ میں اترے ہوئے تا تارویوں کو بھگانے کے لیے بھیجا۔ اور جب انہوں نے فوجوں کی آمد کے متعلق سنا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اور یہ طرف اور یہ صوبہ پرسکون ہو گیا۔ اور قبل ازیں کثرت فساد و خوف کی وجہ سے پرسکون نہ تھا، پس یہ آباد ہو گیا اور پرسکون ہو گیا۔

اور اس سال ملک الظاہر اپنی فوجوں کے ساتھ بلاد ساحل کی طرف فرنگیوں سے جنگ کرنے گیا۔ اور اس نے ۸ جمادی الاولیٰ کو جمعرات کے روز، جس دن وہ وہاں اتر تھا۔ تین گھنٹوں میں قیسا ر یہ کوفتہ کر لیا۔ اور دوسری جمعرات ۱۵ جمادی الاولیٰ کو اس نے اس کے قلعہ کی سپردداری لے لی۔ اور اسے گرا دیا، اور وہ دوسرے قلعے کی طرف چلا گیا، پھر اطلاع آئی کہ اس نے ارسوف کے شہر کو فتح کر لیا ہے، اور وہاں جو فرنگی تھے، انہیں قتل کر دیا ہے اور یہ خبر اچھی لے کر آئے، اور مسلمانوں کے شہروں میں خوش خبریوں سے طبل بچ گئے اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔

اور اس سال بلاد مغرب سے خبر آئی کہ انہوں نے فرنگیوں سے بدلہ لے لیا ہے اور ان میں سے ۴۵ ہزار کو قتل کر دیا ہے۔ اور دس ہزار کو قیدی بنا لیا ہے۔ اور انہوں نے ان سے ۴۲ شہر واپس لے لیے ہیں، جن میں برنس، اشبیلیہ، قرطبہ اور مرسیہ شامل ہیں اور فتح ۱۳ رمضان ۶۱۳ھ کو جمعرات کے روز ہوئی تھی۔

اس سال کے رمضان میں اس نے باب البرید کا فرش لگانا شروع کیا جو باب الجامع سے اس نالی تک ہے جو راستے کے پاس

ہے اور اس نے اس کے سامنے کی صف میں تالاب اور شاذرواں بنایا اور اس کی جگہ پر ایک نالی تھی جس سے لوگ نہر ماناس کے بند ہو جانے پر فائدہ اٹھاتے تھے اس نے اسے تبدیل کر کے شاذرواں بنایا پھر اسے تبدیل کر کے اس کی جگہ دو کانیں بنا دیں۔

۱۰۰۱ھ - مال الظاہر نے اپنے مشفق کے نائب امیر آقوش کو باایا اور ۱۰۰۰ جمعہ اطاعت کرتا ہوا اس کے پاس گیا اور علم الدین اخصی نے اس کی نیابت کی۔ حتیٰ کہ وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس آ گیا۔

اور اس سال الظاہر نے مصر میں بقیہ مذاہب کے با اختیار فیصلہ کرنے والے قاضی مقرر کیے۔ اور وہ اپنی طرف سے شہروں میں شافعی کی طرح جسے چاہتے تھے مقرر کرتے تھے۔ پس شافعیہ کی قضاہ تاج عبدالوہاب ابن بنت الاغر نے اور حنفیہ کی شمس الدین سلیمان نے اور مالکیہ کی شمس الدین السبکی نے اور حنابلہ کی شمس الدین محمد المقدسی نے سنبھالی اور یہ دار العدل میں ۲۲ ذوالحجہ بروز سوموار کا واقعہ ہے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ قاضی ابن بنت الاغر ان امور میں جو شافعی مذہب کے مخالف اور دیگر مذاہب کے موافق تھے، بکثرت توقف کرتا تھا پس امیر جمال الدین ابیدغدی العزیزی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ ہر مذہب کا مستقل قاضی مقرر کرے جو اپنے مذہب کے متقضاء کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو اس نے اس کی بات قبول کر لی اور وہ اس کی رائے اور مشورے کو پسند کرتا تھا اور اس نے لکڑیاں، سیسہ اور بہت سا سامان رسول اللہ ﷺ کی مسجد کی تعمیر کے لیے بھجوا دیا اور اس نے ایک منبر بھی بھجوا جو وہاں نصب کیا گیا۔

اور اس سال بلا مصر میں بڑی آگ لگی اور نصاریٰ پر تہمت لگائی گئی اور ملک الظاہر نے انہیں سخت سزا دی۔

اور اس سال اطلاعات آئیں کہ شاہ تاتار ہلاکو نے رربیع الآخر کو مراغہ میں مرگی کی بیماری سے مر گیا ہے اور اسے قلعہ تلا میں دفن کیا گیا ہے۔ اور اس پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا ہے اور تاتاریوں نے اس کے بیٹے ابغا پر اتفاق کر لیا ہے۔ پس ملک برکت خان نے اس کا قصد کیا اور اس سے شکست دی اور اس کی فوج کو پراگندہ کر دیا جس سے ملک الظاہر خوش ہوا۔ اور اس نے بلاد عراق پر قبضہ کرنے کے لیے افواج کو جمع کرنے کا عزم کیا۔ لیکن وہ افواج کے مختلف علاقوں میں متفرق ہو جانے کی وجہ سے ایسا کرنے کی قوت نہ پاسکا۔ اور اس سال ۱۲ شوال کو ملک الظاہر نے اپنے بیٹے ملک سعید محمد برکت خان کو بادشاہ بنایا اور امراء سے امن کی بیعت لی اور اسے سوار کرایا اور امراء اس کے آگے آگے چلے اور اس کے باپ الظاہر نے خود اور امیر بدر الدین بیبری روٹی اٹھانے والے نے پردہ اٹھایا اور قاضی تاج الدین اور وزیر بہاؤ الدین ابن حنا اس کے آگے سوار تھے اور بڑے بڑے امراء سوار تھے اور باقی پیادہ تھے حتیٰ کہ انہوں نے قاہرہ کو اسی حالت میں پار کیا۔

اور الظاہر نے ذوالقعدہ میں اپنے بیٹے ملک سعید مذکور کا ختنہ کیا اور اس کے ساتھ امراء کے بچوں کی ایک جماعت کا بھی ختنہ

کیا گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا۔

خالد بن یوسف بن سعدنا بلسی:

اس سال خالد بن یوسف بن سعدنا بلسی شیخ زین الدین ابن الحافظ شیخ دار الحدیث نور یہ دمشق نے وفات پائی آپ فن حدیث کے عالم اور اسماء الرجال کے حافظ تھے۔ اور اس بارے میں شیخ محی الدین النوادی وغیرہ نے بھی اشتغال کیا اور آپ کے بعد

دارالحدیث نوریہ کی مشیخت تاج الدین فراہی نے سنبھالی اور شیخ زین العابدین خوش اخلاق بنس لکھ اور محدثین کے طریق کے مطابق بہت مزاح کرنے والے تھے آپ نے بغداد کی طرف سفر کیا اور وہاں اشتعال کیا اور حدیث کا سماح لیا اور آپ بھلے نیک اور عابد شخص تھے اور آپ کا جنازہ پھر پور تھا اور آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

شیخ ابوالقاسم الحواری:

ابوالقاسم یوسف ابن ابی القاسم بن عبدالسلام اموی، آپ خانقاہ حواری کے مشہور شیخ ہیں۔ آپ نے اپنے شہر میں وفات پائی اور آپ بھلے اور نیک آدمی تھے۔ اور آپ کے اتباع و اصحاب بھی تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے حوران کی دو بستیوں الحل اور الشبلیہ میں بہت سے مرید تھے۔ اور وہ حنابلہ تھے جو دف بجانے بلکہ ہتھیلی سے بجانے کی رائے نہیں رکھتے تھے اور وہ دوسروں سے زیادہ بہتر تھے۔

قاضی بدرالدین کردی سنجاری:

آپ نے مصر میں کئی بار قضاء سنبھالی اور قاہرہ میں وفات پائی۔ ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ اطراف کے قضاء اور جھگڑے لے کر آنے والوں سے رشوت لینے میں مشہور تھے مگر کریم اور سچی بھی تھے۔

۶۶۳ھ

اس سال کا آغاز ہوا اور خلیفہ حاکم عباسی اور سلطان ملک الظاہر تھا اور مصر کے قاضی چار تھے۔ اور اس سال اس نے دمشق میں چار قاضی بنائے۔ یعنی ہر مذہب سے ایک قاضی بنایا جیسا کہ اس نے پہلے سال مصر میں بنائے تھے اور شام کا نائب آقوش التجیبی تھا اور شافعیہ کا قاضی القضاة ابن خلکان حنفیہ کے شمس الدین عبداللہ بن محمد بن عطاء حنابلہ کے شمس الدین عبدالرحمن ابن الشیخ ابی عمر اور مالکیہ کے عبدالسلام بن الزوادی تھے آپ نے ولایت سے انکار کیا اور وہ آپ کے ساتھ لازم کر دی گئی۔ حتیٰ کہ آپ نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے خود کو معزول کر دیا۔ پھر آپ کو ولایت لازم کر دی گئی تو آپ نے اس شرط کے ساتھ اسے قبول کیا کہ آپ اوقاف کو نہیں سنبھالیں گے اور اپنے فیصلوں پر تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو اس سے معافی دے دی گئی۔ اور یہ وہ کام تھا جس جیسا کام اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اور اس نے پہلے سال مصر میں یہ کام کیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس طریق پر حالات ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔

اور اس سال اس حوض کی تعمیر مکمل ہوئی جو باب البرید کی نالی کے مشرق میں ہے۔ اور اس نے اس کے لیے شاذروان گنبد اور پائپ بنائے جن سے پانی شمالی راستے کی طرف بہتا تھا۔

اور اس سال الظاہر نے صغد سے جنگ کی اور دمشق سے مجانبق منگوائیں اور اس کا گھیراؤ کر لیا اور وہ مسلسل اس کا محاصرہ کیے رہا۔ حتیٰ کہ اس نے اسے فتح کر لیا۔ اور اس کے باشندوں نے اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ اور اس نے ۱۸ شوال کو جمعہ کے روز شہر کی سپرد داری لے لی اور اس نے جاننا زوں کو قتل کیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور اسی طرح ملک صلاح الدین یوسف بن ایوب نے اسے شوال ۵۸۴ھ میں فتح کیا۔ پھر فرنگیوں نے اسے واپس لے لیا اور الظاہر نے اسے ان سے اس سال زبردستی چھین لیا۔ واللہ الحمد اور سلطان

الظاہر اپنے دل میں ان سے بہت ناراضگی رکھتا تھا۔ اور جب وہ اسے فتح کرنے گیا تو انہوں نے امان طلب کی اور اس نے اپنی مملکت کے تخت پر امیر سیف الدین رامون اتسزری نوٹھایا اور ان کے انچھیوں نے آ کر اسے معزول کر دیا۔ اور وہیں پلے کئے۔ اور انہیں معلوم نہ تھا کہ جس نے انہیں امان کے عہد دیے ہیں وہی ۱۰۰۰ امیر ہے جس سے اسے تخت پر بٹھایا ہے اور جنگ ایک دھوکہ ہے۔ اور جب استناریہ اور الداویہ قلعہ سے نکلے اور انہوں نے مسلمانوں سے قبیح افعال کیے اور اللہ نے اسے ان پر قدرت دی۔ پس سلطان نے ان سب کے قتل کا حکم دے دیا اور ہر کارے شہروں میں یہ خبر لائے اور خوشخبریوں کے طبل بچ گئے اور شہروں کو آراستہ کیا گیا۔ پھر اس نے بلا دفرنگ میں دائیں بائیں دستے بھیجے اور مسلمانوں نے تقریباً بیس قلعوں پر قبضہ کر لیا اور تقریباً ایک ہزار عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں۔

اور اس سال خلیفہ مستنصر بن مستنصر کا بیٹا قید سے آیا اور اس کا نام علی تھا۔ اور اس کا اکرام کیا گیا اور اسے العزیز یہ بالمقابل دارالاسدیہ میں اتارا گیا اور وہ تاریخوں کے ہاتھوں میں اسیر تھا اور جب برکتہ خان نے انہیں شکست دی تو وہ ان کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ اور دمشق کی طرف چلا گیا۔ اور جب سلطان نے صغد کو فتح کیا تو وہ وہاں جو مسلمان قیدی تھے ان میں سے ایک نے اسے بتایا کہ ان کی قید کا سبب یہ تھا کہ بستی فارا کے باشندے انہیں پکڑتے تھے اور انہیں فرنگیوں کے پاس لے جاتے تھے اور وہ انہیں فروخت کر دیتے تھے اس موقع پر سلطان فارا جانے کے لیے سوار ہوا۔ اور اس نے اس پر شدید حملہ کیا۔ اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس نے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ جزا اللہ خیراً

پھر سلطان نے ایک بہت بڑی فوج بلا دسیس کی طرف بھیجی اور وہ گھروں کے درمیان گھس گئی۔ اور اس نے بلا دسیس کو بزور قوت فتح کیا اور اس کے بادشاہ کے بیٹے کو قیدی بنالیا اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور دسیس کے باشندوں کو قتل کر دیا اور ان سے اسلام اور اہل اسلام کا بدلہ لے لیا اس لیے کہ وہ تاریخوں کے زمانہ سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ ضرر رساں تھے کیوں کہ انہوں نے شہر حلب وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اور مسلمانوں کے بہت سے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنالیا۔ اور اس کے بعد وہ ہلاکوں کے زمانے میں مسلمانوں کے شہروں پر غارتگری کرنے لگے پس اللہ نے اسے اور اس کے امیر کتبغا کو انصار اسلام کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر دیا۔

اور اس سال کی ۲۳ رذوالقعدہ کو منگل کے روز دسیس پر قبضہ ہوا اور شہروں کو اس کی خبریں آئیں اور خوشخبریوں کے طبل بچ گئے اور ۲۵ رذوالحجہ کو سلطان داخل ہوا اور شاہ سیس کا بیٹا اور شاہان زمین کی ایک جماعت قیدی اور ذلیل ہو کر اس کے آگے آگے چل رہی تھی اور فوجیں اس کے ساتھ تھیں اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ پھر وہ مظفر منصور ہو کر مصر گیا اور شاہ سیس نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا فدیہ دے گا۔ سلطان نے کہا ہم اس کے فدیہ میں اپنا وہ قیدی لیں گے جو تاتار کے پاس ہے جسے سقر الاشقر کہا جاتا ہے پس شاہ سیس شاہ تاتار کے پاس گیا اور اس کے سامنے تدلل کیا اور عاجزی اختیار کی حتیٰ کہ اس نے اسے رہا کر دیا۔ اور جب سقر الاشقر سلطان کے پاس پہنچا تو اس نے شاہ سیس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔

اور اس سال الظاہر نے فرار اور دامیہ کے درمیان مشہور پل کو تعمیر کیا اس کی تعمیر کی ذمہ داری امیر جمال الدین محمد بن بہادر

اور بدرالدین محمد بن رحال جو نائلس اور انوار کا والی تھانے لی، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کا ایک ستون ہل گیا، جس سے سلطان خہرا گیا اور اسے سنبوط بنانے کا حکم دیا۔ لیکن وہ پان لی روانی لی نوٹ سے ایسا نہ کرے۔ پس اللہ نے تم سے اس طرف سے نمبر پر ایک ٹیلا آ گیا۔ پس پانی اس مقام سے ٹھہر گیا کہ ۱۰۰ جو کچھ ٹھیک کرنا چاہتے تھے اسے ٹھیک کر لیا۔ پھر پانی پہلے کی طرح بہنے لگا۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ایدغدی بن عبداللہ:

امیر جمال الدین التزیزی یہ اکابر امراء میں سے تھا، اور ملک الظاہر کے پاس اس کا بڑا مرتبہ تھا۔ اور الظاہر اس کی رائے سے باہر نہ جاتا تھا اور اسی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہر مذہب کے قاضیوں کو مستقل طور پر مقرر کر دے۔ اور وہ متواضع تھا۔ اور وہ بے رنگا کپڑا پہنتا تھا۔ اور کریم باوقار رئیس اور حکومت میں بڑا عزت دار تھا۔ رحصار صغد میں آپ کو زخم لگا، اور وہ اس سال مسلسل مریض رہا، حتیٰ کہ عرفہ کی رات کو مر گیا۔ اور قاسیون کے دامن میں خانقاہ ناصری میں جو صلاحیہ دمشق میں ہے، دفن ہوا۔ رحمہ اللہ

ہلاکو خان بن تولی خان بن چنگیز خان:

شاہ تاتار بن شاہ تاتاریان کے بادشاہوں کا باپ ہے۔ اور عوام اسے ہولا دون مثل قلا دون کہتے ہیں۔ اور ہلاکو ایک سرکش فاجر اور کافر بادشاہ تھا۔ اللہ اس پر لعنت کرے، اس نے مشرق و مغرب میں اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، جن کی تعداد ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور عنقریب وہ اسے اس کی بڑی جزاء دے گا۔ وہ کسی دین کا پابند نہ تھا، اور اس کی بیوی ظفر خاتون عیسائی ہو گئی تھی، اور وہ عیسائیوں کو باقی مخلوق پر فرضیت دیتی تھی۔ اور وہ عقولات کی محبت کا فدائی تھا اور ان سے کسی چیز کا تصور نہ کرتا تھا، اور ان کے اہل فلاسفہ کے چوزے تھے۔ اور انہیں اس کے ہاں وجاہت اور مرتبہ حاصل تھا۔ اور اس کا ارادہ اپنی مملکت کے انتظام کرنے اور آہستہ آہستہ شہروں پر قبضہ کرنے میں لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سال میں تباہ کر دیا۔ اور بعض نے ۶۶۳ھ میں اس کا تباہ ہونا بیان کیا ہے، اور اسے شہر تلام میں دفن کیا گیا، اللہ اس پر رحم نہ کرے۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابغا خان بادشاہ بنا، جو دس بھائیوں میں سے ایک تھا، واللہ سبحانہ اعلم، و هو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔

۱۶۵ھ

۲ محرم بروز اتوار ملک الظاہر دمشق سے دیار مصر کو گیا، اور اس کے فاتح افواج بھی تھیں۔ اور اس سال اسلامی حکومت تمام بلاد سیس اور فرنگیوں کے بہت سے قلعوں پر قابض ہو گئی۔ اور اس نے اپنے آگے آگے غزہ کی طرف فوج بھیجی۔ اور خود الکرک کی جانب بڑھ گیا، تاکہ اس کے اموال پر غور کرے۔ اور جب وہ زیزی کے تالاب کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں شکار کیا، اور وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑا، اور اس کی ران ٹوٹ گئی۔ اور اس نے وہاں کئی دن قیام کر کے علاج کیا۔ حتیٰ کہ وہ پاکی میں سوار ہونے کے قابل ہو گیا۔ اور مصر کی طرف چلا گیا۔ اور راستے ہی میں اس کی ٹانگ تندرست ہو گئی۔ اور وہ اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کے

قابل ہو گیا۔

اور وہ بڑی تان و شوکت کے ساتھ قاہرہ میں داخل ہوا اور شہر بڑا راستہ کیا گیا۔ اور لوگوں نے اس کے لیے بڑا ہتھیار کیا۔ اور وہ اس کی آمد اور صحت یاب ہونے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ اس سال کے رجب میں قاہرہ سے صغد کی طرف واپس آیا اور اس کے قلعے کے ارد گرد خندق کھودی اور اس نے خود اور اس کے امراء نے اور اس کی فوج نے اس میں کام کیا۔ اور اس نے عمسکا کی طرف غارت گری کی اور اس نے قتل کیا اور قیدی بنایا۔ اور سالم و غانم رہا اور دمشق میں اس بات کی خوشخبریوں کے طبل بج گئے۔

اور ۱۲ ربیع الاول کو الظاہر نے جامع ازہر میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ اور عید یوں کے زمانے سے اس وقت تک اس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ وہ پہلی مسجد ہے جو قاہرہ میں تعمیر کی گئی ہے۔ اسے قائد جوہر نے تعمیر کیا تھا، اور اس میں جمعہ قائم کیا تھا، اور جب الحاکم نے اپنی جامع مسجد بنائی تو جمعہ کو اس سے اس میں منتقل کر دیا گیا اور ازہر کو چھوڑ دیا، اس میں کوئی جمعہ نہ ہوتا تھا، اور وہ بھی بقیہ مساجد کے حکم میں ہو گئی۔ اور اس کا حال خراب اور متغیر ہو گیا، پس سلطان نے اس کی تعمیر سفیدی اور جمعہ کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ نیز جامع حسینیہ میں اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ اور وہ ۶۶۷ھ میں مکمل ہو گئی، جیسا کہ ابھی بیان ہو گا۔

اور اس سال الظاہر نے حکم دیا کہ مجاوروں میں سے کوئی شخص جامع دمشق میں رات نہ گزارے اور اس نے اس کے ان خزانے اور حجروں کو نکالنے کا حکم دے دیا جو اس میں موجود تھے اور وہ تین سوتھے۔ اور انہوں نے اس میں پیشاب کی بوتلیں بچھونے اور بہت سے سجاوے دیکھے۔ پس لوگوں نے اور جامع نے اس سے راحت پائی، اور وہ نمازیوں کے لیے کشادہ ہو گئی۔

اور اس سال سلطان نے صغد کی فصیلوں اور اس کے قلعے کی تعمیر کا حکم دیا کہ اس پر (ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون) اور (اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون) لکھا جائے۔

اور اس سال ابنا اور منکوتمر کی جنگ ہوئی جو برکتہ خاں کا قائم مقام تھا، سوا بنانے اسے شکست دی، اور اس سے بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں۔

اور ابن خلکان نے شیخ قطب الدین ایوبی کے خط سے نقل کر کے بیان کیا ہے کہ بصری کی جانب ایک شخص کو ابوسلامہ^۱ کہا جاتا تھا، اور اس میں بے حیائی اور لغویت پائی جاتی تھی، اس کے پاس مسواک اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، میں تو در میں مسواک کروں گا پس انہوں نے مسواک پکڑ کر اس کی در میں ڈال دی، اور پھر اسے نکال دیا۔ اور اس کے بعد وہ نو ماہ زندہ رہا، اور وہ پیٹ اور دبر کی تکلیف کی شکایت کرتا رہا، اور اس نے چوہوں کی مانند ایک بچہ بنا، جس کی چار ٹانگیں تھیں، اور اس کا سر مچھلی کے سر کی طرح تھا، اور اس کی کچلیاں نمایاں تھیں، اور ایک بالشت چار انگشت لمبی دم تھی۔ اور اس کی دبر زرخوش کی دبر کی طرح تھی۔ اور جب اس نے اسے جنا تو اس حیوان نے چار چپٹیں ماریں تو اس شخص کی بیٹی نے اٹھ کر اس کا سر پکچل دیا، اور وہ مر گیا۔ اور یہ شخص اس کے جننے کے بعد دو دن زندہ رہا۔ اور تیسرے دن مر گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ اس حیوان نے مجھے قتل کر دیا ہے، اور میری آنتیں

① شذرات الذہب میں ہے کہ ایک ہستی کو درابی سلامہ کہا جاتا ہے، وہاں العربان میں سے ایک شخص تھا جس میں لغویت پائی جاتی تھی۔

کاٹ دی ہیں اور اس طرح کے باشندوں کی ایک جماعت اور اس جگہ کے خطباء نے اسے دیکھا اور ان میں سے بعض نے اس بیوان نوزندہ دیکھا اور اس نے اسے اس کی موت نے بعد دیکھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

سلطان برکہ خان بن تولی بن چنگیز خان:

یہ ہلاکو کا عزم اٹھا اور اس برکہ خان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ علماء اور صالحین سے محبت کرتا تھا اور اس کی سب سے بڑی نیکی ہلاکو کو شکست دینا اور اس کی فوج کو پراگندہ کرنا تھا۔ اور وہ ملک الظاہر کی خیر خواہی کرتا تھا اور اس کی تعظیم و تکریم کرتا تھا اور اس کے جو اہلچی اس کے پاس آتے تھے ان کی عزت کرتا تھا اور انہیں بہت سی چیزیں دیتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے اہل بیت میں سے ایک شخص منکوتمر بن طغان بن بادی بن تولی بن چنگیز خان نے حکومت سنبھالی اور وہ بھی اسی کے طریق پر تھا۔

دیار مصر کا قاضی القضاة:

تاج الدین عبدالوہاب بن خلف بن بدر بنت الاعز الشافعی آپ دیندار، عقیف اور پاکدامن تھے۔ اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی سفارش قبول کرتے تھے اور آپ کے پاس سارے مصر کی قضاہ خطابت، احتساب، شیوخ کی مشیخت، فوجوں کی نگہداشت اور الشافعی اور الصالحیہ کی تدریس اور جامع کی امامت کے کام جمع تھے۔ اور آپ کے ہاتھ میں پندرہ کام تھے۔ اور بعض اوقات آپ نے وزارت بھی سنبھالی۔ اور سلطان آپ کی تعظیم کرتا تھا۔ اور وزیر ابن حنا آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ اور وہ سلطان کے ہاں آپ کو گرانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ آپ اس کے گھر آئیں خواہ عیادت کرنے ہی آئیں۔

اور ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا اور قاضی اس کی عیادت کے لیے آیا تو وہ گھر کے وسط میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو قاضی نے اسے کہا، ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور تم صحیح سلامت ہو تم پر سلامتی ہو اور وہ واپس چلا گیا اور اس کے پاس نہ بیٹھا۔ آپ کی پیدائش ۶۰۴ھ میں ہوئی اور آپ کے بعد تقی الدین ابن رزین نے قضاء سنبھالی۔

امیر کبیر ناصر الدین واقف القمیریہ:

ابوالعالیٰ الحسین بن العزیز بن ابی الفوارس القمیری الکمری آپ بادشاہوں کے ہاں امراء سے بڑا مرتبہ رکھتے تھے اور جب توران شاہ بن الصالح ایوب مصر میں قتل ہوا تو آپ نے شام کو شاہ حلب ملک ناصر کے سپرد کر دیا۔ اور آپ ہی نے فیروز کی اذان گاہ کے نزدیک مدرسہ قمیریہ کو وقف کیا اور اس کے دروازے پر گھڑیاں بنائیں، جن کی مثل اس سے پہلے موجود نہ تھی اور نہ ان کی شکل کے مطابق بنائی گئی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان پر چالیس ہزار درہم ادا کیے۔

شیخ شہاب الدین ابوشامہ:

عبدالرحمان بن اسماعیل بن ابراہیم بن عثمان بن ابی بکر بن عباس ابو محمد و ابو القاسم المقدسی، شیخ امام عالم حافظ محدث فقیہ اور

مؤرخ جو ابوشامہ شیخ دارالحدیث اشرفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ الرکذیہ کے مدرس اور متعدد مفید کتب کے مصنف ہیں۔ آپ نے تاریخ دمشق کا اختصار دس جلدوں میں لکھا ہے۔ اور ترح انشاطیہ اور المرادانی الامر الاول اور الصبغت اور الاسرار اور کتاب الرضعتین فی الدین التریہ، الصلا دیہ بھی آپ کی تصانیف ہیں۔

ان کے علاوہ آپ نے ایک خمیمہ اور نجیب و غریب سہری شاندار فرائد بھی بیان کیے ہیں آپ ۲۳ ربیع الآخر ۵۹۹ھ کو جمعہ کی شب کو پیدا ہوئے۔ اور آپ نے الذیل میں اپنے حالات بیان کیے ہیں۔ اور اپنی پرورش گاہ حصول علم سماع حدیث اور فخر بن عساکر، ابن عبدالسلام، سیف آدمی اور شیخ موفق الدین بن قدامہ سے فقہ سیکھنے کا حال بھی بیان کیا ہے اور آپ کے بارے میں جو اچھے خواب دیکھے گئے، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ بہت سے فنون کے ماہر تھے۔ مجھے حافظ علم الدین البرزالی نے بحوالہ شیخ تاج الدین فزاری بتایا ہے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ شیخ شہاب الدین ابوشامہ اجتہاد کے رتبہ کو پہنچ تھے اور آپ بعض اوقات اشعار بھی نظم کیا کرتے تھے جن میں سے کچھ شیریں اور کچھ غیر شیریں ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں اور ان کو معاف فرمائے۔

مختصر یہ کہ آپ کے وقت میں آپ کی مثل موجود نہ تھی۔ اور نہ ہی دیانت و عفت و امامت میں کوئی آپ کی مانند تھا۔ آپ کی وفات لوگوں کے آپ کی عداوت میں متحد ہو جانے کی تکلیف کے باعث ہوئی۔ اور انہوں نے آپ کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجے، آپ اس وقت طواغین الاشرار میں اپنے گھر میں تھے اور آپ رائے سے متہم تھے اور آپ نے بظاہر اس سے برأت کی۔ اور اہل حدیث کی ایک جماعت اور دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ مظلوم تھے اور آپ مسلسل تاریخ کے بارے میں لکھتے رہے حتیٰ کہ اس سال کے رجب تک پہنچ گئے اور بیان کیا کہ آپ کو طواغین الاشرار میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئی اور جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا وہ پہلے بھی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو مارا تا کہ آپ مرجائیں۔ لیکن آپ نہ مرے۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا آپ ان کے خلاف شکایت نہیں کریں گے، آپ نے شکایت نہ کی اور کہنے لگے۔

جس نے مجھے کہا کہ آپ شکایت نہیں کریں گے، میں نے اسے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے مقرر کرے گا جو حق کرے گا، اور پیاس کو بجھا دے گا اور جب ہم اس پر توکل کریں گے تو وہ کافی ہوگا۔ اور ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

اور گویا وہ لوگ دوبارہ آپ کے پاس آئے اور آپ مذکورہ گھر میں موجود تھے تو انہوں نے ۹ رمضان کی منگل کی رات آپ کو کلیتاً قتل کر دیا۔ اور اسی روز آپ کو دارالفرادیس کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور آپ کے بعد شیخ محی الدین نووی نے دارالحدیث اشرفیہ کی مشیخت کو سنبھالا، اور اسی سال میں حافظ علم الدین القاسم بن محمد البرزالی کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ نے تاریخ ابوشامہ کا ضمیمہ لکھا، کیونکہ جس سال وہ فوت ہوا، اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ نے ان کی بیروی کی، اور آپ کی الترتیب کو مرتب کیا، اور آپ کی التہذیب کی کاٹ چھانٹ کی۔ اور آپ اپنے حالات میں بیان کردہ شعر کے مصداق تھے۔

”تجھے تاریخ میں ہمیشہ مٹتی لکھا جائے گا حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں تجھے لکھا ہوا دیکھا۔“

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر یہ شعر پڑھا جائے۔

”جب ہمارا کوئی سردار فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ بزرگوں کے قول کے مطابق گفتار و کردار کا پیکر ہوتا ہے۔“

www.KitaboSunnat.com ۶۶۶ھ www.KitaboSunnat.com

اس سال کا آغاز ہوا تو اعلیٰ امیر عباسی خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک الظاہر تھا۔ اور علیہ جمادی الآخرۃ کو سلطان فاتح افواج کے ساتھ دیار مصر سے نکلا اور اچانک اس نے پانا شہر میں اتر کر اس پر بزدور قوت قبضہ کر لیا۔ اور اس کے باشندوں نے پانا کے قلعے کو صلح کے ساتھ اس کے سپرد کر دیا اور اس نے انہیں وہاں سے عسک کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور قلعہ اور شہر کو برباد کر دیا اور رجب میں وہاں سے الثقیف کے قلعے کی طرف گیا اور راستے میں اس نے فرنگیوں کے ایک ایچی سے اہل عسک کا ایک خط جو اہل الثقیف کے نام تھا پکڑ لیا جس میں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ سلطان ان کے پاس آ رہا ہے۔ اور انہیں مشورہ دیا کہ شہر کو مضبوط کر لیں۔ اور ان جگہوں کو جلدی سے درست کر لیں جن سے شہر کے متعلق خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلطان کو سمجھ آ گئی کہ وہ شہر پر کیسے قبضہ کرے گا۔ نیز اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کندھا کہاں سے کھایا جائے گا۔ اس لیے اس نے فوراً ایک فرنگی شخص کو بلا لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کے بدلے میں ان کی زبان میں اہل الثقیف کو خط لکھے اور بادشاہ کو وزیر سے اور وزیر کو بادشاہ سے ڈرائے اور حکومت کے درمیان اختلاف پیدا کر دے پس وہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی قوت و طاقت سے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا اور سلطان نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور نتیجے سے ان پر شکباری کی۔ اور انہوں نے ۲۹ رجب کو قلعہ اس کے سپرد کر دیا۔ اور اس نے انہیں صورت کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور غنائم دمشق کی طرف بھجوا دیں۔ پھر فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے طرابلس اور اس کے مضافات پر غارت گری کی اور لوٹ مار اور قتل عام کیا۔ اور مظفر و منصور ہو کر واپس پلٹ آیا اور چراگاہ کی محبت کی وجہ سے اکراد کے قلعے میں اتر اور اس کے فرنگی کے باشندے اپنی ڈیوٹی کے مطابق چیزیں اس کے پاس لائے تو اس نے ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا تم نے میری فوج کے ایک سپاہی کو قتل کیا ہے۔ اور مجھے اس کی ایک لاکھ دینار دیت و درکار ہے۔

پھر وہ روانہ ہو کر حصص جاتا رہا۔ پھر وہاں سے حماہ اور پھر قامیہ چلا گیا۔ پھر کسی دوسری منزل کی طرف چلا گیا۔ پھر رات کو چلا اور فوج آ گئی۔ اور انہوں نے جنگی ہتھیار پہنے اور اس نے جا کر انطاکیہ شہر کا گھیراؤ کر لیا۔

سلطان ملک الظاہر کے ہاتھوں انطاکیہ کی فتح:

یہ بہت بڑا اور خوبیوں والا شہر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی فصیلوں کا چکر بارہ میل کا ہے اور اس کے برجوں کی تعداد ۱۳۶ ہے اور اس کے کنگروں کی تعداد ۲۴ ہزار ہے۔ یہ وہاں پر ماہ رمضان کے آغاز میں وارد ہوا اور اس کے باشندے اس کے پاس امان طلب کرتے ہوئے آئے۔ اور انہوں نے کچھ شروط اس پر عائد کیں جن کے قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا اور ان کو ناکام و نامراد واپس کر دیا اور انطاکیہ کے محاصرے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور ۱۴ رمضان کو ہفتہ کے روز اسے تائید الہی سے فتح کر لیا اور اس نے بہت سی غنائم حاصل کیں۔ اور امراء کو بہت سے اموال دیئے۔ اور اس نے قیدیوں میں بہت سے حلبی مسلمانوں کو پایا۔ یہ سب کچھ چار دن میں ہوا۔ اور انطاکیہ کا حکمران اغریس اور طرابلس کا حکمران اس وقت سے مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتے تھے۔ جب سے

تاتاریوں نے حلب پر قبضہ کیا تھا۔ اور لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے ذریعے انتقام لیا جسے اس نے اسلام کا مددگار اور کارِ صلیب مقرر کیا تھا۔ اور ایچیوں کے ساتھ یہ بشارت بھی آگئی اور مفتوح قلعہ سے بھی جو ابا بشار تھے آئیں۔ اور بس اہل بصرہ اس نے سنا کہ سلطان ان کا قصد کیے ہوئے ہے تو انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ ان کی طرف اس کی سپرد داری لینے کے لیے آدمی بھیجے تو اس نے ۱۳ رمضان کو اپنے گھر کے استاد امیر آقسقر فارقانی کو ان کے پاس بھیجا اور اس نے ان کی سپرد داری لے لی۔ اور انہوں نے بہت سے بڑے بڑے قلعوں کو حاصل کر لیا اور سلطان مظفر و منصور ہو کر واپس آیا۔ اور وہ اس سال کی ۲۷ رمضان کو بڑی شان و شوکت اور رعب و ہیبت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا اور شہر کو اس کے لیے سجایا گیا اور کینے کفار پر اسلام کے فتح پانے کی خوشی میں خوشخبریوں کے طبل بج گئے۔ لیکن اس نے بہت سی اراضی یعنی ان بستیوں اور باغات پر قبضہ کرنے کا عزم کیا ہوا تھا جو ان کے بادشاہوں کے قبضہ میں تھیں اس کا خیال تھا کہ تاتاریوں نے ان پر قبضہ کیا تھا۔ پھر اس نے انہیں ان سے چھڑا لیا ہے۔ اور حنفیہ کے بعض فقہاء نے اسے تفریعا یہ فتویٰ دیا کہ کفار جب مسلمانوں کے اموال میں سے کسی چیز پر قبضہ کر لیں تو وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اموال واپس لیے جائیں تو انہیں ان کے مالکان کو واپس نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ایک مشہور مسئلہ ہے۔ اور لوگوں کے اس بارے میں دو قول ہیں ان دونوں میں صحیح قول جمہور کا ہے کہ ان اموال کو ان کے مالکان کو واپس کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ناقہ العضبہ کو واپس لیا تھا حالانکہ اسے مشرکین نے لے لیا تھا۔

جمہور نے اس حدیث سے اور اس قسم کی دیگر احادیث سے امام ابوحنیفہ کے خلاف استدلال کیا ہے۔ اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کفار مسلمانوں کے اموال لے لیں اور وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ اموال ان کے قبضے میں ہوں تو وہ اپنی املاک پر قائم رہیں گے۔ اور انہوں نے حضور ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے۔ اور عقیل نے ہجرت کر جانے والے مسلمان کی املاک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور جب عقیل مسلمان ہوئے تو وہ املاک آپ کے قبضے میں تھیں جنہیں آپ کے ہاتھ سے چھیننا نہیں گیا۔ اور جب وہ آپ کے ہاتھ سے چھین لی جائیں تو انہیں حدیث العضبہ کے مطابق ان کے مالکان کو واپس کیا جاتا۔

حاصل کلام یہ کہ الظاہر نے ایک اجلاس بلایا جس میں دیگر مذاہب کے قضاة اور فقہاء بھی جمع ہوئے۔ اور انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی۔ اور سلطان کے ہاتھ میں جو فتویٰ موجود تھا وہ اس پر ڈٹا ہوا تھا۔ اور لوگ اس بات کی مصیبت سے ڈر گئے۔ سو فخر الدین بن الوزیر بہاؤ الدین بن اعنا ثالث بنا اور اس نے ابن بنت الاعز کے بعد الشافعی میں پڑھایا اور اس نے کہا اے اخوند اہل شہر اس سب کچھ کے عوض آپ کے ایک کروڑ درہم پر مصالحت کرتے ہیں۔ آپ کو ہر سال دو لاکھ درہم کی قسط ادا کی جائے گی اس نے کہا نہیں یہ چند یوم تک جلد ادا ہوگی کرنی پڑے گی اور وہ دیا مصر کی طرف چلا گیا اور اس نے اس رقم کو قسط دار ادا ہوگی کو قبول کر لیا اور اس کی خوشخبری بھی آگئی اور اس نے حکم دیا کہ وہ اس رقم سے چار لاکھ درہم فوراً ادا کریں۔ اور یہ کہ وہ غلہ جات اس کو لوٹائے جائیں جن کی انہوں نے تقسیم اور پھل کے زمانے میں نگہداشت کی تھی۔ اور اس فعل کی وجہ سے لوگوں کے دل سلطان کے خلاف بگڑ گئے۔

اور جب ان کا حکم سننا تا تاریخ یوں پر قائم رہا تو اس نے اپنے وزیر نصیر الدین طوسی کے قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے بلاد روم پر البرداناہ کو نائب مقرر کیا اور اس کی قدر اس کے ہاں بہت بڑھ گئی اور وہ ان شہروں کے انتظام میں باختیار ہو گیا اور ان میں اس کی شان بڑھ گئی۔

اور اس سال یمن کے حکمران نے الظاہر کو عاجزانہ اور اس کی جانب منسوب ہونے کا خط لکھا نیز یہ کہ بلاد یمن میں اس کا خطبہ دیا جائے اور اس نے اس کی طرف بہت سے تحائف و ہدایا بھیجی اور سلطان نے اس کی طرف تمام تحائف و خدمت، جہنم اور حکم بھیجا۔

اور اس سال ضیاء الدین بن الفقاعی نے صاحب بہاؤ الدین بن الحنا کو الظاہر کے پاس شکایت کر کے حاضر کروایا اور ابن الحنا اس پر غالب آ گیا اور الظاہر نے اسے اس کے پیر کر دیا اور وہ مسلسل اسے کوڑوں سے مارتا رہا اور اس سے مال لیتا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے مرنے سے قبل ۷۰ ہزار سات سو کوڑے مارے۔ واللہ اعلم

اور اس سال البرداناہ نے تونیہ کے حکمران ملک علاؤ الدین کے قتل کا پروگرام بنایا اور اس نے اس کی جگہ اس کے بیٹے غیاث الدین کو کھڑا کیا۔ جس کی عمر دس سال تھی اور شہروں اور بندوں میں البرداناہ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور رومی فوج نے اس کی اطاعت کی۔

اور اس سال صاحب علاؤ الدین بغداد کے صاحب الدیوان نے ابن الحشکری النعمانی الشاعر کو قتل کر دیا اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس کا اعتقاد تھا کہ اس کے اشعار قرآن مجید پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اتفاق سے صاحب واسط کی طرف آیا۔ اور جب وہ النعمانیہ میں تھا تو ابن الحشکری اس کے پاس آیا اور اس نے اسے وہ قصیدہ سنایا جو اس نے اس کے متعلق کہا تھا۔ اسی دوران میں کہ وہ اس کے سامنے قصیدہ سنارہا تھا مؤذن نے اذان دے دی تو صاحب نے اسے خاموش رہنے کو کہا تو ابن الحشکری کہنے لگا مولانا نئی بات، سنئے اور برسوں اس بات سے اعراض کیا سو صاحب کے نزدیک وہ بات ثابت ہو گئی جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی تھی پھر اس نے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے باتیں کیں۔ اور اسے یہ تاثر دیا کہ وہ زندیق ہے۔ اور جب وہ سوار ہوا تو اس نے ایک شخص سے جو اس کے ساتھ تھا کہا راستے میں اسے اکیلے پا کر قتل کر دینا۔ پس وہ شخص اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا حتیٰ کہ جب وہ لوگوں سے الگ ہو گیا تو اس نے اپنی ساتھی جماعت سے کہا اسے دل لگی کرنے والے کی طرح اس کے گھوڑے سے اتار دو انہوں نے اسے اتار دیا اور وہ ان کو سب و شتم اور لعنت کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا اس کے کپڑے اتار دو انہوں نے اس کے کپڑے چھین لیے اور وہ ان سے جھگڑتا رہا اور کہنے لگا تم اجڈ ہو اور یہ ایک خنڈا کھیل ہے۔ پھر اس نے کہا اسے قتل کر دو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے تلوار مار کر اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔

① البرداناہ فارسی لفظ ہے جس کے اصل معنی حاجب کے ہیں۔ پھر ایشیائے کوچک میں سلاجقہ رومیوں کی حکومت میں اس کا اطلاق وزیر اعظم پر

ہونے لگا۔

شیخ عقیف الدین یوسف بن البقال

المرزباہ کی خانقاہ کا شیخ آپ صالح متقی اور درویش تھے۔ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میں مصر میں تھا کہ مجھے فتنہ تاتار میں بغداد میں حد سے تجاوز قتل کی اطلاع ملی اور میں نے اپنے دل میں برامنا یا۔ اور میں نے کہا اے میرے رب یہ کیسے ہوا جبکہ ان میں بچے بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں۔ سو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ میں نے اسے لے کر پڑھا تو اس میں یہ اشعار تھے جن میں مجھے ملامت کی گئی تھی۔

اعتراض کرنا چھوڑ دے حرکاتِ فلک میں تیرا کوئی اختیار اور حکم نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فعل کے بارے میں دریافت نہ کر جو سمندر کی گہرائی میں گھسے گا ہلاک ہو جائے گا بندوں کے امور بھی اسی کی طرف جائیں گے اعتراض کو چھوڑ دے تو کس قدر جاہل ہے۔

حافظ ابو ابراہیم اسحاق بن عبد اللہ:

ابن عمر جو ابن قاضی الیمین کے نام سے مشہور ہیں آپ نے ۶۸ سال کی عمر میں وفات پائی اور شرفِ اعلیٰ میں دفن ہوئے۔ اور آپ چیدروایات میں متفرد ہیں۔ اور لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور اس سال شیخ شرف الدین عبد اللہ بن تیمیہ پیدا ہوئے جو شیخ تقی الدین ابن تیمیہ اور خطیب قزوینی کے بھائی ہیں۔

۶۶۷ھ

اس سال کے صفر میں سلطان الظاہر نے اپنے بیٹے ملک سعید محمد برکت خان کے لیے از سر نو بیعت لی کہ وہ اس کے بعد بادشاہ ہوگا اور اس نے سب امراء قضاة اور اعیان کو بلایا اور اسے سوار کرایا اور اس کے آگے آگے چلا اور ابن نعمان نے اس کے لیے ایک زبردست تحریر لکھی کہ وہ اپنے باپ کے بعد بادشاہ ہوگا۔ اور یہ کہ وہ اس کی زندگی میں اس کی طرف سے فیصلے کرے گا۔ پھر جمادی الآخرہ میں سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ شام کو گیا۔ اور جب وہ دمشق میں داخل ہوا تو اس کے پاس شاہ تاتار ابغاء کے ایلچی آئے۔ ان کے پاس کچھ تحریری اور کچھ زبانی باتیں تھیں۔ اور زبانی باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ تو ایک غلام ہے جو سیو اس میں خرید و فروخت کرتا رہا ہے۔ تمہیں یہ زبانی نہیں کہ تو شاہان زمین کی مخالفت کرے۔ اور یاد رکھ اگر تو آسمان پر چڑھ جائے اور زمین کی طرف اتر آئے تو تو مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اپنے آپ کو سلطان ابغاء سے مصالحت کرنے پر آمادہ کر، مگر اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی اسے کوئی اہمیت دی بلکہ اس کا مکمل جواب دیا اور اس نے اس کے ایلچیوں سے کہا اسے بتادینا کہ میں اس سے مطالبہ کے درپے ہوں۔ اور میں مسلسل مطالبہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں اس سے خلیفہ کے وہ تمام علاقے چھین لوں گا جن پر اس نے قبضہ کیا ہے۔

اور جمادی الآخرہ میں سلطان ملک الظاہر نے تمام شہروں میں شراب کے گرا دینے اور غلط کار عورتوں کے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ پس غلط کار عورتوں کے پاس جو کچھ موجود تھا لوٹ لیا گیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے نکاح کر لیے۔ اور اس نے سب شہروں کی طرف یہ حکم لکھا کہ اس کام پر جو ٹیکس لگا تھا اسے ساقط کر دیا۔ اور جو کام اس کے بغیر محال تھا اس کا عوضاتہ دیا۔ پھر سلطان اپنی افواج کے

ساتھ مصر واپس آ گیا۔ اور جب وہ راستے میں خربتہ اللصوص کے پاس تھا تو ایک عورت اس کے دریے ہو گئی اور اس نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا صور شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اس کے فرنگی حکمران نے اس سے خیانت کی ہے اور اسے قتل کر دیا ہے۔ اور اس کا مال لے لیا ہے پس سلطان سوار ہوا اور اس نے صور پر غارت گری کی اور اس کے بہت سے حصے پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بادشاہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے ۳ جروں کے ساتھ اس کے فریب و خیانت کا ذکر کیا۔ پھر سلطان نے فوجوں کے پیشرو سے کہا، میں لوگوں کو وہم میں ڈالتا ہوں کہ میں مریض ہوں اور میں پالنگی میں ہوں۔ اطباء کو بلاؤ اور ان سے میرے لیے نسخہ تجویز کرواؤ جو اس قسم کے مریض کے مناسب ہو۔ اور جب وہ تجھے نسخہ بتائیں تو مشروبات کو چلتے چلتے پالنگی میں حاضر کرنا پھر سلطان ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اور اسے جلدی سے چلایا اور اس نے اپنے بیٹے کے حالات معلوم کیے کہ اس کے بعد یار مصر کی حکومت کیسے رہے گی۔ پھر وہ جلدی سے فوج کی طرف واپس آ گیا اور پالنگی میں بیٹھ گیا اور انہوں نے اس کی صحت کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی خوش خبری دی۔ اور یہ ایک عظیم جرأت اور بڑا اقدام ہے۔

اور اس سال سلطان ملک الظاہر نے حج کیا اور اس کے ساتھ امیر بدر الدین الجزندار قاضی القضاة سلیمان الحنفی، فخر الدین بن لقمان تاج الدین بن الاثیر اور تقریباً تین سو غلام اور فاتح افواج بھی تھیں۔ اور الکرك کے راستے پر چلا۔ اور اس نے اس کے احوال پر غور کیا۔ پھر وہ وہاں سے مدینہ منورہ گیا اور وہاں کے باشندوں سے حسن سلوک کیا، اور ان کے احوال میں غور و فکر کیا۔ پھر وہاں سے مکہ آیا، اور مجاورین کو صدقہ دیا، پھر اس نے عرفہ میں وقوف کیا اور طواف افاضہ کیا اور اس کے لیے کعبہ کو کھولا گیا۔ اور اس نے اسے اپنے ہاتھ سے عرق گلاب اور اس کی خوشبو سے دھویا پھر وہ کعبہ کے دروازے میں کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑا کہ وہ کعبہ میں داخل ہو جائیں اور وہ بھی ان کے درمیان تھا۔ پھر اس نے واپس آ کر جمرات پر کنکر پھینکے۔ پھر اس نے چلنے میں جلدی کی اور مدینہ منورہ واپس آ کر دوبارہ قبر شریف کی زیارت کی، جس کے سائیں پر افضل الصلوٰۃ والتسلیم و علیٰ آلہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و صحابتنہ الکرام اجمعین الی یوم الدین۔

پھر وہ الکرك کی طرف روانہ ہو گیا اور ۲۶ رذوالحجہ کو اس میں داخل ہو گیا، اور اس نے اپنی بخیریت آمد پر دمشق کی طرف خوشخبری دینے والا بھیجا، اور دمشق کا نائب امیر جمال الدین التتیمی ۲ محرم کو خوش خبری دینے والے کے استقبال کو نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ سلطان خود میدان اخضر میں چل رہا ہے اور وہ سب سے آگے ہے۔ اور لوگ اس کی سرعت رفتار، صبر اور دلیری سے تعجب کرنے لگے، پھر وہ جلدی سے چل کر ۶ محرم کو حلب میں داخل ہو گیا تا کہ اس کے حالات کی تفتیش کرے، پھر وہ حمہ کو واپس آیا، پھر دمشق کو لوٹا۔ پھر مصر کو چلا گیا اور آئندہ سال کی ۳ صفر کو منگل کے روز اس میں داخل ہو گیا۔

اور ذوالحجہ کے آخر میں شدید ہوا چلی، جس نے دریائے نیل میں دو سو کشتیوں کو غرق کر دیا، اور اس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور وہاں شدید بارش پڑی، اور شام میں بجلی پڑی جس نے پھلوں کو تباہ کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اور اس سال اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کے درمیان یعنی اصحاب ابغا اور اس کے عمزاد ابن منکوتمر کے اصحاب کے درمیان اختلاف ڈال دیا، اور وہ منتشر ہو گئے۔ اور ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور اس سال اہل حران نے خروج کیا، اور ان میں کچھ لوگ

شام آگئے اور ان میں ہمارے شیخ علامہ ابو العباس احمد بن تیمیہ بھی اپنے باپ کے ساتھ آئے اور آپ کی عمر ۶۶ سال تھی اور آپ کے بھائی زین الدین عبدالرحمن اور شرف الدین عبداللہ بھی آئے اور وہ دونوں آپ سے چھوٹے تھے۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

امیر عز الدین ایدمر بن عبداللہ:

الحلی الصالحی، آپ اکابر امراء میں سے تھے اور بادشاہوں کے ہاں ان کے زیادہ رتبہ رکھتے تھے پھر ملک الظاہر کے ہاں بھی رتبہ حاصل کیا۔ اور وہ اپنی غیر موجودگی میں آپ کو نائب مقرر کرتا۔ اور جب یہ سال آیا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا، اور آپ کی وفات قلعہ دمشق میں ہوئی، اور آپ البغمریہ کے قریب قبرستان میں دفن ہوئے۔ اور آپ نے اپنے پیچھے بہت اموال چھوڑے۔ اور اپنی اولاد کے بارے میں سلطان کو وصیت کی۔ اور سلطان جامع دمشق میں آپ کی تعزیت کے لیے آیا۔

شرف الدین ابو الظاہر:

محمد بن الحافظ ابی الخطاب عمر بن دحیہ المصری، آپ کی پیدائش ۶۱۰ھ میں ہوئی اور اپنے باپ سے اور ایک جماعت سے سماع کیا اور دار الحدیث الکاملیہ کی مشیت کو مدت تک سنبھالے رکھا، اور حدیث بیان کی اور آپ ایک فاضل شخص تھے۔

قاضی تاج الدین ابو عبداللہ:

محمد بن وثاب بن رافع الجبلی الحنفی، آپ نے درس دیا اور دمشق میں ابن عطاء کی طرف سے فتویٰ دیا۔ اور آپ حمام سے نکلنے کے بعد حمام کے چبوترے پر اچانک مر گئے اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

شرف الدین ابو الحسن ماہر طبیب:

علی بن یوسف بن حیدرۃ الرجبی، دمشق کے شیخ الاطباء اور الدخوار یہ کے وقف کرنے والے کی وصیت کے مطابق الدخوار یہ کے مدرس، آپ کو اس فن میں اپنے ہم عصر ساتھیوں پر سبقت حاصل تھی، اور آپ کے اشعار میں یہ اشعار بھی ہیں۔

”دنیا کے فرزندوں کو زبردستی موت کی طرف لے جایا جاتا ہے اور باقی رہنے والے لوگ گذر جانے والے کے حال کا شعور نہیں رکھتے، گویا وہ بعض کی جہالت کے باعث چوپائے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی خونریزی کر رہے ہیں۔“

شیخ نصیر الدین:

المبارک بن یحییٰ بن ابی الحسن ابی البرکات بن الصباغ الشافعی، فقہ و حدیث کے علامہ، آپ نے پڑھایا، فتوے دیئے، تصنیف کی اور آپ سے فائدہ اٹھایا گیا، آپ کی عمر ۸۰ سال تھی، اور آپ کی وفات اس سال کی ۱۱۔ جماع الاولیٰ کو ہوئی۔

شیخ ابو الحسن:

علی بن عبداللہ بن ابراہیم الکوئی المقری الخوی ملقب بہ سیبویہ، آپ فن نحو میں یکتا فاضل تھے۔ آپ نے اس سال ۶۷۷ سال کی عمر میں قاہرہ کے شفا خانے میں وفات پائی۔ آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”تو نے مسلسل جدائی سے میرے دل کو عذاب پایا ہے۔ اے ۶۰۰ جس کی محبت ضمیرِ نیرِ منفصل سے اور اس نے مجھے تپہ سے روکنے کی تاکید کی ہے اور عطف سے بدل تک تیرا کوئی دشمن نہیں ہے۔“

اور اس سال میں ہمارے شیخ علامہ امام الدین محمد بن علی الصاری بن الزماں شیخ الشافعیہ کی واپس آتی ہوئی۔

۶۶۸ھ

اس سال کی ۲ محرم کو سلطان حجاز سے الجمن آیا اور لوگوں نے اسے میدانِ اخضر میں چلتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور اس نے لوگوں کو ہدایا اور تحائف کے ساتھ استقبال کرنے سے راحت دی اور یہ اس کا دستور تھا۔ اور لوگ اس کی سرعت رفتار اور عالی ہمتی سے حیران رہ گئے۔ پھر وہ حلب کی طرف گیا، پھر مصر کی طرف گیا، اور مصری قافلے کے ساتھ اس میں مہینے کی چھ تاریخ کو داخل ہوا۔ اور اس سال اس کی بیوی ام الملک سعید حجاز میں تھی، پھر وہ اور اس کا بیٹا اور امراء ۱۳۰ صفر کو اسکندریہ کی طرف گئے۔ اور وہاں اس نے شکار کیا اور امراء کو بہت سے اموال اور خلعت دیئے۔ اور مظفر منصور ہو کر واپس لوٹا۔

اور اس سال کے محرم میں شاہ مراکش ابوالعلاء اور ادریس بن عبداللہ بن محمد بن یوسف ملقب بہ واثق قتل ہو گیا۔ اسے بنومزین نے اس جنگ میں قتل کیا جو اس کے اور ان کے درمیان مراکش کے درمیان ہو رہی تھی۔ اور اس سال کی ۱۳ ربیع الآخر کو سلطان اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ دمشق پہنچا اور وہ راستے میں سردی اور کچھل کے باعث سخت مشقت سے دوچار ہوئے، پس اس نے الزہقیہ پر خیمہ لگا لیا اور اسے اطلاع ملی کہ زیتون کا بھانجا عسکا سے مسلمانوں کی فوج کا قصد کیے ہوئے نکلا ہے سو وہ جلدی سے اس کے مقابلہ میں گیا اور اس نے اسے عسکا سے نزدیک پایا اور وہ اس کے خوف سے اس میں داخل ہو گیا۔ اور رجب میں سلطان کے نائبین نے اسماعیلہ سے موسم گرما گزارنے کی جگہ کی سپرد داری لے لی اور وہاں سے ان کا امیر الصارم مبارک بن الرضی بھاگ گیا اور حماہ کے حکمران نے اس کے خلاف حیلہ کر کے اسے قیدی بنا لیا اور اسے سلطان کی طرف بھیج دیا اور اس نے اسے قاہرہ کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔

اور اس سال سلطان نے لکڑی کے ستونوں کو حجرہ نبویہ کی طرف بھجوا اور حکم دیا کہ انہیں قبر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد کھڑا کیا جائے۔ اور اس نے ان کے لیے دیار مصر سے نکلنے اور بند ہونے والے دروازے بنوائے اور انہیں وہاں لگا دیا۔ اور اس سال اطلاعات ملیں کہ فرنگی بلاد شام کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ پس سلطان نے ان سے جنگ کرنے کے لیے فوج تیار کی۔ اور اس کے باوجود وہ اسکندریہ کے بارے میں ان سے خائف تھا۔ اور اس نے انہیں مضبوط کیا۔ اور اگر اچانک دشمن آجائے تو اس نے ان کی طرف آنے کے لیے پل بنایا اور اسکندریہ سے کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ اور اس سال بلاد مغرب سے بنوعبدالمومن کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ان کا آخری بادشاہ ادریس بن عبداللہ بن یوسف تھا جو مراکش کا حکمران تھا بنومزین نے اسے اس سال قتل کر دیا تھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

الصاحب زین الدین یعقوب بن عبداللہ الرفیع:

ابن زید بن مالک المصری جو ابن الزبیری کے نام سے مشہور ہے اور یہ ایک فاضل رئیس تھا۔ یہ ملک مظفر قطر کا وزیر بنا۔ پھر الظاہر بھرس کی حکومت کے آغاز میں اس کا وزیر بنا۔ پھر اس نے اسے معزول کر دیا اور بہاؤ الدین ابن الحنا کو وزیر مقرر کیا، پس وہ

ایسے گھر کا ہو رہا تھا کہ اس سال کی ۱۴ ربیع الآخر اس کی وفات ہو گئی اور آپ کی نظم بھی اچھی ہے۔
شیخ موفق الدین:

احمد بن القاسم بن حلیفہ الخزرجی السغیب بن ابی بن السبیحہ کے نام سے مشہور تھے آپ کی تاریخ ۱۱۱ ہجری میں ہے اور ۱۰۹۰ء جامع الامویہ میں مزار ابن عمرو پر وقف ہے۔ آپ نے سرحد میں وفات پائی۔ آپ کی عمر نوے سال سے متجاوز تھی۔
شیخ زین الدین احمد بن عبد الدائم:

ابن نعمۃ بن احمد بن محمد بن ابراہیم بن احمد بن بکیر ابو العباس المقدسی النابلسی آپ مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرنے میں متفرد ہیں آپ کی ولادت ۵۷۵ھ میں ہوئی۔ آپ نے سماع کیا۔ اور مختلف شہروں کی طرف سفر کیا۔ آپ فاضل آدمی تھے اور جلد جلد لکھتے تھے۔

اور شیخ علم الدین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے مختصر الخزرجی کو ایک رات میں لکھا اور آپ کا خط خوبصورت اور پختہ تھا۔ اور آپ نے تاریخ ابن عساکر کو دوبار لکھا اور اسے اپنے لیے مختصر بھی کیا اور آپ اپنی عمر میں چار سال اندھے ہوئے۔ اور آپ کے اشعار بھی ہیں جنہیں قطب الدین نے التذیل میں بیان کیا ہے۔ آپ نے قاسیون میں وفات پائی اور وہیں ۱۰۱۰ء جب کو منگل کی صبح کو دفن ہوئے۔ آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔

قاضی محی الدین ابن الزکی:

ابو الفضل یحییٰ بن قاضی القضاة بہاؤ الدین ابی المعالی محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ بن علی بن عبد العزیز بن علی بن حسین بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الولید ابن عبد الرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان القرشی الاموی بن الزکی آپ نے کئی بار دمشق کی قضا سنبجالی اور آپ سے پہلے یہی حال آپ کے آباء کا تھا سب نے قضا کو سنبجالا۔ آپ نے ضیل ابن طبرزد الکندی اور ابن الحرستانی اور ایک جماعت سے حدیث کا سماع کیا اور آپ نے حدیث بیان کی اور بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ اور آپ نے الملادونیہ میں شام کی قضا سنبجالی۔^۱ لیکن ابوشامہ کے بیان کے مطابق آپ کی تعریف نہیں کی گئی۔

آپ نے ۱۴۰۰ء میں وفات پائی اور المعظم میں دفن ہوئے اور آپ کی عمر ستر سال سے زائد تھی اور آپ کے اشعار بہت اچھے ہیں۔ اور شیخ قطب الدین نے اس بارے میں آپ کا نسب بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے والد قاضی بہاؤ الدین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ شیخ محی الدین ابن عربی کو موافقت میں حضرت علی بن ابی طالب کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور آپ نے جامع دمشق میں ایک خواب میں آپ کو اپنے سے اس وجہ سے اعراض کیے دیکھا کہ آپ کو ایام صفین میں بنی امیہ سے تکلیف پہنچی تھی۔ صبح ہوئی تو آپ نے اس بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا جس میں حضرت علی بن ابی طالب کی طرف اپنے میلان کا ذکر کیا اگرچہ آپ اموی تھے۔

میں وصی کے دین کو قبول کرتا ہوں اور میں اس کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا، اگرچہ بنو امیہ بھی اصل والے ہیں۔ اور اگر

① شذرات الذهب میں ہے کہ بلاکو نے شام کی قضا آپ کے سپرد کی۔

مدرسہ اصفہان میں حاضر نہ تھے۔ بار بار یہی مدعا دیا گیا کہ انہوں نے مشکل میں ڈال دیتی اور میں ان کی ضمانت کی ہے۔
تکواروں کو تیز کرتا اور ہاتھ سے انہیں خلافت حاصل کرنے سے روکتا۔

اور آپ کا شعر ہے۔

”انہوں نے کہا دمشق کے سرخسار میں کوئی تفریق نہیں اور جس چیز کا تو دلدادہ ہے اسے بھول جا۔ اے میرے ملامت گر
اس کے تیرنگاہ سے بچ اور اس سے ایک قطار نے معارضہ کیا ہے۔“

الصاحب فخر الدین:

محمد بن الصاحب بہاؤ الدین علی بن محمد بن سلیم بن الحنا مصری آپ وزیر صحت تھے اور فاضل آدی تھے۔ آپ نے قرآنہ کبریٰ
میں ایک خانقاہ بنائی اور مصر میں اپنے والد کے مدرسہ میں پڑھایا۔ اور ابن بنت الاعز کے بعد الشافعی میں بھی پڑھایا۔ آپ نے
شعبان میں وفات پائی۔ اور المعظم کے دامن میں دفن ہوئے اور سلطان نے اس کے بیٹے تاج الدین کو وزارت صحت سونپ دی۔
شیخ ابوالنصر بن ابی الحسن:

ابن الخراز صوفی بغدادی شاعر آپ کا ایک اچھا دیوان بھی ہے اور آپ مل جل کر رہنے اور گفتگو کرنے کے لحاظ سے بہت
اچھے تھے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے اعزاز کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور آپ نے اسے اپنا شعر سنایا۔
”جب تو آیا تو دل اس محبت کی وجہ سے جو اس میں موجود ہے تیرے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور محبت کے ساتھ دل کا
کھڑا ہونا اجسام کے لیے اجسام کے کھڑا ہونے سے بہتر ہے۔“

۶۶۹ھ

اس سال کے صفر کے آغاز میں سلطان دیار مصر سے ایک دستہ فوج کے ساتھ عسقلان کی طرف گیا۔ اور اس نے اس کی باقی
ماندہ فوج کو جسے حکومت صلاحیہ نے بیکار قرار دے دیا گیا تھا گرا دیا۔ اور جو فوج اس نے گرائی اس میں اس نے دو پیالے پائے
جن میں دو ہزار دینار تھے جس میں اس نے امراء پر تقسیم کر دیا اور ابھی وہ وہیں تھا کہ خوشخبری آگئی کہ منکوتمر نے ابغا کی فوج کو شکست
دے دی ہے۔ اور وہ اس سے خوش ہو گیا۔ پھر وہ قاہرہ کی طرف واپس آ گیا۔ اور ربیع الاول میں سلطان کو اطلاع ملی کہ اہل عسکا
نے ان مسلمان قیدیوں کو جو ان کے قبضے میں تھے عسکا کے باہر باندھ کر قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے قبضے میں اہل عسکا کے جو قیدی تھے
ان کے بارے میں اس نے قتل کا حکم دے دیا اور ایک ہی صبح کو انہیں قتل کر دیا گیا اور وہ تقریباً دو سو قیدی تھے۔ اور اس سال جامع
المسیحیہ مکمل ہوئی اور ۲۲ ربیع الآخر کو اس میں جمعہ کی نماز ہوئی۔ اور اس سال اہل تونس اور فرنگ کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع
ہوا جن کا بیان طویل ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فریقین کے بے شمار آدمیوں کے قتل ہو جانے کے بعد صلح کرنے اور جنگ
ساقط کرنے پر مصالحت کر لی۔

اور ۸ ربیع بروز جمعرات الظاہر دمشق میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا ملک سعید اور وزیر ابن الحنا اور فوج کی
اکثریت بھی تھی۔ پھر وہ متفرق ہو کر باہر چلے گئے اور باہم وعدہ کیا کہ وہ ساحل پر آپس میں ملاقات کریں تاکہ وہ جلد لاذقیہ مرقب

عرفہ اور وہاں جو شہر ہیں ان پر غارتگری کریں۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے صافینا اور مجدل کو فتح کر لیا پھر روانہ ہو کر ۱۹ رجب بروز منقل اکراد کے قلعے پر اترے جس کی تین مسیلیں تھیں۔ پس انہوں نے مجابیق نصب کر دیں اور اسے ۱۵ شعبان کو بزرگوں سے فتح کر لیا اور فوج داخل ہو گئی۔ اور اس کا محاصرہ کرنے والا سلطان کا بیٹا ملک سید تھا۔ سلطان نے اہل قلعہ کو رہا کر دیا اور ان پر احسان کیا۔ اور انہیں طرابلس کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور فتح سے ۱۰ دن بعد قلعہ کو حاصل کر لیا۔ اور اہل قلعہ کو اسی طرح جلا وطن کر دیا اور شہر کے کلیسا کو جامع مسجد بنا دیا اور اس میں جمعہ قائم کیا۔ اور اس پر نائب اور قاضی مقرر کیا۔ اور شہر کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور حاکم طرسوں نے اس شرط پر اسے صلح کی پیشکش کرتے ہوئے اپنے شہر کی چابیاں بھجوادیں کہ اس کے ملک کا نصف نفلہ سلطان کے لیے ہوگا۔ اور یہ کہ اس کا نائب وہاں ہوگا تو اس نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح المرقب کے حاکم نے بھی کیا۔ اور اس نے اس کے ساتھ بھی نصف نفلہ پر اور دس سال جنگ ساقط کرنے پر مصالحت کر لی اور سلطان کو اکراد کے قلعہ پر خیمہ زن ہونے کی حالت میں اطلاع ملی کہ جزیرہ قبرص کا حکمران اپنی فوج کے ساتھ عسکا کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ تاکہ اس کے باشندوں کو سلطان کے خوف سے بچائے۔

پس سلطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ سو اس نے بارہ شبی کے ساتھ بہت بڑی فوج بھیجی تاکہ وہ جزیرہ قبرص پر اس کے حاکم کی عدم موجودگی میں قبضہ کر لیں۔ اور کشتیاں سرعت کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور جب وہ شہر کے نزدیک پہنچیں تو سخت جھکڑ چل پڑا اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اور ان میں سے چودہ کشتیاں حکم الہی سے ٹوٹ پھوٹ گئیں اور بہت سے لوگ غرق ہو گئے۔ اور فرنگیوں نے کاریگروں اور جوانوں میں سے تقریباً اٹھارہ سو آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

پھر سلطان روانہ ہوا اور اس نے قلعہ عسکا پر مجابیق نصب کر دیں اور اس کے باشندوں نے اس شرط پر اس سے امان طلب کی کہ وہ انہیں چھوڑ دے تو اس نے ان کی بات مان لی اور اس نے عید کے روز شہر میں داخل ہو کر اس کی سپردداری لے لی اور وہ قلعہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والا تھا۔ اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہے۔ پھر سلطان طرابلس گیا اور اس کے حکمران نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اس زمین میں سلطان کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری کھیتوں کو چر جاؤں اور تمہارے شہر کو ویران کر دوں۔ اور پھر آئندہ سال تمہارے محاصرہ کے لیے آؤں۔ پس اس نے اسے مصالحت و مہربانی اور دس سال تک جنگ ساقط کرنے کی پیشکش کی تو اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اور اس نے اسماعیلیہ کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے والد کے متعلق اس سے مہربانی کی درخواست کریں اور وہ قاہرہ میں قید تھا۔ اس نے کہا العلیقہ کو میرے سپرد کر دو اور نیچے اتر آؤ اور قاہرہ میں جاگیریں لو اور اپنے باپ کی سپردداری بھی لو۔ پس جب وہ نیچے اترے تو اس نے قاہرہ میں انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ اور العلیقہ کے قلعے میں نائب مقرر کر دیا۔

اور ۱۲ شوال بروز اتوار دمشق میں بڑا سیلاب آیا اور اس نے بہت سی چیزوں کو تباہ کر دیا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ غرق ہو گئے، خصوصاً وہ رومی حجاج جو دو دریاؤں کے درمیان اترے ہوئے تھے۔ سیلاب انہیں ان کے اونٹوں اور بوجھوں کو بہا لے گیا۔ اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور فصیلوں کی سیڑھیوں اور باب الفردیس سے پانی شہر کے اندر

آگیا۔ اور ابن المقدم کی سرائے غرق ہوگئی اور اس نے بہت سی چیزوں کو برباد کر دیا۔ اور یہ واقعہ گرمیوں میں زرد آلو کے موسم میں ہوا۔ اور سلطان ۱۵ ارشوال کو بدھ کے روز دمشق میں داخل ہوا۔ اور اس نے قاضی ابن خلکان کو معزول کر دیا۔ آپ دس سال سے قضا کا کام کر رہے تھے۔ اور اس نے قاضی مراد بن ابی الصالح کو تقرر کر دیا اور اسے خلعت دیا۔ اور اس نے طرابلس کے باہر وزیر ابن الحنا کی سفارت کے ساتھ اس کا حکم لکھا۔ اور ابن خلکان ذوالقعدہ میں مصر چلے گئے اور ۱۲ ارشوال کو شیخ السلطان ملک الظاہر اور اس کے اصحاب کر دوں کے قلعے سے داخل ہو کر یہود کے کنیہ میں آئے اور اس میں نماز ادا کی۔ اور اس میں یہود کے جو شعائر تھے انہیں مٹا دیا اور اس میں دسترخوان بچھایا اور سماع کیا اور کئی روز تک اسی حالت میں رہے۔ پھر کنیہ یہود کو واپس کر دیا گیا پھر سلطان سواحل کی طرف چلا گیا۔ اور بعض ساحلی علاقوں کو فتح کیا اور عسکاک کے نزدیک جا پہنچا اور اس کے متعلق غور و فکر کیا۔ پھر دیار مصر کو روانہ ہو گیا۔ اور اس میں اور ان غزوات میں اس کے قرض کی مقدار تقریباً اٹھارہ ہزار دینار تھی۔ اور اللہ نے اسے اس کا عوض دیا اور وہ ۱۳ ارذوالحجہ کو جمعرات کے روز قاہرہ پہنچا اور پہنچنے سے سترہویں روز اس نے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا۔ جن میں حلبی وغیرہ بھی تھے اسے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے الشیخ پر اس کی گرفتاری کا ارادہ کیا تھا۔ اور ۱۷ ارذوالحجہ کو اس نے بقیہ شہروں میں بھی شراب کے گرانے کا حکم دے دیا۔ اور اسے نچوڑنے اور پینے والے کو قتل کی دھمکی دی اور اس کی کفالت کو ساقط کر دیا۔ اور صرف قاہرہ میں روزانہ اس کی کفالت ایک ہزار دینار ہوتی تھی پھر اپنی اس حکم کو آفاق میں لے کر چلے گئے۔ اور اس سال سلطان نے الکراک کے حکمران العزیز بن المغیث اور اس کے اصحاب کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کا عزم کیا ہوا تھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملک تقی الدین عباس بن ملک عادل:

ابی بکر بن ایوب بن شادی یہ اولاد عادل میں سے زندہ رہنے والا آخری بچہ تھا اس نے الکندی اور ابن الحرستانی سے حدیث کا سماع کیا اور ملوک کے ہاں اس کا بڑا احترام تھا کوئی شخص مجالس اور مجالع میں اس سے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ نرمی اخلاق اور اچھے میل جول والا تھا اور اس کی ہم نشینی اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی تھی۔ اس نے ۱۲ جمادی الآخرة کو جمعہ کے روز درب الریحان میں وفات پائی۔ اور قاسیون کے دامن میں اس کے قبرستان میں دفن ہوا۔

قاضی القضاة شرف الدین ابو حفص:

عمر بن عبداللہ بن صالح بن عیسیٰ السبکی الماکلی آپ ۵۸۵ھ میں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماع کیا۔ اور فقہ سبکی اور الصلاہیہ میں فتویٰ دیا اور قاہرہ کے محتسب بنے۔ پھر ۶۲۳ھ میں قاضی بنے اس لیے کہ انہوں نے ہر مذہب کا قاضی مقرر کیا تھا۔ آپ نے سخت انکار کیا۔ پھر مجبور کرنے کے بعد اس شرط پر قاضی بنا قبول کیا کہ آپ قضا کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ آپ علم اور دین میں مشہور تھے آپ سے قاضی بدر الدین ابن جماعتہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ آپ نے ۲۵ رذوالقعدہ کو وفات پائی۔

شجاع الدین آذت مرشد المظفری الحموی۔

یہ شخص دلیر اور شجاع بہادروں میں سے تھا اور اس کا مشورہ نہایت صاحب ہوتا تھا اور اس کا استاد اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ اور یہی حال ملک الظاہر کا تھا۔ اس نے ماہ میں وفات پائی۔ اور ماہ میں ہی اپنے مدرسہ کے قریب اس کے قبرستان میں دفن ہوا۔ ابن سبعین، عبدالحق بن ابراہیم بن محمد:

ابن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدین ابو محمد المقدسی الرقوطلی آپ رقوطلی کی طرف نسبت سے الرقوطلی کہلاتے ہیں۔ یہ مرسیہ کے نزدیک ایک شہر ہے۔ آپ ۶۱۴ھ میں پیدا ہوئے۔ اور علم الاوائل اور فلسفہ سے اشتغال کیا، جس سے آپ میں ایک قسم کا الحاد پیدا ہو گیا۔ اور آپ نے اس بارے میں ایک کتاب بھی تصنیف کی جو ایسمیاء کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ اس کے ذریعے غبی اور غنی امراء پر بات کو غلط مطلق کر دیتے تھے۔ اور خیال کرتے تھے کہ یہ لوگوں کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ اور آپ کی تصانیف میں سے کتاب البدو اور کتاب الہو بھی ہیں۔ آپ نے مکہ میں اقامت کی، اور اس کے حکمران ابن سبی کی عقل پر قبضہ کر لیا۔ اور بعض اوقات غار حرا کی اس امید پر مجاورت کی کہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس میں وحی آتی ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم ﷺ پر آتی تھی۔ اس کا یہ اعتقاد اس فاسد عقیدہ پر قائم تھا کہ نبوت مکتسب چیز ہے اور یہ ایک فیض ہے جو عقل کے صفا ہونے پر ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اسی عقیدے پر مراء ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل ہوئی ہے۔ اور جب وہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کو دیکھتا تو ان کے بارے میں کہتا کہ یہ گھومنے کی جگہ کے گرد گدھے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ مدار کے گرد طواف کرتے تو وہ ان کے بیت اللہ کے طواف سے بہتر ہوتا، اللہ اس کے اور اس کے امثال کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور اس سے بڑے بڑے اقوال و افعال منقول ہیں۔ اس نے ۲۸ ر شوال کو مکہ میں وفات پائی۔

۶۷۰ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ ابو العباس احمد العباسی خلیفہ تھا اور سلطان اسلام ملک الظاہر تھا۔ اور ۱۴ محرم کو اتوار کے روز سلطان سمندر کی طرف گیا، تاکہ اس شوانی سے جنگ کرے جنہوں نے جزیرہ قبرص میں غرق ہونے والوں کا عوض مقرر کیا تھا، اور وہ چالیس شینی تھے، اور وہ شینی کے ساتھ گیا، اور امیر بدر الدین بھی اس کے ساتھ تھا، اور وہ ان پر غالب آگئے، اور خزندار سمندر میں گر گیا۔ اور اس نے پانی میں غوطہ لگایا۔ اور ایک شخص نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا، اور اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے غرق ہونے سے بچالیا۔ پس سلطان نے اس شخص کو خلعت دیا، اور اس سے حسن سلوک کیا۔ اور محرم کے آخر میں سلطان الخاصکیہ کی ایک چھوٹی سی جماعت اور دیار مصر کے امراء کے ساتھ روانہ ہو کر الکراک آیا۔ اور اس کے نائب کو اپنے ساتھ دمشق لے گیا۔ اور ۱۲ صفر کو اس میں داخل ہوا، اس کے ساتھ الکراک کا نائب امیر عز الدین ایدمر بھی تھا۔ پس اس نے اسے دمشق کا نائب مقرر کیا، اور جمال الدین آقوش التیمی کو ۴ صفر کو اس سے معزول کر دیا۔ پھر وہ حماہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور دس دن کے بعد واپس آ گیا۔ اور تاتاریوں کے خوف سے بھگوڑے، حلب، حماة اور حمص سے، دمشق پہنچے، اور اہل دمشق میں سے بھی بہت سے لوگ بھاگ گئے، اور ربیع الآخر میں مصری افواج سلطان کے پاس دمشق پہنچ گئیں، اور وہ ان کے ساتھ مہینے کی سات تاریخ کو روانہ ہوا، اور حماة سے گذرا، اور

اس نے وہاں کے باشندوں کو ساتھ لیا۔ پھر حلب کو روانہ ہو گیا اور وہاں میدان انصر میں خیمہ زن ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی افواج نے تقریباً دس ہزار سواروں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اپنے میں سے کچھ سواروں کو بھیجا جنہوں نے عین تاب پر غارت گری کی اور سطون تک پہنچ گئے اور حارم اور انطاکیہ کے درمیان ترکمانوں کی ایک پارٹی پر منہ کر دیا اور ان کی بیخ کنی کر دی۔ اور جب ۳۳۳ ریوں نے سنا کہ سلطان پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ فاتح افواج بھی ہیں تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ فرنگیوں نے بلاد قاقون^۱ پر غارت گری کی ہے۔ اور ترکمانوں کی ایک جماعت کو لوٹ لیا ہے پس اس نے وہاں کے امراء کو گرفتار کر لیا، کیونکہ انہوں نے ملک کی حفاظت کا فکر نہیں کیا تھا اور وہ دیار مصر کو واپس آ گئے۔

اور ۳ شعبان کو سلطان نے حنابلہ کے قاضی مصر، شمس الدین احمد بن العمار المقدسی کو گرفتار کر لیا اور اس کے پاس جو امانات تھیں انہیں لے لیا اور ان کی زکوٰۃ بھی لی اور کچھ امانتیں ان کے مالکان کو واپس کر دیں اور اسے شعبان ۶۷۲ھ تک قید رکھا اور اس کے متعلق حران کے ایک شخص نے شکایت کی تھی جسے شیب کہا جاتا تھا پھر سلطان پر قاضی کی پاک دائمی واضح ہو گئی تو اس نے اسے دوبارہ ۶۷۲ھ میں اپنے منصب پر بحال کر دیا۔ اور شعبان میں سلطان عسک کے علاقے کی طرف آیا اور اس پر غارت گری کی۔ اور اس کے حکمران نے اس سے صلح کی درخواست کی تو اس نے اس کی بات مان لی اور اس نے اس سے دس سال دس ماہ دس دن اور دس گھنٹوں تک مصالحت کی اور وہ دمشق واپس آ گیا۔ اور دارالسعادت میں صلح کی تحریر پڑھی گئی اور یہی حالت قائم رہی پھر سلطان نے بلاد اسماعیلیہ کی طرف واپس آ کر ان کے اکثر حصے کو قابو کر لیا۔

قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ جمادی الآخرۃ میں قلعہ جبل میں زرافہ پیدا ہوا جسے گائے کا دودھ پلایا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے یہ وہ بات ہے جس کی مثل نہیں دیکھی گئی۔

شیخ کمال الدین:

سلا بن حسن بن عمر بن سعید الاربل الشافعی آپ مشائخ مذہب میں سے ایک ہیں۔ اور شیخ محی الدین نووی نے آپ سے اشتغال کیا اور آپ نے الردیانی کی البحر کا متعدد جلدوں میں اختصار کیا ہے۔ اور وہ آپ کے ہاتھ کی تحریر میں میرے پاس موجود ہے۔ اور دمشق میں فتاویٰ آپ کے گرد گھومتے تھے آپ نے ستر کے دہے میں وفات پائی اور باب الصغیر میں دفن ہوئے اور آپ الواقف کے ایام سے البادریہ میں افادہ کر رہے تھے آپ نے اس سے زیادہ کی جستجو نہیں کی یہاں تک کہ اس سال میں آپ کی وفات ہو گئی۔

وجیہ الدین محمد بن علی بن ابی طالب:

ابن سید الشکرینی آپ تاجروں کے درمیان بہت بڑے سرمایہ دار تاجر تھے اور حکومت کے ہاں بھی آپ معظم تھے۔ خصوصاً ملک الظاہر کے ہاں وہ آپ کا اعزاز و اکرام کرتا تھا اس لیے کہ آپ نے اس کی امارت کے زمانے میں اس کے سلطنت کے حاصل

① قاقون فلسطین میں الرملہ کے نزدیک ایک قلعہ ہے۔

۶۷۱ھ کے حالات و واقعات کے بیان میں

کرنے سے قبل اس سے احسان کیا تھا۔ آپ کو اپنی خانقاہ میں دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر قاسیون میں رباط ناصر کے نزدیک ہے اور خلیفہ کے خطوط بروقت آپ کے پاس آتے تھے اور آپ نے مکاتیب تمام ملوک کے ہاں مقبول تھے حتیٰ کہ السواہل کے سرگئی ملوک کے ہاں بھی، اور آپ تا تاریخوں کے دور میں ہلاکو کے زمانے میں بہت صدقات و خیرات کرتے تھے

نجم الدین یحییٰ بن محمد بن عبدالواحد بن اللبو دی:

حام الفلک جو اظہاء کو عطیہ کے طور پر دیا گیا ہے کے پاس اللبو دیہ کا وقف کرنے والا آپ کو طب کی معرفت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کو دمشق میں کونسل کا نگران مقرر کیا گیا، اور آپ کو اللبو دیہ کے پاس قبرستان میں دفن کیا گیا۔

شیخ علی البرکاء:

حضرت خلیل کے شہر کے نزدیک آپ ایک زادیہ کے مالک تھے اور صلاح و عبادت اور گذرنے والوں اور زائرین کو کھانا کھلانے میں مشہور تھے اور ملک منصور قلا دون آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ امیر تھے اور آپ نے اسے کچھ باتوں کے متعلق خبر دی جو سب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ عنقریب بادشاہ بنے گا۔ اسے قطب الدین ایوبینی نے نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ کے زیادہ گریہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے ایک شخص کی مصاحبت کی، جو صاحب احوال و کرامات تھا، نیز یہ کہ آپ اس کے ساتھ بغداد سے نکلے اور ایک گھنٹے میں اس شہر پہنچ گئے جس کے درمیان اور بغداد کے درمیان ایک سال کی مسافت پائی جاتی ہے، نیز یہ کہ اس شخص نے آپ کو بتایا کہ میں عنقریب فلاں وقت مر جاؤں گا اور اس وقت مجھے فلاں شہر میں دیکھ لینا۔

راوی بیان کرتا ہے، جب وہ وقت آیا، تو میں اس کے پاس حاضر ہوا اور وہ نزع کی حالت میں تھا اور مشرق کی طرف گھوم گیا تھا، میں نے اسے قبلہ کی طرف پھیر دیا تو وہ مشرق کی طرف پھر گیا، پھر میں نے اسے اسی طرح پھیرا، تو اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھولیں اور کہنے لگا، تو پریشان نہ ہو، میں اسی جہت پر مروں گا۔ اور وہ درویشوں کی سی گفتگو کرنے لگا، حتیٰ کہ مر گیا، ہم نے اسے اٹھا کر وہاں ایک خانقاہ میں لائے تو ہم نے انہیں بڑے غم میں مبتلا پایا، ہم نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایک سو سال بوڑھا، اور آج کے دن وہ اسلام پر فوت ہوا ہے، ہم نے کہا، اس کے عوض ہم سے اسے لے لو اور ہمارا ساتھی ہمارے سپرد کر دو۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے سنبھالا اور اسے غسل دیا اور اس کا جنازہ پڑھا۔ اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور انہوں نے اس شخص کو سنبھالا اور اسے نصاریٰ کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں۔ شیخ علی نے اس سال کے رجب میں وفات پائی ہے۔

۶۷۱ھ

۵ محرم کو اظہار دمشق سے بلاد السواہل میں پہنچا جن کو اس نے فتح کیا اور ہموار کیا تھا اور آخر محرم میں قاہرہ کو چلا گیا، اور وہاں ایک سال تک ٹھہرا، پھر واپس آیا اور صرف کو دمشق میں داخل ہوا۔ اور اسی سال کے محرم میں التوبہ کا حکمران عیذاب پہنچا، اور اس

نے وہاں کے تاجروں کو لوٹا اور اس کے بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا جن میں قاضی اور والی بھی تھے۔ اور امیر عاؤ الدین ایبغدی اخص ندر اس کے مقابلے میں گیا اور اس نے اس کے ملک کے بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا اور لوٹ مار کی اور آگ لگائی اور مکانات کو گریا اور شہروں پر قبضہ کر لیا اور چاہدوں نے سیا۔ واللہ اعلم

اور ربیع الاولیٰ میں صہیون کے حکمران امیر سیف الدین محمد بن مظفر الدین عثمان بن ناصر الدین منکوس نے وفات پائی اور ستر کے دہے میں اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا اور صہیون اور بزرگیا گیا اور سال باہا شاہ رہا اور اس کے بعد اس کے بیٹے سابق الدین نے اس کی سپرد داری لے لی اور ملک الظاہر کے پاس حاضری کی اجازت طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے اسے اجازت دے دی اور جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اسے خیز کو جا گیر میں دے دیا اور اپنی جانب سے اسے دو شہروں کا نائب بنا کر بھیجا۔

اور ۵۸ جمادی الآخرۃ کو سلطان اپنی فوج کے ساتھ فرات پہنچا اس لیے کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ وہاں تاتاریوں کی ایک پارٹی موجود ہے۔ پس وہ خود اور اس کی فوج فرات میں گھس کر ان کے پاس پہنچے اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور اس روز سب سے پہلے امیر سیف الدین قلا دون اور بدر الدین بصری فرات میں داخل ہوئے اور ان دونوں کے پیچھے سلطان فرات میں گھسا پھر اس نے تاتاریوں کے ساتھ جو کرنا تھا کیا پھر وہ البیرہ کی طرف گیا جس کا تاتاریوں کی ایک دوسری پارٹی نے محاصرہ کیا ہوا تھا پس جب انہوں نے اس کی آمد کے متعلق سنا تو وہ بھاگ گئے اور اپنے اموال و ائصال کو چھوڑ گئے۔ اور سلطان بڑی شان و شوکت کے ساتھ البیرہ آیا اور اس نے وہاں کے باشندوں میں بڑا مال تقسیم کیا۔ پھر وہ ۳ جمادی الآخرۃ کو اپنے ساتھ قیدیوں کو لیے ہوئے دمشق واپس آ گیا۔ اور ۷ جمادی الآخرۃ کو دیمصر کو روانہ ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا ملک سعید اس کے استقبال کو باہر نکلا اور دونوں قاہرہ چلے گئے اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور اس کے بیٹوں کو بنو الشہاب محمود کہا جاتا ہے اور قاضی شہاب الدین محمود کا تب نے سلطان کے فوج سمیت دریا میں گھس جانے کے بارے میں کہا ہے۔

”تو جہاں چاہے چلا جا تجھے نگران خدا پناہ دینے والا ہے اور فیصلہ کر تیرے مقصد کو قضا و قدر خوشی سے پورا کرے گی۔ اے دین کے رکن جس دین کو تو نے غالب کیا ہے دشمنوں کے نزدیک اس کا کوئی بدلہ باقی نہ رہا تھا جب سروں نے رقص کیا تو تیری کماتوں کے مطربوں سے چلوں نے حرکت کی تو فوج کے ساتھ فرات میں گھس گیا جسے فرات کی موجوں نے آثار کے مطابق پہنچا دیا تجھے فرات کی موجوں نے اٹھایا۔ اور کس نے تیرے سوا وہ سمندر دیکھا ہے جسے نہریں اٹھائے ہوتے ہوں اور وہ ٹلے ٹلے ہو گیا۔ اور تیرے لشکر جرار کے سوا وہاں کوئی بڑا ٹیلہ نہ تھا۔“

اور اس منظر کو دیکھنے والے ایک شخص نے کہا ہے۔

”اور جب ہم نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ فرات کا سامنا کیا تو ہم نے اسے نیزوں اور تلواروں سے مدہوش کر دیا اور ہم داخل ہو گئے تو اس نے مال اور غنائم کے ساتھ ہماری واپسی کے وقت تک موجوں کو روانی سے روک دیا۔“

اور ایک دوسرے شخص نے کہا ہے اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔

”ملک الظاہر ہمارا سلطان ہے ہم اہل و مال سے اس پر قربان ہیں وہ پانی میں گھس گیا تاکہ حرارت قلب کو جو پیاس کی

وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اس سے ٹھنڈا کرے۔“

اور ۳ روز جب بروز منگل اس نے اپنے تمام خواہش امراء اور حلقہ کے پیشرووں اور ارباب حکومت کو خلعت دینے اور ہر آدمی اس کے نائب مال گھوڑے، اونٹ اور بانو ردیے اور جو کچھ اس نے خرچ کیا اس کی قیمت تقریباً تین لاکھ دینار تھی۔ اور شہان میں سلطان نے منکو تہری طرف منظم تحائف ارسال کیے اور ۱۲ ارشواں کو سوموار کے روز سلطان نے اپنے شیخ شیخ خضر کردی کو قلعہ میں اپنے پاس بلا یا اور اس کے ذمے کچھ باتوں کو واجب کیا جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا، پس سلطان نے اس موقع پر اس کے قید کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اسے فریب سے قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ اس کی آخری ملاقات تھی اور ذوالقعدہ میں اسما علیہ نے ان قلعوں کو بھی سپرد کر دیا جو ان کے قبضے میں تھے۔ اور وہ الکھف، القدموس اور المنطقہ تھے۔ اور ان کے عوض انہیں جاگیریں دی گئیں اور شام میں کوئی قلعہ ان کے پاس نہ رہا اور سلطان نے اس میں نائب مقرر کیا اور اس سال سلطان نے السواحل میں پل بنانے کا حکم دیا اور اس پر بہت مال خرچ کیا جس سے لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہو گئی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ تاج الدین ابوالمظفر محمد بن احمد:

ابن حمزہ بن علی بن بہتہ اللہ بن الحموی، النعمانی دمشقی، آپ اہل دمشق کے اعیان میں سے تھے آپ نے تیموں کی نگہداشت اور احتساب کا کام سنبھالا پھر بیت المال کی ذمہ داری لے لی۔ اور کثیر سے سماع کیا۔ اور ابن بلیان نے مشیخہ کو اس کے لیے مقرر کیا اور شیخ شرف الدین الفراری نے جامع میں اسے سنایا اور اعیان اور فضلاء کی ایک جماعت نے اس کا سماع کیا۔

خطیب فخر الدین ابو محمد:

عبد القاہر بن عبدالغنی بن محمد بن ابی القاسم بن محمد بن تیمیہ حرانی، جو حران کے خطیب تھے اور آپ کا گھرانہ علم و خطابت اور ہمت میں مشہور ہے۔ آپ صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی اور آپ نے اپنے دادا فخر الدین سے حدیث کا سماع کیا جو مشہور دیوان الخطیب کے مولف ہیں۔ آپ نے دمشق کے باہر خانقاہ قصر میں وفات پائی۔

شیخ خضر بن ابی بکر المہرانی العدوی:

ملک الظاہر بھیرس کا شیخ، آپ کو اس کے ہاں بڑا مقام حاصل تھا اور سلطان ہفتہ میں ایک یا دو دفعہ خود آپ کے زادیہ میں میں جاتا تھا جسے آپ نے الحنیہ میں تعمیر کیا تھا۔ اور آپ نے اس کے پاس ایک جامع بھی بنا لی تھی جس میں آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور وہ آپ کو بہت مال دیتا تھا اور جو آپ چاہتے تھے آپ کو دیتا تھا۔ اور اس نے آپ کے زادیہ کے لیے بہت سی چیزیں وقف کر دی تھیں اور سلطان کی محبت و تعظیم کی وجہ سے آپ خاص و عام کے ہاں معظم تھے اور جب وہ آپ کے پاس بیٹھتا تو آپ اس سے مزاح کرتے۔ اور اس میں بھلائی، دین اور صلاح پائی جاتی تھی اور آپ نے بہت سی باتوں کے متعلق سلطان کو خبر دی تھی۔ اور ایک دفعہ آپ بیت المقدس میں کنیسیۃ القمامہ میں داخل ہوئے اور اس کے پادری کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور جو کچھ اس میں موجود تھا

اپنے اصحاب کو دے دیا اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ اسکندریہ کے کنیہ میں کیا جو ان کے بڑے کناس میں سے ہے، آپ نے اسے لوٹا اور اسے مسجد اور مدرسہ میں تبدیل کر دیا اور بیت المال سے اس پر بہت سے اموال خرچ کیے اور اس کا نام المدرستہ المنصرمی رکھا اور اسی طرح آپ نے دمشق میں یہود کے کنیہ کے ساتھ کیا۔ آپ نے اس میں داخل ہو کر جو کچھ وہاں آفات اور سامان پڑے تھے لوٹ لیے اور اس میں دسترخوان بچھا دیا اور اسے مدت تک مسجد بنائے رکھا پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسے انیس واپس کر دیں اور ان پر رحم کریں۔ پھر اتفاق سے اس سال آپ سے کچھ ناپسندیدہ امور سرزد ہوئے اور سلطان الظاہر کے ہاں ان باتوں کو ثابت کر دیا گیا۔ اور آپ سے ایسی باتیں ظاہر ہوئیں جنہوں نے آپ کو قید کرنا واجب کر دیا، پھر اس نے آپ کو چھانسی دینے اور ہلاک کر دینے کا حکم دیا۔^①

اور آپ کی وفات اس سال ہوئی اور آپ کو اپنے زادیہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔ اور سلطان آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے ایک بچے کا نام آپ کے نام کی موافقت کی وجہ سے خضر رکھا اور آپ ہی کی طرف وہ گنبد منسوب ہے جو پہاڑ پر اس ٹیلے کے مغرب میں ہے جسے قبۃ الشیخ خضر کہا جاتا ہے۔
التعجیز کا مصنف:

علامہ تاج الدین عبدالرحیم بن محمد بن یونس بن محمد بن سعد بن مالک ابو القاسم موصلی، آپ فقہ و ریاست اور تدریس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ۵۹۸ھ میں پیدا ہوئے اور سماع و اشتغال کیا اور علم حاصل کیا۔ اور تصنیف کا کام کیا اور آپ نے اپنی کتاب التعجیز کا اختصار الوجیز میں کیا ہے۔ اور الموصول کا بھی اختیار کیا ہے اور مسائل خلا فیہ میں آپ کا ایک طریق ہے جسے آپ نے رکن الدین الطاروسی سے حاصل کیا ہے اور آپ کا دادا اپنے وقت میں شیخ المذہب تھا جسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

۶۷۲ھ

اس سال کے صفر میں الظاہر دمشق آیا اسے اطلاع ملی تھی کہ ابناء بغداد پہنچ گیا ہے اور اس نے اس جانب شکار کیا ہے سو اس نے مصری افواج کی طرف پیغام بھیجا کہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں اور سلطان نے بھی اس کام کے لیے تیاری کی اور جمادی الآخرۃ میں اس نے الکروج کے بادشاہ کو اپنے ہاں دمشق بلایا اور وہ بھیس بدل کر بیت المقدس کی زیارت کو آیا تھا۔ اور وہ اس پر چڑھا تو اسے اٹھا کر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے قلعہ میں قید کر دیا۔ اور اس سال قاہرہ کے باہر جامع دیر الطین کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اور اس میں جمعہ پڑھا گیا اور اس سال سلطان قاہرہ کی طرف گیا اور ۷ رجب کو اس میں داخل ہوا اور آخر رمضان میں ملک سعید ابن الظاہر فوج کے ایک دستے کے ساتھ دمشق آیا اور ایک ماہ تک وہاں رہا پھر واپس چلا گیا۔ اور عید الفطر کے روز سلطان نے اپنے بیٹے خضر کا ختنہ کیا یہ وہی لڑکا ہے جس کا نام اس نے اپنے شیخ کے نام پر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ امراء کے بیٹوں کی ایک جماعت کا

① شذرات الذہب میں ہے کہ اس نے آپ کو قلعہ میں قید کر دیا اور قیمتی کھانے آپ کے لیے مقرر کر دیئے، حتیٰ کہ آپ محرم ۶۷۶ھ میں وفات پا گئے اور النجوم الزاہرۃ میں بھی اسی طرح لکھا ہے نیز اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو شوال ۶۷۱ھ میں قید کیا گیا۔

بھی سخت کیا گیا اور یہ بڑا خوفناک وقت تھا اور اس سال شام تاراج کرنے لگا۔ اہل بیت کے صاحبزادے ابان، عامر، الدین، کوسب سے اس کے مضافات کی نگرانی سونپ دی اور وہ اس کے احوال کو معلوم کرنے گیا۔ اس نے وہاں تاجروں کے بیٹوں میں سے ایک جوان کو پایا جسے 'لی' کہا جاتا تھا اس نے قرآن کریم، کچھ فقہ اور اشارات ابن سینا کو پڑھا تھا اور نجوم میں بھی غور و فکر کیا تھا۔ پھر اس نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس نوح کے جہلاء کی ایک جماعت نے اس کی تصدیق کی اور اس نے ان سے نماز عصر اور عشاء کی نماز کے فرائض ساقط کر دیئے۔ اس نے اسے بلا کر اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے اسے تیر فہم پایا۔ اور یہ کہ وہ ارادۂ ایسا کر رہا ہے پس اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور اسے اس کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ جزاہ اللہ خیراً اور اس نے عوام کو حکم دیا تو انہوں نے اس کا سامان اور عوام میں سے اس کے جو پیروکار تھے ان کا سامان لوٹ لیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

مؤید الدین ابوالعالی الصدر الرئیس:

اسعد بن غالب المظفری ابن الوزیر مؤید الدین اسعد بن حمزہ بن اسعد بن علی محمد التیمی ابن القلانسی آپ کی عمر نوے سال سے متجاوز تھی اور بڑے آسودہ حال رئیس تھے۔ کسی کام کے سنبھالنے سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اور ابن سوید کے بعد انہوں نے سلطان کے مصالح آپ کے ذمے لگائے آپ نے تنخواہ کے بغیر ان کی ذمہ داری قبول کر لی اور آپ کی وفات بتانہ میں ہوئی اور ۳۳ محرم منگل کے روز قاسیون کے دامن میں دفن ہوئے۔ آپ الصدر عز الدین حمزہ جو دمشق اور قاہرہ کے رئیس تھے کے والد ہیں۔ اور مؤید الدین اسعد بن حمزہ ان کا دادا ہے جو ملک افضل علی بن ناصر فاتح قدس کا وزیر تھا، وہ فاضل رئیس تھا۔ اور کتاب الوصیۃ فی الاخلاق المرصیۃ آپ کی تصنیف ہے اور نظم میں آپ کو کمال حاصل تھا آپ کہتے ہیں۔

”اے میرے رب! جب میری قبر مجھے اپنے ساتھ لگالے تو میرے لیے اپنی رحمت کی سخاوت کر جو مجھے آگ سے نجات دے۔ اور جب میں اپنی لحد میں تیرا ہمسایہ بن جاؤں تو میری اچھی طرح ہمسائیگی کرنا بلاشبہ تو نے پڑوسی کے متعلق وصیت کی ہے۔“

اور حمزہ بن اسعد بن علی بن محمد التیمی کا والد الحمید ہے اور وہ بہت اچھا کاتب تھا۔ اور اس نے ۴۳۰ھ کے بعد سے اپنے سن وفات ۵۰۵ھ تک تاریخ لکھی ہے۔

امیر کبیر فارس الدین اقطای:

المستعربى اقباب الديار المصریۃ یہ سب سے پہلے ابن یمن کا غلام تھا پھر صالح ایوب کا غلام بن گیا اور اس نے اسے امیر بنا دیا۔ پھر مظفر کی حکومت میں اس کی شان بڑھ گئی اور یہ فوج کا امیر بن گیا۔ اور جب یہ قتل ہو گیا تو حکومت کے لیے امراء کی خواہشات دراز ہو گئیں۔ سوا اقطای نے ملک الظاہر کی بیعت کر لی اور فوج نے بھی بیعت میں آپ کی اتباع کی اور الظاہر اس کی اس بات کو جانتا تھا اور اسے نہیں بھولتا تھا۔ پھر وفات سے تھوڑا عرصہ قبل الظاہر کے ہاں اس کا حق کم ہو گیا اور اس سال قاہرہ میں فوت ہو گیا۔

شیخ عبداللہ بن خانم:

ابن علی بن ابراہیم بن عسا کر بن الحسین المقدسی نابلس میں آپ کا ایک زاد یہ ہے اور آپ کے اشعار شاندار ہیں۔ اور علم تصوف میں آپ کا کلام قوی ہے۔ اور ایوبی نے آپ نے حالات کو طول دیا ہے اور آپ نے بہت سے اتعاب بیان لیے ہیں۔

قاضی القضاة کمال الدین:

ابوالفتح عمر بن بندار بن عمر بن علی التقلیبی الشافعی، آپ ۶۰۱ھ میں تقلیبس میں پیدا ہوئے اور آپ فاضل اصول اور مناظر تھے۔ آپ مدت تک نائب عدالت رہے پھر بلا کو کی حکومت میں باختیار قاضی بن گئے۔ آپ عقیف اور پاکدامن آدمی تھے آپ نے کثرت عیال اور قلت مال کے باوجود منصب اور تدریس کو رد نہیں کیا۔ اور جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو بعض لوگ آپ سے ناراض ہو گئے۔ پھر قاہرہ کی طرف روانگی آپ پر لازم کی گئی اور آپ وہاں قیام کر کے لوگوں کو افادہ کرتے رہے حتیٰ کہ اس سال کے ربیع الاول میں فوت ہو گئے اور قرآنہ صغریٰ میں دفن ہوئے۔

اسماعیل بن ابراہیم بن شاکر بن عبداللہ:

التوتوشی، تنوخ، قضاہ میں سے ہے آپ صدر کبیر تھے اور آپ نے ناصر داؤد بن المعظم کے لیے بہترین خطبہ لکھا اور فوری شفا خانے کی نگہداشت وغیرہ کی ذمہ داری لی آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور کئی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کی عمر ۸۰ سال سے زیادہ تھی آپ کہتے ہیں۔

”اس شخص کی آرزو ناکام ہو گئی جس نے آسمان کے رب کے سوا کسی سے امید رکھی ہے حالانکہ اس نے اسے جوڑا ہے کیا وہ اس کے سوا کوئی اور قابل اعتماد ہستی کا خواہاں ہے حالانکہ اس نے انتڑیوں کے اندر اس کی کفالت کی ہے۔“

پھر کہتا ہے۔

”زبان گوئی ہو گئی ہے اور تمہارے اوصاف کے بیان کرنے سے در زمانہ ہے وہ کیا کہے اور تم جو کچھ ہو تم ہی ہو۔ معاملہ بات کرنے والے کی بات سے بہت بڑا ہے اور عقل نے اس کے بیان سے روک دیا ہے۔ عجز و تقصیر میرا دائمی وصف ہے۔ اور نیکی اور احسان کا تم سے پتہ معلوم ہوتا ہے۔“

ابن مالک مؤلف الفیہ:

شیخ جمال الدین محمد بن عبداللہ بن مالک ابو عبداللہ الطائفی الحیاتی النحوی مشہور اور مفید تصانیف کے مؤلف جن میں الکافیۃ الشافیہ اور اس کی شرح اور التسهیل اور اس کی شرح اور الفیہ جس کی مفید شرح آپ کے بیٹے بدرالدین نے کی ہے شامل ہیں۔ آپ ۶۰۰ھ میں حیان میں پیدا ہوئے اور مدت تک حلب میں قیام پذیر رہے۔ پھر دمشق رہے آپ ابن خلکان سے بہت ملاقات کرتے تھے اور کئی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اور قاضی بدرالدین بن جماعہ نے آپ سے روایت کی ہے اور آپ نے ہمارے شیخ علم الدین البرزانی کو اجازت دی ہے ابن مالک نے ۱۲ رمضان بدھ کی رات کو دمشق میں وفات پائی اور قاسیوں میں قاضی عزالدین الصائغ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

نصیر طوسی:

محمد بن عبداللہ طوسی سے مولیٰ نصیر الدین بھی کہا جاتا ہے اور حوالہ نصیر الدین بھی کہا جاتا ہے اس نے اپنی جوانی میں اشتعال کیا اور علم انوار و اہل کو چھین طرح حاصل کیا۔ اور اس کے متعلق علم حکام میں تصنیف کی اور اس میں ایشیا کی اشارات کی شرح کی اور اناعیلیہ کے اصحاب قلاع الاموت کا وزیر بنا پھر ہلاکو کا وزیر بنا۔ اور بغداد لی جنگ میں اس کے ساتھ تھا۔

اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے ہلاکو خان کو خلیفہ کے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ واللہ اعلم

اور میرے نزدیک یہ بات کسی عاقل اور فاضل سے صادر نہیں ہو سکتی ایک بغدادی نے اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی ہے۔ اور یہ عاقل فاضل اور اچھے اخلاق والا تھا۔ اور اسے موسیٰ بن جعفر کے مزار میں سرداب میں دفن کیا گیا جسے اس نے خلیفہ ناصر الدین کے لیے تیار کیا تھا اور اسی نے مراد میں رصد گاہ بنائی تھی اور اس میں فلاسفہ، متکلمین، فقہاء، محدثین اور اطباء اور کئی قسم کے دیگر فضلاء حکماء کو مقرر کیا تھا۔ اور اس میں اپنے لیے ایک بڑا گنبد بنایا تھا اور اس میں بہت زیادہ کتابیں رکھیں۔

اس نے اس سال کی ۱۲ رذوالحجہ کو ۵۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے اشعار اچھے ہیں اور اس کا اصل اشتغال المعین سالم بن بدار بن علی مصری معتزلی شیعہ کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی بہت سی رگیں کھینچیں حتیٰ کہ اس نے اس کے اعتقاد کو خراب کر

دیا۔

شیخ سالم البرقی:

قزاق صغریٰ میں خانقاہ کا مالک آپ صالح اور عبادت گزار تھے۔ اور لوگ آپ کی زیارت اور آپ کی دعا سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ کے اصحاب آج بھی اپنے طریق پر مشہور ہیں۔

۶۷۳ھ

اس سال سلطان کو تیرہ امراء کے متعلق اطلاع ملی جن میں قجرا لجموی بھی شامل تھا کہ انہوں نے تاتاریوں کو خط لکھ کر انہیں مسلمانوں کے شہروں کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ کہ وہ سلطان کے مقابلہ میں ان کے ساتھ ہوں گے پس انہیں پکڑا گیا۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور ان کے خطوط بھی ایلچیوں کے ساتھ آگئے اور یہ ان کی آخری ملاقات تھی اور اس سال سلطان فوجوں کے ساتھ آیا اور ۲۱ رمضان کو سوموار کے روز بلا دیس میں داخل ہو گیا۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور انہوں نے بہت سی گائیں بکریاں بوجھ جانور اور چوپائے غنیمت میں حاصل کیے اور انہیں ارزاں قیمت پر فروخت کر دیا۔ پھر وہ واپس آ کر ذوالحجہ کے مہینے میں مظفر و منصور ہو کر دمشق میں داخل ہوا اور اس نے وہیں اقامت اختیار کر لی حتیٰ کہ سال شروع ہو گیا۔ اور اس سال اہل موصل پر ریت نے حملہ کر دیا حتیٰ کہ انفق پر چھا گئی اور وہ اپنے گھروں سے اللہ کے حضور عاجزی سے دعائیں کرتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ اللہ نے اس مصیبت کو ان سے دور کر دیا۔



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن العطاء الحنفی

قاضی القضاة شمس الدین ابو محمد عبداللہ بن شہ شرف الدین محمد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جمیر بن جابر بن وہیب الاوزاعی الحنفی آپ ۵۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماع کیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے فقیہ بنے اور مدت تک الشافعی کی طرف نائب عدالت رہے۔ پھر حنفیہ کے با اختیار قاضی بن گئے آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مذاہب اربعہ کے قاضی مقرر کیے۔ اور جب لوگوں کی املاک کی دیکھ بھال ہوئی تو سلطان نے چاہا کہ آپ اس کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں تو آپ نے ناراض ہو کر کہا یہ املاک ان کے مالکان کے قبضے میں ہیں اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے درپے ہو۔ پھر آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے جس سے سلطان کو شدید غصہ آیا۔ پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ آپ کی مدح و تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا صرف انہی سے تحریرات لکھو اور ابن عطاء نیک علماء میں سے تھے بہت متواضع اور دنیا کی طرف بہت کم رغبت کرنے والے تھے۔

ابن جماعت نے آپ سے روایت کی ہے۔ اور آپ نے البرزانی کو اجازت دی ہے آپ نے ۹ جمادی الاولیٰ جمعہ کے روز وفات پائی۔ اور قاسیون کے دامن میں المعظیمہ کے نزدیک دفن ہوئے۔

بمبند بن بمبند بن بمبند:

ابن طرابلس الفرنجی اس کا دادا بنت صیقل کا نائب تھا جس نے ۵۰۰ھ کی حدود میں ابن عمار سے طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ ایک یتیم لڑکی تھی جو ایک سمندری جزیرہ میں رہتی تھی۔ پس یہ شہر پر مغرب ہو گیا کیونکہ وہ اس سے دور تھی پھر اس کا بیٹا وہاں با اختیار ہو گیا۔ پھر اس کا یہ پوتا وہاں با اختیار ہوا اور وہ بہت خوبصورت تھا۔

قطب الدین ایوبینی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے ۶۵۸ھ میں بعلبک میں دیکھا جب وہ مسلمان ہو کر کتب خانوں کے پاس آیا اور اس نے اس سے بعلبک لینے کا ارادہ کیا اور یہ بات مسلمانوں پر گراں گذری اور جب وہ فوت ہوا تو اسے طرابلس کے کلیسا میں دفن کیا گیا اور جب ۶۸۸ھ میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اکھیڑ کر اسے وہاں سے نکال دیا اور اس کی ہڈیوں کو کتوں کے لیے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پھینک دیا۔

۶۷۲ھ

جب ۸ جمادی الاولیٰ کو جمعرات کا دن آیا تو تاریکی میں ہزار جانباڑوں کے ساتھ البیرہ میں اترے جن میں پندرہ ہزار مغل اور پندرہ ہزار رومی تھے۔ اور شاہ تارابغا کے حکم سے البرداناہ سب پر مقدم تھا۔ اور ان کے ساتھ موصل کی فوج اور مار دین اور اکراد کی فوج بھی تھی۔ اور انہوں نے اس پر ۳۳ مجاہدین نصب کیے۔ اور البیرہ کے باشندے رات کو باہر نکلے اور تاریکی فوج پر حملہ کر دیا اور مجاہدین کو جلا دیا۔ اور بہت سی اشیاء کو لوٹ لیا اور اپنے گھروں کو صبح و سالم واپس آ گئے۔ اور فوج نے شہر مذکور پر اس ماہ کی ۱۹ تاریخ تک قیام کیا۔ پھر اسے چھوڑ کر اپنے غصے میں واپس آ گئے اور انہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جنگ سے

کفایت کر گیا، اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ اور جب سلطان کو تاتاریوں کے البیرہ آنے کی اطلاع ملی تو اس نے فوج میں چھ لاکھ دینار خرچ کیے چھ روزہ جہد سے تاتاریوں اور اس کے ساتھیوں کو ہار دیا۔ اور اسی وقت تاتاریوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ تاتاریوں نے کہا کہ ہمیں سے سووہ دمشق کی طرف واپس آ گیا۔ پھر وہ رجب میں سوار ہو کر قاہرہ گیا اور ۱۸ رجب کو اس میں داخل ہوا تو اس نے وہاں زمین کے بادشاہوں کی طرف سے نہایت اچھی اپنے اظہار میں پائے، پس انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے باتیں کیں۔ اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوا۔ اور جب البدر اتاناہ بلا دروم کی طرف واپس آیا تو بڑے بڑے امراء نے جن میں الخطیری کے دونوں بیٹے شرف الدین مسعود اور ضیاء الدین محمود اور امین الدین میکائیل اور حسام الدین میجار اور اس کا بیٹا بہاؤ الدین شامل تھے حلف اٹھایا کہ وہ ملک الظاہر کی جانب ہیں اور وہ ابغا سے جنگ کریں گے، اور انہوں نے اس سے یہ عہد و پیمانہ کیا۔ اور اس نے یہ بات الظاہر کو لکھ دی۔ نیز یہ کہ وہ اس کی طرف فوج بھیجے اور جس قدر فوج تاتاریوں کی طرف لے جاسکتا ہے لے جائے اور غیاث الدین کنجری اپنی پوزیشن پر رہے گا، اور وہ مملکت روم کے تخت پر بیٹھے گا۔

اور اس سال اہل بغداد نے تین یوم تک بارش کی دعا کی اور وہ سیراب نہ ہوئے۔ اور اس سال رمضان میں ایک مرد اور ایک عورت کو دن کے وقت زنا کی بے حیائی کا مرتکب پایا گیا، اور علماء الدین صاحب الدیوان نے ان دونوں کے رجم کرنے کا حکم دیا، اور دونوں کو رجم کر دیا گیا، اور جب سے بغداد کی بنیاد پڑی ہے ان دونوں سے پہلے کسی کو بغداد میں رجم نہیں کیا گیا، اور یہ روایت نہایت غریب ہے۔ اور اسی طرح اس سال اہل دمشق نے رجب کے آخر اور شعبان کے اوائل میں یہ جنوری کے آخر کا واقعہ ہے۔ دو دفعہ بارش کی دعا مانگی، اور انہیں سیراب نہ کیا گیا۔ اور اس سال سلطان نے ایک فوج و نقلہ کی طرف بھیجی، اور اس نے سوڈانیوں کی فوج کو شکست دی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سے سوڈانیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس طرح پر ایک غلام تین درہم میں فروخت ہوا، اور ان کا بادشاہ دادواہ النوبہ کے حکمران کے پاس چلا گیا، اور اس نے اسے حفاظت کے ساتھ ملک الظاہر کے پاس بھیج دیا۔ اور ملک الظاہر نے اہل و نقلہ پر جزیہ مقرر کر دیا جو ہر سال اس کے پاس لایا جاتا، یہ سب کچھ اس سال کے شعبان میں ہوا۔

اور اس سال ملک سعید بن الظاہر کا عقد سلطان اور حکومت کی موجودگی میں محل میں پانچ ہزار دینار پر امیر سیف الدین قلاوون الالفی کی بیٹی سے ہوا، جن میں سے دو ہزار دینار مجمل تھے، اور یہ نکاح محی الدین بن عبد الظاہر نے پڑھا، اور اسے ایک سو دینار دیئے گئے، اور خلعت بھی دیا گیا، پھر سلطان جلدی سے سوار ہو کر الکفرک کے قلعہ میں پہنچا، اور وہاں جو القیصر یہ موجود تھے، انہیں جمع کیا اور وہ چھ سو آدمی تھے، اس نے انہیں چھانی دیئے کا حکم دیا، اور ان کے بارے میں اس کے پاس سفارش کی گئی۔ پس اس نے انہیں رہا کر دیا۔ اور وہاں سے انہیں مصر کی طرف جلا وطن کر دیا، اور اسے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ قلعہ میں جو لوگ موجود تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اور اس نے قلعہ کو شمس الدین رضوان السہیلی آختہ کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ بقیہ مہینے میں دمشق کو واپس آ گیا۔ اور اس ماہ کی ۱۸ تاریخ کو جمعہ کے روز اس میں داخل ہوا، اور اس سال اخلاط میں زلزلہ آیا جو بلاد بکرتک پہنچ گیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ امام علامہ ادیب تاج الدین ابوالثنا محمود بن عابد بن اکین بن محمد بن علی التیمی الصرخدی الحنفی آپ فقہ ادب عفت صلاح پاکیزگی نفس اور مکارم اخلاق میں مشہور تھے آپ ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماع کیا اور روایت کی اور اس سال کے ربیع الآخر میں صوفیاء کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ کی عمر ۹۶ سال تھی۔ رحمہ اللہ

شیخ امام عماد الدین عبدالعزیز بن محمد:

ابن عبدالقادر بن عبداللہ بن خلیل بن مقلد انصاری دمشقی جو ابن الصانع کے نام سے مشہور ہیں آپ الفدراویہ میں مدرس تھے اور قلعہ کے خزانہ کے مگران تھے آپ حساب بہت اچھا جانتے تھے اور آپ کا سماع اور روایت بھی ہے اور آپ کو قاسیوں میں دفن کیا گیا۔

مورخ ابن الساعی:

تاج الدین ابن الحسب جو ابن الساعی بغدادی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی ولادت ۵۹۳ھ میں ہوئی اور آپ نے حدیث کا سماع کیا اور تاریخ کا اہتمام کیا اور تالیف و تصنیف کی اور آپ حافظ اور ماہر ضابطہ تھے اور ابن النجار جب فوت ہوئے تو آپ نے انہیں وصی مقرر کیا اور آپ کی ایک تاریخ کبیر بھی ہے جس کا اکثر حصہ میرے پاس ہے اور دیگر مفید تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ نے آخر میں زہاد کے بارے میں کتاب تصنیف کی اور اس کے حاشیے پرزکی الدین عبید اللہ حبیب کا تب نے لکھا۔

تاج الدین عمر بھر ہمیشہ ہی سفر میں تیر چلتا رہا اور طلب علم اور اس کی تدوین میں ہمیشہ لگا رہا۔ اور اس کا فعل بلا نقصان نفع دینے والا ہے اور وہ مجھ سے اپنی تصانیف کے ذریعے بلند ہو گیا ہے اور یہ خاتمہ بالخیر ہے۔

۶۷۵ھ

اس سال کی ۱۳ محرم کو سلطان دمشق آیا اور فوجیں بلاد حلب کی طرف سبقت کر گئیں۔ اور جب وہ اس کے پاس آئیں تو اس نے اپنے آگے امیر بدر الدین اتابکی کو ایک ہزار سواروں کے ساتھ اہلستین کی طرف بھیجا اور وہاں اس نے رومی فوج کی ایک جماعت کو پایا پس وہ اس کی طرف گئے اور اپنی ضرورت کی اشیاء بھی اس کی طرف لے گئے اور ان کی ایک جماعت نے اس سے بلاد اسلام میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے انہیں اجازت دے دی۔ اور ان کی ایک جماعت بیجا اور ابن الخطیر میں داخل ہو گئی۔ اور اس نے قاہرہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ملک سعید نے ان کا استقبال کیا۔ پھر سلطان حلب سے قاہرہ واپس آ گیا اور ۱۲ ربیع الآخر کو اس میں داخل ہو گیا۔

اور ۵ جمادی الاولیٰ کو سلطان نے اپنے بیٹے ملک سعید کا جس کا دختر فلدون کے ساتھ نکاح ہوا تھا ولیمہ کیا اور سلطان نے

سے کمتہ سمجھنا تھا اور اسے اہل قیساریہ اور ان نواح کے باشندوں پر سخت غصہ آیا اور اس نے ان میں سے تقریباً دو لاکھ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اور ان میں سے بیان یا بے مدائن سے قیساریہ کے پانچ لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور اندازاً آٹھ لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور جلد مقتولین میں قاضی طلال الدین حبیب بھی شامل تھے۔ انا للہ وانالہ راجعون

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ ابوالفضل ابن الشیخ عبید بن عبدالحالق دمشقی:

آپ شیخ ارسلان کے قریب ذہن ہوئے، شیخ علم الدین کا بیان ہے کہ آپ بیان کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیدائش ۵۶۳ھ میں ہوئی ہے۔
یمن الخشبشی آختہ:

حرم شریف کا شیخ الخدم آپ دیندار دانشمند عادل راست گفتار تھے آپ نے ستر کے دہے میں وفات پائی۔
الشیخ المحدث شمس الدین ابوالعباس:

احمد بن محمد بن عبداللہ بن ابی بکر موصلی ثم الدمشقی الصوفی، آپ نے کثیر سے سماع کیا اور بڑے شاندار خط میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں آپ کی عمر ۷۰ سال سے متجاوز تھی اور آپ کو باب الفرائس میں ذہن کیا گیا۔
شہاب الدین ابوالکارم شاعر:

محمد بن یوسف بن مسعود بن برکتہ بن سالم بن عبداللہ الشیبانی القلعری، مؤلف دیوان اشعار آپ کی عمر ۸۰ سال سے متجاوز تھی آپ نے ۷۰ سال سے متجاوز تھی اور آپ کی فضیلت کے معترف اور اس فن میں آپ کے تقدم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں۔

”اے مقصود آرزو! میری زبان تمہارے ذکر سے تر ہے اور یہ بھی میرے غم سے سرگشته و حیران ہونے کی بات ہے کہ میں خطیب اور شاعر ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تیرے چہرے کے حسن کی وجہ سے نظم کہتا ہوں اور میرے آنسو تیرے جنون میں بکھرے ہوئے ہیں۔“

قاضی شمس الدین:

علی بن محمود بن علی عاصم الشہزوری الدمشقی القیر یہ کے وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق آپ اس کے مدرس تھے۔ اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو بھی تدریس کا اہل ہوگا وہ بھی اس کا مدرس ہوگا آپ نے وہاں پڑھایا یہاں تک کہ اس سال میں وفات پائی اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے صلاح الدین نے پڑھایا پھر ابن جماعہ کے بعد آپ کے پوتے نے پڑھایا اور آپ کے پوتے کی مدت طویل ہوگئی۔ اور ولایت اولیٰ میں ابن خلکان کی نیابت پر شمس الدین کو مقرر کیا گیا۔ آپ اچھے فقیہ اور مذہب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے تھے اور آپ نے ابن العدیم کے ساتھ بغداد کا سفر کیا اور وہاں سماع کیا اور ابن الصلاح

کرتا۔ جو صفحہ ۱۱۱ پر ہے۔

شیخ صالح عالم درویش۔

ابو حاتم ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعہ بن علی بن جماعہ بن حازم بن سحر اللہ بن عمرو بن ابی وقیعہ و صدیقہ بنی معرفت تھے۔ آپ ۵۹۶ھ میں حماد میں پیدا ہوئے اور سندس شریف میں فوت ہوئے۔ اور ماہ میں دفن ہوئے۔ اور آپ نے فخر ابن عباس کرب سماع کیا۔ اور آپ سے آپ کے بیٹے قاضی القضاة بدر الدین ابن جماعہ نے روایت کی ہے۔

شیخ صالح جندل بن محمد امینی:

آپ عابد زاہد اور اعمال صالحہ کرنے والے تھے اور لوگ منین میں آپ کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ آپ غریب الفاظ کے ساتھ بکثرت گفتگو کرتے تھے جسے حاضرین میں سے کوئی ایک بھی نہ سمجھتا تھا اور شیخ تاج الدین نے آپ سے روایت کی ہے کہ اس نے آپ کو بیان کرتے سنا کہ عاجزی اور انکساری کی مانند کوئی شخص اللہ کے قریب نہیں ہوا۔ اور اس نے آپ کو بیان کرتے سنا، متحیر اللہ کے راستے سے دور کیا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو اصل خیال کرتا ہے۔ اور اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ دھتکارا ہوا ہے تو وہ جس حالت میں ہے اس سے رجوع کر لیتا، اس لیے کہ اہل سلوک کے راستے پر صرف ٹھوس عقلمند ہی قائم رہ سکتے ہیں اور آپ فرمایا کرتے تھے سماع بیکاروں کا وظیفہ ہے۔

شیخ تاج الدین نے بیان کیا ہے کہ شیخ جندل اہل طریق اور علمائے تحقیق میں سے تھے راوی بیان کرتا ہے آپ نے ۶۶۱ھ میں مجھے بتایا کہ آپ ۹۵ سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، میں کہتا ہوں اس لحاظ سے آپ ایک سو سال سے زائد عمر کے تھے اس لیے کہ آپ نے اس سال کے رمضان میں وفات پائی ہے، اور آپ کو منین بستی میں آپ کے مشہور زادیہ میں دفن کیا گیا۔ اور لوگ کئی دنوں تک آپ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے دمشق اور اس کے مضافات سے آتے رہے۔

محمد بن عبدالرحمن بن محمد:

حافظ بدر الدین ابو عبد اللہ بن النورہ السلمی الحنفی، آپ نے صدر سلمان اور ابن عطاء سے اشتغال کیا اور نحو میں ابن مالک سے اشتغال کیا اور علم حاصل کیا اور ماہر ہو گئے اور نظم و نثر لکھی۔ اور الشبلہ اور القعاعین میں پڑھایا۔ اور آپ کو قضاة کی نیابت کے لیے طلب کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اور آپ نے عشقیہ تحریرات لکھیں۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ایک دوست نے خواب میں آپ کو دیکھا اور اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا۔

”میرے اس اعتقاد کے سوا کہ وہ واحد ہے اور کوئی اس کے پاس میرا سفارشی نہ تھا۔“

آپ کی وفات جمادی الآخرة میں ہوئی، اور آپ کو دمشق کے باہر دفن کیا گیا۔ رحمہ اللہ

محمد بن عبد الوہاب بن منصور:

شمس الدین ابو عبد اللہ الحرانی الحنفی، شیخ مجد الدین ابن تیمیہ کے شاگرد، آپ حنابلہ میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز کی نیابت میں دیار مصر میں فیصلہ کیے۔ پھر شمس الدین ابن شیخ العماد مستقل قاضی بن گئے۔ اور انہوں نے

نے آپ کو بے اثر کر دیا۔ پھر آپ نے ہمدان کی مدد سے اس کے اور ملحقہ حصوں میں مشائخ کو کے ذریعے سے یہ گناہوں کو گناہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی عمر ساٹھ سال سے کچھ اور تھی۔

۶۷۶ھ

اس سال ملک الظاہر کن الدین بصرہ کی وفات ہوئی جو بلا دمصر و شام و حلب وغیرہ کا حکمران تھا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے ناصر الدین ابوالمعالی محمد برکت خان ملقب بہ سعید خان کو کھڑا کیا۔ اور اس سال امام الشافعیہ شیخ ثنی الدین النووی نے ۷۷۷ھ کو وفات پائی۔ اور سلطان ملک الظاہر نے بلاد روم میں داخل ہو کر اہلسین میں تاتاریوں کو شکست دی، اور مظفر و منصور ہو کر واپس لوٹا اور دمشق آیا۔ اور اس کی آمد کا دن جمعہ کا دن تھا، اور وہ قصر ابلق میں اترا، جسے اس نے دمشق کے مغرب میں دو سبز میدانوں کے درمیان بنایا ہے، اور اسے متواتر اطلاعات ملتی رہیں کہ ابنا میدان کا رزار میں آیا، اور اسے دیکھا، اور جو مغل قتل ہو گئے تھے ان پر متاسف ہوا، اور اس نے البرداناہ کے قتل کا حکم دے دیا۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس نے شام کا قصد کیا ہوا تھا، سو سلطان نے امراء کے جمع کرنے اور مشورہ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے امراء کے ساتھ اتفاق کیا کہ وہ جہاں بھی ہے وہیں اس سے ملاقات کی جائے۔ اور اس نے محل کے آگے لمبا تنگ راستہ بنانے کا حکم دیا۔ پھر اطلاع آئی کہ ابنا اپنے ملک کو واپس چلا گیا ہے تو اس نے لمبا تنگ راستہ بنانے کا حکم رد کر دیا۔ اور قصر ابلق میں قیام پذیر ہو گیا۔ اور اعیان و امراء حکومت نہایت خوش دلی اور شادمانی کے ساتھ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور ابنا نے البرداناہ کے قتل کا حکم دے دیا۔ اور وہ بلاد روم میں اس کا نائب تھا۔ اور اس کا نام معین الدین سلیمان ابن علی بن محمد حسن تھا، اور اس نے اسے اس لیے قتل کیا کہ اس نے اس پر الظاہر کی مدد کرنے کا اتہام لگایا تھا۔ اور اس کے خیال میں اسی نے اسے بلاد روم میں داخل ہونا خوبصورت کر کے دکھایا، اور البرداناہ بہادر دُانشمند، کریم اور سخی شخص تھا۔ اور اس کا میلان ملک الظاہر کی طرف تھا، جب وہ قتل ہوا تو اس کی عمر ۵۰ سال سے زیادہ تھی۔

پھر جب ۱۵ محرم کو ہفتہ کا دن آیا، تو ملک قاہر بہاؤ الدین عبدالملک بن سلطان معظم عیسیٰ بن عادل ابی بکر بن ایوب نے ۶۳۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور یہ شخص صاف دل، خوش اخلاق، نرم گفتار اور بہت متواضع تھا، جو عربوں کے ملبوسات، اور ان کی سوار یوں کی مشقت برداشت کرتا تھا، اور حکومت میں بھی شجاع اور دلیر تھا۔ اور اس نے ابن اللیش سے روایت کی ہے اور البرزانی کو اجازت دی ہے۔ البرزانی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا تھا اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ سلطان ملک الظاہر نے اسے جام شراب میں زہر دیا۔ اور سلطان الظاہر نے وہ پیالہ اسے پکڑا، اور وہ اسے پی گیا۔ اور سلطان آرام گاہ کی طرف چلا گیا۔ پھر واپس آیا، اور ساقی نے قاہرہ کے ہاتھ سے جام لے لیا، اور اسے بھر کر سلطان الظاہر کو پکڑا دیا۔ اور جو ماجرا ہوا ساقی کو اس کا علم نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سلطان کو وہ جام بھلا دیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ کوئی اور جام ہے۔ اور یہ ارادۃ الہی اور اس کے فیصلے سے ہوا، اور پیالے میں اس زہر کا بہت سا حصہ باقی تھا۔ اور جو کچھ پیالے میں تھا، الظاہر اسے نوش کر گیا۔ اور اسے پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ اسے پی گیا۔ اسی وقت اس کے پیٹ میں گڑ بڑ ہو گئی۔ اور اس نے فوراً گرمی، تپش اور شدید تکلیف محسوس کی، اور قاہرہ کو اس کے گھر لے جایا گیا۔ اور

مغلوب ہو کر آج کل کے قلعے اور علاقے اس کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس کے قلعے کے ہر
 قلعہ اہل حق میں فوت ہو گئے۔ اور یہ دن امراء پر بہت شہادتیں اور ناسب سلطنت عبدالعزیز امیر اور بڑے بڑے امراء کی حکومت حاضر
 ہونے اور انہوں نے غلبہ طور پر اس کا جنازہ پرہا اور اسے ایک تابوت میں رکھ کر فصیل کے قلعے میں لے گئے اور اسے ایک منہ کی
 گھر میں رکھ دیا۔ تا آنکہ اسے اس قبر میں منتقل کر دیا جسے اس کے بیٹے نے اس کی موت کے بعد بنایا تھا اور وہ عادلہ کبیرہ کے
 بالمقابل لعنتی کا گھر ہے۔ اور یہ جمعہ کی شب اور اس سال کی ۵۷ھ میں واقعہ ہے۔ اور اس کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اور عوام کو
 ربیع الاول کے آخری دن میں اس کا پتہ چلا۔ اور مصر سے اس کے بیٹے سعید کی بیعت آگئی اور لوگوں نے اس پر بہت غم کیا اور اس
 کے لیے بکثرت رحمت کی دعا کی اور اسی طرح دمشق میں بھی تجدید بیعت ہوئی۔ اور شام کے نائب عبدالعزیز امیر کے پاس ازسرنو
 شام کی نیابت کا حکم آیا۔

اور ملک الظاہر تیز فہم شجاع عالی ہمت بہت گہرا دلیر جسور امور سلطنت کا اہتمام کرنے والا اسلام کا مہربان اور حکومت سے
 آراستہ تھا۔ اسلام اور اہل اسلام کی نصرت اور حکومت کی علامات قائم کرنے میں اس کا ارادہ نیک تھا۔

اور ۷۱۸ھ سے لے کر اس وقت تک اس کی حکومت مسلسل قائم رہی۔ اور اس نے اس مدت میں بہت سی
 فتوحات کیں۔ قیساریہ، ارسون، پافا، القیف، انطاکیہ، بعراض، طبریہ، القصر، قلعة اکراذ، قلعة عسکا، الغرین اور صافینا اور ان کے علاوہ اور
 بھی مضبوط قلعے فتح کیے جو فرنگیوں کے قبضے میں تھے۔ اور اس نے اسماعیلیہ کے پاس کوئی قلعہ نہ چھوڑا اور اس نے المرقب، باناس، بلاد
 انظرسوس اور جو شہر اور قلعے ان کے قبضے میں باقی رہ گئے تھے ان سے نصف نصف مال فرنگیوں سے لیا۔ اور جن سے مناصف کی ان پر
 اپنے حصے کے لیے نائین اور کارندے مقرر کیے اور بلاد روم سے قیساریہ کو فتح کیا۔ اور البلسٹین میں رومیوں اور مغلوں سے ایسی جنگ
 کی جس کی مثل طویل زمانوں سے نہیں سنی گئی۔

اور اس نے سیس کے حکمران سے کئی شہروں کو واپس لے لیا اور ان کے گھروں اور قلعوں میں گھس گیا۔ اور مغرب مسلمانوں
 کے ہاتھوں سے بعلبک، بصری، صرخذ، حمص، عجلون، الصلت، تدمر، الرحبہ، تل باشر، الکرک اور الشوبک وغیرہ کو واپس لے لیا۔ اور بلاد
 سوڈان میں سے بلاد نوبہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا۔ اور تاریخوں سے بھی بہت شہر چھین لیے، جن میں شیرزور اور البیرہ شامل ہیں۔ اور
 اس کی حکومت فرات سے بلاد نوبہ کے انتہائی علاقوں تک پھیل گئی اور اس نے بہت سے قلعوں اور پہاڑوں کو آباد کیا۔ اور بڑے
 بڑے دریاؤں پر پل بنائے۔ اور قلعہ جبل میں ایک سنہری گھر بنایا اور بارہ ستونوں پر ایک رنگدار سنہری گنبد بنایا اور اس میں خاصکیہ
 تصویریں بنائیں۔ اور بلاد مصر میں بہت سی نہریں اور ندیاں بنائیں، جن میں سے نہر السرداس بھی ہے۔ اور اس نے متعدد جوامع اور
 مساجد بنائیں۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کی مسجد جل گئی تو اس نے اسے ازسرنو تعمیر کیا اور حجرہ شریفہ کے اردگرد لکڑی یا لوہے کے
 ستون بنائے اور اس میں ایک منبر بھی بنایا اور اس کا چھت سونے کا تھا۔ اور مدینہ کے شفاخانے کو ازسرنو تعمیر کیا۔ اور حضرت خلیل
 علیہ السلام کی قبر کو بھی نئے سرے سے بنایا اور اس کے کونے میں اور جو حصہ مقیمین کی طرف مڑتا ہے اس میں اضافہ کیا ہے۔ اور وہ جگہ جو
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اس پر اریحا کے سامنے گنبد بنا دیا۔ اور قدس میں بھی خوبصورت نئی چیزیں بنائیں، جن میں

۶۷۶ھ کے حالات و واقعات کے بیان میں

یہ مسلمانوں میں نہایت بڑی اور صحیح اور فحش اور کفر کی سرپرستی کرنے والی نذوقی سیرت میں سامان مقاصد بہت بڑی ہے اسے ہواؤں اور مصر کے فاطمی خانہ کے محل سے روانہ ہو جانے آیا اور اس میں ایک کچی اور چوہا اور باغ بنایا اور اس کی طرف آنے والوں کے لیے چیزیں رکھیں جو ان کے اخراجات اور ان کے سامان کی ذرائع کے لیے خرچ ہوتی تھیں۔

اور اس نے نعمت کے قریب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پر سر اور خویا اور اس کی طرف آنے والوں کے لیے چیزیں وقف کیں اور دامیہ کے پل تعمیر کیا اور انکرک کی جانب حضرت جعفر طیار کی قبر کو از سر نو تعمیر کیا اور اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے بہت سی اشیاء وقف کیں اور قلعہ صفت اور اس کی جامع مسجد کو بھی از سر نو تعمیر کیا اور المملک کی جامع اور دیگر بہت سے شہروں کی جامع اور مساجد کو از سر نو تعمیر کروایا جن پر فرنگیوں نے قبضہ کر کے ان کی جامع اور مساجد کو ویران کر دیا تھا۔ اور حلب میں ایک بڑی حویلی بنائی اور دمشق میں قصر ابلق اور مدرسہ ظاہریہ بنایا۔ اور لوگوں کے درمیان خوش معاملگی کے لیے خالص دراہم و دنانیر ڈھالے۔ اور اس نے جہاد میں مشغول ہونے کے باوجود خوبصورت آثار اور جگہیں بنائیں جو خلفاء اور شاہان بنی ایوب کے زمانے میں بھی نہیں بنائی گئیں اور اس نے فوجوں سے بہت کام لیا ہے اور اس کے پاس تقریباً تین ہزار مغل آئے تو اس نے انہیں جاگیریں دیں۔ اور ان میں سے بہت سوں کو امیر بنا دیا۔ اور وہ اپنے کھانے پینے اور پہننے کے بارے میں میانہ رو تھا اور یہی حال اس کی فوج کا تھا۔

اور اسی نے عباسی حکومت کو اس کی مٹ جانے کے بعد زندہ کیا تھا۔ اور لوگ تقریباً تین سال تک خلیفہ کے بغیر رہے اور اسی نے ہر مذہب کے بااختیار قاضی کو قاضی القضاۃ بنایا اور مرحوم بیدار مغز تیز فہم اور دلیر تھا اور رات دن دشمنوں کے بارے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار رہتا تھا۔ اور اس نے اس کی خرابی کو درست کیا اور اس کی پراگندگی کو جمع کیا۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت میں اسے اسلام اور اہل اسلام کا مددگار بنایا۔ اور وہ فرنگیوں، تاتاریوں اور مشرکوں کے گلوں میں ہڈی بن کر اٹک گیا اور اس نے شراب کو ضائع کر دیا اور فساق کو ملک بدر کر دیا۔ اور وہ جس خرابی اور فساد کو دیکھتا اس کے دور کرنے کے لیے مقدور بھر کوشش کرتا۔ اور ہم نے اس کی سیرت میں ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو اس کی نیک نیتی کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

اور اس کے کاتب ابن عبد الظاہر نے اس کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ تالیف کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن شداد نے بھی اس کی سیرت تالیف کی ہے۔ اور اس نے دس بچے چھوڑے ہیں جن میں تین بچے اور سات بچیاں ہیں۔ وفات کے وقت اس کی عمر پچاس یا ساٹھ کے درمیان تھی اور اس کے اوقاف عطیات اور صدقات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور برائیوں سے درگزر فرمائے۔ واللہ سبحانہ اعلم

اور اس کے بعد اس کے بیٹے سعید نے حکومت سنبھالی اس کے باپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کے لیے بیعت لے لی تھی اس وقت سعید کی عمر میں سال سے بھی کم تھی اور وہ خوش شکل اور مکمل جوان تھا۔ اور صفر میں الفنس کی طرف سے ایچیوں کے ہاتھ دیار مصر کو متحالف آئے اور انہیں پتہ چلا کہ سلطان فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ملک سعید کو بادشاہ بنایا گیا ہے اور حکومت

تبدیلیں نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پچپان بھی نہیں بدلی، لیکن ملک نے اپنے شیعہ کو کھو دیا ہے بلکہ اسے کھو دیا ہے جس نے اسے استوار اور مضبوط بنا دیا تھا۔ بلکہ اسے جو مضبوط کرنے میں انتہا لوتیج لیا تھا اور جب انیس اسلام میں کوئی رخصت پیدا ہوتا تو وہ اب پرکرتا اور بس پرانے کے کمرے کو گھر کھلتی تو وہ اسے مضبوطی سے ہاتھ دیتا اور جب زمین لگوان میں سے کوئی باقی ٹروپ حریم اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو وہ اسے روک دیتا اور واپس لے دیتا، اللہ اسے درگزر فرمائے اور اس کی قبر کو رمت سے ترک کرے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے۔

اور شامی افواج، دیار مصر کو روانہ ہو گئیں اور ان کے ساتھ ایک پانگی بھی تھی، وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ سلطان اس میں بیمار پڑا ہے، حتیٰ کہ وہ قاہرہ پہنچ گئے اور انہوں نے راست رو بادشاہ کی وفات کے اظہار کے بعد جو ان شاء اللہ شہید ہوگا، سعید کے لیے تجدید بیعت کی، اور ۲۷ صفر جمعہ کے روز، دیار مصر کی تمام جوامع میں ملک سعید کا خطبہ دیا گیا، اور اس کے والد ملک الظاہر کا جنازہ پڑھایا گیا، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں، اور ۱۵ ربیع الاول کو ملک سعید حسب عادت فوجی دستوں کے ساتھ روانہ ہوا، اور اس کے آگے آگے پوری مصری اور شامی فوج تھی، حتیٰ کہ وہ جبل احمر پہنچ گیا، اور لوگوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، اور اس وقت اس کی عمر ۱۹ سال تھی، اور اس پر شاہانہ شان و شوکت اور سلطنت کی امارت نمایاں تھی، اور ۳ جمادی الاولیٰ بروز سوموار روزیر یہ محلہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے مطابق قاہرہ میں امیر شمس الدین آقسقر فارقانی کا مدرسہ کھولا گیا، اور اس میں شیخ الحدیث اور قاری مقرر کیا گیا، اور اس کے ایک روز بعد خلیفہ کے بیٹے المستمسک باللہ ابن الحاکم بامر اللہ کا خلیفہ مستنصر ابن الظاہر کی بیٹی سے عقد ہوا، اور اس کا والد سلطان اور سرکردہ لوگ حاضر ہوئے۔ اور ۹ جمادی الاولیٰ بروز ہفتہ اس نے اس حویلی کی تعمیر شروع کی جو دارالعتقی کے نام سے مشہور ہے اور العادلیہ کے بالمقابل واقع ہے تاکہ اسے ملک الظاہر کا مدرسہ اور تربت بنایا جائے۔ اور اس سے قبل وہ صرف العتقی کا گھر تھا جو العتقی کے حمام کے نزدیک تھا۔ اور ۵ جمادی الآخرہ کو مدرسہ اور تربت کی بنیاد رکھی گئی۔ اور رمضان میں صفت شہر میں ایک عظیم بادل آیا، جس سے شدید بجلی چمکی، اور اس سے آگ کی ایک زبان بلند ہو کر پھیل گئی، اور اس سے خوفناک آواز سنائی گئی، اور اس سے صفت کے مینار پر بجلی گری، جس نے اسے اوپر سے نیچے تک اتنا شگاف ڈال دیا جس میں ہتھیلی داخل ہو جاتی تھی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

البردانہ، محرم کے پہلے دہے میں اور ملک الظاہر آخری دہے میں فوت ہوا، اور قبل ازیں دونوں کے کچھ حالات بیان ہو چکے ہیں۔

امیر کبیر بدر الدین بیلک بن عبداللہ:

الخزندانہ دیار مصر میں ملک الظاہر کا نائب، یہ ایک قابل تعریف تھی تھا، اور اسے ایام الناس اور تاریخ کی معرفت اور سمجھ حاصل تھی، اور اس نے جامع ازہر میں الشافعیہ کے لیے درس کو وقف کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا اور یہ مر گیا۔ اور جب یہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد ملک سعید کی رسی کھل گئی، اور اس کے حالات دیگر گوں ہو گئے۔

قاضی القضاة شمس الدین حنبلی

محمد بن الشیخ العبدانی الحاق ابراہیم بن عبدالواحد بن علی بن مروان المقدسی آپ پہلے شخص ہیں جو دیار مصر میں حنبلیہ کے قاضی القضاة بنے آپ نے طہ بیت کا سماج کیا۔ خصوصاً ابن شہر دو غیر دلت اور بغداد کی طرف کوچ کرنے اور فتنہ سے اشتغال کیا۔ اور بہت سے عوام میں صاحب فتن بنے اور سعید السعیدی، شیخ اسنبلی، آپ بارے شیخ اور خوبصورت غنید بالوں والے بہت متواضع اور بہت صدق و خیرات کرنے والے تھے۔ اور آپ نے قاضی بننے کے لیے شرط عائد کی کہ آپ نیکو خواہ نہیں لیں گے تاکہ آپ لوگوں کے دو میان حق کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔

اور الظاہر نے ۶۷۰ھ میں آپ کو قضاء سے معزول کر دیا اور آپ کے پاس جو امانتیں تھیں ان کی وجہ سے آپ کو قید کر دیا۔ پھر دو سال بعد اس نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ اپنے گھر کے ہو رہے اور الصالحیہ کی تدریس پر قائم ہو گئے، حتیٰ کہ محرم کے آخر میں فوت ہو گئے۔ اور جبل معظم کے دامن میں چچا حافظ عبدالغنی کے پاس دفن ہوئے اور آپ نے البرزانی کو اجازت دی۔ حافظ البرزانی نے بیان کیا ہے کہ ۱۸ ربیع الآخر کو ہفتہ کے روز دیار مصر میں جید امراء، سفیر بغدادی، بسطا البلدی القسری، بدر الدین الوزیری، سفیر الرومی اور آق سفیر الفارسانی رحمہم اللہ کے وفات پانے کی خبر آئی۔ شیخ خضر الکردی، ملک الظاہر کا شیخ:

خضر بن ابی بکر بن موسیٰ الکردی النہروانی العدوی بیان کیا جاتا ہے کہ اصلاً یہ محمدیہ بستی کا ہے جو جزیرہ ابن عمر میں موجود ہے۔ آپ کی طرف احوال و مکاشفات منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے لوگوں سے میل جول کیا تو بعض امراء کی لڑکیوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور آپ ملک الظاہر کے بارے میں جب کہ وہ امیر تھا فرمایا کرتے تھے کہ وہ عنقریب حکومت سنبھالے گا، اسی وجہ سے کہ ملک الظاہر آپ پر اعتقاد رکھتا تھا۔ اور حکومت کے سنبھالنے کے بعد آپ کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اور آپ کو بڑی عظمت دیتا تھا اور ہفتہ میں ایک دو بار آپ کے زادیہ میں بھی جاتا تھا اور آپ کو اپنے بہت سے سفروں میں اپنے ساتھ رکھتا تھا اور آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کا احترام کرتا تھا۔ اور آپ اسے اپنی رائے سے اور مکاشفات صحیحہ سے مشورہ دیتے تھے۔ یہ مکاشفات یا رحمانی تھے یا شیطانی یا حال اور سعادت تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں سے میل جول کیا تو بعض امراء کی لڑکیوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور وہ آپ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، پس آپ فتنہ میں پڑ گئے اور اکثر یہ بات لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے ہو جاتی ہے اور ان سے میل جول کرنے والا فتنہ سے نہیں بچ سکتا۔ خصوصاً دوستوں کو چھوڑ کر عورتوں سے ملاقات کرنے والا اور ایسا شخص البتہ ان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

پس جب وہ ہو چکا جو ہونا تھا تو سلطان کے پاس قیسری، قلا دون اور فارس اقطاعی اتا بک نے حق مطالبہ کیا۔ تو اس نے اعتراف کیا تو سلطان نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے سلطان سے کہا، میرے اور تیرے درمیان تھوڑے ہی دن ہیں۔ اور اس نے اس کے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ پس اسے کئی سال یعنی ۶۷۱ھ سے ۶۷۶ھ تک قید کر دیا گیا۔ اور اس نے قدس میں ایک کینہہ کو گرا دیا اور اس کے پادری کو ذبح کر دیا اور اسے خانقاہ بنا لیا۔

اور ہم قبل ازیں اس کے حالات بیان کر چکے ہیں، پھر وہ مسلسل قید رہا، حتیٰ کہ اس سال کی ۶ محرم کو جمعرات کے روز مر گیا۔

اور اس کا نام "سکال" رکھا گیا۔ اور اس کے یہ دو کتب خانے ان قبروں میں کیے گئے جن میں نے اپنے زمانے میں پائی تھی اس کی وفات کے ساتھ کے دہے میں ہوئی۔ اور وہ سلطان کو بعض باتوں کے بارے میں خبر دیا کرتا تھا۔ اور اسی کی طرف شیخ خضر کا قبہ منسوب ہے جو پہاڑ پر نئے کے مغرب میں ہے اور قدس شریف میں بھی اس کا رادیا ہے۔

شیخ محی الدین انووی:

یحییٰ بن شرف بن حسن بن حسین بن محمد بن حزام الحارثی العالم محی الدین ابو زکریا انووی ثم الدمشقی الشافعی علامہ شیخ المذہب آپ اپنے زمانے میں فقہاء کے سردار تھے آپ نومی میں ۶۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور نومی حوران کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور آپ ۶۴۹ھ میں دمشق آئے اور آپ نے قرآن حفظ کیا اور التنبیہ کی قرأت میں لگ گئے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسے ساڑھے چار ماہ میں پڑھا اور بقیہ سال میں مذہب کی عبادات کا چوتھائی حصہ پڑھا پھر تصحیح و شرح کے لیے مشائخ کے ساتھ رہنے لگے اور بہت سی کتابوں کو تصنیف کیا جن میں سے بعض کو مکمل کیا اور بعض کو مکمل نہ کر سکے۔ اور جن کتابوں کو آپ نے مکمل کیا ان میں شرح مسلم، الروضۃ، المنہاج، الریاض، الاذکار، التبیان، تحریر التنبیہ اور اس کی تصحیح، تہذیب الاسماء واللغات اور طبقات الفقہاء وغیرہ شامل ہیں۔ اور جن کتابوں کو آپ نے مکمل نہیں کیا اگر آپ نہیں مکمل کرتے تو اس باب میں اس کی کوئی نظیر نہ ہوتی، شرح المذہب، اس کا نام آپ نے المجموع رکھا ہے اس میں آپ کتاب الربا تک پہنچے ہیں۔ آپ نے اس میں نادر باتیں بیان کی ہیں اور خوب اچھی طرح افادہ کیا ہے اور خوب تنقید کی ہے اور اس میں مذہب کے بارے میں فقہ لکھی ہے اور مناسب رنگ میں حدیث لکھی ہے اور غریب لغت اور اہم باتیں بیان کی ہیں جو صرف اسی میں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ کے سامنے جو کچھ آیا ہے آپ نے اسے اس کا خلاصہ بنا دیا ہے اور فقہ کی کتابوں میں اس سے بہتر کتاب نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے باوجود اس میں بہت سی باتوں کے اضافے کی ضرورت ہے اور آپ کو زہادت، عبادت، تقویٰ، جستجو اور لوگوں سے اجتناب کرنے میں بڑا مقام حاصل تھا آپ کے سوا کوئی فقیہ اس پر قدرت نہیں پاسکا، آپ صائم الدہر تھے اور دو سالن اکٹھے نہیں کرتے تھے اور آپ کی خوراک کا بڑا حصہ آپ کے والد نومی سے آپ کے پاس لے کر آتے تھے اور آپ نے ابن خلکان کی نیابت میں اقبالیہ کی تدریس کا کام سنبھالا اور اسی طرح آپ نے الفلکیہ اور الرکنیہ میں بھی نیابت کی اور آپ نے دارالحدیث اشرافیہ کی مشیخت کو بھی سنبھالا اور آپ اپنا تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے دمشق کے قیام کے دوران حج بھی کیا اور آپ ملوک وغیرہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے آپ نے اس سال ۲۴ رجب کی رات کونوی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ رحمہ اللہ و عفا عنہ

علی بن علی بن اسفندیار:

نجم الدین واعظ جو تین ماہ کے دوران جامع دمشق میں ہفتہ کے دن وعظ کیا کرتے تھے آپ خانقاہ مجاہدیہ کے شیخ تھے اور اس سال وہیں آپ نے وفات پائی آپ یکتا فاضل تھے۔ اور آپ کا دادا خلیفہ ناصر کا خطبہ لکھا کرتا تھا اصلاً یہ بوشنج کے ہیں اور نجم الدین کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”جب میرا غیر اجسام کی ملاقات کرتا ہے۔ تو میں دل کے ساتھ پل پل میں تیرے گھر کی زیارت کرتا ہوں۔ اور گھروں

سے دور ہونے والا ہر شخص دور جانے والا نہیں ہوتا اور نہ ہر قریب رہنے والا حقیقت میں قریبی ہوتا ہے۔“

۶۷۷ھ

اس سال کا پہلا دن بدھ تھا اور الحامیہ، مراد اللہ العباسی خلیفہ تھا۔ اور صفر، شام اور حلب کے بادشاہ کا سلطان ملک سعید تھا۔ اور محرم کے آغاز میں دمشق میں یہ بات شہور ہوئی کہ ابن خاکن نے سات سال معزول رہنے کے بعد آخر، الحج میں کھڑے ہوئے، تنقیح قضاہ سنجالا لی ہے اور محرم کو قاضی مرالدین بن الصباح فیصلہ کرنے سے رُک گیا۔ اور نوگ ابن خاکن کے استقبال کو نکلے اور ان میں سے کچھ رملہ پہنچ گئے۔ اور وہ ۲۳ محرم کو ہجرات کے روز آئے اور نائب سلطنت عزالدین ایمر تمام امراء اور جماعتوں کے ساتھ ان کے استقبال کو نکلا اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور شعراء نے آپ کی مدح کی۔ اور فقیہ شمس الدین محمد بن جعفر نے یہ اشعار سنائے۔

”جب شام کی قضاہ کے حاکم قاضی القضاة ابو العباس بنی نے سات سخت سالوں کے بعد سنجالا تو اس کے خادم نے کہا، اس سال لوگوں کی نعماء سے فریاد سنی ہوگی۔“

اور سعد اللہ بن مروان الفارقی نے کہا۔

”تو نے سات سال شام کو قحط کا مزہ چکھایا ہے اور جب صبح کو تو اس سے جدا ہوا، بہت اچھی طرح جدا ہوا۔ اور جب ارض مصر سے تو اس کی ملاقات کو آیا تو تو نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کی بخشش کو اس پر پھیلادیا۔“

اور ایک دوسرے شاعر نے کہا۔

”تو نے سب اہل شام کو دیکھا ہے، ان میں کوئی ناراض نہیں ہے، انہیں شر کے بعد خیر نے آیا ہے، اور یہ وقت بلا انقباض، بظ کا ہے، اور انہیں غم کے عوض خوشی دی گئی، اور زمانے نے فیصلے میں انصاف کیا ہے، اور طویل غم کے بعد انہیں قاضی کی آمد اور قاضی کے عزل نے خوش کیا ہے، اور وہ سب لوگ شکر گزار ہیں، اور مستقبل اور ماضی کے حال کے بارے میں شاکھی ہیں۔“

الیونینی نے بیان کیا ہے کہ ۱۳ صفر بدھ کے روز آپ نے الظاہرہ میں سبق بیان کیا اور نائب سلطنت ایمر مرعناہری بھی حاضر ہوا اور یہ سبق بڑا بھر پور تھا، جس میں قضاة حاضر ہوئے۔ اور الشافعیہ کا مدرس شیخ رشید الدین محمود ابن الفارقی تھا۔ اور الحنفیہ کا مدرس صدر الدین سلیمان الحنفی تھا، اور مدرسہ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اور جمادی الاولیٰ میں صدر الدین مذکور نے مجد الدین ابن العدیم کے عوض الحنفیہ کی قضاہ سنجالا، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر صدر الدین مذکور بھی رمضان میں وفات پا گئے، اور آپ کے بعد حسام الدین ابو الفصائل الحسن بن ابوشروان الرازی الحنفی نے قضاہ سنجالا، جو اس سے قبل ملطیہ کے قاضی تھے، اور ذوالقعدہ کے پہلے دہے میں مدرسہ نجیبیہ کھولا گیا۔ اور ابن خاکن بنفس نفیس اس میں تدریس کے لیے حاضر ہوئے، پھر اپنے بیٹے کمال الدین موسیٰ کی وجہ سے اس سے دست کش ہو گئے، اور خانقاہ نجیبیہ بھی کھولی گئی، اور یہ دونوں اور ان کے اوقاف اب تک زیر نگرانی ہیں۔

اور ۵ رذوالحجہ منگل کے روز سلطان سعید دمشق آیا، اور دمشق کو اس کے لیے آراستہ کیا گیا اور اس کے لیے بڑے بڑے خیمے لگائے گئے، اور اہل شہر اس کے استقبال کو نکلے، اور اس کے والد کی محبت کی وجہ سے اس سے بہت خوش ہوئے، اور اس نے عید الاضحیٰ میدان میں پڑھی، اور قلعہ منصورہ میں عید منائی، اور دمشق میں صاحب فتح الدین عبید اللہ بن القیسرانی کو اور دیار مصر میں بہاء الدین ابن الحنا کی موت کے بعد صاحب برہان الدین بن الحضر بن الحسن نجاری کو وزیر مقرر کیا، اور ذوالحجہ کے آخری دہے میں سلطان نے

قاضی القضاة صدر الدین سلیمان بن ابی العز:

”ابن دویب نے اپنے زمانے میں شیخ الحدیث سے رشتہ رقبہ میں اس کے عالم نے آپ کے عشق میں تیار کر کے مدت تک پڑھایا اور فوت دے۔ پھر دیار مصر کی طرف منتقل ہو گئے اور الصالحیہ میں پڑھاتے تھے۔ پھر واپس دمشق آ گئے اور اظہاریہ میں پڑھانا شروع کیا۔ ابو محمد بن ابی العلام نے بعد میں باہر آپ کے قضاہ سنبالی۔ پھر ۶۷۷ھ میں جمعہ کی رات کو آپ وفات پا گئے اور صبح کو نماز کے بعد قاسیون کے دامن میں اپنے گھر میں دفن ہوئے۔

آپ کی عمر ۸۳ سال تھی اور آپ کے لطیف اشعار میں سے وہ شعر بھی ہیں جو آپ نے ایک غلام کے بارے میں کہے ہیں جس نے ملک معظم کی لونڈی سے نکاح کیا تھا۔

”اے میرے دو دوستو! ذرا میرے لیے ٹھہر جاؤ اور تعجب سے دیکھو کہ زمانہ ہم میں اپنے عجائبات لے کر آیا ہے ماہ تمام مقام کے لحاظ سے سورج سے بالا ہو گیا ہے اور سورج سے بلند ہونا اس کے مراتب میں شامل نہیں ہے وہ حسن میں اس کا مماثل ہو گیا ہے اور کفو ہونے کے لحاظ سے اس کا شریک بن گیا ہے اور اپنی جماعت کے ساتھ اس کی طرف گیا ہے اگر اس کی کنٹی پر نقش و نگار کی دہاریاں اور اس کی مونچھوں کے اوپر سبزہ نہ ہوتا تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔“

طلہ بن ابراہیم بن ابی بکر کمال الدین الہمدانی:

الارملی الشافعی، آپ ادیب فاضل اور شاعر تھے آپ کو دو بیت لکھنے پر بڑی قدرت حاصل تھی، آپ نے قاہرہ میں اقامت اختیار کی حتیٰ کہ آپ اس سال کے جمادی الاولیٰ میں وفات پا گئے، آپ نے ایک دفعہ ملک صالح ایوب سے ملاقات کی اور وہ علم نجوم کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تو آپ نے اسے یہ دو شعر فی البدیہہ سنائے۔

”نجوم کو میرے رات کے آنے کے لیے چھوڑ دے ان سے زندگی بسر کی جاتی ہے اور اے بادشاہ عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو بلاشبہ حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب نے نجوم سے منع فرمایا ہے اور میں نے اسے دیکھ لیا ہے جس کے وہ مالک ہوئے ہیں۔“

اور اس نے اپنے ایک دوست کو جس کا نام شمس الدین تھا، آشوب چشم کے عارضہ کے بعد تندرست ہو جانے پر اسے ملاقات کے لیے خط لکھا۔

”مجھے سرمہ فروش کہتا ہے تیری آنکھ کو سکون آ گیا ہے پس تو دل کو مشغول نہ کر اور اس سے اپنے دل کو خوش کرا، اے شمس رات ہوئی میں نے تمہیں وہاں نہیں دیکھا اور آنکھ کے صحت یاب ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھے۔“

عبدالرحمن بن عبداللہ:

ابن محمد بن الحسن بن عبداللہ بن الحسن بن عفان، جمال الدین ابن الشیخ نجم الدین البادرائی البغدادی ثم الدمشقی آپ نے اپنے باپ کے بعد اس کے مدرسہ میں پڑھایا حتیٰ کہ رجب کو بدھ کے روز آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کو قاسیون کے دامن میں دفن کیا گیا اور آپ خوش اخلاق رئیس تھے اور پچاس سال سے زیادہ عمر کے تھے۔

اور اس نے قبل آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے حرقہ پینا اور آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو تین غلو توں میں بیچھایا اور ابن اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے ابن حضرت خالد بن ولید کے ساتھ شام آئے اور ذائقہ کو منہ بنا یا آپ اویب اور ابن سہروردی میں باطل اور نظر میں باہر تھے لیکن آپ کے کام اور نظم میں ایسی باتیں آئی جاتی ہیں جو ابن ابی العزیز اور آپ کے شیخ حریری کے طریق کے مطابق ایک قسم کے حلول و اتحاف کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اللہ اس کے حال اور اس کی ثقافت امر کو بہتر جانتا ہے آپ نے اس سال کی ۱۲ ربیع الآخر اتوار کی رات کو ۴۷ سال کی عمر میں دمشق میں وفات پائی اور شیخ رسلان کی قبر میں اس کے ساتھ گنبد کے اندر دفن ہوئے اور شیخ رسلان، علی المغرب بل کے شیخ اشغ تھے جس کے ہاتھ پر شیخ علی الحریری شیخ ابن اسرائیل نے تربیت پائی تھی، آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”عیادت کرنے والے نے، عشق کی جلانے والی آگ سے میری عیادت کی، کیا دامن کوہ میں خال والی کا زمانہ لوٹنے والا ہے اور کیا اس کی آگ بے آب و گیاہ میدان پر ایک یکتا شخص کے لیے غالب آ جائے گی جس نے تاریکیوں کو سفید کر دیا ہے حالانکہ وہ گواہ ہے، میرے سعدی کے ندیم اس کی باتوں کو پھیر پھیر کر بیان کر میرا اس کی محبت کو بیان کرنا اور شراب ایک ہی چیز ہے، وہ اتھے چوکیداروں والی ہے اور اس کے محاسن شیریں ہیں اور جو مشقت میں برداشت کر رہا ہوں وہ اس کی محبت کی وجہ سے مجھے شیریں معلوم ہوتی ہے، اور ماہ تمام پر اس کی اوڑھنی نہیں لپی اور نہ ہی سورج پر تاروں نے گردش کی ہے۔“

نیز اس نے کہا۔

”اے نیند کے بدلے بے خوابی لینے والے اور بھولنے والے سوچ کے سمندر میں تیر اور امر کو اس کے مالک کے سپرد کر دے اور صبر کر، صبر کا انجام کامیابی ہے، کشادگی سے مایوس نہ ہونا زمانہ صرف عبرتیں لاتا ہے، صفائی کے وقت کدورت ظاہر ہوتی ہے اور کدورت کے وقت صفائی پیدا ہوتی ہے اور جب زمانہ ایک دفعہ دکھ دے تو وہ اہل زمانہ کو خوش کرتا ہے اور دکھ اور خوشی کب تک ہے اور سب کے فیصلوں پر راضی رہ، تو صرف قضا و قدر کا اسیر ہے۔“

اور حضرت نبی کریم ﷺ کی مدح میں اس کا ایک طویل خوبصورت قصیدہ بھی ہے جسے شیخ کمال الدین ابن الزمکانی اور اس کے اصحاب نے شیخ احمد الاعقف سے سنا ہے اور شیخ قطب الدین ایوبینی نے اس کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں اور ان میں سے اس کا قصیدہ والا یہ بھی ہے جس کے پہلے اشعار یہ ہیں۔

”جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے اعلانیہ طور پر میری وعدہ گاہ پر ملا، اور اس نے میرے ملامت گروں اور حاسدوں کو ذلیل کر دیا اور اس نے عادی نہ ہونے کے باوجود شوق وصل کی وجہ سے زیارت گاہ کی دوری کے باوصف طویل ملاقات کی، اس حسن کے کیا کہنے، جس نے میری آنکھ کو اپنا جمال تحفہ دیا، اور اس ٹھنڈک کے کیا کہنے، جس نے میرے دل کو پیاس تحفہ میں دی ہے اور میرے خواب کی سچائی کے کیا کہنے، جس نے مجھے اس کے وصال کی بشارت دی، اور میری آرزوؤں کے حصول اور اے میرے مقصد کی کامیابی۔“

اب اس نے سعید کے نصیبے یا معدنِ جد کے باعث میرے باطن میں تجلی کی تو میرا وجود روشن ہو گیا، وجود اور اہل وجود کے
تعلق کا مجھے سن دیا گیا ہے اور میرے لمبے مطابق میری دونوں ہتھیلیاں ایک تم دینے والے کی ہبہ سے جمعیت سے
چلے گئیں۔

پھر اس نے طویل غزال نبی اور کہا۔

”اپس جب ہر شاہد پر وہ مجھ پر ظاہر ہوا اور ہر مجلس میں اس نے مجھ سے رمز کے ساتھ بات چیت کی اور آغاز میں اس سے
میرا سماع آزاد ہو گیا اور میرے جیسا شخص مقید سماع سے بچتا ہے اور میرے ہر قلمی مشہود کے لیے شاہد موجود ہے اور اس
کے ہر مسموع کے لیے ایک طے شدہ طرز ہے۔“

پھر اس نے کہا۔

مشاہد جمال میں وصل:

میں اسے حلول کے اعتقاد کے بغیر جمال کے تمام اوصاف کے ساتھ دیکھتا ہوں اور ہر خوبصورت باریک کمر اور چمکدار گردن
اور نازک اندام میں دیکھتا ہوں اور ہر اس چاند میں جو اپنے بالوں کی رات میں نرم اور چمکدار شاخ پر چمکتا ہے اور ہر باریک کمر سے
معافہ کرتے وقت اور ٹھنڈی شراب کی طرح لعاب دہن چوستے وقت اور موتی، یاقوت، خوشبو اور زبور میں جو ہر چھگی ہوئی نگاہ والی کی
گردن میں پڑا ہوتا ہے اور کپڑوں کے جوڑوں میں جو میری آنکھوں کو سنہری اور سرخ زبرد کے ساتھ بھلے لگتے ہیں، اور شراب،
خوشبو اور سننے اور گانے میں اور گانے والے کبوتر کے بار بار مقفی کلام کہنے ہیں، اور درختوں، دریاؤں، پھولوں اور تری میں، اور ہر باغ
اور بلند محل میں، اور آسمان کے نیچے مہکنے والے باغ میں جس کی تزکیاں آفتاب کے نور کو ہنساتی ہیں اور تالاب کی روانی کی صفائی میں
جب وہ حکایت بیان کرے اور ہوا سے ریتی کے پہلو کی طرح سیکڑ دے اور کھیل، کوڈ خوشی اور اسی غفلت میں جو ہر مقصد کے لیے فرقہ
والوں میں مضبوطی سے جم گئی ہے۔

اور ہر مجلس میں دور شراب کے وقت جو انواع و اقسام کے پھلوں کی ترتیب سے بھلی ہوتی ہے اور ہر جمعہ اور عید میں لوگوں کے
اجتماع کے وقت اور نئے کپڑوں کے اظہار کے وقت، اور میدان کارزار میں مشرقی تلواروں کی چمک کے وقت اور تیرہمے نیزوں کے
پہلوؤں کے جھکاؤ میں مجھے اس کے جمال کے تمام اوصاف نظر آتے ہیں۔

مظاہر علویہ:

اور اصیل گھوڑوں میں جب وہ ہر میدان میں ہوا سے سبقت کر جاتے ہیں اور وہ سورج کے مشابہ ہو جاتے ہیں جب کہ وہ
اپنے نور برج میں ہوتا ہے اور مشرقی افق کے پاس سونے کا آئینہ ہوتا ہے اور ماہ تمام میں جب وہ اپنی تکمیل کی رات کو افق کا بدر ہوتا
ہے آسمان نے اسے شیشہ سے مرصع محل کی مانند چمکا دیا ہے اور ستاروں میں جنہوں نے اس کی تاریکی کو زینت دی ہے گویا وہ زبرد
کی بساط پر بکھرے ہوئے موتی ہیں اور بارش میں جس نے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد سیراب کیا ہے اس کی بخشش کا تسنہ
نجد جانے کے بعد تہامہ جانے والا ہے اور بجلی میں جو اپنے بادل میں کسی وقت ہنستے دانتوں یا سونق ہوئی تلوار کی طرح ظاہر ہوتی ہے

اور ان کے نقش و نگار کے حسن میں اور عداوت میں اور شاندار دنیا میں مظاہر علیہ کے اوصاف و لطائف ہوں۔

مظاہر معنویہ:

اور اسی ہی نزاکت میں اپنے والے کو اچھے ملتے ہیں اور ان کے مدافع کو تاجی کرنے والے اور اتعارے عمدہ بنانے والے سے ظاہر ہوتے ہیں اور بغا کے بعد عید و صل کے واپس آنے میں اور دستکار اور بھنگا کے ہونے شخص کے اندرون کے پرسکون ہونے میں اور معشوق کی مہربانی میں جو اپنے محب کا شکوہ کرتا ہے اور دوستی کے وقت نازک الفاظ میں اور کریم الاصل کی سخاوت میں اور ہر سردار کے جذبات عفو ہیں اور عارفین کی حالت بسط و انس میں اور سماع مقید کے وقت ان کے جھومنے میں اور آیات کتاب کے لطف میں جن میں دھمکی کے بعد وعدہ کی روح آہستہ آہستہ چلتی ہے۔

مظاہر جلالیہ:

اسی طرح جلال کے اوصاف ظاہر ہیں جنہیں میں بلا تردد دیکھتا ہوں اور قاضی جلیل کی سطوت اور خاموشی میں اور سخت سرکش بادشاہ کی سطوت میں اور غضبناک آدمی کی طیش کی تیزی میں اور رعب دار سردار کی نخوت میں اور صہباء کے جوش میں جسے اس کے گردش دینے والے نے جائز قرار دیا ہے اور بد اخلاق ندیم کے اخلاق کی شدت میں اور گرمی اور سردی میں جنہوں نے زمانے کو تقسیم کر لیا ہے اور ہر حاسد کے تکلیف دینے میں اور نفوس کے مجھ پر اپنا اثر مسلط کرنے کے راز میں اور ظالم کے ظلم کی تحسین میں اور عادات کی تنگی میں جو فیصلے سے محسوس کی جاتی ہے اور اس سے سورج کی آنکھ کو سرمہ ڈالنے میں اور ہر میدان کارزار میں سواروں کے حملہ کرنے کے وقت جس میں مرتب نیزوں کے ساتھ لغزش دلائی جاتی ہے اور حملہ آور شیر کی شدت اور حملے میں اور تنگ کرنے والی بیماری کی بد حال زندگی میں اور محبوب کے وصال کے بعد اس کی جفا کاری میں اور پختہ وعدہ کے بعد اس کی عہد شکنی میں اور تکلیف دینے والی جدائی کے خوف میں اور غمگین کے الوداع کرنے کے مقام میں اور دوستوں کے اکٹھے ہونے کے بعد جدا ہو جانے میں اور ہر جمعیت کے پریشان ہونے میں اور ہر اس گھر میں جو آباد ہونے کے بعد ویران ہو گیا ہے اور ہر ٹیلے میں جس کے نشانات مٹ گئے ہیں اور سمندروں کی امواج اور ویرانوں کی وحشت اور جھاگ پیدا کرنے والے پرنا لوں کی روانی میں اور میرے تمام فرائض کے قیام میں اور راز عبادت کے سپرد کرنے کی حالت میں اور ہم راز کی عزت کی خاطر نماز میں میرے خشوع کرتے وقت اور رات کے وقت تہجد کو جانے میں حاجیوں کے اپنے حج میں تلبیہ کہنے کی حالت میں اور ہر جنگل میں زندگی کے لیے ان کے کام کرنے میں اور عابد و زاہد کے دل میں ملال سے جو سستی پیدا ہو جاتی ہے اور حلال کو آمیزش سے پاک کرنے کی تنگی میں میں مظاہر جلالیہ کو دیکھتا ہوں۔

مظاہر کمالیہ:

عذاب کے تذکروں اور ظلمت حجاب اور درویش کی حالت قبض میں وہ اوصاف کمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور میں اس کے دیکھنے سے کسی چیز کو قبیح اور بریکار نہیں دیکھتا اور مجھے ہر تکلیف دینے والا محسن کی طرح نظر آتا ہے اور ہر گمراہ کرنے والا راہنمائی کرنے والا نظر آتا ہے اور میرے نزدیک انس و وحشت اور نور و ظلمت اور دور و نزدیک کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے اور میرا روزہ رکھنا اور افطار کرنا اور میرا سستی کرنا اور کوشش کرنا اور سونا اور تہجد کا دعا کرنا دونوں برابر ہیں میں کبھی شراب کی دوکان میں اپنے آپ کو

بیچ کن الماش مالوک و امراء کا ہولناک زوال و لغت اور برآمدی حکومت اور خرابی رحمت کی دلیل سے پھر فوج نے اس سے مراسلت کی کہ وہ الخاصکیہ کو اپنے سے دور کر دے اور اپنے باپ کی طرح اہل دانش کو اپنے قریب کرے مگر اس نے ایسا نہ کیا اس لیے کہ الخاصکیہ کی قوت و قوت اور سنت کی وجہ سے اس نے ایسا نہ کیا مگر فوج نے اس کو برسرِ اسلحہ کی طرف روانہ ہوئی اور ابھی وہ قائم و مشق سے نہیں گذرے تھے کہ انہیں دمشق کے مشرق میں پکڑ لیا گیا اور جب وہ سب کے سب مرج العسفر میں جمع ہو گئے تو سلطان نے اپنی والدہ کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کا استقبال کیا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور وہ ان سے بناوٹی طور پر دوستی کرنے لگی اور امور کی اصلاح کرنے لگی پس انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے بیٹے سلطان پر کچھ شروط عائد کیں اور جب وہ سلطان کے پاس واپس آئی تو اس نے ان شروط کی پابندی نہ کی اور نہ ہی الخاصکیہ نے اسے کچھ کرنے دیا سو فوج دیا مصر کی طرف چلی گئیں اور سلطان بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ وہ امور کے بگڑنے سے قبل ان کی اصلاح کر لے مگر وہ ان سے نڈل سکا اور وہ قاہرہ کی طرف اس سے سبقت کر گئے اور اس نے اپنے بچوں اہل اور انتقال کو الکرک کی طرف بھیج دیا اور اس میں انہیں محفوظ کر دیا اور فوج کے جو لوگ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے ان کے اور الخاصکیہ کے ساتھ دیا مصر کو روانہ ہو گیا اور جب وہ مصر کے نزدیک ہوا تو انہوں نے اسے مصر میں داخل ہونے سے روک دیا اور اس سے جنگ کی اور فریقین میں تھوڑے سے لوگ قتل ہوئے اور ایک امیر نے اسے پکڑ کر اس سے صفوں کو چیرا اور اسے قلعہ جبل میں داخل کر دیا تاکہ حالات پرسکون ہو جائیں مگر اس بات سے وہ مزید بدک گئے اور اسی وقت انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور اس کا پانی بند کر دیا اور طویل مصائب اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اس کے بعد امیر سیف الدین قلاوون الالفی الصالحی کے ساتھ معاملہ طے پا گیا کہ ملک سعید حکومت کو چھوڑ دے اور اس کے عوض الکرک اور الشوبک لے لے اور اس کے ساتھ اس کا بھائی نجم الدین خضر بھی رہے اور حکومت اس کے چھوٹے بھائی بدر الدین سلامش کو مل جائے اور امیر سیف الدین قلاوون اس کا تالیق ہو۔

ملک سعید کی معزولی اور اس کے بھائی ملک عادل سلامش کی تقرری:

جب مذکورہ حالات ہوئے تو ۷۷۷ھ میں آخراً کو سلطان ملک سعید قلعہ سے اتر کر دارالعدل میں آیا اور قضاة اور حکومت کے ارباب حل و عقد حاضر ہوئے اور سعید نے خود کو سلطنت سے معزول کر دیا اور انہیں اس بارے میں اپنے پرگواہ بنایا اور انہوں نے اس کے بھائی بدر الدین سلامش کی بیعت کر لی اور اسے ملک عادل کا لقب دیا اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور انہوں نے امیر سیف الدین قلاوون الالفی الصالحی کو اس کا تالیق مقرر کیا اور خطبائے اس کا خطبہ دیا اور ان دونوں کے نام کا سکہ بنا اور اس نے اپنے بھائی کو الکرک اور اپنے بھائی خضر کو الشوبک دیا اور اس کے خطوط بھی لکھے اور قضاة اور مفتیوں نے بھی اس پر دستخط کیے اور ایلچی شامیوں سے وہ بیان کرنے آئے جس پر مصریوں نے پیمان کیا تھا اور شام کے نائب امیر امیر الظاہری کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے نائب کے پاس قلعہ میں قید کر دیا گیا اور اس وقت اس کا امیر علم الدین شجر الاداری تھا اور شام کے نائب کے اموال و ذخائر کو زیر نگرانی رکھا گیا اور امیر شمس الدین سنقر الاشقر بڑی شان و شوکت اور بڑے تصرف کے ساتھ شام کی نیابت پر آیا اور در سعادت میں اتر اور لوگوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کے ساتھ بادشاہوں کا سالوک کیا اور سلطان نے مصر کے تینوں شافعی، حنفی، حنبلی، قاضیوں

کو معزول کر لیا، شافع قاضی کے عوض انہوں نے صدر الدین عمر بن القاسم تاج الدین بن ہشام کو قاضی بنایا اور اس کا نائب قاضی الدین بن زرین تھا اور انہوں نے اسے اس لیے معزول کیا کہ اس نے ملک سعید کے محروم رہنے میں وفاق کیا تھا۔ وہ ہندوستان ملک منصور قلاوون الصالحی کی بیعت سے

۳۱ رجب بروز منگل امرامہ مصر کے قلعہ میں منع ہوئے اور انہوں نے ملک عادل سلطانی ابن الظاہر کو معزول کر دیا اور اسے نسب سے نکال دیا اور انہوں نے اس کی بیعت صرف اس لیے کی تھی تاکہ سعد کے معزول کرنے پر شریعت قائم جائے پھر انہوں نے ملک منصور قلاوون الصالحی کی بیعت پر اتفاق کر لیا اور اسے ملک منصور کا لقب دیا اور بیعت دمشق آئی تو امراء نے اتفاق کیا اور قسم کھائی بیان کیا جاتا ہے کہ امیر شمس الدین سنقر الاشقر نے لوگوں کے ساتھ قسم نہ کھائی اور نہ ہی وہ اس کام سے راضی تھا جو ہوا، گویا وہ اندرونی طور پر منصور سے حد رکھتا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو الظاہر کے ہاں اس سے بڑا سمجھتا تھا اور دیا مصر و شام میں منابر پر منصور کا خطبہ دیا گیا اور اس کے نام کا سکڑھا لایا گیا اور اس کی رائے کے مطابق امور کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس نے عزل و نصب کیا اور بقیہ بلاد میں بھی اس کے احکام نافذ ہوئے سو اس نے برہان الدین بخاری کو وزارت سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ فخر الدین ابن لقمان کو سیکرٹری اور دیا مصر میں دیوان الانشاء کا افسر مقرر کیا۔

اور اس سال کے ۲۱ ذوالقعدہ کو جمعرات کے دن ملک سعید ابن ملک الظاہر نے الکرك میں وفات پائی اور ابھی اس کے حالات بیان ہوں گے۔ ان شاء اللہ

اور اس سال شام کے نائب امیر امیر کو ایک بیماری کے باعث پاکی میں اٹھا کر دیا مصر لایا گیا اور وہ ذوالقعدہ کے آخر میں اس میں داخل ہوا اور اسے قلعہ مصر میں قید کر دیا گیا۔
دمشق میں سنقر الاشقر کی سلطنت:

جب ۲۴ ذوالقعدہ کو جمعہ کا دن آیا تو امیر شمس الدین سنقر الاشقر نماز عصر کے بعد دارالسعادت سے سوار ہوا اور اس کے آگے آگے امراء کی ایک جماعت اور فوج پیادل چل رہی تھی اور اس نے قلعہ کے اس دروازے کا قصد کیا جو شہر کے نزدیک ہے اور اچانک اس سے قلعہ میں داخل ہو گیا اور امراء کو بلایا اور انہوں نے سلطنت پر اس کی بیعت کی اور اس نے ملک کامل کا لقب اختیار کیا اور قلعہ میں ٹھہر گیا اور منادی کرنے والوں نے دمشق میں اس کا اعلان کر دیا اور جب ہفتہ کی صبح ہوئی تو اس نے قضاة علماء اعیان اور شہر کے سرکردہ لوگوں کو قلعہ میں مسجد ابوالدرداء میں بلایا اور انہیں حلف دیا اور بقیہ امراء اور فوج نے بھی اسے حلف دیا اور اس نے اطراف کی حفاظت اور غلہ جات حاصل کرنے کے لیے فوج کو بھیجا اور ملک منصور کو الشوبک کی طرف بھیجا اور اس کے نائبین نے اس کی سپرد داری لے لی اور نجم الدین خضرنے انہیں رکاوٹ نہ کی اور اس سال قبتہ النسر میں غربی چارنٹے پہلو بنائے گئے اور اس سال فتح الدین بن قیسرانی کو دمشق کی وزارت سے معزول کر کے تقی الدین بن توبہ التکریتی کو اس کا وزیر مقرر کیا گیا۔



اس سائل میں وفات پانے والے احمیان

عبدالین بن عامر بن عامر

عبدالسلام بن احمد بن عامر بن علی بن ابراہیم بن مسافر بن حسین بن عزالدین احمد الانصاری القندیسی العجیب کا نام لکھنے والا نسخہ شاعر اور لگا تار وعظ کرنے والا واعظ تھا جس نے ابن الجوزی اور اس کے امثال کے طریق پر وعظ کیا اور قطب الدین نے آپ کی بہت سی شاندار باتیں بیان کی ہیں اور لوگوں کے ہاں آپ کو قبولیت حاصل تھی ایک دفعہ آپ نے کعبہ کے سامنے تقریر کی اور شیخ تاج الدین بن الفزازی اور شیخ تقی الدین بن دقیق العید اور یمن کے ابن الجلیل اور دیگر علماء اور عباد بھی لوگوں میں موجود تھے آپ نے نہایت شاندار اور بلیغ تقریر کی اس مجلس کا حال شیخ تاج الدین الفزازی نے بیان کیا ہے اس وقت آپ کی عمر ۷۵ سال تھی۔

ملک سعید بن ملک الظاہر:

برکہ خان ناصر الدین محمد بن برکتہ ابوالمعالی ابن السلطان ملک الظاہر رکن الدین بیہرس البندقداری اس کے باپ نے اپنی زندگی میں امراء سے اس کی بیعت لی اور جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو بادشاہ کی حیثیت سے اس کی بیعت کی گئی اور اس کی عمر ۱۹ سال تھی اور شروع میں اس کے لیے امور سعادت کے ساتھ چلے پھر الحاصیہ نے اس پر غلبہ پالیا اور یہ ان کے ساتھ میدان اخضر میں کھیلنے لگا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی پہلی گراؤ تھی اور بسا اوقات یہ موقع بھی آیا کہ یہ ان کے لیے اتر پڑتا سو بڑے بڑے امراء نے اس کو ناپسند کیا اور اس بات سے برا منایا کہ ان کا بادشاہ بچوں کے ساتھ کھیلے اور اپنے آپ کو ان کی طرح سمجھے اور انہوں نے اس بارے میں اس سے خط و کتابت کی کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائے مگر اس نے اسے قبول نہ کیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انہوں نے اسے معزول کر دیا اور سلطان ملک منصور قلاوون کو جب کے آخر میں اپنا بادشاہ بنا لیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر اس سال ۱۱ ذوالقعدہ کو جمعہ کے روز الکرک میں اس کی وفات ہو گئی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ واللہ اعلم

اور پہلے اسے جعفر کی قبر کے پاس اور اس کے ان اصحاب کے پاس جنہیں اس کی موت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا دفن کیا گیا پھر اسے دمشق منتقل کیا گیا اور ۶۸۰ھ میں اس کے باپ کی قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی نجم الدین خضر الکرک کا بادشاہ بن گیا اور ملک مسعود کا لقب اختیار کر لیا اور منصور نے اس کے ہاتھ سے الکرک کو چھین لیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

۶۷۹ھ

اس سال کا پہلا دن جمعرات ۳ رومی تھا اور الحاکم بامر اللہ خلیفہ اور مصر کا بادشاہ ملک منصور قلاوون الصالحی تھا اور اسی طرح وہ بعض بلاد شام کا بادشاہ بھی تھا اور دمشق اور اس کے مضافات پر سنقر الاشقر نے قبضہ کر لیا تھا اور الکرک کا حکمران ملک مسعود بن الظاہر تھا اور حماة کا حکمران ملک منصور ناصر الدین محمد بن الملک المظفر تقی الدین محمود تھا اور عراق بلاد جزیرہ خراسان موصل اربل آذربائیجان بلاد کبر اور خلاط اور اس کے اردگرد کا علاقہ اور دیگر شہر تارویوں کے قبضے میں تھے اور اسی طرح بلاد روم بھی ان کے قبضے میں تھے لیکن ان میں غیاث الدین بن رکن الدین صرف نام کا حکمران تھا اور یمن کا حکمران ملک مظفر شمس الدین یوسف بن عمر تھا اور

حرم شریف کا حکمران نجم الدین بن ابی نمی الحسینی تھا اور مدینہ کا حکمران عزالدین جواز بن شیبہ الحسینی تھا اور مذکورہ سال کے آغاز میں سلطان ملک کاظم سنقر الاشرق جمعہ سے سوار ہو کر میدان کی طرف گیا اور اس سے آگے کے امراء اور سرداروں کو روک کر دیکھا اور وہ سب سے پہلے سے تھے اور قضاة اور اعیان اور اس کے ساتھ سوار تھے اس نے کچھ وقت میدان میں اگلے لوگوں سے باتیں بیان کیں پھر قلعہ کی طرف واپس آیا اور عربوں کا بادشاہ امیر شرف الدین عیسیٰ بن مہنا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس کے سامنے زمین کو بوند دیا اور دسترخوان پر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کامل اس کے لیے ٹھہر گیا اور اسی طرح حجاز کے امراء کا بادشاہ اس کی خدمت میں آیا اور کامل سنقر نے حکم دیا کہ صبی علاقے کو قاضی شمس الدین بن خلکان کی حکومت کے ساتھ شامل کر دیا جائے اور اس نے امینیہ کی تدریس پر آپ کو مقرر کیا اور اسے ابن سنی الدولہ سے چھین لیا۔

اور جب دیار مصر میں ملک منصور کو اس بات کی اطلاع پہنچی جو سنقر الاشرق نے شام میں کی تھی تو اس نے اس کے مقابلے میں زبردست فوج بھیجی اور انہوں نے سنقر الاشرق کی فوج کو شکست دی جسے اس نے غزہ کی طرف بھیجا تھا اور وہ اسے اپنے آگے لگا کر لے آئے، حتیٰ کہ مصری فوج دمشق کے قریب پہنچ گئی پس کامل نے حکم دیا کہ جسورہ میں تنگ راستہ بنایا جائے یہ ۲۱ صفر بدھ کے دن کا واقعہ ہے اور وہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا اور وہاں اتر اور بہت سے لوگوں کو خادم بنایا اور بہت مال خرچ کیا اور عربوں کا امیر شرف الدین عیسیٰ بن مہنا اور شہاب الدین احمد بن جچی بھی اس کے ساتھ آئے اور نجد و حماہ کی فوج اور بہت سے ہبلک کے جوان بھی اس کے پاس آگئے اور جب ۱۶ صفر کو اتوار کا دن آیا تو حلبی فوج امیر علم الدین سبخر الحسینی کے ساتھ آئی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو انہوں نے دن کے چوتھے پہر تک جنگ کی اور بہت سے لوگ مارے گئے اور ملک کامل سنقر الاشرق نے بڑی ثابت قدمی دکھائی لیکن فوج نے گڑبڑ کر دی، ان میں سے کچھ لوگ مصری کی طرف چلے گئے اور ان میں سے کچھ نے ہر طرف شکست کھائی اور اس کے اصحاب اسے چھوڑ گئے اور اسے عیسیٰ بن مہنا کے ساتھ المرح کے راستے میں ایک چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ شکست کھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، پس وہ انہیں الرجہ کے جنگل کی طرف لے گیا اور انہیں بالوں والے خیموں میں اتارا اور جب تک وہ اس کے پاس قیام کئے رہے اس نے انہیں اور ان کے چوپاؤں کو ٹھہرائے رکھا پھر اس نے ان امراء کی طرف پیغام بھیجا جو اسے شکست کھا کر چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے ان کے لیے امیر سبخر سے امان حاصل کی اور وہ دمشق کے باہر اتر اور دمشق بند تھا سو اس نے نائب قلعہ سے مراسلت کی اور وہ وہیں رہا حتیٰ کہ دن کے آخر میں باب الفرج کو اس نے فتح کر لیا اور شہر کے اندر سے قلعہ فتح ہو گیا اور اس نے منصور کے لیے اس کی سپرد داری لے لی اور امیر رکن الدین بھیرس الحجی کو جو حالق کے نام سے مشہور ہے اور امیر الاجین خسام الدین منصور کی وغیرہ امراء کو جنہیں امیر سنقر الاشرق نے قید کیا تھا رہا کر دیا اور سبخر نے ایلچیوں کو ملک منصور کے پاس بھیجا کہ وہ اسے صورت حال سے آگاہ کریں اور سبخر نے تین ہزار فوج کو سنقر الاشرق کی تلاش میں بھیجا۔

اور آج کے دن ابن خلکان امیر سبخر حلبی کو سلام کرنے آئے تو اس نے آپ کو خانقاہ نجیبیہ کے بالائی حصے میں قید کر دیا اور ۲۰ صفر کو جمعرات کے روز معزول کر دیا اور قاضی نجم الدین بن سنی الدولہ کے قاضی بننے کا حکم جاری کیا اور اس نے اسے سنبھال لیا پھر ایلچی ملک منصور قلا دون کا خط لے کر آئے جس میں کچھ لوگوں پر اظہار ناراضگی کیا اور سب کو معاف کر دیا اس کے لیے دعاؤں میں

اضافہ ہو گیا اور امیر اسام الدین الاچین السعیدی نے اسے شام کی نیابت کا حکم آیا اور علم الدین سنجر حلبی بھی اس کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے اسے دارالعبادۃ میں مقرر کیا اور سجر نے قاضی ابن خلکان کو غم دیا کہ وہ مدرسہ عالیہ بصرہ میں منتقل ہو جائیں تاکہ سنجہ الدین سنجر کی خدمت میں آسکے اور آپ نے اس بارے میں اسے فرمایا تو آپ نے ایک شہر بیان کو دیا کہ وہ آپ کے اہل و عیال و اولاد کو ساتھ لے جائے تو ایسی سلطنت کا خط لے کر آیا جس میں ابن خلکان کے قتل پر مقرر کرنے اور اس سے درگزر کرنے کا ذکر تھا نیز اس میں آپ کی تعریف بھی کی گئی تھی اور اس نے آپ کی پہلی خدمات کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک قیمتی خلعت بھی تھا جسے آپ نے پہنا اور اس کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی اور امراء کو سلام کیا تو انہوں نے آپ کی تعظیم اور اکرام کیا اور لوگ اس سے خوش ہو گئے اور اس کے درگزر کرنے سے بھی خوش ہوئے۔

اور جب افواج سنجر الاشقر کی تلاش میں نکلیں تو اس نے امیر عیسیٰ بن مہنا کو چھوڑ دیا اور سواحل کی طرف چلا گیا اور وہاں اس نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا، جن میں صہیون بھی تھا جس میں اس کی اولاد اور ذخائر تھے اور بلاطس، برزہ، عسکا، جبلہ، لاذقیہ، سطر، بکاس اور شیزر کے قلعے بھی شامل تھے اور اس نے امیر عز الدین ازدر الحاج کو اس میں نائب مقرر کیا اور سلطان منصور نے قلعہ شیزر کے محاصرہ کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا، اسی اثناء میں جب تاریخوں نے مسلمانوں کے اختلاف کے بات سنی تو وہ اچانک آگئے اور بقیہ بلاد کے لوگ ان کے آگے شام کی طرف بھاگ گئے اور شام سے مصر کی طرف چلے گئے اور تاریخوں نے حلب پہنچ کر بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت بڑی فوج کو لوٹ لیا اور انہوں نے خیال کیا کہ سنجر الاشقر کی فوج، منصور کے خلاف ان کے ساتھ ہو گئی مگر انہوں نے معاملہ اس کے برعکس پایا اور یہ بات یوں ہوئی کہ منصور نے سنجر الاشقر کو لکھا کہ تاریخوں نے مسلمانوں کی طرف آگئے ہیں اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف متحد ہو جائیں تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان مسلمان ہلاک نہ ہوں اور جب وہ شہروں پر قبضہ کر لیں گے تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سنجر نے اسے سمع و اطاعت کا خط لکھا اور اپنے قلعے سے باہر آیا اور اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تاکہ تیار رہے اور جب اسے طلب کیا جائے تو وہ جواب دے اور اس کے نائبین بھی اپنے اپنے قلعوں سے اتر آئے اور تاریخوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ملک منصور فوجوں کے ساتھ جمادی الآخرہ کے آخر میں مصر سے نکلا اور جمادی الآخرہ کے تیسرے جمعہ کو جامع دمشق کے منبر پر سلطان کا خط سنا یا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے علی کے متعلق وصیت کی ہے اور اس نے ملک صالح کا لقب اختیار کیا اور جب وہ خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو ایلیوں نے آ کر خبر دی کہ تاریخوں نے حلب سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے ہیں اور یہ واپسی اس وقت سے ہوئی جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان متحد ہو گئے ہیں، پس مسلمان اس بات سے خوش ہو گئے۔ واللہ الحمد

اور منصور مصر کی طرف واپس آ گیا حالانکہ وہ غزہ تک پہنچ گیا تھا اور اس سے اس کا مقصد شام پر دباؤ کا کم کرنا تھا سو وہ ۱۵ شعبان کو مصر پہنچ گیا اور جمادی الآخرہ میں برہان الدین سنجاری کو دوبارہ مصر کی وزارت دے دی گئی اور فخر الدین بن لقمان کتابت النشاء کی طرف واپس آ گیا اور رمضان کے آخر میں ابن رزین کو دوبارہ قاضی بنا دیا گیا اور ابن بنت الاعز کو معزول کر دیا گیا اور قاضی نفیس الدین بن شکر مالکی اور معین الدین حنفی کو دوبارہ قاضی بنا دیا گیا اور عز الدین المقدسی حنابلہ کے قاضی بن گئے اور ذوالحجہ

میں ابن خلکان کے متعلق ظہم آیا کہ حلبی ملائے کو ان کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے وہ اپنے نامہ میں سے جسے چاہیں وہاں مناسب مقرر کر دیں اور ذوالحجہ کے آغاز میں ملک منصور بابا مصر سے فوج لے ساتھ شام جانے کے ارادے سے نکلا اور اس نے مصر پر اپنے بیٹے ملک صالح علی بن منصور کو اپنی دہلیس کے وقت تک نائب مقرر کیا شیخ قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ مصر میں بہت سے بڑے بڑے جنموں نے بہت سے غلوں کو سزا دیا اور سزا دینے میں بنی لڑکی اور انی روزاں اہل امر کے نیچے چٹان پر وہ ہارہ بٹلی گئی اور اس نے اسے جا کر رکھ دیا اور اس کو بے کولے کر پگھلایا گیا تو اس سے مصری رطل اوتیے نکلے اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ آ کر عسکاکے سامنے اتر پڑا اور فرنگی اس سے سخت خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے مصالحت کی تجدید کے لیے اس سے مراسلت کی اور امیر عیسیٰ بن مہنا بلاد عراق سے منصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اسی مقام پر تھا پس سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کا اکرام و احترام کیا اور اس سے عفو و احسان کا معاملہ کیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

امیر کبیر جمال الدین آقوش الشمسی:

آپ امرائے اسلام میں سے ایک امیر تھے اور آپ ہی نے تاتاریوں کے ایک سالار کتغناوین کے قتل کی ذمہ داری لی تھی اور وہ عین جالوت کے روزان میں مطاع تھا اور آپ ہی نے عز الدین ایدمر الظاہری کو گزشتہ سال حلب میں گرفتار کیا تھا اور آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی۔

شیخ صالح داؤد بن حاتم:

ابن عمر الجہال، آپ ضلی المذہب تھے آپ کے احوال و کرامات اور مکاشفات صالحہ بھی ہیں اور آپ کے آباء کا اصل وطن حران ہے اور آپ کی اقامت بعلبک میں تھی اور آپ نے وہیں پر ۹۶ سال کی عمر میں وفات پائی، اور شیخ قطب الدین ابن الشیخ الفقیہ الیومینی نے آپ کی تعریف کی ہے۔

امیر کبیر:

نور الدین علی بن عمر ابوالحسن الطوری، آپ اکابر امراء میں سے تھے اور آپ کی عمر ۹۰ سال سے زیادہ تھی اور آپ کی موت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ سنقر الاشقر کی جنگ کے روز گھوڑے کے تم تے گر پڑے اور اس کے بعد بیمار ہی رہے یہاں تک کہ دو ماہ بعد فوت ہو گئے اور قاسیون کے دامن میں دفن ہوئے۔

جزا رشاعر:

یحییٰ بن عبدالعظیم بن یحییٰ بن محمد بن علی جمال الدین ابوالحسین مصری، بیہودہ گوشاعر جو الجزار کے نام سے مشہور ہے اس نے ملوک و وزراء اور امراء کی مدح کی اور یہ ذہین اور بیہودہ گو اور دلچسپ بحث کرنے والا تھا، اس کی پیدائش ۶۰۰ھ کی حدود میں ایک یا دو سال بعد ہوئی اور اس سال کی ۱۲ شوال کو منگل کے روز اس نے وفات پائی اس کے شعر ہیں۔

”مجھے پکڑو، مجھے سزا دی سے زہد لےو، اللہ اعلم الحق ہے اور میرے اندر آگ بھڑک رہی ہے امیدوں نے مجھے وہم کالباں
 پیدا دیا ہے اور مجھ پر یہ سزا نام برد ہے اور یہ ہے پاس آبل اور چہرے میں اور جب آبی سردی سے یہ آگ سم لیا، دو جا
 ہے تو میں ذیال ہجرت میں آگ کو سنبھالنے کے لیے۔“

اس کے باپ نے ایک بڑھیا سے نکاح کیا تو اس نے کہا: ”میرے بوڑھے باپ نے ایک بڑھیا سے نکاح کیا ہے جس میں نہ عقل ہے نہ ذہن ہے گویا وہ اپنے فرش میں ایک
 بوسیدہ ہڈی ہے اور اس کے بال اس کے ارد گرد کپاس کی طرح ہیں اور اس نے مجھ سے پوچھا اس کی عمر کیا ہے میں نے
 کہا اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے اور اگر وہ تاریکی میں اپنی پیشانی کو ننگا کرے تو جن بھی اس کو دیکھنے کی جسارت
 نہ کریں۔“

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک منصور قلا دون تھا اور ۱۰ محرم کو اہل عسکاء المرقب اور سلطان کے
 درمیان صلح ہو گئی اور سلطان الردحاء میں اترا ہوا تھا اور جو امراء اس کے ساتھ تھے اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور دوسرے قلعہ صبیون کی
 طرف بھاگ کر سنقر الاشقر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ۱۹ محرم کو منصور دمشق آیا اور قلعہ میں اترا اور شہر کو اس کے لیے سجایا گیا اور
 ۲۹ محرم کو عز الدین بن الصالح کو اس نے دوبارہ قاضی بنا دیا اور ابن خلکان کو معزول کر دیا اور کیم صفر کو نجم الدین ابن الشیخ شمس بن ابی
 عمر نے حنا بلہ کی قضا سنبھالی اور جب سے آپ کے والد نے اپنے آپ کو قضاء سے علیحدہ کر لیا تھا یہ منصب خالی پڑا تھا اور اس ماہ میں
 تاج الدین یحییٰ بن محمد بن اسماعیل کردی نے حلب کی قضا سنبھالی اور اس ماہ ملک منصور دارالعدل میں بیٹھا اور فیصلے کیے اور مظلوم کو
 ظالم سے اس کا حق لے کر دیا اور حماة کا حکمران اس کے پاس آیا تو منصور نے اپنی جماعت کے ساتھ خود اس کا استقبال کیا اور وہ باب
 الفراء میں اس کے گھر میں اترا اور رجب الاول میں ملک منصور قلا دون اور سنقر الاشقر ملک کامل کے درمیان اس شرط پر صلح ہو گئی کہ
 وہ سلطان کو شہزادے دے اور وہ اس کے عوض اسے انطاکیہ کفرطاب اور شغریکاس وغیرہ دے گا نیز یہ کہ اس کے ہاتھ میں جو چھ سو
 سوار ہیں وہ ان کی نگہداشت کرے گا اور دونوں نے اس پر عہد و پیمان کیا اور خوشخبریوں کے طبل بج گئے اور اسی طرح الکوک کے
 حکمران اور ملک منصور خضر بن الظاہر نے اس شرط پر صلح کی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اور وہ اسی کے پاس رہے گا اور شہروں میں اس
 کا اعلان کر دیا گیا اور اس ماہ کے پہلے دہے میں اس نے دمشق میں شراب اور زنا کی کفالت کی اور اس کے لیے ایک کونسل اور سختی
 کرنے والا آدمی مقرر کیا اور اس حکم کے باطل کرنے کے لیے علماء صلحاء اور عباد کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور تیس روز کے بعد
 اس نے حکم کو باطل قرار دے دیا اور شرابیوں کو گرا دیا گیا اور حد و کو قائم کر دیا گیا۔ واللہ الحمد

اور ۱۹ رجب الاول کو خاتون برکتہ خاں زوجہ ملک الظاہر اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا سعید بھی پہنچا اور وہ اسے الکوک کے
 نزدیک سے قریۃ المساجد سے اٹھا کر لائی تاکہ اسے اس کے باپ کے پاس الظاہریہ کے قبرستان میں دفن کرے پس اسے فیصل سے
 رسیوں کے ساتھ اٹھا کر اس کے والد الظاہر کے پاس دفن کر دیا گیا اور اس کی ماں حمص کے حکمران کے ہاں اتری اور اس کے لیے
 ڈوٹیاں لگائی گئیں اور اس نے مذکورہ قبرستان میں ۲۱ رجب الآخر کو اس کے بیٹے کی تعزیت کا عمل کیا اور سلطان منصور ارباب حکومت

قرآن اور واقعہ حضرت عثمان غنیؓ کے بارے میں۔

اور ربیع الآخر کے آخر میں انھی بن توہب الخدری، نوہشقی و وزارت سے معزوں نے ردیا لیا اور اس کے بعد اسے تابع الدین بن ہاشم نے نبھا اور سلطان منصور نے منہرہ غیرہ شہر کی طرف تار تار یوں کے قریب آ جانے کی وجہ سے فوجوں کو بلانے کے لیے خط لکھا پس احمد بن عقی آیا اور اس کے ساتھ بہت سے اعراب بھی تھے اور المرک کا عمران ملک مسعودی ۱۲۰ جمادی الآخرۃ نوہفتہ کے روز سلطان کی مدد کو آیا اور لوگ اس کے پاس آئے اور ہر جگہ سے اس کے پاس آئے اور ترکمان اور اعراب بھی اس کے پاس آئے اور دمشق میں بہت افواہیں اڑیں اور وہاں پر بہت سی افواج بھی جمع ہوئیں اور بلاد حلب اور ان نواح سے لوگ بھاگ گئے اور اس خوف سے بھاگ گئے کہ کہیں تاتاری دشمن ان پر اچانک نہ آپڑے اور تاتاری منکوتمر بن ہلا کوخاں کے ساتھ متاب پہنچ گئے اور فاتح افواج ایک دوسرے کے پیچھے حلب کے نواح کی طرف روانہ ہو گئیں اور تاتاریوں نے جمادی الآخرۃ کے آخر میں الرجبہ میں اعراب کی ایک جماعت سے جنگ کی اور ان میں شاہ تاتار ابغا بھی پوشیدہ طور پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے اصحاب کیا کر رہے ہیں اور اس کے دشمنوں کے ساتھ کیسے جنگ کر رہے ہیں پھر منصور دمشق سے نکلا اور اس سے اس کا خروج جمادی الآخر میں ہوا اور خطباء اور ائمہ نے جوامع اور مساجد میں نمازوں وغیرہ میں دعائیں کیں اور سلطان کا حکم آیا کہ کونسوں اور رجسٹروں میں درج ذمیوں کو مسلمان کیا جائے اور جو اسلام قبول نہ کرے اسے صلیب دیا جائے سو وہ مجبوراً مسلمان ہو گئے اور وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں اور حاکم نے ہمارے اسلام کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے قبل اس نے پیشکش کی کہ اگر کسی نے ان میں سے انکار کیا تو اسے سوق الخلیل میں صلیب دیا جائے گا اور ان کی گردنوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی، پس انہوں نے اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور جب ملک منصور، حمص پہنچا تو اس نے ملک کامل سقر الاشقر کو مدد طلب کرتے ہوئے خط لکھا، پس وہ اس کی خدمت میں آیا اور سلطان نے اس کا اکرام و احترام کیا اور اس کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں اور سب افواج ملک منصور کی صحبت میں مکمل ہو کر لامحالہ مخلصانہ طور پر دشمن سے جنگ کرنے کا عزم کیے ہوئے تھیں اور بادشاہ کے نکلنے کے بعد لوگ جامع دمشق میں جمع ہو گئے اور انہوں نے مصحف عثمانی کو اپنے آگے رکھا اور وہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اللہ سے عاجزانہ دعائیں کرنے لگے اور وہ اسی حالت میں مصحف کو سر پر رکھے دعائیں کرتے، عاجزی کرتے اور روتے ہوئے مصلے کی طرف گئے اور تاتاری تھوڑے تھوڑے ہو کر آئے اور جب وہ حماة پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کے باغ اور محل اور وہاں جو رہائش گاہیں تھیں انہیں جلا دیا اور سلطان منصور تزکوں اور ترکمانوں کی فوج کے ساتھ حمص میں خیمہ زن تھا اور دوسری فوج بھی بہت بڑی تھی اور تاتاری ایک لاکھ یا اس سے زائد جانی بازوں کے ساتھ آئے، اناللہ وانا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

معمر کہ حمص:

جب ۱۴ رجب کو جمعرات کا دن آیا تو دونوں فوجوں کی ٹڈ بھینٹ ہوئی اور طلوع آفتاب کے وقت دونوں مخالفوں کا آنا سامنا ہوا اور تاتاریوں کی فوج ایک لاکھ تھی اور مسلمانوں کی فوج اس سے نصف یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور سب کے سب حضرت خالد بن ولیدؓ کے مزار کے درمیان الرستن تک تھے، پس انہوں نے شدید جنگ کی جس کی مثل طویل زمانوں سے نہیں دیکھی گئی، پس دن کے

یہی ہے جس میں تاتاری غائب آگے اور انہوں نے ٹنڈر، کوٹنگٹ دی اور انی طرحی زمین بھی خریدی اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا
 ملتی ہے اور قاب کا ہایاں ہارنوٹ کیا اور سلطان نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بڑی ثابت قدمی دھائی اور مسلمانوں کی فوج
 میں سے بہت سے فوجوں نے شکست کھانی اور مارا مارا ان کے تعاقب میں تھے حتیٰ کہ ۱۰۰۰ کے پیچھے بیکر گئے جس تک پہنچ گئے اور اس
 کے دروازے بند تھے پس انہوں نے ۲۰ ماہ سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور مسلمان بلائیت کے بڑے قطعہ ارض کے قریب ہو گئے
 پھر بہاروں اور سواروں کے بڑے بڑے امراء جیسے سنقر الاشقر، طہیرس الوزیری، بدرالدین امیر صلاح، الشمس، السعدی، حسام
 الدین، لاجین، حسام الدین، طرنگائی، الریدیاری اور ان کے امثال نے باہم مشورہ کیا اور جب انہوں نے سلطان کے ثبات کو دیکھا تو
 فوج کو سلطان کی طرف لوٹا دیا اور انہوں نے بے جگری کے ساتھ متعدد حملے کیے اور وہ مسلسل پے در پے حملے کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ
 تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت سے تاتاریوں کو شکست دی اور منکو تہم زخمی ہو گیا اور امیر علی بن مہنا العریض کی جانب سے ان کے پاس
 آیا اور تاتاریوں سے ٹکرا گیا اور اس کے ٹکراؤ سے افواج کو مار پڑی اور شکست مکمل ہو گئی۔

اور انہوں نے بہت سے تاتاریوں کو قتل کر دیا اور جن تاتاریوں نے شکست خوردہ مسلمانوں کا تعاقب کیا تھا جب وہ واپس
 آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی شکست کھا چکے ہیں اور فوجیں ان کے تعاقب میں قتل کر رہی ہیں اور قیدی بنا رہی ہیں اور
 سلطان جھنڈوں تلے اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اور ڈھول اس کے پیچھے بج رہے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ صرف ایک ہزار سوار تھے پس
 انہوں نے اس کا لالچ کیا اور اس سے جنگ کی اور وہ ان کے سامنے ڈنار ہا اور وہ اس کے سامنے شکست کھا گئے اور اس نے انہیں
 پیچھے سے مل کر ان کی اکثریت کو قتل کر دیا اور یہ مکمل فتح تھی اور غروب آفتاب سے قبل تاتاریوں کو شکست ہو گئی اور وہ دو گروہوں میں
 بٹ گئے اور ان میں سے ایک گروہ سلمیہ اور البریہ کی طرف چلا گیا اور دوسرا حلب اور فرات کی طرف چلا گیا اور سلطان نے ان کے
 پیچھے تعاقب کرنے کے لیے آدمی بھیجے اور ۱۵ رجب کو جمعہ کے روز فتح کی بشارت کا خط دمشق آیا اور خوشخبریوں کے طبل بج گئے اور
 شہر کو سجایا گیا اور شمعیں جلائی گئیں اور لوگ خوش ہو گئے اور جب ہفتہ کی صبح ہوئی تو شکست خوردہ لوگوں کا ایک گروہ آیا جن میں بعلبک
 الناصری اور حلیق وغیرہ بھی تھے اور شروع شروع میں انہوں نے جو شکست دیکھی تھی اس کے متعلق لوگوں کو بتایا اور اس کے بعد
 انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور لوگ سخت گھبراہٹ اور شدید خوف میں باقی رہے اور بہت سے لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے اسی اثناء
 میں اچانک اچھیوں نے آ کر لوگوں کو پہلی اور پچھلی صورت حال کے متعلق خبر دی پس لوگ واپس آ گئے اور بہت خوش ہوئے۔

پھر سلطان ۲۲ رجب کو دمشق آیا اور اس کے آگے آئے قیدی تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے جن پر مقتولین کے سروں
 کے ٹکڑے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا اور سلطان کے ساتھ سنقر الاشقر کے اصحاب کی ایک جماعت تھی جن میں علم الدین الریدیاری بھی
 تھا۔ اور سلطان مظفر و منصور ہو کر قلعہ میں اتر اور اس کے لیے محبت میں اضافہ ہوا اور بہت دعائیں ہوئیں اور سنقر الاشقر نے سلطان کو
 حمص سے الوداع کہا اور صبیون کی طرف لوٹ آیا اور تاتاریوں نے بڑے اور تباہ کن حالات میں شکست کھائی انہیں ہر جانب سے
 اچک لیا جاتا اور ہر راستے میں انہیں قتل کیا جاتا حتیٰ کہ وہ فرات تک پہنچ گئے اور ان کی اکثریت غرق ہو گئی اور اہل البیہرہ ان کے پاس
 آئے اور انہوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور دوسروں کو قیدی بنا لیا اور فوجیں ان کے تعاقب میں انہیں شہروں سے

اس سال میں وفات پالے والے اعیان

شاہان و اربابان بلا کوحان

ابن تونی بن چنگیز خان یہ عالی مقام بہت کبریٰ سیاح و الا اور صاحب الرائے اور صاحب تہذیب تھا اور اس کی عمر چھاس سال تھی اور اس کی مدت حکومت ۱۸ سال تھی اور وہ اپنے والد کے بعد تہذیب اور دانشمندی میں اس کی مثل نہ تھا اور محض کا یہ معرکہ اس کی رائے اور مشورے سے نہ ہوا تھا لیکن اس کے بھائی منکوتمر کو یہ بات پسند تھی اور اس نے اس کی مخالفت نہ کی اور میں نے ایک بغدادی کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ شام کی طرف منکوتمر کی آمد سنقر الاشقر کی خط و کتابت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ واللہ اعلم اور یہ ابغا بنفس نفیس آیا اور فرات کے نزدیک اترتا کہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے اور جو ماجرا ان کے ساتھ ہوا اس نے اسے تکلیف دی اور وہ غم و حزن کے باعث مر گیا اس نے اس سال کی عیدین کے درمیان وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان احمد بادشاہ بنا۔

اور اس سال قاضی القضاة غم الدین ابو بکر بن قاضی القضاة صدر الدین احمد بن قاضی القضاة شمس الدین یحییٰ بن ہبۃ اللہ ابن الحسن بن یحییٰ بن محمد بن علی الشافعی ابن سنی الدولہ نے وفات پائی آپ ۶۱۶ھ میں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماع کیا اور مذہب میں مہارت حاصل کی اور اپنے باپ کے نائب بنے آپ کی سیرت قابل تعریف ہے اور حکومت مظفریہ میں آپ با اختیار قاضی بنے اور آپ کی تعریف ہوئی اور شیخ شہاب الدین آپ کو اور آپ کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور البرزالی نے بیان کیا ہے کہ آپ احکام کے بارے میں سخت تھے اور فضیلت والے تھے اور آپ مصر میں ٹھہر گئے اور جامع مصر میں پڑھایا پھر دمشق کی طرف واپس آ گئے اور امینہ اور رکنہ میں پڑھایا اور حلب کی قضاء سنبالی اور دمشق کی طرف واپس آ گئے اور سب نے اسے دمشق کی قضاء سپرد کی پھر اسے ابن خلکان کے ذریعے معزول کر دیا گیا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر ۳ محرم کو منگل کے روز آپ کی وفات ہو گئی اور دوسرے روز نوویں محرم کو اسے قاسیون میں اس کے دادے کی قبر میں دفن کیا گیا۔

قاضی القضاة صدر الدین عمر:

اور ۱۰ محرم کو قاضی صدر الدین عمر ابن القاضی تاج الدین عبدالوہاب بن خلف بن ابی القاسم الغلابی ابن بنت الاعز مصری نے وفات پائی آپ یکتا فاضل اور مذہب کے عارف اور اپنے باپ کی طرف احکام میں جستجو کرنے والے تھے اور القرافہ میں دفن ہوئے۔

شیخ ابراہیم بن سعید الشاعری:

بدحواس جو الجیعانہ کے نام سے مشہور تھا یہ شخص دمشق میں مشہور و معروف تھا اور لا یعقل عوام کی زبانوں پر اس کے احوال و مکاشفات کا تذکرہ تھا اور یہ نہ نمازیں پڑھتا تھا اور نہ لوگوں کے ساتھ روزے رکھتا تھا اس کے باوجود بہت سے عوام اس کے متعلق اعتقاد رکھتے تھے اس نے ۷ جمادی الاولیٰ کو اتوار کے پائی روز وفات پائی اور قاسیون کے دامن میں بدحواسوں کے قبرستان میں شیخ

یوسف القسیمی کے پاس دفن ہوا اور شیخ یوسف اس سے مدت پہلے فوت ہو چکا تھا اور شیخ یوسف البربرین میں امین حمام نور الدین شہید میں رہتا تھا اور نجاستوں اور کند پر بیٹھا لڑتا تھا اور سجرائی لباس پہنتا تھا اور لہجوں میں نجاستوں کی طرف مائل ہوتا تھا اور لوگوں میں اسے توہینت نسبت اور اہانت حاصل تھی اور لوگ اس سے نسبت اور اہانت میں لڑا کرتے تھے اور دروغ زاریہ نہایت عام اور نجاست سے پرہیز کرتا تھا اور جو اس کی ملاقات کو آتا وہ باب الامین پر نجاست پر بیٹھ جاتا اور عوام اس کے کاشفات و لہرات کا لڑتے تھے اور یہ سب باتیں عوام اور نامتقول لوگوں کی خرافات ہیں اور وہ دوسرے حجازیوں اور بدحواس لوگوں کے بارے میں بھی ایسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں اور جب شیخ یوسف القسیمی فوت ہو گیا تو بے شمار عوام اس کے جنازہ کے لیے نکلے اور اس کا جنازہ ان کی وجہ سے بھر پور تھا اور اسے لوگوں کی گردنوں پر اٹھا کر قاسیون کے دامن میں لایا گیا اور اس کے آگے آگے کینے اور فریب کار لوگ تھے اور تہلیل ہو رہی تھی اور ایسے امور بھی تھے جو عوام میں بھی جائز نہیں ہیں حتیٰ کہ وہ اسے قاسیون میں بدحواسوں کے قبرستان میں لے آئے اور وہاں اسے دفن کر دیا اور ایک شخص نے اس کی قبر کا اہتمام کیا اور اس پر منقوش پتھر لگا دیئے اور اس کی قبر پر پینٹ والا چھت لگا یا اور اس پر ایک کمرہ اور دروازے بھی بنائے اور اس میں بڑا غلو کیا اور مدت تک وہ اور ایک جماعت اس کے پاس رہ کر قرأت و تہلیل کرتے رہے اور وہ ان کے لیے کھانا پکاتا اور وہ کھاتے پیتے، حاصل کلام یہ کہ جب شیخ یوسف القسیمی فوت ہوا تو شیخ ابراہیم جیعانہ الشافعی سے اپنے پیروکاروں کی ایک جماعت کے ساتھ باب الصغیر کی طرف آیا اور وہ بہت شور و غوغا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دو، ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دو، اس بارے میں اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا مجھے بیس سال ہو گئے ہیں، میں دمشق کی فصیل کے اندر نہیں گیا اور جب کبھی میں اس کے کسی دروازے پر آتا ہوں اس دروازے کو دروازے پر بیٹھے پاتا ہوں، اور میں اس کے خوف کے باعث داخل نہیں ہو سکتا اور جب وہ مر گیا تو اس نے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور یہ سب رذیل اور بے عقل لوگوں کی باتیں ہیں جو حقیقت کو چھپانے کے لیے مزین کر کے بیان کی جاتی ہیں اور اس قسم کے لوگ برکائیں کائیں کرنے والے کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ شیخ یوسف کے پاس جو فتوح آئی تھیں وہ انہیں جیعانہ کی طرف بھیج دیتا تھا اور اللہ ہی اپنے بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے اور اسی کی طرف ٹھکانہ ہے اور اسی نے حساب لینا ہے۔

اور ہم نے بیان کیا ہے کہ معرکہ حمص میں امراء کی ایک جماعت شہید ہو گئی جن میں امیر عز الدین ازدر السلحداری بھی ۶۰ سال کی عمر میں شہید ہو گئے آپ نیک امراء میں سے تھے اور عالی ہمت تھے امید ہے کہ انہیں جنت میں عالی مقام حاصل ہوگا۔

قاضی القضاة تقی الدین ابو عبد اللہ محمد بن الحسین بن رزین بن موسیٰ العامری الحموی الشافعی آپ ۶۰۳ھ میں پیدا ہوئے اور آپ نے سماع حدیث کیا اور شیخ تقی الدین بن الصلاح سے اشفاق کیا اور مدت تک دار الحدیث کی امامت کی اور الشامیہ میں پڑھایا اور دمشق کے بیت المال کی سپردداری لی، پھر مصر چلے گئے اور وہاں متعدد مدارس میں پڑھایا اور وہاں شیخ بھی بنے آپ قابل تعریف شخص تھے آپ نے اس سال کی ۳ رجب کو اتوار کی رات کو وفات پائی اور مقطم میں دفن ہوئے۔

ملک اشرف:

۲۳ روز و القعدہ بروز ہفت ملک اشرف مظفر الدین موی بن ملک الزاہری الدین داؤد امجاد بن اسد الدین شیرنویہ بن الناصب
اصوال بن محمد بن اسد الدین شیرنویہ بن شہزی اسد بن حبیب مصل نے وفات پائی اور قاسیوں میں ان کے قبرستان میں دفن ہوا۔
شیخ جمال الدین اسکندری:

اور ذوالقعدہ میں شیخ جمال الدین اسکندری حساب دان دمشق نے وفات پائی اور اس کا کتب آبروز کے مینار کے نیچے تھا اور
بہت سے لوگوں نے اس سے انتفاع کیا ہے اور اپنے وقت میں یہ حساب کے شیخ تھے۔
شیخ علم الدین ابوالحسن:

محمد بن امام ابی علی الحسین بن عیسیٰ بن عبداللہ بن رشیق الربعی المالکی المصری آپ القرانہ میں دفن ہوئے آپ کا بہت بھر
پور تھا اور آپ مفتی اور فقیہ تھے آپ نے سماع حدیث کیا اور ۸۵ سال عمر پائی۔
صدر کبیر ابوالغنائم المسلم:

۲۵ ذوالحجہ سوموار کے روز صدر کبیر ابوالغنائم المسلم محمد بن المسلم مکی بن خلف بن غیلان القیس المدشقی نے وفات پائی آپ
۵۹۳ھ کو پیدا ہوئے اور آپ کبار رؤساء اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ دمشق میں کچہری کے نگران تھے پھر آپ ان
سب باتوں کو چھوڑ کر عبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپ ایک دن میں تین
پہلوں لکھ لیتے تھے اور آپ نے مسند امام احمد کا تین بار سماع کرایا اور صحیح مسلم اور جامع ترمذی کو بیان کیا اور البرزالی، المزنی اور ابن
تیمیہ نے آپ سے سماع کیا اور اسی روز آپ کو ۸۶ سال کی عمر میں قاسیوں کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ رحمہم اللہ جمیعاً
شیخ صفی الدین:

ابوالقاسم بن محمد بن عثمان بن محمد التیمی الحنفی بصری کے شیخ الحنفیہ آپ نے بہت سالوں تک امینیہ میں پڑھایا اور آپ یکتا
فاضل عالم اور عابد اور گوشہ نشین تھے اور آپ قاضی القضاة صدر الدین علی کے والد تھے آپ نے لمبی عمر پائی آپ ۵۸۳ھ کو پیدا
ہوئے اور اس سال کے شعبان میں ۹۹ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔

۶۸۱ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ خلیفہ اور سلطان ملک منصور قلاؤن تھا اور اس سال شاہ تاتار احمد نے ملک منصور کی
طرف پیغام بھیجا اور اسے مصالحت کرنے اور باہمی خون ریزی سے بچنے کی پیشکش کی اور ایلیچوں میں نصیر الدین طوسی کا ایک شاگرد
قطب الدین شیرازی بھی آیا منصور نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اور اس بارے میں شاہ تاتار کو خطوط لکھے اور صفر کے آغاز میں سلطان
نے امیر کبیر بدر الدین بیسری السعدی اور امیر علاؤ الدین السعدی کو گرفتار کر لیا۔

اور اس سال قاضی بدر الدین بن جماعت نے القمیریہ میں اور شیخ شمس الدین ابن الصفی الحمریری نے السرحانیہ میں اور
علاؤ الدین بن الزمکانی نے امینیہ میں پڑھایا اور اررمضان سوموار کے روز اللہ بادین میں عظیم آگ لگی اور نائب سلطنت بھی حاضر ہوا

۲۳ شعبان ۶۸۲ھ کو، ۱۰ ماہ ۱۰ روز کے آگے اور ۱۰ ماہ ۱۰ روز کے آگے، اپنی شہر کی طرف منتقل ہو کر اور آپ کا منظور پاپا اپنے گھر کے سامنے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔

اور آپ نے اس زمانہ میں ابن اسیر نے دمشق کی اہل علم اور شیوخ اور صحابہ ان میں خطیب بناس الدین ابن عبد اللہ کی سے خطیب ابن الخرنیقی کی بجائے الغزالیہ میں درس دیا اور مال الدین بن التجار نے ایسے ہی بیت المال کا میل تھا ان سے اند لوعیہ نے لیا پھر شمس الدین اربلی نے ابن الکافی مذکور سے الغزالیہ کی تدریس کا کام لیا اور شعبان کے آخر میں ابن الزکی سے شرف الدین احمد بن نعمۃ المقدسی نے نیابت عدالت سنجال لی جو ایک فاضل امام اور سرکردہ مصنف علماء میں سے تھے۔ اور جب آپ کا بھائی شمس الدین محمد شوال میں فوت ہوا تو آپ نے اس کی جگہ الشامیہ النیرانیہ کی تدریس کا کام سنجال لیا اور اس سے العالیہ الصغیرہ کو لے لیا اور قاضی نجم الدین احمد بن مصری القلعی نے اس میں ذوالقعدہ میں پڑھایا اور اسی طرح شرف الدین سے الرواجیہ کو لے لیا گیا اور اس میں نجم الدین البیابی نائب عدالت نے پڑھایا۔ رحمہم اللہ اجمعین۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

صدر کبیر عماد الدین ابوالفضل:

محمد بن قاضی شمس الدین ابی نصر محمد بن ہبۃ اللہ بن اشیرازی جو کتابت میں طریقہ منصوبہ کے مؤجد تھے آپ نے سماع حدیث کیا اور آپ دمشق کے اعیان اور رؤساء میں سے تھے اور آپ نے اس سال کے صفر میں وفات پائی۔
شیخ الجبل شیخ علامہ شیخ الاسلام:

شمس الدین ابو محمد عبدالرحمن بن الشیخ ابی عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ حنبلی آپ نے سب سے پہلے دمشق میں حنابلہ کی قضاء سنجال پھر اسے چھوڑ دیا اور آپ کے بیٹے نجم الدین نے اسے سنجالا اور آپ نے جبل میں اشرفیہ کی تدریس بھی سنجالا اور آپ نے کثیر سے حدیث کا سماع کیا اور آپ لوگوں کے علماء میں سے تھے اور اپنے زمانے میں ان سے امانت و دیانت میں زیادہ تھے۔ اور اس کے ساتھ نیک ارادہ اور خشوع و وقار والے تھے آپ نے اس سال کے ربیع الآخر کے آخر میں منگل کی رات کو ۸۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ رحمہم اللہ

ابن ابی ہفوان:

علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد بن عباس بن ابی ہفوان النصاری دمشقی محدث شافعی فقیہ اور نحو اور لغت کے ماہر میں نے اپنے شیخ تقی الدین ابن تیمیہ اور شیخ حافظ ابوالحجاج المزنی کو ایک دوسرے کو کہتے سنا ہے کہ اس شخص نے مسند امام احمد کو پڑھا اور وہ دونوں سنتے تھے اور انہوں نے آپ کی کوئی اعرابی غلطی نہیں پکڑی اور ان دونوں کا آپ کی تعریف کرنا ہی تیرے لیے کافی ہے اور ان دونوں کا جو مقام ہے وہ ہے۔

خطیب محی الدین:

یحییٰ بن خطیب قاضی القضاة عماد الدین عبدالکریم بن قاضی القضاة جمال الدین الحرستانی الشافعی خطیب دمشق اور الغزالیہ

میں سے آپ نے اپنے نام سے ایک خط لکھا اور اس کو سنبھالی اور آپ کے جنازہ میں تاج سلطنت اور بہت سے دیگر شے لے کر آپ کے بمقامی آخرتہ میں ۶۸۳ سال کی عمر میں وفات پائی اور قاسمیوں میں دفن ہوئے۔

امیر کبیر ملک عرب ال مخری:

اور ۵۰۰ رجب کو امیر کبیر ملک عرب ال مخری احمد بن نجی نے ہسری شہر میں وفات پائی اور دمشق میں آپ کا جنازہ قاسب پڑھا گیا۔

شیخ امام عالم شہاب الدین:

عبدالحمید بن الشیخ الامام علامہ مجد الدین عبداللہ بن عبداللہ بن ابی القاسم ابن تیمیہ الحرانی، جو ہمارے شیخ علامہ العلم تقی الدین ابن تیمیہ کے والد تھے جو فرقوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے مفتی تھے اور آپ کو بہت فضائل حاصل تھے اور جامع دمشق میں آپ کا ایک تخت تھا جس پر آپ گفتگو کرتے تھے اور آپ نے قصابین میں دار الحدیث السکر یہ کی مشیخت سنبھالی اور وہیں آپ کی رہائش تھی پھر آپ کے بیٹے شیخ تقی الدین نے آئندہ سال وہاں درس دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور آپ کو صوفیہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

۶۸۳ھ

اس سال ۲ محرم سوموار کے روز، شیخ علامہ امام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبدالحمید بن عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی نے قصابین کے دار الحدیث السکر یہ میں درس دیا اور قاضی القضاة بہاؤ الدین ابن الزکی الشافعی، شیخ تاج الدین الفراری شیخ الشافعیہ شیخ زین الدین ابن المرطل اور زین الدین بن المنجا الحسنبلی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بڑا عظیم درس تھا۔ اور شیخ تاج الدین الفراری نے اس کے کثرت فوائد اور حاضرین کی کثرت تحسین کی وجہ سے اسے اپنے خط میں لکھا اور حاضرین نے آپ کی نوعمری اور صغر سنی کی وجہ سے آپ کی بہت تعریف کی اور بلاشبہ اس وقت آپ کی عمر ۲۲ سال تھی پھر شیخ تقی الدین مذکور اسی طرح جمعہ کے روز ۱۰ صفر کو جامع اموی میں نماز جمعہ کے بعد منبر پر بیٹھے جو آپ کے لیے قرآن عزیز کی تفسیر کے لیے مہیا کیا گیا تھا، پس آپ نے اس کی ابتداء سے تفسیر کی اور مقنوع علوم کو جو دیانت و زہادت اور عبادت کے ساتھ لکھے ہوئے تھے آپ کے بکثرت بیان کرنے کی وجہ سے بے شمار لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور بقیہ صوبوں اور شہروں میں سوار آپ کے ذکر کو لے جاتے تھے اور آپ طویل سالوں تک ایسے ہی قائم رہے۔

اور اس سال ۱۲ جمادی الآخرہ کو ہفتہ کے روز سلطان دمشق آیا اور حماة کا حکمران ملک منصور بھی اس کی خدمت میں آیا اور سلطان نے اپنے رسالہ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور جب ۲۳ شعبان کو بدھ کی رات آئی تو دمشق میں شدید بارش ہوئی اور کڑک اور بجلی پڑی اور بہت بڑا سیلاب آیا جس نے باب الفرد ایس کے قفل توڑ دیئے اور پانی بہت زیادہ بلند ہو گیا جس نے بہت سے لوگوں کو غرق کر دیا اور مصری فوج کے اونٹ اور بوجھ لے کر تین دن کے بعد سلطان دیا رمصر کو چلا گیا اور علم الدین بنجر

ملک نغان نے یہی بیانات کے معرزال کیا اور علاء الدین بن ابی النجیبا نے اسے سنبھالا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ عماد الدین محمد بن منی:

ابن ابراہیم بن شہاد آپ نے منفر میں وفات پائی اور آپ مشہور فاضل تھے اور آپ کی ایک کتاب سیرت ملک الظاہر بھی ہے اور آپ تاریخ کا اہتمام کرنے والے تھے۔

البندقداری:

استاد ملک الظاہر بھیرس آپ امیر کبیر علاء الدین ایدکین البندقداری الصالحی تھے آپ نیک امراء میں سے تھے اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے اس سال کے ربیع الآخر میں وفات پائی اور صالح نجم الدین نے اس البندقداری سے پراسرار مطالبہ کیا اور اس سے اس کے نعام بھیرس کو لے لیا اور اسے اس کی تیز فہمی اور قابلیت کی وجہ سے اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ اس کے ہاں اپنے استاد سے بھی مقدم ہو گیا۔

شیخ صالح عابدزابد:

شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن الحسن بن اسماعیل الانحسی آپ کا جنازہ بہت بڑا تھا اور آپ قاسیون میں دفن ہوئے۔

ابن عامر المقری:

جس کی طرف المیعاد الکبیر منسوب ہے، شیخ صالح المقری شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن عامر بن ابی بکر الغسولی الحسنبلی آپ نے شیخ موفق الدین بن قدامہ وغیرہ سے سماع حدیث کیا اور آپ اتوار کی رات کو وعدہ کا وقت مقرر کرتے تھے اور جب وہ اس سے فارغ ہو جاتے تو آپ ان کو باتے پھرائیں و عطا کرتے آپ نے ۱۱ جمادی الآخرہ کو بدھ کے روز وفات پائی اور شیخ عبد اللہ امرنی کے قریب دفن ہوئے۔

قاضی عماد الدین:

داؤد بن یحییٰ کامل القرشی النصروی الحنفی، الکشف میں العزیز کے مدرس اور مجد الدین بن العدیم کے نائب عدالت آپ نے سماع حدیث کیا اور آپ ۱۵ شعبان کو وفات پا گئے اور آپ نجم الدین التجھازی شیخ الحنفیہ اور خطیب جامع قنکر کے والد تھے۔

شیخ حسن الرومی:

قاہرہ کے شیخ سعید السعداء آپ کے بعد شمس الدین تاجکی نے اسے سنبھالا، الرشید سعید بن علی بن سعید شیخ رشید الدین حنفی مدرس الشبلیہ آپ کی بہت سی مفید تصانیف ہیں اور آپ کی نظم بھی اچھی ہے آپ کہتے ہیں۔

”جو اس بات سے خائف ہے کہ اسے مصائب زمانہ آلیں گے اسے کہہ دو کہ ڈر کا کچھ فائدہ نہیں میرے اس اعتقاد نے

غم کو دور کر دیا ہے کہ ہر چیز قضا و قدر کے مطابق ہوتی ہے۔“

یہ آیت ہے:

اسکے میرے والد محمد بن یحییٰ اشعری نے اور وہ بنی اس کا اہل ہے ان گنتوں میں سے شمر کی طرف تیرا راز نہ مانی کرنا بھی ہے
 کوکے یہ ہے آدم و تنج و ما لم یجد ایات اور دہب میں جو اسے میں نماں ۱۰۰۰ سے مسکن میں میری مہربانی میرے مسکن
 میں رہی ہے اور میں تمہیں تمہیں اور ہدایت نے میرا خیر اور کیا ہوا تھا تو تیرے مجھے پڑا، وہی اور ہر باک کو نہ مانی چیز سے
 مجھے بچایا اور تو نے مجھے وہ عقل بخشی ہے جس کی روشنی میں طالب ہدایت ہر بھلائی کی طرف راہ پاتا ہے اور اگر میں اس
 خوبی کا بدلہ دینا چاہتا جس کی تو نے مجھ پر نوازش کی ہے تو میری کوشش اس کی اطراف کا بھی بدلہ نہ دے سکتی اور میں نے
 اپنے دل اور گفتار کو اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے اور ہر نعمت موقع کے مطابق مجھے ملی ہے کیا تو وہی نہیں جس سے میں
 اس وقت مہربانی کی امید کرتا ہوں جب میرے اہل مجھے میری قبر میں اکیلا چھوڑ جائیں گے پس تو مجھ پر اپنی مہربانی فرما
 جو میرے قلب و نیت کی راہنمائی کرے اور مجھے دوری کے بغیر تیرے قریب کرے۔“

آپ ۳ رمضان کو ہفتہ کے روز فوت ہوئے اور جامع مظفری میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور دامن کوہ میں دفن ہوئے۔

ابوالقاسم علی بن بلبان بن عبد اللہ:

الناصری المحدث المفید الماہر آپ نے آغاز رمضان میں جمعرات کے روز وفات پائی۔

امیر مجیر الدین:

محمد بن یعقوب بن علی جو ابن تمیم حموی شاعر کے نام سے مشہور ہے اور اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے وہ کہتا ہے۔
 ”میں نے باغ کے گلاب کو اس کے رخسار پر طمانچہ مارتے دیکھا اور وہ بنفشہ کے بارے میں غصے میں ایک بات کہہ رہا تھا
 کہ اس کے نزدیک نہ جاؤ خواہ اس کی خوشبو مہک رہی ہو وہ ایک سخت دشمن ہے۔“

شیخ عارف شرف الدین:

ابو عبد اللہ محمد بن الشیخ عثمان بن علی الرومی آپ قاسیون کے دامن میں ان کے قبرستان میں دفن ہوئے اور ان کے ہاں سے
 شیخ جمال الدین محمد الساجی باہر نکلے اور سر منڈایا اور ذوالجوالقیہ میں داخل ہوئے اور ان کے شیخ اور لیڈر بن گئے۔

۶۸۵ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو الخاتم ابوالعباس احمد خلیفہ اور ملک منصور قلاوون سلطان تھا اور شام میں اس کا نائب امیر حسام
 الدین لاجین السلحداری المنصوری تھا اور امیر بدر الدین الصوابی گذشتہ سال کے آخر میں الکرک کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور
 امیر حسام الدین طرقتائی کے ساتھ مصر سے اس کے پاس فوج آئی اور انہوں نے الکرک کے محاصرہ پر اتفاق کر لیا حتیٰ کہ انہوں نے
 الکرک کے حکمران ملک مسعود و خضر بن مالک الظاہر کو مہینے کے آغاز میں اس سے اتار لیا اور اس کی خوشخبری دمشق آئی اور تین دن تک
 خوشیوں کے شادیاں منجھتے رہے اور طرقتائی ملک خضر اور اس کے اہل بیت کو دیار مصر کی طرف واپس لایا جیسا کہ اس کے باپ ملک
 الظاہر نے ملک مغیث عمر بن العادل کے ساتھ کیا تھا جیسا کہ قبل ازیں یہ بات بیان ہو چکی ہے اور منصور کے حکم سے الکرک کا نائب

بن کر اور اس نے امام کو منتظم کیا اور بہت سے کرکٹوں کو وہاں سے بجا وطن کر دیا اور انہوں نے قلعہ دمشق سے کام لیا اور جب الظاہر کی قتل قابو میں داخل ہوئے ملی تو منصور نے اس کا استقبال کیا اور غزالی سے ساتھ آئیں مالا اور دونوں بھائیوں امام الدین حضرت اور بدر الدین سلاطین سے ٹیک ٹوک کیا اور..... ان کے دونوں بیٹوں میں اور شرف خلیل نے راجہ واریز نے لگے اور اس نے ان کے ہاتھوں پر جاسان مقرر دینے کو وہ ان دونوں نے افغان کی عمرانی کریں اور انہیں قلم لے لے انوں میں اتارا لیا اور اس نے ان کے رعد اور منتقامت مقرر کر کے جو ان کی انفاہت سے بہت زیادہ تھے اور امیر بدر الدین بکتو العالی نے جو حص میں کوشش کر رہا تھا دمشق کے نائب لاجین کو خط لکھا کہ روضہ کو جمعرات کے روز ارض حص میں ایک گولہ آیا پھر وہ ستون اور بڑے سانپ کی طرح آسمان کو چڑھ گیا اور بڑے بڑے پتھروں کو اچکنے لگا پھر وہ انہیں فضا میں لے گیا گویا وہ تیر ہیں اور وہ بہت سے اونٹوں کو ان کے بوجھوں سمیت اٹھالے گیا اور اثاث و خیم اور چوپاؤں کو بھی لے گیا اور اس قسم کی بہت سی چیزیں لوگوں نے کھو دیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون اور اس دن دمشق میں بڑی بارش ہوئی اور بڑا سیلاب آیا خصوصاً الصالحیہ میں۔

اور اس سال علم الدین الریداری کو دوبارہ دمشق کی پکھری کا منتظم مقرر کیا گیا اور صاحب تقی الدین بن توبہ کو دوبارہ دمشق کا وزیر بنایا گیا اور مصر میں قاضی تقی الدین بدساس مرحوم کی جگہ زین الدین بن ابی مخلوف البریدی نے مالکیہ کی قضا سنبھالی۔ اور اس سال الغزالیہ میں بدر الدین بن جماعہ نے پڑھایا اس نے الغزالیہ کو شمس الدین امام الکلاہ کے ہاتھ سے چھین لیا تھا جو شمس الدین الایکی کا نائب تھا اور الایکی شیخ سعید السعداء تھا وہ ایک ماہ تک اس کا منتظم رہا پھر حکم آیا کہ اسے دوبارہ الایکی کے سپرد کر دیا جائے اور جمال الدین الباجری نے اس کی نیابت کی اور الباجری نے ۳۳۳ھ کو نیابت سنبھالی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

احمد بن شیبانی:

ابن تغلب الشیبانی، آپ دمشق کے معمر مشائخ حدیث میں سے تھے، جو حدیث کی سند کو اس کے قائل تک پہنچاتے ہیں، آپ نے ۸۸ سال کی عمر میں صفر میں وفات پائی اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

یکتا فاضل:

شیخ جمال الدین ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن عبداللہ بن یحییٰ بن الشریش المالکی آپ شریفیہ میں ۶۰۱ھ میں پیدا ہوئے اور عراق کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں مشائخ اور القسیمی، ابن زوربہ اور ابن اللیشی وغیرہ سے سماع حدیث کیا اور حصول علم میں مصروف رہے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار بن گئے پھر مصر کی طرف واپس آئے اور الفاضلیہ میں پڑھایا پھر قدس میں شیخ الحرم بن کرا قامت کی پھر دمشق آئے اور ام الصالح کی تربت میں حدیث کی مشیخت اور اسیخ میں رباط ناصری کی مشیخت اور مالکیہ کی مشیخت سنبھالی اور آپ کو قضاء کی پیشکش کی گئی مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا اور آپ نے قاسیون میں ۲۴۳ھ کو سوموار کے روز رباط ناصری میں وفات پائی اور الناصریہ کے سامنے قاسیون کے دامن میں دفن ہوئے آپ کا جنازہ نہایت بھرپور تھا۔

۶۸۵ھ میں تہران میں وفات پائی اور آپ کی تصانیف میں سے المسابیح فی اصول الفقہ بھی ہے جو ایک مشہور کتاب ہے اور کئی لوگوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے اور آپ نے چار جلدوں میں التعمیر فی شرح نصی ہے اور الغایۃ القصصی فی مرایۃ العنوی اور شرح المغترب اور کئی فی الحقائق اور التولیع اور شرح الحمول بھی آپ کی تصانیف ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی تصانیف ہیں اور آپ نے وصیت کی آپ کو قسطنطین شہر ازی کے یہو میں تہران میں دفن کیا جائے۔ واندسجانہ معلم

۶۸۶ھ

کیم محرم کو صہیون اور قلعة برزیہ کے محاصرہ کے لیے فوجیں شام کے نائب حسام الدین لاجین کے ساتھ روانہ ہوئیں اور امیر سیف الدین سنقر الاشقر نے ان کو رکاوٹ کی مگر وہ مسلسل وہیں رہے حتیٰ کہ انہوں نے اسے اتار لیا اور اس نے ملک کو ان کے سپرد کر دیا اور وہ سلطان ملک منصور کی خدمت میں چلا گیا اور اس نے اکرام و احترام کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اسے ہدیہ ایک ہزار گھوڑے عطا کیے اور وہ منصور کی حکومت کے آخر تک معظم رہا اور یہ حالات ختم ہو گئے اور ۱۵ محرم کو جلال الدین خفی نے اپنے باپ حسام الدین الرازی کی نیابت میں فیصلہ کیا اور ۱۳ ربیع الاول کو قاضی شہاب الدین محمد بن القاضی شمس الدین بن الخلیل النحوی قاہرہ سے آ کر دمشق کا قاضی القضاة بن گیا اور ربیع الآخر کے آغاز میں جمعہ کے روز اس کی تقرری کا حکم نامہ پڑھا گیا اور وہ شرف الدین المقدسی کی نیابت پر قائم رہا اور ۳ شوال کو اتوار کے روز شیخ صفی الدین ہندی نے الرواحیہ میں درس دیا اور قضاة اور شیخ تاج الدین الفزاری اور علم الدین المریداری آپ کے پاس حاضر ہوئے اور برہان الدین خضر سجاری کے عوض تقی الدین عبدالرحمن ابن بنت الاعز قاہرہ کے قاضی بن گئے اور یہ اس سال کے صفر کے آغاز کی بات ہے۔

اور اس سال سیف الدین سامری کو دمشق سے دیار مصر کی طرف بلایا گیا تاکہ اس سے جزائر کا چوتھائی حصہ خریداجائے یہ وہ پانی ہے جسے اس نے ملک اشرف موسیٰ کی بیٹی سے خریدا تھا اور اس نے ان کو بتایا کہ یہ وقف ہے اور اس بارے میں علم الدین الشجاعی گفتگو کرنے والا تھا جو ایک ظالم شخص تھا اور منصور نے اسے دیار مصر میں نائب مقرر کیا تھا اور وہ مال حاصل کر کے اس کا قریب حاصل کرنے لگا اور ناصر الدین محمد بن عبدالرحمن المقدسی نے ان سے اختلاف کیا کہ دختر اشرف سے اسے سامری نے خریدا تھا اور وہ ایک بیوقوف عورت تھی اور اس نے ظالم اور جاہل زین الدین بن مخلوف کے سامنے اس کی بیوقوفی ثابت کر دی اور اس نے اصلاً بیع کو ہی باطل قرار دے دیا اور سامری کو بیس سال کی پیداوار کے دو لاکھ درہم واپس دلوائے اور انہوں نے اس سے الزنبقہ کا حصہ لے لیا جس کی قیمت ۸۰ ہزار تھی اور اسے گھروں کی سردی میں فقیر کر کے چھوڑ دیا پھر انہوں نے دختر اشرف کے رشد کو ثابت کیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے یہ حصہ خریدے پھر انہوں نے دماشقہ کو یکے بعد دیگرے بلانا چاہا اور وہ ان سے پر زور مطالبہ کرنے لگے اور یہ کام انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ جو شخص شام میں ظلم کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا اور جو مصر میں ظلم کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور اس کی مدت دراز ہوگی اور وہ فرعون اور ظلم کے علاقے کی طرف انہیں طلب کرتے تھے اور جو چاہتے تھے ان کے ساتھ کرتے تھے۔

اس سال میں وفات پائے والے اعیان

علامہ قطب الدین:

ابو بکر محمد بن شیخ نام ابو العباس احمد بن علی بن محمد بن الحسن بن عبداللہ بن احمد اکیوننی القصبی البوری المصری شہ المہللی الشافعی جو طلائع کے نام سے مشہور ہیں آپ قاہرہ کے دارالحدیث اکاملیہ کے شیخ تھے آپ ۶۸۳ھ کو پیدا ہوئے اور بغداد کی طرف کوچ کر گئے اور کثیر سے سماع کیا اور علوم حاصل کیے آپ شافعی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے تھے آپ نے طویل مدت تک مکہ میں قیام کیا پھر مصر چلے گئے اور دارالحدیث کی مشیخت سنبھالی آپ بہت خوش اخلاق اور لوگوں کو محبوب تھے آپ نے آخر محرم میں وفات پائی اور القرافۃ الکبریٰ میں دفن ہوئے اور آپ کے اشعار بھی بہت اچھے ہیں جن میں سے ابن الجزری نے ایک اچھے حصے کو بیان کیا ہے۔

عماد الدین:

محمد بن العباس الدیسری ماہر طبیب اور حاذق شاعر اس نے اکابر اور وزراء کی خدمت کی اور ۸۰ سال عمر پائی اور اس سال کے صفر میں دمشق میں وفات پائی۔

قاضی القضاة برہان الدین:

الخضر بن الحسن بن علی سجاری آپ نے دیار مصر میں کئی دفعہ فیصلہ (قضاء) سنبھالا اور وزیر بھی بنے آپ باوقار اور بازعب رئیس تھے اور آپ کے بعد تقی الدین بن بنت الاعز نے قضاء سنبھالی۔

شرف الدین سلیمان بن عثمان:

آپ مشہور شاعر ہیں اور آپ کا ایک دیوان بھی ہے آپ نے اس سال کے صفر میں وفات پائی۔

شیخ صالح عز الدین:

عبدالعزیز بن عبدالمنعم بن الصیقل الحرانی آپ ۵۹۳ھ کو پیدا ہوئے اور کثیر سے سماع کیا پھر مصر کو وطن بنا لیا اور وہیں ۱۳ رجب کو وفات پائی آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی اور جب حافظ علم الدین البرزالی نے ۶۸۳ھ میں مصر کی طرف کوچ کیا تو اس نے آپ سے سماع کیا اور آپ سے روایت کی کہ آپ بغداد میں ایک جنازہ میں شامل ہوئے تو گورکن نے ان کا پیچھا کیا اور جب رات ہوئی تو اس نے اس قبر کے پاس آ کر میت کو کھولا اور میت ایک نوجوان کی تھی جسے سکتہ ہو گیا تھا اور جب اس نے قبر کھولی تو یہ مردہ نوجوان اٹھ بیٹھا اور گورکن مردہ ہو کر قبر میں گر پڑا اور نوجوان اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور گورکن کو اس میں دفن کر دیا گیا اور آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں قلیوب میں تھا اور میرے آگے گندم کا ایک ڈھیر تھا پس ایک بھڑ آیا تو وہ ایک دانہ لے گیا پھر آیا دوسرا دانہ لے گیا پھر آیا اور تیسرا دانہ لے گیا اس نے چار بار ایسے ہی کیا آپ نے بیان کیا ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ان درختوں میں جو وہاں موجود تھے ایک اندھی چڑیا کے منہ میں دانہ ڈال رہا ہے اور راوی کا بیان ہے کہ شیخ عبدالکافی نے مجھے بتایا کہ آپ ایک دفعہ ایک جنازے میں شامل ہوئے اور ایک سیاہ فام غلام ہمارے ساتھ تھا اور جب

لوگوں نے اس کی تراز جلا کر مٹھی تو اس نے جلا کر دیکھا اور کہا اور کہنے لگا میں اس کا مثل ہوں پھر اس نے اپنے آپ کو اس میت کی قبر میں ڈال دیا آپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔
حافظ ابوالحسن

ابن الدین عبدالصمد بن عبدالعزیز بن ابی بن محمد بن ابی بن عبد اللہ شقی آپ نے ریاست و امانت کو ترک کیا اور تیس سال مکہ کے پڑوس میں ہجرت و زہادت کی طرف متوجہ رہے اور آپ کو شامیوں اور مصریوں میں قبولیت حاصل ہوئی اور آپ نے اس سال کی رجب کو مدینہ نبویہ میں وفات پائی۔

۶۸۷ھ

اس سال الشجاعی اس ارادے سے مصر سے شام آیا کہ وہ اہل شام کے مال داروں سے پر زور مطالبہ کرے گا اور ربیع الآخر کے آخر میں شیخ ناصر الدین عبدالرحمن المقدسی قاہرہ سے بیت المال کی سپردگی اوقاف کی دیکھ بھال اور خواص کی نگرانی کے لیے آیا اور اس کے پاس احکام اور خلعت بھی تھے پس لوگ اس کے دروازے پر گئے اور اس نے امور کے بارے میں گفتگو کی اور لوگوں کو ایذا دی اور اس کی امارت امیر علم الدین الشجاعی کی سفارت سے ہوتی تھی جو دیار مصر میں مستکلم تھا اس نے شیخ شمس الدین الایکی اور ابن الوحید کاتب کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کیا اور یہ دونوں اس کے ہاں ایک مقام رکھتے تھے اور اس نے اس سال کے آغاز میں اعیان دماشقہ کی ایک جماعت کو دیار مصر میں طلب کیا اور ان سے کثیر اموال کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کا دفاع کیا تاکہ وہ ان پر اپنا ظلم کم کرے اور اگر وہ ڈٹ جاتے تو ظالم کو جلد سزا ملتی اور جس کو وہ ناپسند کرتے تھے وہ جلد ان سے دور ہو جاتا اور جب ابن المقدسی دمشق آئے آپ ام صالح کی تربت پر فیصلے کرتے تھے اور لوگ آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ کے شر سے ڈرتے تھے اور آپ نے باب الفردیس میں اور باب الساعات میں گواہوں کے لیے چبوترے بنوائے اور باب الجابیہ شمالی کو ازسرنو بنایا اور اسے اونچا کیا اور وہ ہموار ہو چکا تھا اور آپ نے اس پل کو بھی درست کیا جو اس بازار کے نیچے تھا جسے دونوں جانب سے نئے سرے سے بنایا گیا تھا۔ اور یہ ابن المقدسی کا بہترین کام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بہت اذیت دینے والا اور ظالم و غاصب تھا اور لوگوں پر ظلم کے دروازے کھولتا تھا جن کے بیان کی ضرورت نہیں۔

اور ۱۰ جمادی الاولیٰ کو قاضی القضاة حسام الدین حنفی اور صاحب نفی الدین توبہ التمری اور قاضی القضاة جمال الدین محمد بن سلیمان الزدادی المالکی ساڑھے تین سال دمشق کے حاکم کے بغیر رہنے کے مالکیہ کے قاضی بن کر آئے اور آپ نے منصب کی علامات کو قائم کیا اور درس دیا اور مذہب کو پھیلایا اور آپ کو سیادت اور ریاست حاصل تھی۔

اور ۴ شعبان کو جمعہ کی رات کو ملک صالح علاء الدین بن ملک منصور قلا دون نے سطراریہ میں وفات پائی اور اس کے باپ کو اس کا بزرگم ہوا اور اس نے اپنے بعد اس کے لیے حکومت کی اور کئی سال کی مدت سے منابر پر اس کے لیے خطبے پورے تھے پس اس نے اسے اپنے بعد اس کے بیٹے اشرف خلیل کو ولی عہد مقرر کر دیا اور جمعہ کے دن اس کے باپ کے ذکر کے بعد منابر پر اس کے لیے

ظہر دیا اور خوشی کے شدماتے کے اور سات روز تک شراب و آرائشیں اور فرح نے خامت اپنے اور ماہری اور لوگوں نے اس کے تیرہویں پر اظہارِ خوشی کیا اور چچان کے ہونوں میں اس کے باپ کی وفات کا غم تھا کیونکہ اشجی نے اس پر ظلم کیا تھا اور رمضان میں شریف الدین ابن استبیر انوں کی جگہ اس کے شہزادے بن اسعد ہوئے۔ اس کی ایک سہیلی اور اس کی بیٹی میں مدراء مدین بن بعامت نے مقدس کے خطیب قطب الدین کی موت کے بعد قدس کی خطابت سنبھالی اور اس نے بعد ملا ذالمدین احمد بن القاسمی تاج الدین بنت الاعز نے القیمریہ کی تدریس کا کام سنبھالا اور رمضان میں ایک نصرانی نے حملہ کیا اور اس کے پاس ایک مسلمان عورت تھی اور وہ رمضان میں دن کے وقت شراب نوشی کر رہے تھے پس نائب سلطنت حسام الدین لاجین نے نصرانی کو جلانے کا حکم دیا اور اس نے اپنی جان کے بارے میں بہت سے اموال قربان کیے مگر اس نے انہیں قبول نہ کیا اور اسے سوق انجیل میں جلادیا گیا اور اس بارے میں شہاب محمود نے ایک شاندار قصیدہ تیار کیا اور اس عورت کو کوڑوں کی حد لگائی گئی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

قطب الدین خطیب:

ابوالزکا عبدالمعتم بن یحییٰ بن ابراہیم بن علی بن جعفر بن عبداللہ بن محمد بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف القرشی الزہری آپ چالیس سال بیت المقدس کے خطیب رہے اور آپ کبار صلحاء میں سے تھے اور لوگوں کو محبوب تھے خوبصورت بارعب اور شریف النفس تھے اور نماز فجر کے بعد محراب میں اپنے حفظ سے تفسیر بیان کرتے تھے آپ نے کثیر سے سماع کیا اور آپ نیک لوگوں میں سے تھے آپ ۶۰۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۷ رمضان منگل کی رات کو ۸۴ سال کی عمر میں وفات پائی۔

شیخ ابراہیم بن معصود:

بن شداد بن ماجد الجہری، تقی الدین ابواسحاق، آپ اصلاً قلعہ جبر سے تعلق رکھتے ہیں پھر آپ نے قاہرہ میں اقامت اختیار کی آپ لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے اور لوگ آپ کے کلام سے بہت فائدہ حاصل کرتے تھے آپ نے ۲۴ محرم کو ہفتہ کے روز قاہرہ میں وفات پائی اور الحسینیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ مشہور صلحاء میں سے تھے۔

شیخ لیس بن عبداللہ:

المقری الحجام محی الدین النووی کے شیخ الشیوخ آپ نے بیس حج کیے اور آپ کے احوال و کرامات بھی ہیں۔

الخوندہ غازیہ خاتون:

ملک منصور قلاوون کی بیٹی اور ملک سعید کی بیوی۔

الحکیم الرکیس علاؤ الدین:

بن ابی الحزم بن نفیس، آپ نے القانون ابن سنیا کی شرح کی اور الموز و غیرہ فوائد کو تصنیف کیا اور آپ اپنی یادداشت سے لکھا کرتے تھے اور آپ ابن الدخوری سے اشتغال کرتے تھے آپ نے ذوالقعدہ میں مصر میں وفات پائی۔

شیخ ابوالحسن

عبداللہ بن الشیخ جمال الدین بن ، مکہ نموی الفیہ کا شارح تھے اس کے باپ نے تالیف کیا تھا اور یہ بہترین شرح اور بہت فوائد کی حامل ہے اس لیے دین ہم شیعہ اور فاضل انسان تھے آپ نے ۸۰۰ھ ق.م کے واقعات پائی اور ۱۰۰۰ھ سے اس باب الفیہ میں لکھنے ہوئے۔ ۱۰۰۰ھ ق.م

۱۸۸ھ

اس سال طرابلس شہر فتح ہوا اور اس کی صورت یوں ہوئی کہ سلطان قلاوون فاتح مصری فوجوں کے ساتھ دمشق آیا اور ۱۳ رصفر کو اس میں داخل ہوا پھر وہ ان کے ساتھ اور دمشقی افواج اور بہت سے رضا کاروں کے ساتھ روانہ ہو گیا ان رضا کاروں میں حنابلہ کے قاضی نجم الدین جنبل اور قدس وغیرہ کے بہت سے آدمی بھی تھے سو اس نے طرابلس سے ربيع الاول کے آغاز میں جمعہ کے روز جنگ کی اور مجانبق کے ساتھ اس کا سخت محاصرہ کیا اور اس کے باشندوں کو سخت تنگی دی اور اس پر ۱۳ مجانبق نصب کر دیں اور جب ۴ جمادی الآخرة کو منگل کا دن آیا تو دن کے چوتھے پہر طرابلس بڑو توت فتح ہو گیا اور اس کے سب باشندوں پر قتل و قید حاوی ہو گئی اور المیناء کے بہت سے باشندے غرق ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ذخائر پر قبضہ کر لیا گیا جو ۵۰۳ھ سے لے کر آج کے دن تک فرنگیوں کے قبضے میں چلے آتے تھے اور اس سے قبل حضرت معاویہ کے زمانے میں وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور سفیان بن نجیب نے اسے حضرت معاویہ کے لئے فتح کیا تھا اور حضرت معاویہ نے یہود کو اس میں آباد کیا اور عبدالملک بن مروان نے اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اسے مضبوط کیا اور مسلمانوں کو اس میں آباد کیا اور وہ پر امن آباد اور پرسکون ہو گیا اور وہاں پر مصر و شام کے پھل تھے اور وہاں اخروٹ، کیلے، برف، گھاس اور رواں پانی تھے جو بلند جگہوں کی طرف چڑھتے تھے اور اس سے قبل وہ تین شہر تھے جو قریب قریب تھے پھر یہ ایک شہر بن گیا پھر اسے اس کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہو گا جب خوشخبری دمشق پہنچی تو خوشی کے شادیاں بے جے اور شہر آراستہ کیا گیا اور لوگوں نے بڑی خوش منائی۔

پھر سلطان ملک منصور قلاوون نے شہر کی عمارات، مکانات اور اس کی مضبوط فیصلوں کو گرانے کا حکم دے دیا اور یہ حکم بھی دیا کہ اس سے ایک میل کے فاصلے پر ایک اور شہر تعمیر کیا جائے جو اس سے خوبصورت اور مضبوط ہو تو ایسے ہی کیا گیا اور یہی وہ شہر ہے جسے طرابلس کہا جاتا ہے پھر وہ مظفر و منصور اور مسرور ہو کر واپس آیا اور ۱۵ جمادی الآخرة کو اس میں داخل ہوا لیکن اس نے تمام امور اور اموال کے بارے میں گفتگو کرنے کا کام علم الدین الشجاعتی کے سپرد کر دیا اور اس کی وجہ سے مخلوق کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ بہت برا کام تھا۔

بلاشبہ یہ ظالم کی تباہی اور ہلاکت ہے مگر منصور کو ان اموال نے کچھ فائدہ نہ دیا جو الشجاعتی نے اس کے لیے جمع کیے تھے اور وہ اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بستیوں کی طرح پکڑ لیا جیسا کہ ابھی بیان ہو گا پھر سلطان نے ۲ شعبان کو اپنی فوج کے ساتھ دیا مصر کو سفر کیا اور آ خر شعبان میں اس میں داخل ہوا اور اس سال حلب، کرکڑ کی جانب اور ان نواح میں بہت سے قلعے فتح ہوئے اور تاریخوں کی ایک جماعت کو شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ خربند جو مصلیہ پر تاتاریوں کا نائب تھا

اس نے اتے باکر مارا پھر اسے شفا خانے لے جانے کا حکم دیا اور وہ اس میں ایک سال رہا پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔

شمس الدین ابوبانی:

شرح المحصلات: محمد بن محمد، بن محمد بن عبدالمطلب، السدائی العالم، آپ ۶۵۰ھ کے بعد دمشق آئے اور فقہانے مناظرہ کیا اور آپ نے فضائل مشہور ہوئے آپ نے سمان حدیث کیا اور رازی کی المصنوع کی شرح کی اور چار فنون میں تو اعدا کھے اصول فقہ اصول دین منطق اور خلاف میں آپ کو منطق نحو اور ادب کی اچھی واقفیت تھی اور آپ نے مصر کی طرف سفر کیا اور حنین اور شامی کے مزار وغیرہ پر پڑھایا اور طلبہ کی طرف سفر کیا آپ نے ۲۰ کو ۲۰ سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پائی۔

شمس محمد بن العفیف:

سلیمان بن علی بن عبد اللہ بن علی اللخسانی، زبردست شاعر، اس کی وفات اپنے باپ کی زندگی میں ہوئی تو اسے اس کا الم ہوا اور اس کا بہت غم کیا اور بہت سے اشعار میں اس کا مرثیہ کہا اور اس نے ۱۳۰۰ھ کو بدھ کے روز وفات پائی اور جامع میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور صوفیہ میں دفن ہوئے آپ کے شاندار اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اس کے دانت اس کے چاند کے لیے ستارے ہیں اور وہ حسن کے ہار کے لیے موتی ہیں اور اس کی کمر کتنی دور رہی اور وہ کمزور تھا اور اس کے دانت کس قدر شیریں ہیں اور وہ ٹھنڈا ہے۔“

اور وہ بھنگ کی مذمت کرتا ہوا کہتا ہے۔

”بھنگ پینے والے کے نزدیک اس کی کوئی خوبی نہیں ہے لیکن وہ اپنے رشد کی طرف پھرنے والی نہیں ہے اس کے چہرے میں زردی ہے اس کے منہ میں سبزی ہے اس کی آنکھ میں سرخی ہے اور اس کے جگر میں سیاہی ہے۔“

اور اس کا شعر ہے:

”اس کا چہرہ اس کے رخسار کی باریکی پر نمایاں ہوا اور وہ زلفوں کی سیاہی میں چمکا اور میں نے کہا عجیب بات ہے تاریکی کیسے نہیں مٹے گی جب کہ نیزے پر سورج طلوع ہو چکا ہے۔“

اور اس کا شعر ہے۔

”میرے نزدیک تو اور لچکدار نیزہ برابر ہیں اسے ہوا حرکت دیتی ہے اور تو محبت کو حرکت دیتا ہے۔“

ملک منصور شہاب الدین:

محمود بن ملک صالح اسماعیل بن عادل آپ نے ۱۸ شعبان کو منگل کے روز وفات پائی اور جامع میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور اسی روز آپ کو اپنے دادا کے قبرستان میں دفن کیا گیا آپ نے کثیر سے حدیث کا سماع کیا اور آپ اہل حدیث سے محبت کرتے تھے اور آپ میں نرمی اور تواضع پائی جاتی تھی۔

شیخ فخر الدین ابو محمد:

عبدالرحمن بن یوسف بعلبکی حنبلی، دارالحدیث نوریہ اور ابن عروہ کے مزار کے شیخ الحدیث اور الصدیقیہ کے شیخ، آپ فتویٰ

دیتے تھے اور دیانت اصلاح، زہادت، اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو افاقہ کرتے تھے آپ ۶۱۱ھ کو فوت ہوئے اور اس سال کے ربیع میں وفات پانگئے۔

۶۸۹ھ

اس سال ملک منصور قلا دون کی وفات ہوئی اور الخاقم عباسی خلیفہ اور مصر کا نائب حسام الدین طرقتانی اور شام کا نائب حسام الدین لاجین اور شام کے قضاة شہاب الدین بن الخوی الشافعی حسام الدین حنفی، نجم الدین بن شیخ الجبل اور جمال الدین الزدادی المالکی تھے اور جب اپنی شمس الدین سنقر الاشقر کو تلاش کرتا ہوا دیار مصر آیا تو سلطان نے اس کی عزت کی اور اس کے ہاتھ کو مضبوط کیا اور اسے اموال حاصل کرنے کا حکم دیا اور اسے فوجوں کو مزید مضبوط کرنے اور البیرہ اور کشا وغیرہ کے قلعوں کے متعلق گفتگو کرنے کا حکم دیا پس اس کا دل مضبوط ہو گیا اور اس کی سختی میں اضافہ ہو گیا لیکن وہ مروءت اور حیا کی طرف رجوع کرتا تھا اور جو شخص آپ کی طرف منسوب ہوتا تھا اسے فائدہ دیتے تھے اور یہ تھوڑے دنوں میں دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا، اور جمادی الآخرة میں ناصر الدین المقدسی وکیل بیت المال اور ناظر الخالص کی تحقیق کا حکم لے کر اپنی آیا اور اس کے اوقاف وغیرہ کے کھانے کی رسوائیاں نمایاں ہو گئیں پس اس نے العذر راویہ کا حکم لکھا اور اس سے ان اموال کا مطالبہ کیا گیا اور اسے تنگ کیا گیا اور سیف الدین ابوالعباس سامری نے ایک قصیدہ بنایا جس میں اس نے اس کے ظلم و ایذاء سے شہنشاہ حاصل کی اور اس کے باوجود وہ اس کے پاس گیا اور اس کے لیے غمگین ہوا اور دونوں نے وہاں خوش طبعی کی پھر اپنی اسے دیار مصر کی طرف لانے کے لیے آیا تو نابین اس کے جانے سے خوفزدہ ہوئے اور جمعہ کی صبح کو اسے مدرسہ الغد راویہ میں پھانسی دے دی گئی اور قضاة اور شہود کو طلب کیا گیا تو انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا پھر اسے تیار کیا گیا اور جمعہ کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا اور قبرستان صوفیہ میں اسے اپنے باپ کے پاس دفن کر دیا گیا اور وہ دو کالتوں اور نگہداشت کے ساتھ ساتھ الرواحیہ اور مزارام الصالح میں مدرس بھی تھا۔

اور اپنی آیا کے حصا عسکا کے لیے جانیق تیار کی جائیں، سوا العصر بعلبک کے علاقے کی طرف گیا کیونکہ وہاں ایسی بڑی بڑی لکڑیاں ہیں جن کی مانند دمشق میں لکڑیاں نہیں پائی جاتیں اور وہ اس کام کے مناسب حال ہیں پس گناہ خراج اور بے گار زیادہ ہو گئی اور لوگوں نے بہت مشقت اٹھائی اور انہوں نے ناپسندیدہ لوگوں کو پکڑ لیا اور انہیں بڑی تکلیف اور سختی کے ساتھ دمشق کی طرف لایا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

ملک منصور قلا دون کی وفات:

لوگ ابھی اسی غم اور پرزور مطالبات اور اس قسم کی باتوں میں مبتلا تھے کہ اپنیوں نے آ کر اس سال کی ۶ رذوالقعدہ کو ہفتے کے روز ملک منصور کی وفات کی خبر دی کہ وہ قاہرہ کے باہر الخیم میں فوت ہو گیا ہے پھر رات کو اسے اٹھا کر قلعہ جبل میں لایا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ملک اشرف خلیل اس کا ولی عہد بن بیٹھا کیونکہ اس نے اسے اپنا ولی عہد بنایا تھا اور تمام امراء نے اس سے عہد و پیمانہ کیا اور منابر پر اس کا خطبہ دیا گیا اور وہ شاہانہ شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور تمام افواج قلعہ جبل سے میدان اسود کی طرف جیسے سوق الخلیل کہتے ہیں اس کی خدمت میں بیادہ چلیں اور امراء اور پیشرووں اور قضاة و اعیان خلعت پہنے ہوئے تھے اور جب اس کے متعلق

اطلاعات آئیں تو امراء شام نے اس سے عہد و پیمانہ کیا اور اس نے اپنے باپ کے نائب حسام الدین طرغتمش کو گرفتار کر لیا اور اس سے بہت سے احوال لے لیے جن میں سے کچھ احوال و انوائج پر ترجیح ردیاء۔

اور اس سال ہمال الدین بن عبد الکاظمی کی بجائے، دمشق کی خطاست زین الدین محمد بن علی بن المرسل نے سنجالی اور یہ کام آلا مسرکی مدد سے ہوا اور ناصر الدین بن المقدسی کی بجائے جامع کی تعمیر اشت کا کام رئیس وجیہ الدین بن امینی الحسنی نے سنجالا اور اس نے اس کے وقت کو بڑھایا اور آباد کیا اور وہ ایک لاکھ پچاس ہزار سے بڑھ گیا اور اس سال حماة کے حکمران کا گھر جل گیا اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ اس کی غیر حاضری میں آگ لگ گئی اور کسی نے گھر میں داخل ہونے کی جسارت نہ کی اور آگ اپنا کام کر گئی اور گھر اپنے تمام ساز و سامان سمیت جل گیا۔

اور شوال میں ابن المقدسی کے بعد قاضی امام الدین قونوی نے مزارام الصالح میں پڑھایا اور اس سال حسین بن احمد بن شیخ ابی عمر نے اپنے عمز ادجم الدین بن شیخ الجبل کی بجائے اشرف کو سنجالا اور اس کا حکم منصور نے اپنی وفات سے قبل دیا تھا اور اس سال شام کے لوگوں کو امیر بدر الدین بکتوت الدباسبی نے حج کروایا اور قاضی القضاة شہاب الدین بن الخوی اور شمس الدین بن السلعوس اور قافلے کے لیڈر امیر عتبہ نے حج کیا اور ابونبی کو اس سے وہم ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان عداوت تھی سو اس نے مکہ کے دروازے بند کر دیئے اور لوگوں کو ان میں داخل ہونے سے روک دیا پس اس نے دروازے کو جلا دیا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور بعض جگہوں کو لوٹ لیا اور قبیح مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر انہوں نے فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے قاضی ابن الخوی کو بھیجا اور جب وہ ابی نعی کے پاس ٹھہرا تو سوار کوچ کر گیا اور وہ حرم میں اکیلا ہی رہ گیا اور ابونبی نے اس کے ساتھ آدمی بھیجا جس نے اسے سلامتی اور عزت کے ساتھ ان کے ساتھ ملا دیا اور منصور کی موت کی خبر لوگوں کے پاس عرفات میں پہنچی اور یہ ایک عجیب بات ہے اور ایک خط آیا جس میں وزیر ابن السلعوس کو اس بات پر آمادہ کیا گیا تھا کہ وہ دیار مصر کی طرف آئے اور بین السطور ملک اشرف کی تحریر تھی کہ اے شقیر اے روئے مبارک آ کر وزارت حاصل کر دے وہ قاہرہ کی طرف گیا اور ۱۰ محرم کو منگل کے روز وہاں پہنچا اور سلطان کے فرمان کے مطابق وزارت حاصل کی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

سلطان ملک منصور قلا دون:

ابن عبد اللہ التریکی الصالحی الافنی، اسے ملک صالح نجم الدین ایوب بن مالک کامل محمد بن عادل ابی بکر بن ایوب نے دو ہزار دینار میں خریدا تھا اور یہ اس کے ہاں اور اس کے بعد کارامراء میں سے تھا اور جب ملک سعید بن الظاہر نے اس کی بیٹی غازیہ خاتون سے نکاح کیا تو الظاہر کے ہاں اس کی عزت بہت بڑھ گئی اور یہ حکومت میں مسلسل ترقی کرتا رہا حتیٰ کہ سلامش بن الظاہر کا اتالیق بن گیا پھر اس نے اسے قرا بتداری سے بلند کر دیا اور ۶۸۳ھ میں وہ خود مختار بادشاہ بن گیا اور اس نے ۶۸۸ھ میں طرابلس کو فتح کیا اور عسک کے فتح کرنے کا بھی عزم کیا اور اس کی طرف گیا مگر ۲۶ رذوالقعدہ کو جلد ہی موت نے اسے آیا اور اسے اس کے عظیم مدرسہ کی

قبر میں دفن کیا گیا جسے اس نے دو مقامات کے درمیان تعمیر کیا تھا اور دیار مصر و شام میں اس کی مانند کوئی مدرسہ نہیں ہے اور اس میں دارالحدیث اور شفاخانہ تھی ہے اور اس کے بہت سے وقف تھے ہیں اس نے تقریباً ۶۰ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کی مدت حکومت ۱۳ سال تھی اور وہ خوب اور باعرب تھا اور وہ سلطنت کی شان و شوکت اور شان و بزمیت کا حامل تھا اور قبر پر اندازاً وہی خوبصورت بلند ہمت بہادر اور باوقار تھا اللہ اس سے درنذر کرے۔

امیر حسام الدین طرقتائی:

مصر میں منصوری حکومت کا نائب اشرف نے اسے گرفتار کر کے قلعہ جبل میں قید کر دیا پھر اسے قتل کر دیا اور یہ آٹھ دن وہیں پڑا رہا اور اس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا پھر اسے چٹائی میں لپیٹ کر کوزی پر پھینک دیا گیا اور بعض لوگوں نے اس کا غم کیا اور بڑی آسودگی اور کشائش دنیوی اور چلتی بات کے بعد اسے ایک فقیر کی طرح کفن دیا گیا اور سلطان نے اس کے ذخائر سے چھ لاکھ دینار اور ستر مصری قطار چاندی لی اور گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، ساز و سامان، شاندار قالینوں قیمتی ہتھیاروں اور ان کے علاوہ مصر و شام میں جو املاک و ذخائر تھے ان کے سوا بہت سے جواہرات لیے اور اس نے دو بیٹے چھوڑے ان میں سے ایک نابینا تھا اور یہ نابینا اشرف کے پاس آیا اور اپنے منہ پر رومال رکھ کر کہنے لگا اللہ کے واسطے کوئی چیز دو اور اس نے اسے بتایا کہ کئی روز سے ان کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تو اسے ترس آیا تو اس نے فوراً انہیں املاک دے دیں اور وہ ان کی پیداوار سے کھاتے تھے پس پاک ہے وہ اللہ جو اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔

علامہ رشید الدین:

عمر بن اسماعیل بن مسعود الفارقی الشافعی، آپ الظاہریہ کے مدرس تھے وہیں آپ نے وفات پائی آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی، محرم میں آپ کا گلگھونٹ دیا گیا اور صوفیہ میں دفن ہوئے اور آپ نے سماع حدیث کیا اور آپ علوم کے بہت سے فنون میں یکتا تھے جیسے علم نحو، ادب، ترجمہ، کتابت، انشاء، فلکیات، نجوم اور رمل و حساب وغیرہ میں، اور آپ کی نظم بھی بہت اچھی ہے۔

خطیب جمال الدین ابو محمد:

عبدالکافی بن عبدالملک بن عبدالکافی الربعی، آپ نے دارالخطابت میں وفات پائی اور جمادی الاولیٰ کے آخر میں ہفتہ کے روز لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور آپ کو دامن کوہ میں لے جا کر شیخ یوسف الفقاعی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

فخر الدین ابوالظاہر اسماعیل:

ابن عز القضاة ابی الحسن علی بن محمد بن عبدالواحد بن ابی الیمن شیخ درویش اور متاع دنیوی کو کم سمجھنے والا، آپ نے ۲۰ رمضان کو وفات پائی اور جامع میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور بنی الزکی کے قاسیون کے قبرستان میں محی الدین ابن عربی کی محبت میں دفن ہوئے، آپ ہر روز ان کے کلام سے دو ورق اور حدیث کے دو ورق لکھا کرتے تھے اور اس کے باوجود ان سے حسن ظن رکھتے تھے اور آپ جامع میں سب آئمہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور بعض علماء نے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ نے ان کی تحریر میں لکھا ہوا دیکھا کہ ”ہر چیز میں اس کا ایک نشان ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کی بین ہے اور اس نے ”اس کے عین کو“ صحیح

قراردات سے۔

اور جس نے یہ شعر پڑھا ہے اس سے صحیح طور پر یہ مروی ہے کہ
وہ اتنا اس امر پر دلاتا کرتا ہے کہ وہ واحد ہے۔

اور آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”اور دریا جب سے شافوں میں چھپا ہے نیچے کی طرف گیا ہے اور وہ اس کے دل میں ان کا نمونہ بن گیا ہے اور نسیم نے
اس سے غیرت کھائی ہے جو اس کی عاشق ہے اور وہ انہیں اس کے وصل سے ہٹانے لگی ہے۔“

پھر کہتا ہے۔

”جب تمہارے اوپر امکان کا ثبوت ہو گیا اور اس کا حکم عالم صور میں ظاہر ہو گیا تو اس نے جمع کو اپنے سے الگ کر دیا اور
وہ یکتا ہے اور عالم صور میں تمہارا فرق ظاہر ہو گیا۔“

پھر کہتا ہے۔

”میں اپنے سرداروں کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا وہ میرے مفہوم کا عین اور میرے جوف کا عین ہیں اور انہوں نے
میرے ہر جز کا احاطہ کر لیا ہے اور میری نگاہ کے پانے سے تسلی پالی ہے انہوں نے میرے فقر کے عموم میری ذلت کے
طول اور میری کمزوری کی زیادتی میں غور کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے محض سخاوت، نیکی اور مہربانی کا معاملہ کیا ہے اور
اگر میں نے ان پر فخر کرتے ہوئے اپنے دامن کو گھسیٹا ہے یا اپنے کندھے کو موڑا ہے تو تو ملامت نہ کر۔“

پھر کہتا ہے۔

”خدائے ذوالجلال کے پے در پے عطیات نے مجھے گونگا کر دیا ہے اور وہ شکر سے بولتے ہیں اور نعمت کے بعد نعمت اور
بشارت کے بعد بشارت حاصل ہوئی ہے ان کا آغاز تو ہے لیکن ان کی انتہاء کوئی نہیں اور ان نعمتوں کا مزید حصہ دنیا اور
آخرت کو ڈھانپ لے گا۔“

الحاج طہیرس بن عبداللہ:

علاء الدین وزیر ملک الظاہر کا داماد یہاں کا برامرائے صل و عقد میں سے تھا اور دیندار اور بہت صدقہ و خیرات کرنے والا تھا اور
دشمن میں اس کی ایک سررائے تھی جسے اس نے وقف کیا تھا اور اس نے قیدیوں وغیرہ کو بھی چھڑایا اور اس نے اپنی موت کے وقت
وصیت کی کہ تین لاکھ درہم شام اور مصر کے سپاہیوں پر خرچ کیے جائیں اور ہر سپاہی کو پچاس درہم ملے اور اس کی وفات ذوالحجہ میں
ہوئی اور مقطم کے دامن میں اپنی قبر میں دفن ہوا۔

قاضی القضاة نجم الدین:

ابوالعباس بن شیخ شمس الدین بن ابی عمر المقدسی آپ نے ۱۲۰۲ھ میں وفات پائی اور آپ یکتا فاضل، خطیب اور اکثر
مدارس کے مدرس تھے اور شیخ الحنا بلہ اور ان کے شیخ کے بیٹے تھے اور آپ کے بعد شیخ شرف الدین حسین بن عبداللہ بن ابی عمر نے قضاة

۶۹۰ھ

اس سال عساکر اور سواحل کے علاقہ ہونئی مدت سے فریبیوں کے قبضے میں تھا فتح ہوا اور اس میں ان کا ایک پتھر جمی باقی نہ رہا۔

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ ابو العباس عباسی خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک اشرف خلیل بن منصور قلا دون تھا اور مصر اور اس کے مضافات میں بدر الدین بیدر اس کا نائب تھا اور ابن السلعوس صاحب شمس الدین اس کا وزیر تھا اور شام میں حسام الدین لاجین السلحداری المنصوری اس کا نائب تھا اور شام کے وہی قضاة تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور یمن کا حکمران ملک مظفر شمس الدین یوسف بن المنصور نور الدین عمر بن علی بن رسول تھا اور مکہ کا حکمران نجم الدین ابونوی محمد بن ادریس بن علی بن قنادر الحسینی تھا اور مدینہ کا حکمران عز الدین جماز بن شیبہ الحسینی تھا اور روم کا حکمران غیاث الدین کبکھر تھا اور وہ رکن الدین قح ارسلان سلجوقی کا بیٹا تھا اور حماة کا حکمران تقی الدین محمود بن ملک منصور ناصر الدین محمد بن ملک مظفر تقی الدین محمد تھا اور بلاد عراق وخراسان اور ان نواح کا سلطان ارغون بن ابغابن ہلاکو بن تولی بن چنگیز خان تھا۔

اور اس سال کا آغاز جمعرات کے روز سے ہوا اور اس میں ملک منصور کی طرف سے سونے اور چاندی کے بہت سے اموال صدقہ دیئے گئے اور جمعرات کی رات کو سلطان کو اس کی تربت میں اتارا گیا اور وہیں گنبد کے نیچے اسے دفن کیا گیا اور بدر الدین بیدر اور علم الدین الشجاعی شمس الدین بن السلعوس حجاز سے آیا تو اسے خلعت وزارت دیا گیا اور اس کا حکم قاضی محی الدین بن عبدالظاہر کا تب انشاء نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور وزیر شہان وزارت کے ساتھ سوار ہو کر اپنے گھر آیا اور واپس گیا اور جب جمعہ کا دن آیا تو اس نے شمس الدین سنقر الاشقر اور سیف الدین بن جرک ناصر کی کو گرفتار کر لیا اور امیر زین الدین کتبغا کو رہا کر دیا اس نے اسے طرف قسانی کے ساتھ گرفتار کیا تھا اور اس کی جاگیریں بھی اسے واپس کر دیں اور اتقی تو بہ کو دوسری بار دمشق کی وزارت دے دی گئی اور اس سال ابن النحوی نے ایک مختصر نامہ لکھا جس میں تحریر تھا کہ انصاریہ کی تدریس قاضی الشافعی کے سپرد کر دی جائے اور اس نے اسے زین الدین الفارقی سے چھین لیا۔

عسکا اور سواحل کے بقیہ علاقے کی فتح:

اور اس سال ربیع الاول کے شروع میں دمشق کی طرف اپنی آیا کہ عسکا کے محاصرہ کے لیے سامان تیار کیا جائے اور دمشق میں اعلان کر دیا گیا کہ راہ خدا میں جنگ کرنے والے عسکا کی طرف روانہ ہو جائیں اور اس وقت اہل عسکا نے ان مسلمان تاجروں پر حملہ کر دیا جو ان کے پاس موجود تھے اور انہیں قتل کر دیا اور ان کے اموال قابو کر لیے پس الجسورہ کی جانب مجانبق کونکا لایا اور عوام اور رضا کا زحمتی کہ فقہا مدرسین اور صلحاء بھی دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ان کے سابقہ کی امارت علم الدین الریداری نے سنبھالی اور فوجیں نائب شام کے آگے آگے نکلیں اور وہ ان کے آخر میں نکلا اور حماة کا حکمران ملک مظفر بھی اس کے ساتھ آ ملا اور لوگ ہر جانب سے نکل آئے اور طرابلس کی فوج بھی ان کے ساتھ آ ملی اور اشرف بھی عسکا جانے کے لیے دیار مصر سے اپنی افواج کے ساتھ

نکا اور وہاں یہ فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں اور اس نے ہر بیخ الاخر کو جمعرات کے روز اس سے جنگ کی اور اس کی ہر جانب جہاں پر مجاہدین تھے جانیق تھا جانیق کو نصب کر دیا اور اس سے جنگ کرنے اور اس کے باشندوں کو تنگ کرنے میں انتہائی کوشش کی اور لوگ ہوا میں صحیح بخاری کو پر سے کے لیے اکٹھے ہوئے اور شیخ شرف الدین الغزالی نے اسے پرھا اور قصہ، نسا، اور ایمان حاضر ہوئے اور عسک کے محاصرہ کے دوران نائب شام حسام الدین کی طرف سے تڑبڑ ہوئی اسے وہم ہوا کہ سلطان اسے پکڑنا چاہتا ہے اور اسے اس بات کی اطلاع امیر ابوخرص نے دی تھی پلے و سوار ہو کر بھاگ گیا اور ظم الدین الریدیاری نے اسے المسامیں واپس کیا اور اسے سلطان کے پاس لے آیا تو اس نے اس کے دل کو خوش کر دیا اور اس نے اسے خلعت دیا پھر تین دن کے بعد اس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے قلعہ صمد کی طرف بھیج دیا اور اس کے ذخائر کی نگرانی کی اور اس کے گھر کے استاد بدر الدین بکد اش کو لکھا اور ایسا معاملہ ہوا جس کا وہاں پر ہونا مناسب نہ تھا جب کہ وہ وقت تنگی، تکلیف اور محاصرے کا تھا اور سلطان نے محاصرہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور تین سو بوجھوں کے لیے ڈھول مقرر کیے پھر وہ ۷ جمادی الاولیٰ کو جمعہ کے روز دھیرے دھیرے روانہ ہوا اور طلوع آفتاب کے وقت یکبارگی ڈھول بجے اور آفتاب کے طلوع ہوتے ہی مسلمان فیصلوں پر چڑھ گئے اور شہر کی فیصلوں پر اسلامی جھنڈے نصب کر دیئے گئے اور اس موقع پر فرنگی پیٹھ پھیر گئے اور تاجروں کی کشتیوں میں بھاگتے ہوئے سوار ہوئے اور ان میں سے اتنی تعداد کو قتل کیا گیا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے بہت سامتاع، غلام اور سامان تجارت غنیمت میں حاصل کیا اور سلطان نے اسے اس طرح گرانے اور برباد کرنے کا حکم دیا کہ اس کے بعد اس سے فائدہ نہ اٹھایا جاسکے پس اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اس پر اسی طرح فتح دی جیسے فرنگیوں نے اسے مسلمانوں سے جمعہ کے دن ہی حاصل کیا تھا اور صورت اور صیدانے اپنی قیادت، اشرف کے سپرد کر دی، اور ساحل، مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور کافروں سے پاک ہو گیا اور ظالموں کی بیخ کنی ہو گئی۔

والحمد للہ رب العالمین

اور اس کے متعلق دمشق خط آیا تو مسلمان خوش ہو گئے اور بقیہ قلعوں میں بھی خوشی کے شادیاں بچے اور شہروں کو آراستہ کیا گیا تاکہ دیکھنے والے اور خوش ہونے والے ان میں سیر کریں اور سلطان نے صورت کی طرف ایک امیر بھیجا جس نے ان کی فیصلوں کو گرا دیا اور اس کے نشان کو مٹا دیا اور وہ ۵۱۸ھ سے فرنگیوں کے قبضے میں تھا اور عسک کو ملک ناصر یوسف بن ایوب نے فرنگیوں کے قبضے سے حاصل کیا تھا پھر فرنگیوں نے آ کر بہت سے افواج کے ساتھ اس کا گھیراؤ کر لیا پھر صلاح الدین ۳۷ ماہ انہیں اس سے روکنے کے لیے آیا پھر آخر کار انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور جو مسلمان اس میں موجود تھے انہیں قتل کر دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

پھر سلطان ملک اشرف خلیل بن منصور قلاوون شہانہ شوکت اور بڑی عزت کے ساتھ عسک سے دمشق گیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر ابن السلوس اور فاتح افواج بھی تھے اور اس روز اس نے امیر علم الدین سنجر الشجاعی کو شام کا نائب مقرر کیا اور دار السعادت میں ٹھہرا اور اس نے اس کی جاگیر میں حرستا کا اضافہ کر دیا اور اس نے کسی دوسرے کو جاگیر نہ دی اور یہ قلعہ کے ذخائر کے مصالح کے لیے تھا اور اس نے اس کے لیے ہر روز تین سو درہم باورچی خانے کے لیے مقرر کیے اور اسے اختیار دیا کہ وہ خزانہ سے جو چاہے بغیر مشورہ اور گفتگو کے دے دے اور سلطان نے اسے صید کی طرف بھیجا کیونکہ وہاں ایک نافرمان قلعہ باقی رہ گیا تھا پس اس

نے اسے فتح کیا اور اس کو وہاں سے خوشی کے شادمانے بیچ گئے پھر وہ جلدی سے سلطان کی طرف واپس آیا اور اسے الوداع کہا اور آخر رجب میں سلطان دیار مصر کی طرف روانہ ہوا اور اس نے اسے بیروت کی طرف سے فتح کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے اس کی طرف جا کر نہایت تموزے وقت میں اسے فتح کر لیا اور علیہ الظرموس اور ہمیں نے فرمانبرداری اختیار کر لی اور خدا نے فضل سے سواحل میں فرنگیوں کا جو بھی قلعہ باقی بچا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے عبادو بلاد کو ان سے راحت دی اور ۹ شعبان کو سلطان بڑی شان و شوکت کے ساتھ قاہرہ آیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس نے بدر الدین بیسری کو سات سال کی قید کے بعد رہا کر دیا اور مذکورہ مہینے کی ۲۷ تاریخ کو علم الدین سنجر الشجاعی نائب دمشق واپس آ گیا اور اس نے سواحل کو فرنگیوں سے کلیتہً پاک کر دیا اور ان کا وہاں ایک پتھر بھی نہ رہا اور ۳ رمضان کو اس نے حسام الدین لاجین کو قلعہ صفد سے رہا کر دیا اور اس کے ساتھ امراء کی ایک جماعت بھی تھی اور ان کی جاگیریں انہیں واپس کر دیں اور ان سے حسن سلوک کیا اور ان کا اکرام کیا۔

اور رمضان کے اوائل میں اس نے قاضی بدر الدین ابن جماعت کو قدس شریف سے بذریعہ اپنی دیار مصر طلب کیا اور وہ وہاں کا حاکم اور خطیب تھا اور وہ ۱۴ رمضان کو مصر آیا اور اس شب اس نے وزیر ابن السلعوس کے ہاں روزہ افطار کیا اور اس نے اس کا بہت اکرام و احترام کیا اور وہ جمعہ کی شب تھی اور وزیر نے تقی الدین ابن بنت الاعز کے معزول کرنے اور دیار مصر میں ابن جماعت کے قاضی القضاة مقرر کرنے کی صراحت کی اور قضاة اسے مبارکباد دینے آئے اور صبح کو گواہ اس کی خدمت میں آئے اور قضاة کے ساتھ جامع ازہر کی خطابت اور الصالحیہ کی تدریس بھی اس کے سپرد کی اور وہ خلعت اور سبز چادر کے ساتھ سوار ہوا اور اس نے بقیہ قضاة کو حکم دیا کہ وہ سبز چادروں کے پہننے پر قائم رہیں اور اس نے جا کر جامع ازہر میں خطبہ دیا اور الصالحیہ کی طرف آ گیا اور دوسرے جمعہ کو وہاں درس دیا اور وہ ایک بھر پور درس تھا اور جب جمعہ کا دن آیا تو سلطان نے حاکم بامر اللہ کو حکم دیا کہ وہ خود اس دن لوگوں سے خطاب کرے اور اپنے خطبہ میں بیان کرے کہ اس نے اشرف ضلیل بن منصور کو سلطنت کا منتظم مقرر کیا ہے اور اس نے سیاہ خلعت زیب تن کیا اور اس نے لوگوں کو وہ خطبہ دیا جو اس نے حکومت ظاہریہ میں دیا تھا اور وہ خطبہ شیخ شرف الدین المقدسی کا وضع کردہ تھا جو اس نے ۶۶۰ھ میں تیار کیا تھا اور دونوں خطبوں کے درمیان تیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اور یہ جامع قلعہ جبل میں ہوا پھر ابن جماعت قلعہ میں سلطان کے پاس خطبہ دینے لگا اور وہ جامع ازہر میں نائب مقرر کرتا تھا۔

اور ابن بنت الاعز کو وزیر نے دہشت زدہ کیا اور اس سے پراصرار مطالبہ کیا اور اس کی بڑی بے عزتی کی اور اس کا کوئی منصب نہ چھوڑا اور اس کے قبضے میں سترہ منصب تھے جن میں قضاہ خطابت اوقاف کی نگہداشت مشیخ الشیوخ، خزانہ کی نگرانی اور بڑوں کو پڑھانا شامل ہے اور اس نے اس سے اس کی سواریوں اور دیگر بہت سی چیزوں کے سوا تقریباً چالیس ہزار کا مطالبہ کیا لیکن اس سے کوئی عاجزی اور فروتنی ظاہر نہ ہوئی پھر وہ واپس آیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا اور اس نے اسے الشافعی کی تدریس سپرد کر دی اور اس نے ۴ رذوالقعدہ کو سوموار کی شب کو منصور کی قبر کے پاس ختم دلایا اور اس میں قضاة اور امراء حاضر ہوئے اور سلطان اور اس کے ساتھ خلیفہ بھی سحر کے وقت ان کے پاس آئے اور ختم کے بعد خلیفہ نے ایک پراثر خطبہ دیا اور لوگوں کو بلاد عراق سے جنگ کرنے اور انہیں تاتاریوں کے قبضے سے چھڑانے کی ترغیب دی اور اس سے قبل خلیفہ حجاب میں تھا اور لوگوں نے اسے آمنے سامنے دیکھا اور

اس کے بعد ۶۰۰ ہزاروں میں گیا اور اہل دمشق نے قصر ابلق کی جانب میدان انصر میں بڑا ختم لایا اور بہت سے ختم پڑھے گئے اور ختمات کے بعد شیخ عز الدین القارونی اور پھر ابن العزوری نے لوگوں سے خطاب کیا پھر ان لوگوں نے گفتگو فی ذہبیں گفتگو کرنے کی عادت ہے اور اپنی عراق سے جنگ کی تیاری کا پیغام لائے اور لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا گیا اور جلالت بغداد پر پلان کے باعث بڑی بڑی زنجیریں بنائی گئیں اور مقصود پر اجرت حاصل کی گئی اگرچہ مقصود حاصل نہ ہوا اور اس وجہ سے بعض لوگوں کو اذیت پہنچی۔

اور اس سال شام کے نائب الشجاعی نے اعلان کیا کہ عورت بڑا نام نہ پنے اور اس نے ان عمارات کو تباہ کر دیا جو دریائے بانیاں پر تھیں اور تمام چھوٹی نہریں اور میگزین اور وہ حوض جو دریائوں پر تھے انہیں بھی تباہ کر دیا اور اس نے الزلابیہ کے پل اور اس پر جو دوکانیں تھیں انہیں بھی تباہ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص عشاء کے بعد نہ چلے پھر اس نے فقط ان کے لیے اسے کھول دیا اور اس نے اس حمام کو بھی تباہ کر دیا جسے ملک سعید نے باب النصر کے باہر تعمیر کیا تھا اور دمشق میں اس سے خوبصورت کوئی حمام نہ تھا اور اس نے میدان انصر کو شمال کی طرف سے اس کے چھٹے حصے کے برابر کشادہ کر دیا اور اس نے اس کے اور دریا کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا اور اس نے خود اور امراء نے اس کی دیواریں بنائیں۔

اور اس سال جمال الدین آقوش الاخرم المصوری اور اس کے ساتھ ایک اور امیر کو قلعہ میں قید کیا گیا اور اس سال امیر علم الدین الریدیاری کو پابجولاں دیار مصر کی طرف لایا گیا اور شیخ شہاب الدین محمود نے فتح عسکا کے بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ صلیبوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور مصطفیٰ عربی کے دین نے ترکوں سے قوت پائی ہے اور یہ وہ بات ہے کہ اگر آرزوئیں نیند میں اس کا مطالبہ کرتیں تو میں اس کے مطالبہ سے شرم محسوس کرتا عسکا کے بعد اس کی بنیادیں سمندر میں گر پڑی ہیں اور ترکوں کو خشکی کے نزدیک اس کی ضرورت ہے اور جب وہ برباد ہو گیا تو اس کے بعد کفر کے لیے برد بحر میں بھاگنے کے سوانجات دینے والی کوئی چیز باقی نہ رہی اور جنگوں نے کتنے فتنے پیدا کیے ہیں جن کے خوف سے بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے حالانکہ وہ بوڑھا نہیں ہے اے یوم عسکا! تو نے ان فتوحات کو فراموش کر دیا ہے جو پہلے ہو چکی ہیں اور کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں اور تیرے بارے میں گفتار حد شکر تک نہیں پہنچی اور ممکن نہیں کہ کوئی شاعر اور ادیب اس کی ذمہ داری لے، تو نے جب پرستار ان عیسیٰ کو خدا کی رضامندی کے لیے ہلاک کیا تو تو نے انہیں ناراض کر دیا یعنی وہ اس ناراضگی میں راضی ہو گیا اور ہادی مصطفیٰ بشیر نے اس کی طرف دیکھا جسے سلطان اشرف نے قریب سے بھیجا تھا پس تو اس فتح سے آنکھ ٹھنڈی کر اور روشن کعبہ پر دوں میں اس کی خوشخبری سے خوش ہوا۔ اور وہ زمین میں ایسی چال چلا کہ میں نے اس کے متعلق سنا ہے پس خشکی خوشی میں ہے اور سمندر جنگ میں مصروف ہے۔

یہ قصیدہ بہت طویل ہے اور اس نے اور دوسروں نے فتح عسکا کے بارے میں بہت اشعار کہے ہیں اور جب ایلیچی واپس آیا تو اس نے بتایا کہ جب سلطان مصر کی طرف واپس آیا تو اس نے وہ تمام کپڑے جو پہنے ہوئے تھے اپنے وزیر کو بطور خلعت دے دیئے اور اپنے نیچے کی سواری بھی دے دی پس وہ اس پر سوار ہوا اور اس نے خزانہ دمشق سے اس کے لیے ۷۸ ہزار کا حکم دیا تاکہ وہ ان سے قرحناہستی کو بیت المال سے خرید لے۔

اور اس سال قلعہ حلب کی تعمیر اس بربادی کے بعد جو ہلاک اور اس کے اصحاب نے ۶۵۸ھ کو کی تھی مکمل ہو گئی اور اس سال

کے سوال میں اس نے قائمہ دمشق اور سلطانی گھرانوں اور خارمہ اور قیۃ الزرقانی کی تعمیر سلطان اشرف خلیل بن قلاوون کے حکم کے مطابق شروع کر دی جو اس نے اپنے نائب مہم الدین خیر الشجائی نو دیا تھا اور اس سال نے رمضان میں امیر ارجواش کو دوبارہ قلعہ کی بنیاد رکھی اور قیۃ پائین میں بھی رکھی اور اس سال شیخ ابی جیحی نے شیخ بونس کی اونٹوں کے ساتھ سفر کرنے والا دور قہرہ کی طرف مہجور کرنے والا بھیجا اور اس سال کمال الدین ابن خلکان نے بجائے عزالدین القارونی نے مدرسہ النہیۃ میں درس دیا اور اس دن نجم الدین مکی نے ناصر الدین ابن المقدسی کی بجائے المرواجیہ میں درس دیا اور اس سال میں کمال الدین طیب نے الاخواریہ کے مدرسہ طیبہ میں درس دیا اور اس ماہ میں شیخ جمال الدین الخبازی نے الخا تویۃ البرانیۃ میں اور جمال الدین بن الناصر نے الفتحیۃ میں اور برہان الدین اسکندری نے القوسیۃ میں جو جامع میں واقع ہے اور شیخ نجم الدین دمشقی نے مسافروں کے محلہ کے پاس الشریفیۃ میں درس دیا اور اس سال الناصر کو الفارقی کی طرف لوٹا دیا گیا اور اس میں ابن الزمکانی کے بعد قاضی نجم الدین ابن صصری نے ایمیہ میں درس دیا اور اس سے عادلہ صغیرہ کو کمال الدین ابن الزمکانی کے لیے لے لیا گیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شاہ تاتار ارغون بن ابغا:

یہ بڑا ذہین شجاع اور خوریز تھا اس نے اپنے چچا سلطان احمد بن ہلاکو کو قتل کر دیا اور مغلوں کی آنکھوں میں اس کی شان بڑھ گئی اور جب یہ سال آیا تو زہر آلود شراب پینے سے مر گیا اور مغلوں نے یہود پر اس کا اتہام لگایا۔ اور اس کا وزیر سعد الدولۃ ابن الصغری یہودی تھا۔ اور انہوں نے بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا اور عراق کے تمام شہروں میں ان کے بہت سے اموال لوٹ لیے پھر اس کے بعد انہوں نے اس شخص کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ کسے بادشاہ مقرر کریں پس ایک گروہ کچھو کی طرف مائل ہو گیا اور انہوں نے اسے تخت حکومت پر بٹھا دیا اور وہ ایک مدت تک بعض کے قول کے مطابق ایک سال اور بعض کے قول کے مطابق اس سے بھی کم مدت تک بادشاہ رہا پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد بیدرا کو بادشاہ بنا لیا اور ارغون کی وفات کی خبر ملک اشرف کے پاس آئی اور وہ عسکا کا محاصرہ کیے ہوئے تھا سو وہ اس سے بہت خوش ہوا اور ارغون کی مدت حکومت آٹھ سال تھی اور عراق کے ایک مؤرخ نے اس کے عدل اور اچھی سیاست کی تعریف کی ہے۔

المسند المعمر المرحالیہ:

فخر الدین بن النجار ابو الحسن علی بن احمد بن عبدالواحد المقدسی الحسینی جو ابن النجار کے نام سے مشہور ہے آپ ۵۷۶ھ کے آغاز یا آخر میں پیدا ہوئے اور کثیر سے سماع کیا اور اپنے اہل کے ساتھ کوچ کر گئے آپ صالح، عابد، زہد متقی اور درویش آدمی تھے اور اپنی طوالت عمر کے باعث بہت سی روایات میں متفرد تھے اور مشیخت اس کے لیے نکلے اور بہت سی مخلوق نے اس سے سماع کیا اور وہ اس بات پر مقرر تھے حتیٰ کہ آپ بڑے اور عمر رسیدہ ہو گئے اور حرکت کرنے سے کمزور ہو گئے اور آپ کے اشعار بہت اچھے ہیں۔ ”مجھ پر بار بار سال گذرے حتیٰ کہ میں بوسیدہ ہو گیا اور گرا پڑا ہمال بن گیا اور میرا نفع کم ہو گیا مگر میں روایت اور سماع

سے بھلانے لگا اور اگر مجلس سے تو اس کے لیے جنازہ اور اگر ۱۰۰ چالیس سے تو ضیاع کی طرف جانے والا ہے۔

نیز وہ کہتا ہے۔

بیٹھ کر میز پر بٹنے کے بارے میں تھے سے معدت کرتا ہوں اور میں بعد کی نمازوں کی طرف جانے سے عاجز ہوں اور میرا ہر مسجد میں فرض نماز کو چھوڑتا جس میں لوگ نمازوں کے لیے جمع ہوں اور اسے میرے رب میری نماز کو ناپائیدار کر اور مجھے آگ سے نجات دے اور میری جفوات سے درگزر فرمائے۔

آپ نے اس سال کی ۲ ربیع الاول کو بدھ کے دن چاشت کے وقت ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کے جنازے میں بہت لوگ شامل ہوئے اور آپ کو اپنے والد شیخ، شمس الدین احمد بن عبد الواحد کے نزدیک قاسیون کے دامن میں دفن کیا گیا۔

شیخ تاج الدین الغزالی:

عبدالرحمن بن سباع بن ضیاء الدین ابو محمد الغزالی، امام علامہ اور اپنے زمانے کے شیخ الشافعیہ، آپ اپنے ساتھیوں سے سبقت لے گئے اور آپ ہمارے شیخ علامہ برہان الدین کے والد ہیں، شیخ تاج الدین ۶۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۵ جمادی الآخرہ کو سوموار کی چاشت کو مدرسہ بادرانیہ میں فوت ہوئے اور ظہر کے بعد جامع اموی میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا، قاضی شہاب الدین بن الخوئی آپ کی نماز جنازہ کے امام تھے پھر شیخ زین الدین الفارقی نے جامع جراح کے پاس آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو باب الصغیر میں آپ کے باپ کے پاس دفن کیا گیا اور وہ بڑی بھیڑ کا دن تھا اور آپ علوم نافعہ، اخلاق لطیفہ، وضاحت منطق، حسن تصنیف، علوہمت، اصلاح نفس کے بہت سے فنون کے جامع تھے اور آپ کی کتاب اقلید کو التبیہ کے ابواب کے مطابق جمع کیا گیا ہے، اس میں آپ، باب الغضب تک پہنچے ہیں جو آپ کی اصلاح نفس، علو قدر، قوت ارادی اور وسعت نظر کی دلیل ہے اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کے اکثر حصے میں آپ صحیح اجتہاد سے متصف ہیں اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے آپ اور محی الدین النووی ہمارے اکابر مشائخ کے شیخ ہیں اور آپ نے ابن جوزی کی موضوعات کا اختصار کیا ہے اور وہ آپ کی تحریر میں میرے پاس موجود ہے اور آپ نے کثیر سے سماع حدیث کیا اور صحیح بخاری کے لیے ابن الزبیدی کے پاس حاضر ہوئے اور ابن اللیثی اور ابن الصلاح سے سماع کیا اور ابن الصلاح اور ابن عبدالسلام سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے ایک شاگرد حافظ علم الدین البرزالی نے ایک سوشیوخ سے دس دس کی مشیخت بنائی اور اعیان نے اسے سماع کرایا اور آپ کے اشعار اچھے ہیں جن میں یہ اشعار بھی ہیں۔

”میں نے جس تاریخ کو تمہارے بارے میں دریافت کیا وہ غم کا آغاز تھا اور میں نے اصل اور اثر سے ملاقات نہیں کی“

اے کوچ کرنے والو تم نے قوت پائی ہے اور نجات تمہارے لیے ہی ہے اور ہم عجز کے لیے ہیں اور ہم قضاء قدر کو عاجز نہیں پاتے۔“

اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے برہان الدین نے جو ہمارے شیخ ہیں، البادریہ اور حلقہ میں درس دینا اور جامع میں فتویٰ دینا

سنجال لیا اور آپ اپنے باپ کے طریق ہدایت اور راست روی پر چلے۔

ماہر طبیب عز الدین ابراہیم بن محمد بن طرخان۔

السویدی الانصاری آپ ۹۰ سال کی عمر میں دامن کوہ میں دفن ہوئے اور کچھ حدیث بھی روایت کی اور فن طب میں اپنے اہل زمانہ سے رہ گئے اور اس بارے میں کتابیں بھی تصنیف کیں اور آپ پر بے دینی ترک نماز بد نظمی اور یوم آخر سے تعلق رکھے والے بہت سے امور کے انکار کی تہمت بھی تھی اور اللہ آپ کے اور آپ کے امثال کے بارے میں عاوان فیضان کرے گا جو ظلم، جور نہیں کرتا اور آپ کے اشعار میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو آپ کی قلت عقل، قلت دین، عدم ایمان اور تحریم شراب پر آپ کے اعتراض پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ آپ رمضان کے ترک پر فخر کرتے تھے۔

علامہ علاء الدین:

ابوالحسن علی بن امام علامہ کمال الدین عبدالواحد بن عبدالکریم بن خلف الانصاری الزمکانی اور آپ نے اپنے باپ کے بعد امینیہ میں درس دیا اور آپ کے والد نے منگل کی رات ۲۹ ربیع الآخر کو امینیہ میں وفات پائی اور صوفیہ کے قبرستان میں اپنے والد امیر کبیر بدر الدین علی بن عبداللہ الناصری کے پاس دفن ہوئے جو الصالحیہ میں اپنے استاد کی وصیت کے مطابق خانقاہ کے مگران تھے اور آپ ہی نے ابن الشریسی جمال الدین کے بعد شیخ شرف الدین الفزاری کو خانقاہ کی مشیخت سپرد کی تھی اور آپ کو مذکورہ خانقاہ کے اندر بڑے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

شیخ امام ابو حفص عمر بن یحییٰ بن عمر کرخی:

شیخ تقی الدین بن الصلاح کا داماد اور شاگرد آپ ۵۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور اس سال کی ۲ ربیع الآخر کو بدھ کے روز فوت ہوئے اور ابن الصلاح کے پہلو میں دفن ہوئے۔

ملک عادل بدر الدین سلامش بن الظاہر:

اس کے بھائی ملک سعید کے بعد اس کی بیعت ملوکیت ہوئی اور ملک منصور قلا دون کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا پھر قلا دون باختیار بادشاہ بن گیا اور اس نے انہیں الکرک کی طرف بھیج دیا پھر انہیں دوبارہ قاہرہ کی طرف لایا پھر اشرف خلیل نے اپنی حکومت کے آغاز میں انہیں استنبول کی جانب بلاد الاشکری کی طرف سفر پر بھیج دیا اور سلامش وہاں فوت ہو گیا اور اس کا بھائی نجم الدین خضر اور ان کے اہل اسی نواح میں رہے اور سلامش بڑا خوب رو اور خوش منظر تھا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اور لوٹے جو امر دوں کو پسند کرتے ہیں فتنہ میں پڑے گئے اور شعراء نے اس کی تشبیہ کہی اور وہ عقلمند بارعب اور باوقار نہیں تھا۔

عقیف تلمسانی:

ابوالربیع سلیمان بن علی بن عبداللہ بن علی بن لیس العابدی الکومی ثم التلمسانی، طبعی شاعر اور کئی علوم مثلاً، نحو، ادب، فقہ اور اصول کا ماہر اور آپ کی اس بارے میں تصانیف بھی ہیں اور شرح مواقف النفر اور شرح اسماء اللہ الحسنى آپ کی تصنیف ہے اور آپ کا مشہور دیوان بھی ہے اور آپ کے بیٹے محمد کا ایک اور دیوان ہے اور اس شخص کے اقوال و اعتقاد کو حلول و اتحاد اور زندقہ و کفر کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور آپ کی شہرت آپ کے حالات کے الحنا ب سے کفایت کرتی ہے، آپ نے ۵۷۵ھ میں فوت ہوئے۔

پاکی اور قبرستان صوفیہ میں فتنے ہوئے آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے چالیس خلوتیں کیں اور ہر خلوت، مسلسل چالیس روز کی تھی۔ واللہ اعلم

۶۹۱ھ

اس سال رومیوں کا قلعہ فتح ہوا اور قلعہ سے مصر تک اور مصر سے بلاد شام سے انتہائی دور دراز علاقوں تک اور بلاد حلب کے پورے علاقے اور سواہل وغیرہ کا سلطان ملک اشرف صلاح الدین خلیل بن ملک منصور قلاوون تھا اور اس کا وزیر شمس الدین بن السلوس تھا اور مصر و شام میں اس کے قضاة وہی تھے جن کا ذکر اس سے پہلے سال میں ہو چکا ہے اور نائب مصر بدر الدین بنداز اور نائب شام علم الدین شجر الشجاعی اور تاتاریوں کا سلطان بیدار بن ارغون بن ابغاثا اور خزائن کی تعمیر نے بہت سے ذخائر نفاکس اور کتب کو تلف کر دیا اور ۲۹ ربیع الاول کو خلیفہ الحاکم نے خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں جہاد اور جنگ کی ترغیب دی اور انہیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور جبرائیم اللہ پڑھی اور ۱۳ صفر ہفتہ کی رات کو اس سرخ چھڑی کو جو عسکاکے باب البرادۃ پر پڑی تھی لاکر اس کی جگہ پر رکھی گئی اور ربیع الاول میں الطارنہ اور اس کے آس پاس جو گھر اور قبۃ الزرقا تھا اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور وہ نہایت خوبصورت کامل اور اونچا تھا اور ۲ جمادی الاول سوموار کے روز شیخ صفی الدین محمد بن عبدالرحیم ارموی نے علاء الدین بن بنت الاعز کی بجائے الظاہریہ میں سبق یاد کرایا اور آج کے دن کمال الدین بن الزکی نے الدولعیہ میں درس دیا اور ۷ جمادی الآخرة کو سوموار کے روز شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز طوسی نے الفارقی کے وہاں سے چھوڑ دینے کے باعث النجیبہ میں درس دیا۔ واللہ اعلم بالصواب

قلعہ روم کی فتح:

اور اس سال کے ربیع الاول میں سلطان اشرف فوجوں کے ساتھ شام کی طرف گیا اور دمشق آیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر ابن السلوس بھی تھا اس نے افواج کو پیش کرنے کو کہا اور ان میں بہت اموال خرچ کیے پھر وہ انہیں بلاد حلب کی طرف لے گئے پھر وہ قلعہ روم کی طرف گیا اور اسے ۱۱ رجب ہفتہ کے روز بزرگوار فتح کیا اور اس کی خوشخبری دمشق آئی اور شہر کو سات روز تک آراستہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فوج کی کوشش میں برکت دی اور ہفتہ کا دن اتوار والوں کی عداوت پر متحد تھا اور فتح بہت بڑے محاصرے کے بعد ہوئی یعنی تیس دن کی مدت میں اور مجاہدین تیس سے زیادہ تھیں اور امراء میں سے شرف الدین بن الخیطر شہید ہو گیا اور اہل شہر میں سے بہت سے لوگ قتل ہوئے اور مسلمانوں نے اس سے بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں پھر سلطان دمشق واپس آ گیا اور الشجاعی کو قلعہ روم میں چھوڑ آیا تاکہ محاصرہ کے وقت مجاہدین کی سنگباری سے قلعہ کی جو جگہیں کمزور ہو گئی ہیں وہ انہیں درست کر دیں اور وہ ۱۹ شعبان منگل کی صبح کو دمشق میں داخل ہوا اور لوگوں نے اس کی آمد پر جشن کیا اور اس کے لیے دعائیں کیں اور اس سے محبت کی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس کے لیے اسی طرح خوشی کی گئی جیسے دیار مصر سے اس کی آمد پر خوشی کی جاتی تھی اور یہ سب کچھ ابن السلوس کے مشورہ سے ہوا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے اس کے لیے خوشی کی اور اس کے باپ نے تاتاریوں کو حمص کے مقابلہ میں شکست دی اور اس نے اس کے لیے خوشی نہ کی اور اسی طرح ملک الظاہر نے تاتاریوں اور رومیوں کو اہل بلقین کے مقابلہ میں شکست دی اور کئی دوسرے معرکوں میں بھی اس نے اس کے لیے خوشی نہ کی اور یہ ایک نتیجہ بدعت تھی جو اس وزیر نے بادشاہوں کے لیے ایجاد کی

اور اس میں مال کا انصراف و نسیاخ اور فخر و تکرار اور لوگوں کے لیے مشقت پائی جاتی ہے اور وہ اموال کو لے کر بے جا طور پر خرچ کرنا پایا جانے اور اللہ سے ان اموال کے حقیقی پوپتے والا ہے اور وہ ہر چکا ہے اور وہ ان اموال کو چھوڑ گیا ہے اور بادشاہ اور لوگ ان اموال کے مالک ہیں اور اس وجہ سے لوگوں نے یہ اعظم دعا ہے کہ چاہیے کہ بادشاہ اپنے آپ سے غریب اور اپنی خواہش نفس سے اسلام میں کوئی ایسی بات ایجا نہ کرے جو اس سے اللہ کی ناراضگی اور امراض کا باعث ہو بلاشبہ دنیا کی سب سے ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ کوئی ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔

اور قلعہ روم کا بادشاہ سلطان کے ساتھ اسی طرح اس کے سرکردہ اصحاب بھی اسیر تھے وہ ان کے ساتھ دمشق آیا اور وہ اپنے اصحاب کے سروں کو نیزوں کے سپروں پر اٹھائے ہوئے تھے اور سلطان نے اپنی فوج کا ایک دستہ اس وجہ سے حیل کسروان اور الجزائر کی طرف بھیجا کہ وہ قدیم سے مسلمانوں کے خلاف فرنگیوں کو مدد دیتے تھے اور فوجوں کا سالار بندگان تھا اور سنتر الاشرق بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور اس نے سنتر المنصور کی کوجولب کا نائب تھا برقرار رکھا اور سلطان نے اسے اس سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ سیف الدین بلبان الباطنی المنصور کی کونائب مقرر کیا اور امرائے کبار کی ایک اور جماعت کو بھی مقرر کیا اور جب انہوں نے جبل کا گھیراؤ کر لیا اور صرف اس کے باشندوں کا تباہ کرنا ہی باقی رہ گیا تو وہ بہت سے بوجھ رات کو بندگان کے پاس لائے تو وہ ان کے قبضے میں نرم پڑ گیا پھر وہ فوجوں کے ساتھ ان کے ہاں سے واپس آ گیا اور وہ سلطان کے پاس واپس چلے گئے تو سلطان نے ان کا استقبال کیا اور سلطان امیر بندگان کے پاس پایادہ گیا، حالانکہ وہ مصر پر اس کا نائب تھا پھر ابن السلوس نے سلطان کو بندگان کے فعل سے آگاہ کیا تو اس نے اسے ملامت کی اور ڈانٹ پلائی جس سے وہ شدید بیمار ہو گیا اور موت کے قریب ہو گیا حتیٰ کہ کہا گیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے پھر وہ صحت یاب ہو گیا اور اس نے جامع دمشق میں ایک بڑا ختم کرایا جس میں قضاة اور اعیان شامل ہوئے اور اس نے ۱۵ شعبان کی شب کی مانند جامع کو مشغول کر دیا اور یہ رمضان کے پہلے دہے کی رات تھی اور سلطان نے قیدیوں کو رہا کر دیا اور ارباب جہات سلطانیہ کو بقیہ تاوان چھوڑ دیا اور اس کی طرف سے بہت سا صدقہ دیا اور وہ بہت سے تاوانوں سے دستکش ہو گیا حالانکہ اس نے ان تاوانوں کے بارے میں تاوان والوں کو حلف دیا تھا اور شہاب محمود نے قلعہ روم کے فتح کرنے پر ملک اشرف خلیل کی ایک زبردست قصیدے میں مدح کی جس کے پہلے اشعار یہ ہیں۔

تیرا جھنڈا زرد ہے جس کے آگے آگے فتح ہے اور کیتبادان اور کینجر دے اسے دیکھا ہے اور جب وہ انفق میں لہراتا ہے تو اس کے نور سے شرک کی خواہش ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور ہدایت بلند ہو جاتی ہے اور دانت روشن ہو جاتے ہیں اور اگر وہ میدان کارزار میں عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کی طرح پھیل جائے تو غبار چاند کے طلوع کی روشنی سے روشن ہو جائے اور اگر وہ نیلی آنکھوں والے دشمن کا قصد کرے تو سبز رنگ دستے اس کے نیچے چلیں گے جن کا سائبان تلواریں اور گندم گوں نیزے ہوں گے اور غبار کے پھیلنے کی جگہ رات ہو جائے گی اور اس کا لہرانا بجلیوں کی مانند ہوگا اور تو ہی ماہ چہار دہم اور گول فلک ہے اور یکے بعد دیگرے فتوحات ہوئیں گویا اوپر تلے آسمان ظاہر ہو گئے ہیں جن کے ستارے پھول ہیں اور تو نے کتنے ہی پہاڑوں کو کاٹ دیا اور زمانہ گزرا وہ بحر و اور کنوارے تھے اور تو نے ان کے لیے عزم کو خرچ کیا اور اگر خوف نہ ہوتا جو حیا نے انہیں دیا تھا تو وہ تیرے پاس بغیر مہر کے دوڑتے

آئے اور تونے قلعہ روم کی رکھ کا قہر کیا اور دوسرے کے لیے قہر نہ تھی اور جب مغلوں نے انہیں فریب دیا تو وہ فریب کھا گئے اور انہوں نے خفیہ طور پر ان سے دوستی کی تاکہ ان کی ایذا سے بچ جائیں پھر ان کا رطلہ ہوا بلن برابر ہوتا اور تونے ان کی طرف اس ارادے کو پھیرا ہے اگر تونے سے سزا کی طرف پھیرتا تو اس کی مدد پر جزا بنانا آجاتا اور جس قلعہ روم کو تونے فتح کیا ہے وہ اگر پہلے بڑا سے بڑا دوسرے قلعوں کی طرف مل جاتا ہے جو فتوحات اس کے بعد ہوں گی یہ ان کا ہوا ہے جیسے افق میں سورج سے قبل فجر ظاہر ہوتی ہے تونے ایسی فوج کے ساتھ صبح کو اس پر حملہ کیا جو خوبصورتی میں باغ کی مانند تھی اور اس کی تلواریں اس کی نہریں اور نیزے پھول تھے اور تو دور چلا گیا جب کہ اس کی موجیں سمندر اور تلواروں کی طرح تھیں اور کم نوحہ گھوڑے اور زرہیں کشتیاں تھے اور تو دور تک گھس گیا جب کہ رات کی طرح اس کی تلواریں ٹیڑھی تھیں انہوں نے اسے آواز دی اور تیروں کے ستارے پھول تھے اور نگاہیں تھیں، نہیں بلکہ دن کی مانند اس کے سورج تھے اور تیرے زرہ جھنڈے تیرا چہرہ اور شام تھی ترکی شیروں کی جھنگی ان کے نیزے ہیں جنہیں ہر روز چوٹیوں میں فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کے باہم پیوست ہونے سے ان کے درمیان ہوا نہیں چلتی اور نہ ان کے اوپر بارش پڑتی ہے اور وہ جاسوس ہیں جب سخت جنگ ان سے نفسانی خطاب کے درپے ہوتی ہے تو وہ اس کے مہر کو گراں نہیں کرتے اور تو موت کو ان کے تیروں کے پھندوں کے ساتھ بندھا دیکھے گا، جب کمان انہیں پھیلتی ہے تو نگاہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ہر لمبے درخت میں بید مجنون کی باریک شاخ ہوتی ہے اور ہر کمان کو چاند کی کلائی نے کھینچا ہوتا ہے اور جب وہ ٹھوس پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ لرزہ برانداز ہو جاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کے پاؤں تلے سخت زمین، میدان بن جاتی ہے اور اگر ان کے گھوڑے فرات کے پانی پر آتے تو کہا جاتا کہ یہاں سے دریا گذر کر تاتا تھا اور انہوں نے اس کے ارد گرد فصیل بنا دی اور وہ چھنگلی کی انگوٹھی کی طرح ہو گیا یا اس کی پٹی کے نیچے، کمر کی طرح ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کے سمندروں سے ہلاکت کے بادل ان کی طرف چھوڑ دیئے جن کا کوئی قطرہ خالی نہ تھا اور جو جانیق اس کے ارد گرد نصب کی گئیں وہ ناراضگی کی کڑک تھیں اور ان کی بارش آگ اور پتھر تھے اور اس کی چٹانوں نے رات کو جنگ کی نماز کھڑی کی جس کا اکثر حصہ جفت اور سب سے بڑا حصہ طاق تھا اور اس کے ارد گرد بہت زیادہ سوراخ ہو گئے اور جو کچھ پتھروں نے کیا اس کا اس پر کوئی نشان نہ تھا اور وہ عاشق کی مانند ہو گیا جو اپنی محبت کو دشمنوں کے ڈر سے چھپاتا ہے اور اس کے دل میں انگارے ہوتے ہیں اور وہاں آگ بھڑکانی گئی حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا اور جسے اس نے چھپایا تھا، ظاہر ہو گیا اور پردہ پھٹ گیا اور انہوں نے تیرے غفو کے دامن میں پناہ لی اور تونے ان کی امید کا جواب نہ دیا اگر وہ دھوکا نہ کرتا تو ان کا مقصد فریب کرنا تھا اور مغلوں نے تجھے ان سے غافل کر کے وہاں سے بھاگتے وقت اس سے فریب کیا لیکن وہ چلے گئے اور تونے بزور قوت اسے محفوظ کر لیا اور اسی طرح تونے پہلی فتوحات بھی بزور قوت کی ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے مضبوط سرحد بن گیا ہے اور وہ راتوں اور دشمنوں کو کمزور ہونے کی حالت میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اے صاحب شرف بادشاہ تو جنگ میں کامیاب ہو گیا ہے، جس سے فتح، شہرت اور اجر ملتا ہے، تجھے مصطفیٰ کے پاس ہونا مبارک ہو کہ آپ کے دین کو تیری حکومت کی برکت سے پے درپے فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور تجھے خوشخبری ہو تو نے مسیح اور احمد کو راضی کر دیا ہے اور خواہ مخواہ ناراض ہی ہو کہ وہ اور کفر کون ہے، پس تو جہاں چاہے جا ساری زمین اور سب شہر تیری اطاعت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے ہمیشہ باقی رہے تاکہ تیرے ذریعے ہدایت زندہ رہے اور گذشتہ زمانوں پر

تیرا زمانہ فخر کرنے میں نے اس سے بہت سے اشعار کو حذف کر دیا ہے۔

اور اس سال زین الدین بن المرسل کی وفات سے بعد شیخ عزالدین احمد الفاروقی اواسطی نے دمشق کی خطابت کو سنبھالا اور خطبہ دیا اور لوگوں کی تیرابی کے لیے دیا جائی مگر وہ سیراب نہ ہوئے پھر آپ نے اس کے چند دن بعد مسجد القدم میں ۱۰۰۰ خطبہ دیا اور وہ سیراب نہ ہوئے پھر لوگوں نے کسی پراپیٹنڈے اور دعائے استسقاء کے بغیر عاجزی اختیار کی تو وہ سیراب ہو گئے پھر پچھ دنوں کے بعد الفاروقی کو خطیب موفی الدین ابی المصالی محمد بن محمد بن محمد بن عبدالمعزم بن حسن المرہانی الحموی کے ذریعے معزول کر دیا گیا اور یہ حماہ کا خطیب تھا پھر اسے اس سال دمشق لایا گیا اور اس کا یقین تھا کہ وزیر نے اسے اس کے علم کے بغیر معزول کیا ہے حالانکہ وہ بھی اس امر کو جانتا تھا اور اس نے عذر پیش کیا کہ اس نے اس کی کمزوری کی وجہ سے اسے معزول کیا ہے اس نے اسے بتایا کہ وہ آدھی رات کو ایک سو رکعت ایک سول ہوا اللہ احد کے ساتھ پڑھتا ہے مگر انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا اور الحموی کو قائم رکھا اور یہ الفاروقی کی کمینگی بے عقلی اور نا انصافی ہے اور سلطان اس کے معزول کرنے میں درست تھا۔

اور آج کے دن سلطان نے امیر سقر الاشقر وغیرہ کو گرفتار کر لیا اور وہ اور امیر حسام الدین لاجین السلحداری بھاگ گئے اور ڈھنڈورہ جیوں نے دمشق میں اعلان کیا کہ جو شخص اسے لائے گا اسے ایک ہزار دینار انعام دیا جائے گا اور جو اسے چھپائے گا اسے پھانسی دی جائے گی اور سلطان اور اس کے غلام اس کی تلاش میں گئے اور خطیب نے میدان اخضر میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور فوج کے اضطراب اور لوگوں کے اختلاف اور لوگوں کی گڑبڑ کی وجہ سے لوگ غمگین تھے اور جب ۶ ریشوال آیا تو عربوں نے سقر الاشقر کو پکڑ لیا اور اسے سلطان کو واپس کر دیا اور اس نے اسے پابجولاں مہر کی طرف بھیج دیا اور آج کے دن سلطان نے الشجاعی کی بجائے عزالدین ایک الحموی کو دمشق کا نائب مقرر کیا اور الشجاعی اپنی معزولی کے دوسرے دن روم سے آیا اور الفاروقی نے اس کا استقبال کیا اور کہا ہمیں خطابت سے معزول کر دیا گیا ہے اس نے کہا ہمیں نیابت سے معزول کر دیا گیا ہے الفاروقی نے کہا (ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں نائب بنا دے اور دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو) اور جب ابن السلعوس کو اطلاع ملی تو وہ اس پر ناراض ہوا اور اسے القیربیہ نے مقرر کیا ہوا تھا پس اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور ۱۰ ریشوال کو سلطان مصر کی طرف گیا اور شہانہ شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہوا اور اس نے اپنی آمد کے روز قرا سقر کو حلب کی نیابت کے عوض میں مصر میں سوسوار دیئے اور اس سال امیر سیف الدین طغائی الاشقری نے قعیاریہ القطن کو جسے ملک معظم نے بیت المال سے تعمیر کیا تھا سلطان کے حکم سے خریدا اور وہ اس کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا تھا اور اس عرصہ میں سوق الحریر تین سو اس کی طرف منتقل کیا گیا اور سلطان نے قلعہ روم سے واپسی کے بعد علم الدین المریدیاری کو رہا کر دیا اور اسے دمشق بلایا اور اسے خلعت دیا اور اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا اور اسے ایک سوسوار دیئے اور اسے مجبور کر کے دفاتر کا سررشتہ دار بنا دیا۔

اور ذوالقعدہ میں سلطان نے سقر الاشقر اور طقصو کو بلایا اور دونوں کو سزا دی اور دونوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور اس نے ان دونوں سے لاجین کے بارے میں دریافت کیا تو دونوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ تھا اور نہ اسے اس کا علم ہے پس اس نے دونوں کا گلا گھونٹ دیا اور اسے اس کے گلے میں قانت ڈالنے کے بعد رہا کر دیا اور وہ ایک مدت اس

کے لیے باقی رہا اور اس کے بعد بادشاہ بن گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اور ذوالحجہ میں شیخ برہان الدین بن شیخ تاج الدین نے البادرانیہ کے قاضی القضاة شہاب الدین الخولبی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا اور اس سال امیر اختر افغان نے دزیش میں ابن الساموس کی بیٹی سے ایک ہزار دینار مہر پر ملاقات کی اور پانچ سو دینار اسے جلد دے دیا اور اس سال تاتاریوں کی ایک جماعت جو تقریباً تین سو افراد پر مشتمل تھی، دیار مصر کی طرف چلی گئی اور ان کی عزت کی گئی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

خطیب زین الدین ابو حفص:

عمر بن مکی بن عبدالصمد الشافعی جو ابن المرسل کے نام سے مشہور ہیں اور آپ شیخ صدر الدین بن الوکیل کے والد ہیں، آپ نے سماع حدیث کیا اور فقہ اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی جن میں علم ہیئت بھی ہے آپ نے اس کے متعلق ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے آپ نے دمشق کی خطابت سنبھالی، درس دیا اور فتویٰ دیا اور ۲۳ ربیع الاول کو ہفتہ کی شب کو وفات پا گئے اور دوسرے روز باب الخطابت میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔

شیخ عز الدین الفاروٹی:

آپ نے تھوڑا عرصہ خطابت کی پھر معزول ہو گئے پھر مر گئے اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ عفا اللہ عنہا وعنه

الصاحب فتح الدین ابو عبد اللہ:

محمد بن محی الدین بن عبد اللہ بن عبد الظاہر ابن لقمان کے بعد حکومت منصور کی سیکرٹری، اور آپ اس فن میں ماہر تھے اور آپ نے منصور کے ہاں رتبہ حاصل کیا اور اسی طرح اس کے بیٹے اشرف کے ہاں بھی رتبہ پایا، اور ابن السلوس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں اسے سنایا کریں آپ نے کہا یہ ممکن نہیں بلاشبہ بادشاہوں کے اصرار پر دوسروں کو آگاہ نہیں کیا جاتا اور تم اپنے لیے کسی اور کو تلاش کر لو جو اس مقام پر تمہارے ساتھ رہے اور جب اشرف کو اس بات کی اطلاع ملی تو اسے اس کی یہ بات پسند آئی اور اس کے ہاں آپ کا مقام بڑھ گیا آپ نے ۱۵ رمضان کو ہفتہ کے روز وفات پائی اور آپ کے ترکہ سے ایک قصیدہ نکالا گیا جس میں آپ نے تاج الدین بن الاثیر کا مرثیہ کہا تھا اور اس کی حالت خراب ہو گئی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ مرجائے گا پس وہ صحت مند ہو گیا اور وہ قصیدہ آپ کے بعد باقی رہا اور آپ کے بعد ابن الاثیر سیکرٹری بنا اور تاج الدین نے آپ کا اسی طرح مرثیہ کہا جیسے آپ نے اس کا کہا تھا اور ابن الاثیر آپ کے ایک ماہ چار دن بعد فوت ہو گیا۔

یوسف بن علی بن رضوان بن برقش:

امیر عماد الدین، آپ ناصری حکومت میں طبیحانہ میں ایک امیر تھے پھر آپ نے مظفری حکومت کا سب بوجھ اٹھایا اور فوج کو بیکار کر دیا اور اس سال تک یہی حال چلا آ رہا تھا اور الظاہر آپ کا اکرام کرتا ہے آپ نے شوال میں وفات پائی اور خزیمیوں کے

قبرستان میں اپنے والد کے پاس دفن ہوئے۔

جلال الدین الخجازی:

عمر بن محمد بن عمر ابوہریرہ الخجازی آپ حنیفہ کے کبار شاخ میں سے تھے اور اعلانِ باوراء النہر کی ایک ہستی نجد سے تعلق رکھتے تھے اور خوارزم میں عمر سے اشتغال کیا اور پڑھا اور بغداد میں اس کا اعادہ کیا پھر دمشق آئے ابو العزیز اور الخاقانیہ البرانیہ میں پڑھایا آپ کیتا فاضل، منصف اور فنون کثیرہ کے معنف تھے آپ نے اس سال کی ۲۵ رذوالحجہ کو وفات پائی اور صوفیہ میں دفن ہوئے آپ کی عمر ۶۲ سال تھی۔

ملک مظفر:

قراہ اسلمان الافریقہ، ماردین کا حکمران، اس نے ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین داؤد کھڑا ہوا اور ملک السعد کا لقب اختیار کیا۔ واللہ سبحانہ اعلم

۶۹۲ھ

ظہیر الدین الکازرونی کی تاریخ میں ہے کہ اس سال مدینہ نبویہ میں آگ نمودار ہوئی جو ۶۵۴ھ کی آگ کا نمونہ تھی مگر اس آگ کے شعلے بہت بلند تھے اور یہ چٹانوں کو جلاتی تھی اور کھجور کی شاخوں کو نہیں جلاتی تھی اور یہ مسلسل تین دن رہی۔

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم العباسی، خلیفہ اور سلطان البلاد، ملک اشرف بن منصور تھا اور مصر میں اس کا نائب بدر الدین بیدرا اور شام میں عز الدین ایک الحموی اس کا نائب تھا اور مصر و شام کے قضاة وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور شمس الدین بن السلعوس وزیر تھا اور جمادی الآخرہ میں اشرف دمشق آیا اور قصر اہلق اور میدان انصر میں فروکش ہوا اور فوجوں کو تیار کیا اور بلاد سیس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا اور اس دوران میں بلاد سیس کے اہل صلح کا مطالبہ کرتے ہوئے آئے اور امراء نے ان کے بارے میں سفارش کی اور انہوں نے ہنسنا، تل حمدون اور مرعش کو سپرد کر دیا اور یہ ان کے بڑے خوبصورت اور مضبوط ترشہر تھے اور یہ در بند کے دہانے پر تھے پھر ۲۷ رجب کو سلطان بڑی فوج کے ساتھ سلمیہ گیا اور وہ امیر حسام الدین لاجین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا پس امیر منہابن عیسیٰ نے اس کی ضیافت کی اور جب ضیافت ختم ہوئی تو اس نے حسام الدین لاجین کو اس کے لیے پکڑ لیا اور وہ اس کے پاس ہی تھا وہ اسے لایا تو اس نے اسے قلعہ دمشق میں قید کر دیا اور اس نے منہابن عیسیٰ کو بھی پکڑ لیا اور اس کی جگہ محمد بن علی بن حذیفہ کو امیر مقرر کیا پھر سلطان نے اپنے نائب بیدرا اور اپنے وزیر ابن السلعوس کے ساتھ عام فوج کو اپنے آگے دیا اور مصر کی طرف بھیجا اور خود وہ اپنے خاصکے ساتھ پیچھے رہا پھر ان سے جا ملا۔

اور اس سال کے محرم میں قاضی حسام الدین الرازی الحنفی نے علویوں اور جعفریوں کے درمیان و باغیت میں تشریک کا فیصلہ دیا جس کے متعلق وہ دو سو سال سے جھگڑتے آرہے تھے اور یہ فیصلہ دارالعدل میں ۲۶ محرم کو بروز منگل ہوا اور ابن الخوئی اور دیگر لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیا اور اس نے اعتنا کیوں کے بارے میں فیصلہ دیا کہ حضرت جعفر طیار کی طرف ان کی نسبت درست ہے اور اس سال اشرف نے قلعہ الشوبک کے برباد کرنے کا حکم دے دیا پس اسے گرا دیا گیا اور وہ بڑا مضبوط اور فائدہ بخش قلعہ تھا اور اس

نے اسے متبہ العقیقی کے مشورے سے برہا دیکھا اور اس نے اس میں سلطان اور مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کی کیونکہ یہ قلعہ وہاں کے اعراب کے ہلکے کی ہڈی تھا اور اس سال سلطان امیر حماد الدین الرزیداری نے قسطنطنیہ کے سلطان اور برکت بن اولاد کی طرف اپنی جنگ کے ہاتھ بائیں سے تھکے تھے تاکہ جیسے مارا جائے پانے کا وقت نہ ملے حتیٰ کہ سلطان قتل ہو گیا اور وہ دمشق واپس آ گیا۔

اور ۱۰ جمادی الاولیٰ کو قاضی امام الدین فروغی نے الظاہریہ البرانیہ میں درس دیا اور قضاة و اعیان اس کے پاس حاضر ہوئے اور ۲۲ رذوالحجہ کو اتوار کے روز ملک اشرف نے اپنے بھائی ملک ناصر محمد اور اپنے بھتیجے ملک معظم مظفر الدین موسیٰ بن صالح علی بن منصور کو پاک کیا اور ایک بڑا کام کیا اور اشرف قیق سے کھیلا اور ان کی بڑی خوشی مکمل ہو گئی اور وہ دنیا سے اس کی سلطنت کا وداع تھی اور کیم محرم کو شیخ شمس الدین بن غانم نے العصر و نیہ میں درس دیا اور صفر کے شروع میں کمال الدین ابن الزمکانی نے نجم الدین بن ککی کی بجائے الرواحیہ میں درس دیا کیونکہ اسے حلب منتقل ہونے اور مدرسہ مذکورہ سے اعراض کرنے کا حکم ہو چکا تھا اور شامی قافلہ صفر کے آخر میں آیا اور اس سال شیخ تقی الدین بن تیمیہ نے بھی حج کیا اور ان کا امیر الباسطی تھا اور معان میں شدید ہوانے انہیں آیا جس کے باعث ایک جماعت فوت ہو گئی اور ہوانے اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھالیا اور عمائے سروں سے اڑ گئے اور ہر ایک کو اپنی جان کی پڑھ گئی اور اس سال کے صفر میں دمشق میں بڑے اولے پڑے جنہوں نے بہت سے غلہ جات کو تباہ کر دیا اور نوبت بہ این جا رسید کہ گندم کے دس اوقیے ایک درہم میں فروخت ہوئے اور بہت سے چوپائے مر گئے اور اس ماہ میں الکرک کی جانب زلزلہ آیا اور قلعیت کی بہت سی جگہیں گر گئیں۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ ارموی:

الشیخ الصالح القدرة العارف ابو اسحاق ابراہیم بن الشیخ الصالح ابی محمد عبداللہ بن یوسف ابن یونس بن ابراہیم بن سلیمان ارموی آپ قاسیون کے دامن میں اپنے زادیہ میں مقیم تھے اور اس میں عبادت کرتے تھے اور گوشہ نشین تھے اور آپ کے اور اداؤں کا بھی ہیں اور آپ لوگوں کے محبوب تھے آپ نے محرم میں وفات پائی اور قاسیون کے دامن میں اپنے باپ کے پاس دفن ہوئے۔

ابن الاعلیٰ صاحب المقامۃ:

شیخ ظہیر الدین محمد بن المبارک بن سالم بن ابی الغنائم دمشقی جو ابن الاعلیٰ کے نام سے مشہور تھے آپ ۶۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور سماع حدیث کیا اور آپ یگانہ فاضل تھے آپ نے اپنے قصاد میں رسول اللہ ﷺ کی مدح کی ہے اور ان کا نام الشفعیہ رکھا ہے ہر قصیدہ کے ۲۲ اشعار ہیں البرزالی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے اور آپ کا ایک مشہور افسانہ المقامۃ البحریہ بھی ہے آپ نے محرم میں وفات پائی اور الصوفیہ میں دفن ہوئے۔

ملک الزاہر مجیر الدین:

ابو سلیمان داؤد بن ملک مجاہد اسد الدین شیر کوہ حاکم حمص ابن ناصر الدین محمد بن ملک معظم آپ نے بتانہ میں ۸۰ سال کی عمر

میں وفات پائی اور جامع مظفری میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے امن میں ایسی قبر میں دفن ہوئے آپ دیندار اور جامع میں بہت نمازیں پڑھنے والے تھے اور آپ کو المونید طوسی نے نبی الشعریہ اور ابوردج وغیرہ سے اجازت حاصل تھی آپ نے جمادی الآخرہ میں وفات پائی۔

شیخ تقی الدین الواسطی:

ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن احمد بن فضل الواسطی ثم دمشقی الحسنبی آپ دمشق میں الظاہریہ کے شیخ الحدیث تھے آپ نے ۲۳ جمادی الآخرہ کو ۹۰ سال کی عمر میں جمعہ کے دن کے آخر میں وفات پائی آپ صالح اور عابد آدمی تھے اور علوروایت میں متفرد تھے اور آپ نے اپنے بعد اپنی مثل کوئی نہیں چھوڑا آپ نے بغداد میں فقہ کیسی پھر شام کی طرف کوچ کر گئے اور بیس سال الصالحیہ اور مدرسہ ابی عمر میں پڑھایا اور آخر عمر میں سفر الفاروٹی کے بعد الظاہریہ کی مشیخہ الحدیث کو سنبالا اور آپ صدر اول اور سلف کے مذہب کے داعی تھے اور بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور جنازوں میں شامل ہوتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور آپ کے بعد شیخ شمس الدین محمد بن عبدالقوی المرادوی نے الصالحیہ میں اور الظاہریہ کے دار الحدیث میں شرف الدین عمر بن خواجہ نے پڑھایا جو جامع ناصح کے امام تھے۔

ابن صاحب حماة ملك الفضل:

نور الدین علی بن ملک مظفر تقی الدین محمود بن ملک منصور محمد بن ملک مظفر تقی الدین عمر بن شاہنشاہ بن ایوب اس نے دمشق میں وفات پائی اور دمشق کی جامع میں اس کا جنازہ پڑھا گیا اور اسے باب الفراءیس سے اٹھا کر اس کے باپ کے شہر لے جایا گیا اور ان کا قبرستان وہیں ہے اور یہ دو بڑے امیروں بدر الدین حسن اور عماد الدین اسماعیل کا باپ ہے جو مدت بعد حماة کا بادشاہ بنا تھا۔

ابن عبد الظاہر:

حجی الدین بن عبد اللہ بن رشید الدین عبد الظاہر بن نشوان بن عبد الظاہر بن علی بن نجدۃ السعدی دیار مصر کا کاتب انشاء اور یہ آخری شخص ہے جو اس فن میں اپنے زمانے کے لوگوں سے سبقت لے گیا۔ اور اپنے باقی ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا اور یہ صاحب فتح الدین النذیم کا والد ہے اور قبل ازیں اس کی وفات کا ذکر اس کے باپ سے پہلے ہو چکا ہے اور اس کی تصانیف بھی ہیں جن میں سیرت ملک الظاہر بھی ہے اور یہ صاحب مروت تھا اور اس کی نظم و نثر شاندار ہے اس نے ۴۳۷ھ جب کومنگل کے روز وفات پائی اور اس کی عمر ۷۰ سال سے متجاوز تھی اور اسے اس قبر میں دفن کیا گیا جو اس نے القراءہ میں بنائی تھی۔

امیر علم الدین سنجر حلبی:

یہ دمشق پر قطن کا نائب تھا اور جب اس کے پاس الظاہر کی بیعت آئی تو اس نے اپنی طرف دعوت دی اور اس کی بیعت ہوئی اور اس نے ملک مجاہد کا نام اختیار کیا پھر اس کا محاصرہ کیا گیا اور یہ بعلبک کی طرف بھاگ گیا پس اس کا محاصرہ ہوا تو یہ الظاہر کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس نے ایک مدت تک اسے قید کر دیا اور پھر ہا کر دیا اور منصور نے بھی اسے ایک مدت تک قید کیا اور اشرف نے اسے رہا کر دیا اور اس کا احترام و اکرام کیا اس نے ۸۰ سال عمر پائی اور اس سال میں وفات پائی۔

۶۹۳ھ

اس سال نے شروع میں اشرف نمل ہو گیا اور یہ واقعہ یوں ہے کہ وہ ۳۰ محرم کو شکار کے لیے نکلا اور جب وہ ۱۲ محرم کو اسکندریہ کے نزدیک اپنے قاصدوں کے ملاقات میں تھا تو امراء کی جماعت نے حنیوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جب وہ فوج سے الگ ہوں تو اسے قتل کر دیں انہوں نے اس پر حملہ کر دیا سب سے پہلے اس کے نائب بیدرانے اس کی تصدیق کی اور لاجین منصور نے اس کی چغلی کی پھر وہ رمضان تک روپوش رہا پھر عید کے دن ظاہر ہوا اور اشرف کے قتل میں جن لوگوں نے اتفاق کیا ان میں بدرالدین بیسری اور شمس الدین قراستغری بھی شامل تھے اور جب اشرف قتل ہو گیا تو امراء نے بیدرا کے بادشاہ بنانے پر اتفاق کیا اور انہوں نے اسے ملک قاہرہ یا اوحدا کا نام دیا مگر یہ بات پوری نہ ہوئی اور وہ دوسرے دن کتبغا کے حکم سے قتل ہو گیا پھر زین الدین کتبغا اور علم الدین سخرنے اس کے بھائی محمد ملک ناصر بن قلا دون کے بادشاہ بنانے پر اتفاق کیا اور اس وقت اس کی عمر ۸ سال چند ماہ تھی پس انہوں نے ۱۴ محرم کے دن اسے تحت حکومت پر بٹھادیا اور وزیر ابن السلعوس اسکندریہ میں تھا اور وہ سلطان کے ساتھ باہر نکلا اور وہ اسکندریہ آیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اسے مصیبت نے گھیر لیا ہے اور ہر جانب سے اس پر عذاب آیا اس لیے کہ وہ بڑے امراء سے چھوٹے امراء والا سلوک کرتا تھا سو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اشجاعتی نے اس کی عقوبت کی ذمہ داری لی اور اسے بہت مارا اور اس نے اموال کا اعتراف کیا اور وہ مسلسل اسے سزا دیتے رہے حتیٰ کہ اسے سب ذخائر کی نگہداشت ہو جانے کے بعد وہ ۱۰ صفر کو مر گیا اور اشرف کے جسم کو لاکر اس کی قبر میں دفن کیا گیا اور لوگوں کو اس کے مرنے کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس کے قتل کو بڑی بات خیال کیا اور وہ ذہین بہادر عالی ہمت اور خوش منظر تھا اور اس نے عراق سے جنگ کرنے اور ان علاقوں کو تارتاریوں کے قبضے سے واپس لینے کا عزم کیا ہوا تھا اور اس نے اس کے لیے تیاری کی اور اپنے علاقے میں اس کا اعلان کیا اور اس نے اپنی مدت حکومت میں جو تین سال تھی۔ عسکا اور بقیہ سواحل کو فتح کیا اور فرنگیوں کا اس میں کوئی نشان اور پتھر نہ چھوڑا نیز اس نے قلعہ روم اور ہسنا کو بھی فتح کیا۔

اور جب ناصر کی بیعت دمشق آئی تو وہاں منابر پر اس کا خطبہ ہوا اور یہی حالت قائم رہی اور اس نے امیر کتبغا کو اس کا اتالیق اور اشجاعتی کو مشیر اعلیٰ مقرر کیا پھر وہ چند دن بعد قلعہ جبل میں قتل ہو گیا اور اس کے سر کو کتبغا کے پاس لایا گیا اس نے حکم دیا کہ اسے شہر میں پھرایا جائے پس لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور جن لوگوں نے اس کا سراٹھایا ہوا تھا انہیں مال دیا اور کتبغا کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے والا باقی نہ رہا اور اس کے باوجود وہ امراء کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے مشورہ کرتا تھا۔

اور ابن السلعوس کی موت کے بعد صفر میں بدرالدین بن جماعہ کو قضاء سے معزول کر دیا گیا اور قاضی الدین بن بنت الاعز کو دوبارہ قاضی بنا دیا گیا اور ابن جماعہ مصر میں کفایت و ریاست کے ساتھ مدرس رہا اور مصر کی وزارت صاحب تاج الدین ابن الحنا نے سنبھالی اور ۲۱ صفر کو بدھ کے روز محراب الصحابہ کا امام مقرر کیا گیا اور وہ کمال الدین عبدالرحمن بن قاضی محی الدین بن الزکی تھا اور خطیب کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور اسی طرح باب الناطقین کے مکتب میں بھی امام مقرر کیا گیا اور وہ ضیاء الدین بن برہان الدین اسکندری تھا اور جامع شریف کی نگہداشت زین الدین حسین بن محمد بن عدنان نے سنبھالی اور سوق الحریرین اس کے بازار کی طرف واپس آ گیا اور انہوں نے قیساریہ القطن کو خالی کر دیا جہاں طغی کے نائبین نے ان کو رہائش رکھنا لازم کیا ہوا تھا اور شیخ علامہ

شرف الدین احمد بن جمال الدین احمد بن نعمیہ بن احمد المقدسی نے موثق الحدیث کی معزولی کے بعد دمشق کی خطابت سنبھالی انہوں نے اسے حماة کی طرف بلایا اور المقدسی نے ۱۵ ابریل کو جمعہ کے روز خطبہ دیا اور اس کا حلقہ نامہ پڑھا کیا اور اس کی تقرری وزیر مصر تاج الدین ابن النعمان کے مشورے سے ہوئی اور وہ فصیح و بلیغ اور وہ یگانہ عالم تھا۔

اور آخر وجہ میں امراء نے ملک ناصر محمد بن قلاوون کے ساتھ امیر زین الدین کے لیے حلف اٹھایا اور اس کے ذریعے بقیہ شہروں اور صوبوں میں بھی بیعت رواں ہوئی۔

عساف نصرانی کا واقعہ:

یہ شخص السویدار کا باشندہ تھا اس کے خلاف ایک جماعت نے گواہی دی کہ اس نے حضرت نبی کریم ﷺ کو گالیاں دی ہیں اور اس عساف نے امیر آل علی، ابن احمد بن جلی کی پناہ لے لی پس شیخ تقی الدین بن تیمیہ اور شیخ زین الدین الفاروقی شیخ دارالحدیث اکٹھے ہوئے اور دونوں نائب سلطنت امیر عز الدین ابیک الحوی کے پاس گئے اور اس کے بارے میں اس سے گفتگو کی اور اس نے ان دونوں کی بات مان لی اور اسے حاضر کرنے کے لیے پیغام بھیجا پس وہ دونوں اس کے ہاں سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور جب عساف آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عربی شخص بھی ہے سو انہوں نے اسے سب و شتم کیا اور اس دیہاتی آدمی نے کہا یہ تم سے بہتر ہے۔ یعنی نصرانی، تو لوگوں نے دونوں کو پتھر مارے جو عساف کو لگے اور وہ دیوانہ ہو گیا، نائب نے پیغام بھیج کر شیخ ابن تیمیہ اور الفاروقی کو طلب کیا اور اس کے سامنے دونوں کو مارا اور ان دونوں کو العذر راویہ کے بارے میں لکھا اور نصرانی آ کر مسلمان ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجلس منعقد کی گئی اور اس نے ثابت کیا کہ اس کے اور گواہوں کے درمیان عداوت پائی جاتی ہے پس اس کا خون محفوظ ہو گیا پھر اس نے شیخین کو بلایا اور انہیں راضی کیا اور ان کو رہا کر دیا اور اس کے بعد نصرانی بلاد حجاز میں چلا گیا اور اتفاق سے وہ مدینۃ الرسول کے قریب قتل ہو گیا، اسے اس کے بھتیجے نے وہاں قتل کیا اور اس واقعہ کے بارے میں شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انصار المسلمین علی سب الرسول ہے۔

اور اس سال کے شعبان میں ملک ناصر شہانہ شوکت کے ساتھ سوار ہو کر قاہرہ سے گذرا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور یہ اس کی پہلی سواری تھی۔ اور شام میں خوشیوں کے شادیاں بچے اور اس کی جانب سے سرکاری پروانہ آیا جسے جامع کے منبر پر پڑھا گیا اس میں عدل کے پھیلانے اور ظلم کے سمیٹنے اور اوقاف و املاک کے مالکوں کی مرضی سے کفالت کو باطل کرنے کا حکم تھا اور ۲۳ شعبان کو امام الدین کے بھائی قاضی جمال الدین قدوسی نے المسرور میں درس دیا اور اس کا بھائی اور قاضی القضاة شہاب الدین الحنبلی اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ حاضر ہوئے اور یہ ایک بھر پور درس تھا البرزالی نے بیان کیا ہے کہ شعبان میں مشہور ہو گیا کہ جسرین کے باغ میں ایک عظیم اثر دھا ہے جس نے بکری کا بوا سا سرنگل لیا ہے اور رمضان کے آخر میں امیر حسام الدین لاجین ظاہر ہو گیا وہ اشرف کے قتل کے وقت سے روپوش تھا اور اس نے سلطان کے پاس عذر پیش کیا اور اس نے اسے قبول کر لیا اور اسے خلعت دیا اور اس کا اکرام کیا اور اس کا قتل اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔

اور اس سال کے شوال میں مشہور ہو گیا کہ مہنا بن عیسیٰ سلطان ناصر کی اطاعت سے خروج کر کے تاتاریوں کے ساتھ جامل

ہے اور ۸ رذوالقعدہ کو مددہ کے روز قاضی القضاة شہاب الدین ابن الخولی کی بجائے خطیب شرف الدین المقدسی نے الغزالیہ میں درس دیا قاضی شہاب الدین فوت ہو گئے تھے اور الشامیہ البرانیہ کو چھوڑ کئے تھے اور ۱۴ رذوالحجہ کو جمعرات کے روز قاضی بدر الدین احمد بن جماعہ شامی کی قضا پر آئے اور العادلیہ میں اترے اور نائب الملک اور تمام فنون آپ کے اشتہار ہو گئی اور شہداء نے آپ کی مدح کی اور آپ نے تاج الدین العجمی کو نائب خطیب مقرر کیا اور شرف الدین المقدسی کی بجائے شیخ زین الدین الفاروقی نے الشامیہ البرانیہ کی تدریس کا کام سنبھالا اور الناصریہ کو اس کے قبضے سے چھین لیا گیا اور ابن جماعہ نے وہاں اور العادلیہ میں ۲۰ ذوالحجہ کو پڑھایا اور اس ماہ انہوں نے دمشق کے والی جمال الدین اقیامی کے حکم سے کتوں کو دمشق سے جنگل کی طرف نکال دیا اور اس بارے میں لوگوں اور دربانوں پر سختی کی۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

علامہ شیخ تاج الدین موسیٰ:

ملک اشرف خلیل بن قلاذون منصور، بیدرا، الشجاعی اور شمس الدین بن السلجوس بن محمد بن مسعود المرانی، جو ابو الجواب الشافعی کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے اقبالیہ وغیرہ میں پڑھایا اور آپ فضلاء شافعیہ میں سے تھے اور فقہ اصول اور نحو میں آپ کو بڑا کمال اور فہم حاصل تھا ہفتہ کے روز آپ اچانک فوت ہو گئے اور باب الصغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے آپ کی عمر ۷۰ سال سے متجاوز تھی۔

خاتون مؤنس بنت سلطان عادل ابی بکر بن ایوب:

یہ دارالقطیہ اور دارالاقبال کے نام سے مشہور ہے اس کی پیدائش ۶۰۳ھ میں ہوئی، اس نے عقیقہ الفاروقیہ اور عین الشمس بنت احمد بن ابی الفرج الثقفیہ سے اجازت روایت کی ہے اس نے ربیع الآخر میں قاہرہ میں وفات پائی۔

ملک حافظ غیاث الدین بن محمد:

ملک سعید معین الدین بن ملک امجد بہرام شاہ بن المعزز الدین فروخ شاہ بن شاہنشاہ ابن ایوب آپ یگانہ فاضل تھے آپ نے سماع حدیث کیا اور بخاری کو روایت کیا آپ علماء اور فقراء سے محبت کرتے تھے آپ نے ۶ شعبان کو جمعہ کے روز وفات پائی اور آپ کو اپنے نانا ابن المقدم کے پاس باب الفردیس سے باہر دفن کیا گیا۔

قاضی القضاة شہاب الدین ابن الخولی:

ابو عبد اللہ محمد بن قاضی القضاة شمس الدین ابی العباس احمد بن خلیل بن سعاده بن جعفر ابن عیسیٰ بن محمد الشافعی ان کا اصل خوئی ہے آپ نے بہت سے علوم حاصل کیے اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں ان میں ایک کتاب بیس فنون کے بارے میں ہے آپ نے علوم حدیث کو مرتب اور اچھی طرح محفوظ کیا ہے آپ نے کثیر سے سماع حدیث کیا، اور آپ ان سے اور ان کے اہل کے محبت تھے اور چھوٹی عمر میں آپ نے الدماغیہ میں پڑھا پھر قدس کی قضاء کو سنبھالا پھر بیسنا کی قضا سنبھالی پھر حلب کے قاضی مقرر ہوئے پھر محلہ کی

طرف واپس آ گئے پھر قاہرہ کے قاضی مقرر ہوئے، پھر العادلیہ اور الغزالیہ کی تدریس کے ساتھ ساتھ شام کے قاضی مقرر ہوئے اور آپ زمانے کی نیکی اور اکابر علمائے اعلام میں سے تھے اور پاک دامن پاکیزہ یگانہ احدیث اور اس کے ہم اور اس کے علماء کے محبت تھے اور ہرے شیخ حافظ المرعی نے آپ کی متابعت اور اسناد چالیس احادیث بیان کیں ہیں اور تقی الدین ابن تیمیہ اور ذی احمدی نے حروف ابجد کے مطابق آپ کی مشیت بیان کی ہے جو ۲۳۶ مشائخ پر مشتمل ہے البرزالی نے بیان کیا ہے کہ اس معجم میں تقریباً تین سو شیوخ کا ذکر نہیں کیا گیا آپ نے ۲۵ رمضان کو جمعرات کے روز ۶۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور اسی روز آپ کو قاسیون کے دامن میں آپ کے والد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

امیر علاؤ الدین نابینا:

قدس کا نگران اور آج کے بہت سے نشانات کا بانی، امیر کبیر علاؤ الدین ایدکین بن عبداللہ الصالحی النجفی، آپ کا برامراء میں سے تھے اور جب نابینا ہو گئے تو قدس شریف میں اقامت اختیار کر لی اور اس کے آباد اور نئے مقامات کی دیکھ بھال کرنے لگے آپ بڑے بارعب تھے آپ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی، آپ ہی نے مسجد نبوی کے قریب نہانے کا کمرہ تعمیر کیا ہے اور لوگوں نے وہاں سے وضو وغیرہ کا بھی فائدہ اٹھایا ہے اور لوگوں کو اس سے آسائش محسوس ہوئی ہے اور آپ نے قدس میں بہت سی خانقاہیں تعمیر کیں اور نیک کام کیے آپ خود کاموں کو سرانجام دیتے تھے اور آپ کی بڑی عزت تھی آپ نے اس سال کے شوال میں وفات پائی۔

وزیر شمس الدین محمد بن عثمان:

ابن ابی الرجال التتوخی، جو ابن السلعوس کے نام سے مشہور تھا اور ملک اشرف کا وزیر تھا وہ اس سال کی ۱۰ صفر کو اس ضرب کے تحت مراجو ایک ہزار کوڑوں سے متجاوز تھی اور القرافہ میں دفن ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسے شام منتقل کیا گیا، شروع شروع میں وہ تاجر تھا پھر اس نے تقی الدین بن توبہ کی سفارت سے دمشق میں انسپکشن سنبھالی، پھر وہ سلطنت سے قبل ملک اشرف سے معاملہ کرنے لگا اور اس سے عدل و صدق ظاہر ہوا اور جب وہ اپنے باپ منصور کے بعد بادشاہ بنا تو اس نے اسے حج سے بلا کر وزارت سونپ دی اور وہ اکابر امراء پر تکبر کرتا تھا اور انہیں ان کے ناموں سے بلاتا تھا اور ان کے لیے کھڑا نہ ہوتا تھا اور جب اس کا استاد اشرف قتل ہو گیا تو انہوں نے اسے ضرب و ابانت اور اموال لینے کے لیے قابو کر لیا حتیٰ کہ انہوں نے اس کی زندگی ختم کر دی اور اسے باندھ دیا اور اسے مٹی پر ٹھہرا دیا حالانکہ اس سے قبل وہ ثریا پر پہنچا ہوا تھا اور اللہ پر واجب ہے کہ جو چیز بلند ہوتی ہے وہ اسے نیچے کر دیتا ہے۔

۶۹۳ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ خلیفہ اور شہروں کا سلطان، ملک ناصر محمد بن قلاوون تھا اور اس وقت اس کی عمر ۱۲ سال چند ماہ تھی اور ممالک کا منتظم اور فوج کا اتالیق امیر زین الدین کتغبا تھا اور شام کا نائب امیر عز الدین ایبک الحموی تھا اور دمشق کا وزیر تقی الدین توبہ التکریتی تھا۔

اور پکچریوں کا بلانے والا شمس الدین الاعسر تھا اور شافعیہ کا قاضی ابن جمانہ اور حنفیہ کا حسام الدین الرازی اور مالکیہ کا جمال الدین الزوادی اور حنابلہ کا قاضی شرف الدین نسین تھا اور محتسب شہاب الدین انبی اور قسب الاشراف زین الدین بن عدنان اور بیت المال کا وکیل اور جامع کا نگران تاج الدین شیرازی اور خطیب شہر شرف الدین المقدسی تھا۔ اور جب عاشوراء کا دن آیا تو اشرف کے غلاموں کی ایک جماعت نے اٹھ کر سلطان کی حرمت کو پامال کر دیا اور اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہی اور انہوں نے سوق السلاح میں آ کر جو کچھ اس میں تھا لے لیا پھر ان کی نگرانی کی گئی اور ان میں سے بعض کو صلیب دیا گیا اور بعض کو پھانسی دی گئی اور دوسروں کے ہاتھ اور زبانیں کاٹ دی گئیں اور بڑی دیوانگی پیدا ہو گئی اور وہ تقریباً تین سو یا اس سے زیادہ آدمی تھے۔

ملک عادل کتبغا کی سلطنت:

اور الاحمر کی صبح کو امیر کتبغا تخت حکومت پر بیٹھا اور ملک ناصر محمد بن المنصور کو معزول کر دیا اور اسے اپنے اہل کے گھر کا پابند کر دیا اور یہ کہ وہ اس سے باہر نہ نکلے اور امراء نے اس پر اس کی بیعت کی اور اسے مبارکباد دی اور بڑا دسترخوان بچھایا اور اپنی اس بات کو صوبوں کی طرف لے گئے اور اس کی بیعت کی گئی اور اس کے لیے مستقل خطبہ دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور امارت مکمل ہو گئی اور شہروں کو آراستہ کیا گیا اور خوشی کے شادیاں بچھ گئے اور اس نے ملک عادل کا لقب اختیار کیا اور اس وقت اس کی عمر تقریباً پچاس سال تھی اور وہ حمص کے پہلے معرکہ میں جو عین جالوت کے معرکہ کے بعد ملک الظاہر کے زمانے میں ہوا تھا قید ہو گیا تھا اور وہ النورانیہ میں سے تھا جو تاریخوں کی ایک جماعت ہے اور اس نے امیر حسام الدین لاجین السلحداری کو مصر میں نائب مقرر کیا اور وہ اس کے آگے غلاموں کا منتظم تھا اور الجزیری نے اپنی تاریخ میں ایک امیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ہلاکو خان کو دیکھا اس نے اپنے منجم سے پوچھا کہ وہ اس کی فوج کے ان پیشروؤں میں سے اس کا استخراج کرے جو دیار مصر پر قبضہ کرے گا اور اس نے حساب لگا کر اسے کہا میں اس شخص کو دیار مصر پر قابض پاتا ہوں جس کا نام کتبغا ہوگا اور اس نے اسے کتبغا نوین خیال کیا اور وہ ہلاکو کا داماد تھا پس اس نے اسے سالار فوج بنا دیا اور وہ وہ نہیں تھا اور وہ عین جالوت میں قتل ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور جس شخص نے اس کو مصر پر قابض کر لیا وہ بہترین امیر اور سیرت و انصاف اور نصرت اسلام کے ارادے کے لحاظ سے ان امراء میں سے بہتر شخص تھا۔

اور ربیع الاول کے آغاز میں بدھ کے روز کتبغا شاہانہ شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور قاہرہ سے گذرا اور لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کیں اور اس نے الصاحب تاج الدین بن الحنا کو وزارت سے معزول کر دیا اور نضر الدین حنبلی کو وزیر بنایا اور لوگوں نے دمشق میں مسجد المقدم کے پاس بارش کی دعا کی اور تاج الدین الجھیری نے شرف الدین المقدسی کی نیابت میں ان سے خطاب کیا اور وہ مریض تھا اور اس نے اپنے آپ کو قضا سے معزول کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور یہ ۵ جمادی الاولیٰ بدھ کے دن کا واقعہ ہے اور وہ سیراب نہ ہوئے تو پھر انہوں نے دوبارہ ہفتہ کے روز ۷ جمادی الآخرہ کو مذکورہ جگہ پر بارش کی دعا کی اور شرف الدین المقدسی نے ان سے خطاب کیا اور مجمع پہلے سے بھی بڑا تھا مگر وہ سیراب نہ ہوئے اور رجب میں جمال الدین ابن

الشریش نے قاضی بدرالدین بن جماعہ کی نیابت میں فیصلہ کیا اور اسی مہینے میں قاضی شمس الدین بن العزنی المعظمیہ میں پڑھایا اس نے اسے ملاذ الدین بن الدقان سے چھین لیا اور اسی ماہ میں ملک اوحدا بن ملک ناصر داؤد بن المعظم قدس اور طلیل پر مقصر ہوا اور رمضان میں اس نے کنا بلہ کو حکم دیا کہ وہ برے کام سے پہلے نماز پڑھ لیا کریں اور یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ وہ اس کے بعد نماز پڑھتے تھے اور جب محراب الصحاہ کے لیے نیا امام بنا تو وہ سب ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے تھے جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی بس یہ ضابطہ بن گیا کہ وہ تیسرے غریب برآمدے میں اپنے محراب کے پاس گھن میں نماز کے وقت بڑے امام سے پہلے نماز پڑھ لیا کریں۔

میں کہتا ہوں یہ ضابطہ ۷۲۰ھ کے بعد تبدیل ہو گیا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور رمضان کے آخر میں قاضی نجم الدین بن صحری دیار مصر سے شامی افواج کے فیصلے کے لیے آیا اور ۱۵ شوال کو جمعرات کے روز شرف الدین المقدسی خطیب و مدرس کی بجائے قاضی بدرالدین بن جماعہ نے جامع کے محراب میں امام اور خطیب بن کر ظہر کی نماز پڑھائی پھر اس نے دوسرے دن خطبہ دیا اور اس کا خطبہ اور قرأت بھر پور تھی اور یہ قضاء وغیرہ سے زائد بات تھی۔

اور شوال کے اوائل میں دیار مصر سے مختلف احکام آئے جن میں یہ حکم تھا کہ خطیب مقدسی کی بجائے ابن مصری الغزالیہ میں پڑھائے اور امینیہ کی تدریس کے بارے میں یہ حکم تھا کہ نجم الدین ابن مصری کی بجائے امام الدین قزوینی امینیہ میں پڑھائے اور اس نے اپنے بھائی جلال کو حکم دیا کہ وہ اس کی بجائے الظاہریۃ البرانیۃ میں پڑھائے اور شوال میں اس حمام کی تعمیر مکمل ہو گئی جسے مسجد القصب میں عز الدین الحموی نے بنایا تھا اور وہ خوبصورت ترین حمام تھا۔

اور شرف الدین المقدسی کی بجائے دارالحدیث نوریہ کی مشیخت شیخ علاؤ الدین بن العطار نے سنبھالی اور اس سال ملک مجاہد انس بن مالک عادل کتب خانے حج کیا اور انہوں نے حریم وغیرہ میں بہت صدقات دیئے اور یوم عرفہ کو دمشق میں اعلان کیا گیا کہ ذمیوں میں سے کوئی شخص گھوڑے اور خچر پر سوار نہ ہو اور مسلمانوں میں سے جو شخص کسی ذمی کو اس کی خلاف ورزی کرتے دیکھے تو وہ اس کا سامان لے لے اور اس سال کے آخر میں اور اس کے ساتھ دالے سال میں دیار مصر میں سخت گرانی ہو گئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے ماہ ذوالحجہ میں تقریباً بیس ہزار آدمی ہلاک ہوئے اور اس سال شاہ تاتار قازان ابن ارغون بن ابغان تولی بن چنگیز خاں مسلمان ہو گیا اور اس نے امیر توذون رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر اظہار اسلام کیا اور تاتاری یا ان کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی اور اس نے اپنے اسلام لانے کے روز سونا اور چاندی اور موتی لوگوں کے سروں پر بچھا رکھے اور محمود کا نام اختیار کیا اور خطبہ اور جمعہ میں حاضر ہوا اور اس نے بہت سے گرجوں کو برباد کر دیا اور ان پر جزیہ عائد کیا اور بغداد وغیرہ شہروں کے مظالم کو واپس کیا اور تاتاریوں کے ساتھ جلال اور قربان گاہیں بھی ظاہر ہوئیں۔ والحمد للہ وصدہ



اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ ابوالجمال المیننی

شیخ صالح مابذ زاہد ابوالرجال بن مرقی جو احقر المین سے تعلق رکھتے تھے آپ کے احوال و مکاتبات کسی ہیں اور اہل دمشق اور دوسرے شہروں کے باشندے منین ہستی میں آپ کی زیارت کرتے تھے اور بسا اوقات آپ دمشق آتے تو آپ کا اکرام اور مہمانی کی جاتی اور آپ کی ہستی میں آپ کا زاویہ بھی تھا اور آپ ان شیطانی سماعت سے بری تھے اور شیخ جندل کے شاگرد تھے اور آپ کا شیخ، شیخ جندل کبار صالحین میں سے تھا نیز سلف کے طریق پر چلنے والا تھا اور شیخ ابوالرجال ۸۰ سال کو پہنچ چکے تھے اور آپ نے ۱۰۰ ار محرم کو منین میں اپنے گھر میں وفات پائی اور لوگ دمشق سے آپ کے جنازہ کے لیے نکلے اور ان میں سے کچھ لوگ جنازہ میں شامل ہو گئے اور کچھ لوگ شامل نہ ہو سکے اور آپ کی قبر پر جنازہ پڑھا گیا اور اپنے زاد یہ میں دفن ہوئے۔ رحمہ اللہ

اور اس سال کے اواخر ربیع الاول میں خبر آئی کہ عساف بن احمد بن جعی، جس نے اس نصرانی کو پناہ دی تھی جس نے رسول

اللہ ﷺ کو گالیاں دی تھیں، قتل ہو گیا ہے، پس لوگ اس سے خوش ہو گئے۔

شیخ جمال الدین:

نیک عابد زاہد، متقی، بقیۃ السلف جمال الدین ابی القاسم عبدالصمد بن الحرستانی قاضی القضاة، خطیب الخطباء عماد الدین عبدالکریم بن جمال الدین عبدالصمد آپ نے سماع حدیث کیا اور امامت اور تدریس الغزالیہ میں اپنے باپ کی نیابت کی، پھر آپ نے مناصب اور دنیا کو چھوڑ دیا اور عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے اور لوگوں کا آپ کے بارے میں نیک اعتقاد ہے وہ آپ کے ہاتھ چومتے اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے آپ کی عمر ۸۰ سال سے متجاوز تھی اور آپ اواخر ربیع الاول میں اپنے اہل کے پاس دامن کوہ میں دفن ہوئے۔

شیخ محبت الدین طبری مکی:

شافعی، آپ نے کثیر سے سماع کیا اور بہت سے فنون میں تصانیف کیں ان میں سے کتاب الاحکام بہت سی مفید جلدوں میں ہے اور آپ کی ایک کتاب جامع المسانید کی ترتیب کے مطابق ہے آپ نے حاکم یمن کو اس کا سماع کرایا، آپ کی پیدائش اس سال کے ۲۷ جمادی الآخرہ کو جمعرات کے روز ہوئی اور آپ مکہ میں دفن ہوئے آپ کے اشعار اچھے ہیں اور ان میں سے آپ کا وہ قصیدہ بھی ہے جو مکہ اور مدینہ کی درمیانی منازل کے بارے میں ہے اور تین سو اشعار سے زیادہ اشعار پر مشتمل حافظ شرف الدین دمیاطی نے اپنے مجسم میں اسے آپ کی طرف سے لکھا ہے۔

ملک مظفر حاکم یمن:

یوسف بن المنصور نور الدین عمر بن علی بن رسول آپ اپنے باپ کے بعد یمن کی مملکت میں ۴۷ سال مقیم رہے اور ۸۰ سال

عمر پائی اور آپ کا باپ ملک اقیس ابن الکامل محمد کے بعد بیس سال سے زیادہ مدت امیر رہا اور عمر بن رسول اقیس کی افواج کا سالار تھا

اور جب اقبیس مر گیا تو اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اس کی حکومت مکمل ہو گئی اور اس نے ملک منصور کا نام اختیار کیا اور وہ مسلسل بیس سال سے زائد عرصہ بادشاہ رہا پھر اس کا بیٹا مظفر استغاثہ بیس سال بادشاہ رہا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ملک اشرف بادشاہ بنا جو دین کو استوار کرنے والا تھا اور ۷۰۰ ایک سال بھی زندہ رہا۔ اس کا بیٹا امیر الدین ابو الفکر بن مظفر کھڑا ہوا اور ۷۰۰ ایک مدت مسلسل بادشاہ رہا اور ملک مظفر مذکور کی وفات اس سال کے رجب میں ہوئی اور وہ نوے سال سے زیادہ عمر کا تھا اور وہ حدیث اور اس کے سماع کو پسند کرتا تھا اور اس نے اپنے لیے چالیس حدیثیں جمع کی تھیں۔

شرف الدین المقدسی:

شیخ 'امام' خطیب مدرس، مفتی شرف الدین ابو العباس احمد بن شیخ کمال الدین احمد بن نعمتہ بن احمد بن جعفر بن حسین بن حماد المقدسی الشافعی آپ ۶۲۲ھ کو پیدا ہوئے اور کثیر سے سماع کیا اور اچھا لکھا اور اچھی مفید تصانیف کیں اور دمشق میں بطور نائب قضاء سنبھالی اور دمشق کی تدریس اور خطابت بھی سنبھالی اور آپ خطابت کے ساتھ ساتھ الفرائد اور دار الحدیث نوریہ کے مدرس بھی تھے اور ایک وقت آپ نے الشافیۃ البرانیہ میں پڑھایا اور فضلاء کی ایک جماعت کو، افتاء کی اجازت دی، جن میں شیخ امام علامہ شیخ الاسلام ابو العباس بن تیمیہ بھی شامل تھے اور آپ اس پر فخر کرتے اور خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے ابن تیمیہ کو افتاء کی اجازت دی ہے اور وہ علوم کے فنون کثیرہ میں مہارت رکھتے ہیں، اور آپ کے اشعار اچھے ہیں اور آپ نے اصول فقہ کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں بہت سی چیزیں جمع کر دیں ہیں اور وہ آپ کے شاندار خط میں میرے پاس ہے، آپ نے ۷۱۷ رمضان کو اتوار کے روز وفات پائی آپ کی عمر ۷۰ سال سے زیادہ تھی اور آپ کو باب کیسان کے قبرستان میں اپنے باپ کے پاس دفن کیا گیا، اللہ آپ پر اور آپ کے باپ پر رحم فرمائے اور آپ کے بعد عید کے روز، شیخ شرف الدین الفزازی خطیب جامع جراح نے خطبہ دیا پھر ابن جماعہ کی خطابت کا سرکاری حکم آیا اور خطیب شرف الدین بن المقدسی کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

”پھول کی طرف جاتا کہ تو اس کی چغلی کرے اور نم کی جماعت کو بھاگتے ہوئے تیر مارا اور جو شخص پھول کا طواف قبل اس کے کہ وہ گلے میں ڈالا جائے اس کے وقت میں اس کا طواف نہ کرے، اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے۔“

صدر نجم الدین واقف الجوبہریہ:

ابو بکر محمد بن عیاش بن ابی الکارم التیمی الجوبہری، دمشق میں حنفیہ پر الجوبہریہ کے وقف کرنے والے آپ نے ۱۹ شوال کو منگل کی رات کو وفات پائی اور اپنے مدرسہ میں دفن ہوئے آپ کی عمر ۸۰ سال سے تجاوز تھی اور بادشاہوں اور ان سے کم درجہ لوگوں کے پاس آپ کے خادم تھے۔

شیخ مجد الدین:

شیخ 'امام' عالم متقی، خطیب، طبیب، مجد الدین ابو محمد عبدالوہاب بن احمد بن ابی الفتح بن سحون التتوخی الحنفی، النیرب کے خطیب اور حنفیہ کے الداعیہ کے مدرس، آپ ماہر اور حاذق طبیب تھے آپ نے النیرب میں وفات پائی اور جامعہ الصالحیہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ فاضل آدمی تھے اور آپ کے اشعار اچھے ہیں اور آپ نے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں، آپ نے ۵ ذوالقعدہ

ہفتہ کی رات کو ۵۷ سال کی عمر میں وفات پائی۔

شیخ الفاروٹی:

امام عابد زاہد خطیب حرا الدین ابو العباس احمد بن شیخ محی الدین ابراہیم بن مہربن الفرج بن ساہور ابن علی بن غنیمۃ الفاروٹی الواسطی آپ ۶۱۴ھ میں پیدا ہوئے اور سماع حدیث کیا اور اس بارے میں سفر کیا اور آپ کو حدیث تفسیر فقہ و عطا اور باعنت میں کمال حاصل تھا اور آپ دیندار تقویٰ شعار اور درویش آدمی تھے آپ الظاہر کی حکومت میں دمشق آئے تو آپ کو الجار و ضیہ کی تدریس اور ابن ہشام کی مسجد کی امامت دینی گئی اور مصالح کے مطابق اس میں آپ کے لیے کچھ چیزوں کو مرتب کیا گیا اور آپ میں ایثار پایا جاتا تھا اور آپ کے احوال صالحہ اور بہت سے مکاشفات ہیں ایک روز آپ ابن ہشام کے محراب میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے احرام کی تکبیر سے پہلے اپنی دائیں جانب متوجہ ہو کر کہا باہر جاؤ اور غسل کرو مگر کوئی شخص باہر نہ نکلا پھر آپ نے دو تین بار اس بات کو دہرایا تو کوئی شخص باہر نہ نکلا آپ نے کہا اے عثمان باہر جاؤ اور غسل کرو تو وصف سے ایک شخص باہر نکلا اور اس نے غسل کیا پھر واپس آ کر شیخ کے پاس معذرت کرنے لگا اور وہ شخص فی نفسہ صالح تھا اس نے بیان کیا ہے کہ اسے کسی شخص کو دیکھے بغیر فیض پہنچا ہے اور اس نے یقین کر لیا کہ اسے غسل کرنا لازم نہیں ہے اور جب شیخ نے وہ بات کہی جو اس نے کہی تو اس نے خیال کیا کہ وہ دوسرے کو مخاطب کر رہا ہے اور جب اس نے معین طور پر اس کا نام لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہی اس کا مقصود ہے پھر الفاروٹی دوسری بار منصور قلا دون کے آخری ایام میں آئے اور آپ نے کئی ماہ جامع دمشق میں خطبہ دیا پھر آپ کو مؤفق الدین الحموی کے ذریعے معزول کر دیا گیا اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے اور آپ نے النجیۃ اور دار الحدیث الظاہریہ میں پڑھایا پھر سب کچھ چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف سفر کر گئے اور ذوالحجہ کے آغاز میں بدھ کی صبح کو وفات پا گئے اور واسط میں آپ کی موت کا دن قیامت کا دن تھا اور دمشق اور دیگر شہروں میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ نے سہروردی سے خرقة تصوف زیب تن کیا اور قراءت عشرہ کو پڑھا اور دو ہزار دو سو جلدیں پیچھے چھوڑیں اور کثیر سے حدیث بیان کی اور ابرزالی نے آپ سے صحیح بخاری جامع ترمذی سنن ابن ماجہ مسند الشافعی مسند عبد ابن حمید معجم الطبرانی الصغیر مسند الدارمی فضائل القرآن لابی عبید اور ۱۸ اجزاء وغیرہ سے۔

محقق جمال:

احمد بن عبد اللہ بن الحسین الدمشقی آپ نے شافعی مذہب کے مطابق فقہ سیکھی اور اس میں مہارت حاصل کی اور فتویٰ دیا اور دہرائی کی آپ طب میں فاضل تھے اور آپ نے فن طب میں دوسروں پر مقدم ہونے کی وجہ سے الدخاریہ کی مشیخت سنبھالی اور اطباء کے ضابطے کے مطابق شفا خانہ نوری میں مریضوں کی عیادت کی اور آپ الفرخثانیہ میں شافعیہ کے مدرس تھے اور متعدد مدارس کے دہرائی کرانے والے تھے اور اچھے ذہین تھے اور بہت سے فنون میں حصہ دار تھے اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔

الست خاتون بنت ملک اشرف:

مویٰ بن عادل اپنے عمر اد منصور بن صالح اسماعیل بن عادل کی بیوی اور یہی وہ خاتون ہے جس نے منصور کے زمانے میں اپنی بیوقوفی ثابت کی اور اس نے اس سے حزم کو خرید لیا اور اس نے زین الدین سامری سے الزہد لے لیا۔

صدر جمال الدین:

یوسف بن علی بن مجاہد المرقی، صاحب ترقی الدین تو بہ کا بھائی ایک وقت یہ دمشق کا اسپیکر بنا اور اسے اپنے بھائی کی قبر میں دامن نوہ میں دفن کیا گیا اور اس کا جنازہ ہجر پور تھا اور یہ بڑا قیمتنا مالدار اور صاحب مروت تھا اس نے اپنے پیچھے تین بیٹے چھوڑے۔
شمس الدین محمد علاؤ الدین علی اور بدر الدین حسن۔

۶۹۵ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو خلیفہ وقت الحاکم باہر اللہ ابو العباس احمد العباسی اور ملک کا سلطان ملک عادل زین الدین کتبغا تھا اور مصر میں اس کا نائب امیر حسام الدین لاجین السلحداری منصوری تھا اور اس کا وزیر فخر الدین بن الجلیلی تھا اور مصر و شام کے قضاة وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور نائب شام عز الدین الحومی تھا اور اس کا وزیر ترقی الدین تو بہ اور کچہری کا سررشتہ دار الاء عسر تھا اور خطیب وقاضی شہراہن جماعت تھا اور محرم میں شرف الدین بن الشیرجی کی بجائے برہان الدین بن ہلال نے قیاموں کی نگہداشت سنبھالی۔

اور اس سال کے آغاز میں دیار مصر میں سخت گرانی اور سخت فنا طاری ہوئی اور تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب لوگ فنا ہو گئے اور وہ ایک گڑھا کھود کر لوگوں کی کئی جماعتوں کو اس میں دفن کر دیتے اور بھاؤ حد درجہ گراں اور خوراک کی حد درجہ قلت اور گرانی تھی اور موت حکمرانی کر رہی تھی اور ماہ صفر میں تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار آدمی مر گئے اور شام میں بھی گرانی ہو گئی اور ایک بورے کی قیمت دو سو درہم تک پہنچ گئی اور العویرانیہ تا تاریخوں کو جب اطلاع ملی کہ کتبغا کی سلطنت شام تک آگئی ہے اور وہ ان میں سے ہے تو ان کی ایک جماعت آئی اور فوج نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا پھر وہ امیر قمر اسنقر منصور کی ساتھ دیار مصر کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے اور مصر میں گرانی اور فنا کی شدت کی خبر آئی حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اسکندریہ میں بچے کی قیص ۳۶ درہم میں اور قاہرہ میں ۱۹ درہم میں فروخت ہوئی اور تین انڈے ایک درہم میں فروخت ہوئے اور گدھے گھوڑے، خچر اور کتے لوگوں کے کھانے کی وجہ سے ختم ہو گئے اور ان حیوانات میں سے جو بھی نظر آتا وہ اسے کھا جاتے۔

اور ۱۲ جمادی الاولیٰ کو ہفتے کے روز، شیخ علامہ ترقی الدین بن دقیق العید، ترقی الدین بن بنت الاعز کی بجائے مصر کے قاضی القضاة بنے پھر دیار مصر میں ستائی ہو گئی اور جمادی الآخرة میں بھوک اور تکلیف جاتی رہی۔ واللہ الحمد

اور ۲۲ رجب کو بدھ کے روز قاضی امام الدین نے التیمریہ میں صدر الدین ابن رزین کی بجائے پڑھایا کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے البرزالی نے بیان کیا ہے کہ اس سال قبہ زمزم پر بجلی گری اور اس نے مسجد الحرام کے مؤذن شیخ علی بن محمد بن عبدالسلام کو مار دیا اور وہ مذکورہ قبہ کی سطح پر اذان دیا کرتا تھا اور اس نے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں اور اس سال رمضان کے آخر میں ملک الظاہر کی بیوی ام سلاش بلاد الاشکری سے دمشق آئی اور نائب شہر نے اس کی طرف تحائف و ہدایا بھیجے اور اس کے لیے وظائف اور ڈیونیاں مرتب کی گئیں اور جب خلیل بن منصور نے سلطنت سنبھالی تو اس نے انہیں جلاوطن کر دیا تھا۔

الجزیری نے بیان کیا ہے کہ رجب میں کمال الدین بن القلانسی نے جلال الدین قزوینی کی بجائے درس دیا اور ۷ رمضان کو

بدھ کے روز شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ حرانی نے شیخ زین الدین بن انجلی کی بجائے مدرسہ حنبلیہ میں درس دیا یہ صاحبِ وفات یا جلسے تھے اور ابن تیمیہ نے العماد بن النجا کا حلقہ جس میں الدین بن انجلی بھی تھے کے لیے چھوڑ دیا اور شوال کے آخر میں حامد زرع قاضی جمال الدین الزماعی اور سلیمان بن عمر بن سالم الازرقی تھانے دمشق میں ابن تیمیہ کی نیابت کی اور اس سال شوال کے آخر میں سلطان تغلق مسعود نے شام آیا اور بس اچھی یہ خبر لایا تو قلعہ میں خوشی کے شامیے بچائے اور سلطان اور اس کا نائب الامین اور اس کا وزیر ابن الخلیلی قلعہ میں اترے اور ۱۶ رذوالقعدہ کو اتوار کے روز اس نے شیخ تقی الدین سلیمان بن حمزہ المقدسی کو شرف الدین کی بجائے حنابلہ کا قاضی مقرر کیا، شرف الدین فوت ہو چکے تھے۔

اور اس نے اسے اور بقیہ حکام اور بڑے بڑے والیوں اور اکابر امراء کو خلعت دیئے اور اس نے ابن الشیرازی کی بجائے نجم الدین بن ابی طیب کو بیت المال کا وکیل مقرر کیا اور جماعت کے ساتھ اسے بھی خلعت دیا اور الاعسر اور اس کے اصحاب کی ایک جماعت اور بہت سے کاتبوں اور والیوں کو لکھا اور ان سے بہت سے اموال کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اموال و ذخائر اور بنت ابن السلجوس اور ابن عدنان اور بہت سے لوگوں کی نگہداشت کی گئی اور بڑی گڑبڑ ہو گئی اور شیخ الحریری کے دو بیٹے حسن اور شیبہ، بسر سے سلطان کی ملاقات کو آئے اور ان دونوں کو اس سے بخشش اور مدد ملی اور وہ اپنے شہر کو واپس چلے گئے اور المرہ کے دامن کوہ میں قلندریہ نے سلطان کی ضیافت کی اور اسے تقریباً دس ہزار درہم دیئے اور حماة کا حکمران سلطان کی خدمت میں آیا اور اس کے ساتھ میدان میں پولو کھیلا اور اشرف نے اپنے نقیب زین الدین بن عدنان سے تکلیف اٹھائی، پس صاحب نے ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور ان کے معاملے کو قاضی شافعی کے سپرد کر دیا اور جب ۲۲ رذوالقعدہ کو جمعہ کا دن آیا تو سلطان ملک عادل کتبخانے خطابت کے کمرے میں نماز پڑھائی اور اس کی دائیں جانب، حماة کا حکمران اور اس کے نیچے بدر الدین امیر صلاح اور اس کی بائیں جانب حریری کے بیٹے حسن اور اس کے دونوں بھائی اور ان کے نیچے بدر الدین امیر صلاح اور اس کی بائیں جانب عز الدین الجوی اور اس کے نیچے بدر الدین بصری اور اس کے نیچے قراستقر اور اس کے پہلو میں الحاج بہادر اور ان کے پیچھے بڑے بڑے امراء تھے اور اس نے خطیب بدر الدین بن جماعت کو قیمتی خلعت دیا اور جب نماز ادا ہو گئی تو اس نے سلطان کو سلام کیا اور سلطان نے مصحف عثمانی کی زیارت کی پھر ہفتے کی صبح کو میدان میں پولو کھیلا۔

اور ۲ رذوالحجہ کو سوموار کے روز اس نے امیر عز الدین الجوی کو شام کی نیابت سے معزول کر دیا اور سلطان نے اسے بہت سے کاموں پر جو اس سے صادر ہوئے تھے، بہت ملامت کی، پھر اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ مصر چلنے کا حکم دیا اور اس نے امیر سیف الدین عز لوالعادی کو شام کا نائب مقرر کیا اور والی بننے والے اور معزول ہونے والے کو خلعت دیئے اور سلطان دارالعدل میں آیا اور وزیر قضاة اور امراء بھی اس کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ اپنے نام کی طرح عادل تھا پھر ۱۲ رذوالحجہ کو سلطان نے بلاد حلب کی طرف سفر کیا اور وہ حرستا سے گذرا، پھر اس نے کئی روز البریہ میں اقامت اختیار کی پھر واپس آیا اور حمص میں اتر آیا اور شہروں کے نائبین اس کے پاس آئے اور نائب دمشق امیر عز لودار العدل میں بیٹھا اور فیصلے کیے اور عدل کیا، اور وہ خوش سیرت اور صحیح فیصلے کرنے والا تھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اہمیان

www.KitaboSunnat.com

شیخ زین الدین بن نجی:

ابو حامد المصعودی، مفتی مسہب صدر کمال زین الدین ابو البرکات بن انجی بن الصدوق، ابو عبد اللہ بن عمر عثمان بن احمد بن انجی بن برکات بن التوفیل التوفی حنابلہ کے شیخ اور عالم آپ ۶۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور سماع حدیث لیا اور فقہ سلیمی اور اصول و فروع اور عربی اور تفسیر وغیرہ علوم کے بہت سے فنون میں مہارت رکھتے تھے اور مذہب کی سرداری آپ تک پہنچی اور آپ نے اصول کے بارے میں تصانیف کیں اور المقنع کی شرح کی اور تفسیر میں آپ کے حواشی بھی ہیں اور آپ راست رو دیانت دار صاحب علم و وجاہت اور صحیح عقیدہ و ذہن کے مالک تھے اور مناظر تھے اور بہت صدقہ دینے والے تھے اور ہمیشہ جامع کے کام کو طوعی طور پر کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ۲۴ شعبان کو جمعرات کے روز فوت ہو گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام محمد ست البہا بنت صدر الدین الخجندی نے بھی وفات پائی اور جامع دمشق میں جمعہ کے بعد ان دونوں کا جنازہ پڑھا گیا اور دونوں کو اٹھا کر جامع مظفری کے شمال میں قاسیون کے دامن میں باغ کے نیچے لاکر ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا اور آپ قاضی القضاة علاؤ الدین کے والد تھے اور آپ مسامریہ کے شیخ تھے پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے شرف الدین اور علاؤ الدین المسامریہ کے شیخ مقرر ہوئے اور آپ حنبلیہ کے بھی شیخ تھے اور آپ کے بعد وہاں شیخ تقی الدین بن تیمیہ نے پڑھایا جیسا کہ ہم نے حوارث میں بیان کیا ہے۔

المصعودی:

المرزہ میں حمام کا مالک بڑے امراء میں سے تھا امیر کبیر بدر الدین لؤلؤ بن عبداللہ المسعودی بادشاہوں کی خدمت کرنے والا مشہور امیر اس نے المرزہ میں بستانہ مقام پر ۲۷ شعبان کو ہفتہ کے روز وفات پائی اور اتوار کی صبح کو المرزہ میں اپنی قبر میں دفن ہوا اور نائب سلطنت اس کے جنازے میں شامل ہوا اور جامع دمشق میں قیۃ النسر کے نیچے اس کی تعزیت ہوئی۔

شیخ خالدی:

شیخ صالح اسرائیل بن علی بن حسین خالدی باب السلام سے باہر آپ کا زادیہ ہے اس میں آپ کی زیارت کی جاتی تھی اور آپ عابد و زاہد تھے اور کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے خواہ وہ کوئی بھی ہو اور آپ کے ہاں سکون، خشوع اور طریق کی معرفت تھی اور آپ اپنے گھر سے صرف جمعہ کے لیے نکلتے تھے حتیٰ کہ آپ ۱۵ رمضان کو فوت ہو گئے اور قاسیون میں دفن ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ اشرف حسین المقدسی:

قاضی القضاة شرف الدین ابو الفضل الحسین ابن الامام الخطیب شرف الدین ابی بکر عبداللہ ابن الشیخ ابی عمر المقدسی آپ نے سماع حدیث کیا اور فقہ سلیمی اور فروع و لغت میں مہارت حاصل کی اور آپ میں شائستگی خوش گفتاری اور خوب روی پائی جاتی تھی آپ نے نجم الدین بن شیخ شمس الدین کے بعد ۶۸۷ھ کے آخر میں قضاء سنہالیہ اور دامن کوہ میں دارالحدیث اشرفیہ میں پڑھایا آپ نے ۲۲ رثوال جمعرات کی شب کو وفات پائی اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور دوسرے دن آپ کو اپنے دادا کے قبرستان

① شذرات الذہب میں حسن المقدسی لکھا ہے۔

میں دامن کوہ میں دفن کیا گیا اور نائب سلطنت قضاة اور احمیان آپ کے جنازہ میں شامل ہوئے اور دوسرے دن جامع مظفری میں آپ کی تعزیت ہوئی اور آپ کے بعد تقی الدین سلیمان بن حمزہ نے قضا سنبالی اور اسی طرح دامن کوہ میں واقع دار الحدیث اشرفیہ کی مشیت بھی سنبالی اور کئی ماہ کے شرف الدین القادر حسینی البانی نے اسے سنبالی ہوا تھا پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تقی سلیمان المقدسی سے ہاتھ میں برقرار رہی۔

شیخ ابو محمد:

بن ابی حمزہ المغربي المالکی آپ امام عالم اور زاہد تھے آپ نے ذوالقعدہ میں دیار مصر میں وفات پائی آپ بہت حق گو اور بہت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔

الصاحب محی الدین بن النحاس:

ابو عبد اللہ محمد بن بدر الدین یعقوب بن ابراہیم بن عبد اللہ بن طارق بن سالم بن النحاس الاسدی الحنفی الحنفی آپ ۶۱۴ھ میں حلب میں پیدا ہوئے اور علم حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی اور سماع حدیث کیا اور ایک مدت تک دمشق میں قیام پذیر رہے اور وہاں بڑے بڑے مدارس میں پڑھایا جن میں الظاہریہ اور الزنجانیہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے حلب کی قضا اور دمشق کی وزارت کو سنبالا اور آپ لائبریری کچھری اور اوقاف کے ناظر رہے اور ہمیشہ مکرم و معظم اور مناظرہ میں فضیلت و انصاف سے مشہور رہے، آپ سلف کے طریق کے مطابق حدیث اور اہل حدیث کے محبت تھے اور حضرت شیخ عبدالقادر اور آپ کی جماعت سے محبت رکھتے تھے آپ نے المزمہ میں بستانہ مقام پر ذوالحجہ کے آخر میں سوموار کی عشاء کو وفات پائی آپ کی عمر ۸۰ سال سے متجاوز تھی اور آپ کو ۶۹۶ھ کے آغاز میں منگل کے روز المزمہ میں آپ کے اپنے قبرستان میں دفن کیا گیا اور آپ کے جنازہ میں نائب سلطنت اور قضاة شامل ہوئے۔

قاضی القضاة تقی الدین:

ابو القاسم عبدالرحمن بن قاضی القضاة تاج الدین ابی محمد عبدالوہاب بن القاضی الاعز ابی القاسم خلف بن بدر العلانی الشافعی آپ نے جمادی الاولیٰ میں وفات پائی اور القراءہ میں ان کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

۶۹۶ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو خلیفہ سلطان نائب مصر نائب شام اور قضاة وہی تھے جن کا ذکر اس سے پہلے سال میں ہو چکا ہے اور سلطان ملک عادل کتبغا حمص کے نواح میں شکار کھیل رہا تھا اور نائب مصر لاجین اور اکابر امراء اس کے ساتھ تھے اور نائب شام امیر سیف الدین غزولو العادلی دمشق میں تھا اور جب ۲ محرم کو بدھ کا دن آیا تو سلطان کتبغانے دمشق آکر حجرے میں جمعہ پڑھا اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی اور اس کے پاس دعا کی اور لوگوں کے واقعات اپنے ہاتھ میں لیے اور ہفتہ کے روز دار العدل میں بیٹھا اور اس نے اور اس کے وزیر فخر الدین خلیلی نے واقعات پر مہریں لگائیں اور اس ماہ شہاب الدین بن محی الدین بن النحاس اپنے باپ کے دونوں مدرسوں الزنجانیہ اور الظاہریہ میں حاضر ہوا اور لوگ بھی اس کے پاس حاضر ہوئے پھر سلطان منگل کے روز دار العدل میں آیا اور جمعہ کا دن آیا تو اس نے حجرے میں جمعہ پڑھا پھر وہ اسی دن مفارقت الدم کی زیارت کے لیے چلا گیا اور وہاں دعا کیا اور کچھ مال صدقہ دیا اور وزیر خلیلی ۱۳ محرم اتوار کی رات کو عشاء کے بعد جامع میں آیا اور الکالمیہ کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور قراء

نے اس کے سامنے براہا اور اس نے تکبر، پاؤں کا جامع کے اندر فرش مکمل کر دیا جائے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور مسلسل دو ماہ تک فرش کی یہی حالت رہی پھر دوبارہ وہی حالت ہو گئی۔

اور آج کے دن کی صبح کو قاضی شمس الدین بن المرینی نے باہمی اتفاق سے ابن النحاس کی بجائے القیمازیہ میں درس دیا اور ایک جماعت اس نے پاس حاضر ہوئی پھر سلطان نے دوسرا جمعہ حجرہ میں پڑھایا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر ابن فلیسی بھی تھا جو ایک بیماری کے باعث کمزور ہو چکا تھا اور بے ارجمت کو اس نے ملک کامل بن ملک سعید ابن صالح اسماعیل بن عادل کو بلخانا میں لوپی سینے کا حکم دیا اور وہ قلعہ میں داخل ہوا اور اس کے دروازے پر ڈھول بجائے گئے پھر سلطان عادل کتبغا ۲۲ محرم منگل کی صبح کو فوجوں کے ساتھ دمشق سے نکلا اور اس کے بعد وزیر نکلا اور دارالحدیث کے پاس سے گذرا اور نشان نبوی کی زیارت کی اور شیخ زین الدین الفارقی اس کے پاس آیا اور الناصریہ کی تدریس کے متعلق اس سے زبانی بات کی اور زین الدین نے الشامیۃ البرانیہ کی تدریس کو ترک کر دیا اور قاضی کمال الدین بن الشریثی نے اسے سنبھال لیا بیان کیا جاتا ہے کہ وزیر نے شیخ کو دنیا کا کچھ سامان دیا تو اس نے اسے قبول کر لیا اور اسی طرح اس نے نشان کے خادم المعین خطاب کو بھی کچھ دینی سامان دیا اور اعیان و قضاة وزیر کے ساتھ اس کے الوداع کرنے کو باہر نکلے اور اس دن خوب بارش ہوئی جس سے لوگوں کو شفا طلب کی اور اس نے فوجوں کی میل وغیرہ کو دھو دیا اور تفتی تو بہ وزیر کے الوداع سے واپس آیا اور اس نے خزانہ کی نگہداشت اس کے سپرد کی تھی اور شہاب الدین بن النحاس کو اس نے اس سے معزول کر دیا تھا اور شیخ ناصر الدین نے محرم کے آخری دن بدھ کے روز قاضی بدر الدین بن جماعت کی بجائے الناصریۃ الجوانیۃ میں درس دیا۔

اور اس دن لوگوں نے فوج کے درمیان گڑبڑ ہو جانے اور اختلاف و اضطراب کے پیدا ہو جانے کے بارے میں باتیں کیں اور شہر کے نزدیک قلعے کا جو دروازہ ہے اسے بند کر دیا گیا اور صاحب شہاب الدین اس میں کھڑکی کی جانب سے داخل ہوا اور نائب اور امراء نے تیاری کی اور فوج کا ایک دستہ باب النصر پر کھڑا ہو گیا اور جب عصر کا وقت ہوا تو سلطان ملک عادل کتبغا اپنے پانچ یا چھ غلاموں کے ساتھ قلعہ میں پہنچ گیا اور امراء اس کے پاس آئے اور اس نے ابن جماعت اور حسام الدین حنفی کو بلایا اور انہوں نے امراء سے دوسری بار حلف کی تجدید کرائی اور انہوں نے حلف اٹھایا اور اس نے انہیں خلعت دیئے اور حکم دیا کہ امیر حسام الدین لاہجین کے نائبین اور اس کے ذخائر کی نگہداشت کی جائے اور ان دنوں میں عادل نے قلعہ میں قیام کیا اور ان کے درمیان وادی فحمتہ میں ۲۹ محرم کو سوموار کے روز اختلاف ہوا اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ امیر حسام الدین لاہجین نے درپردہ امراء کی ایک جماعت کو عادل کے خلاف متفق کر لیا تھا اور ان سے بیان لے لیا تھا اور جب وہ دمشق سے باہر نکلے تو اس نے عادل کو مشورہ دیا کہ وہ خزانہ کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ دمشق میں کوئی مال باقی نہ رہے جس سے عادل ان سے بچ جانے کی صورت میں واپس دمشق آ کر قوت نہ حاصل کر سکے اور وہ راستے میں اس سے جس خیانت کا عزم کیے ہوئے ہے اس میں اس کے لیے محد ہو اور جب وہ مذکورہ جگہ پر آئے تو لاہجین نے امیر سیف الدین بیعاص اور بکتوت الازرق کو جو دونوں عادل تھے قتل کر دیا اور اس کے سامنے سے خزانہ اور فوج کو قابو کر لیا اور انہوں نے دیار مصر کا قصد کیا اور جب عادل نے یہ خبر سنی تو وہ تنگ اور لمبے راستوں سے باہر نکلا اور اس نے ایک دستہ دمشق کی طرف بھیجا اور وہ اس میں داخل ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے بعض غلام اس کی طرف واپس آ گئے جیسے زین الدین غلبک وغیرہ اور شہاب الدین حنفی انتظام حکومت کے لیے قلعہ میں رہا اور ابن الشریثی نے صفر کے آغاز میں جمعرات کی صبح کو الشامیۃ البرانیہ میں درس دیا اور ان ایام میں بہت سے امور تپٹ ہو گئے اور سلطان قلعہ میں بیٹھ گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکلتا تھا اور اس نے بہت

تے ٹیکس تھیوز دئے اور اس کے بارے میں اس نے احکام لکھے جو لوگوں کو مانانے لگئے اور بھاؤ بہت گراں ہونا اور ایک بورا دوسو درہم تک پہنچ گیا اور حالات بگڑ گئے اور خراب ہو گئے۔ انانندوان الیہ راجعون
ملک منصور لاجین السلحداری کی سلطنت

اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب وہ خزانہ لے کر فوجوں کے ساتھ دیار مصر کو گیا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہوا اور بڑے بڑے عوامی امراء نے اس سے اتفاق کیا اور اس کی بیعت کی اور اسے اپنا بادشاہ بنالیا اور وہ ۱۰۰۰ ہجری کو جمعہ کے روز تخت حکومت پر بیٹھا اور مصر میں خوشی کے شادیاں بچے اور شہر کو آراستہ کیا گیا اور منابر پر اس کا خطبہ دیا گیا اور قدس اور خلیل میں بھی خطبہ دیا گیا اور اس نے ملک منصور کا لقب اختیار کیا اور اسی طرح الکراک، نابلس اور صفد میں اس کے شادیاں بچے اور امرائے دمشق کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور الرجبہ کی جانب سے فوج کا ایک دستہ امیر سیف الدین کلکن کے ساتھ آیا اور وہ شہر میں داخل نہ ہوئے بلکہ قلعے کے میدان میں اتر گئے اور انہوں نے عادل کی مخالفت اور حاکم مصر منصور لاجین کی اطاعت کا اظہار کیا اور امراء جماعت در جماعت اور فوج در فوج اس کے پاس گئے اور عادل کی حکومت بہت کمزور ہو گئی اور جب اس نے اپنی حکومت کی کمزوری کو دیکھا تو اس نے امراء سے کہا وہ خنداں اور میں ایک ہی چیز ہیں اور میں اس کی سچ و اطاعت کرنے والا ہوں اور قلعہ میں وہ جس جگہ چاہتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں تم اس سے خط و کتابت کرو اور دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے اور اپنی خطوط لے کر آئے جن میں قلعہ اور عادل کی نگہداشت کا حکم تھا اور لوگ فتنہ و فساد اور مختلف قسم کی باتیں کرتے رہ گئے اور قلعے کے دروازے بند تھے اور شہر کے دروازے بھی بند تھے صرف باب النصر کی کھڑکی کھلی تھی اور عوام نے قلعہ کے ارد گرد اڑو حاکم کیا ہوا تھا حتیٰ کہ ان کی ایک جماعت خندق میں گر پڑی اور کچھ لوگ مر گئے اور اتوار کی صبح کو مؤذنین نے جامع دمشق میں اس کے لیے دعا کی اور یہ آیت تلاوت کی:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾

لوگوں نے اتوار کی صبح کی توقضا اور امراء اکٹھے ہوئے اور ان میں غرلو العادلی دارلسعادة میں تھاپس انہوں نے منصور لاجین کے لیے بیان کیا اور شہر میں اس کا اعلان کر دیا گیا کہ لوگ اپنی وکانیں کھول لیں اور صاحب شہاب الدین اور اس کا بھائی زین الدین محتسب روپوش ہو گئے اور اس نے والی ابن النشابی کو شہر کا محتسب بنا دیا پھر زین الدین ظاہر ہو گیا اور اس نے حسب دستور احتساب کا محکمہ سنبھال لیا اور اسی طرح اس کا بھائی شہاب الدین بھی ظاہر ہو گیا اور نائب شہر غرلو اور امیر جاغان دیار مصر کو چلے گئے کہ سلطان کو بتائیں کہ اس کے مطابق بیان ہو گیا ہے اور سلطان کا خط آیا کہ وہ ۱۰۰۰ ہجری کو جمعہ کے روز تخت پر بیٹھا ہے اور شاہانہ شوکت کے ساتھ ۱۶ ہجری کو قاہرہ سے گذرا ہے اور اس پر خلافتی خلعت تھا اور امراء اس کے آگے تھے اور اس نے امیر سیف الدین سنقر المصوری کو مصر کا نائب مقرر کیا ہے اور یکم ربیع الاول کو دمشق میں منصور لاجین کا خطبہ ہوا اور حجرے میں قضاة، شمس الدین الاعمر اور کلکن حاضر ہوئے اور اچانک وہ اور امرائے دمشق کا ایک گروہ بھی آ گیا اور قاضی امام الدین قزوینی، حسام الدین حنفی اور جمال الدین ماکی مطلوب ہو کر دیار مصر کی طرف گئے اور دارالسلطان کے استاد امیر حسام الدین اور سیف الدین جاغان سلطان کی طرف سے آئے اور انہوں نے باہم ترکی زبان میں طویل گفتگو کے بعد اسے مؤکد حلف دیئے اور ترکی زبان میں اس کی بیعت کرنے کا ذکر

کیا کہ ۶۰۰ شمسی کے متعلقہ واقعات اور قتل کے بعد قلمبند متعین جو اور قتل الدین قزوینی وزارت کے فرامین آئے اور اس نے شہام الدین خنجی کو معزول کر دیا اور زین الدین خنجی کی بجائے امین الدین یوسف ارغنی رومی کو ہتھیار سنبھالنے کا دوست تھا محتسب مقرر کر دیا اور امیر سیف الدین قلیق منصور نے ۱۱۱۱ھ اول جلتہ کی صبح کو شام کی نیابت کے لیے دمشق آیا اور سیف الدین غرور العادلی کی بجائے دار السعادتہ میں اترا اور تمام فوج اس کے استقبال کو آئی اور جمعہ کے روز اس نے حجرے میں آ کر نماز پڑھی اور جمعہ کے بعد اوقاف و املاک کے مالکوں کی رضامندی کے بغیر ان کی کفالتوں کے ابطال کے بارے میں سلطانی حسامی خط پڑھا، اسے قاضی نجی الدین بن فضل اللہ افسردیوان انشاء نے پڑھا اور شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس سے ناانصافی ہوئی ہو وہ منگول کے روز دارالعدل میں آئے اور اس نے امراء پیشروؤں اور باب مناصب یعنی قضاة اور کارکنوں کو خلعت دیئے اور ابن جماعتہ کو دو خلعت دیئے ایک قضاة کا اور دوسرا خطابت کا۔

اور جب ماہ جمادی الآخرہ آیا تو اپنی نے آ کر خبر دی کہ شام میں بدر الدین بن جماعتہ کی بجائے امام الدین قزوینی کو قاضی مقرر کیا گیا ہے اور خطابت ابن جماعتہ کے پاس ہی ہے اور القیمر یہ کی تدریس بھی جو امام الدین کے ہاتھ میں تھی ابن جماعتہ کو دے دی گئی ہے اور اس بارے میں سلطان کا خط آیا اور اس میں اس کا اکرام و احترام کیا گیا تھا، پس اس نے ۲۲ رجب جمعرات کے روز القیمر یہ میں پڑھایا اور امام الدین ۸ رجب کو بدھ کے دن نماز ظہر کے بعد دمشق آیا اور العادلیہ میں بیٹھا اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیے اور شعراء نے قصائد میں اس کی مدح کی ان میں ایک قصیدے کا مطلع یہ ہے۔

”زمانہ تنگی کے بعد آسائش میں تبدیل ہو گیا ہے اور شام کی سرحدیں خوشخبری سے مسکر رہی ہیں۔“

اور دمشق میں داخل ہوتے وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اس پر سلطانی خلعت تھا اور اس کے ساتھ قاضی جمال الدین الزدادی تھا جو مالکیہ کا قاضی القضاة تھا اس پر بھی خلعت تھا اور سفر میں اس نے امام الدین کی سیرت کی تعریف کی اور اس کے حسن اخلاق اور حسن احوال کا ذکر کیا اور اس نے ۱۵ رجب بدھ کی صبح کو اپنے بھائی جلال الدین کے نائب عدالت مقرر ہونے کے متعلق بتانے کے بعد العادلیہ میں درس دیا اور دیوان صغیر میں خلعت پہن کر بیٹھا اور لوگ اسے مبارکباد دینے آئے اور اس کا حکمنامہ جمعہ کے دن نماز کے بعد الکمالی کھڑکی سے نائب سلطنت اور بقیہ قضاة کی موجودگی میں پڑھا گیا، اسے شرف الدین الغزالی نے پڑھا اور شعبان میں خبر آئی کہ شمس الدین الاعمر نے دیا مصر میں کچھری کی سرشتہ داری اور وزارت دونوں عہدے اکٹھے ہی سنبھال لیے ہیں اور دمشق میں کچھری کی نگہداشت زین الدین حصری کی بجائے فخر الدین بن السیر جی نے سنبھال لی ہے پھر اسے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں امین الدین بن ہلال کے ذریعے معزول کر دیا گیا اور کمال الدین بن الشریشی کے قاہرہ میں غائب رہنے کی وجہ سے زین الدین الفاروقی کو الناصریہ کے ساتھ الشامیہ البرانیہ بھی واپس کر دیا گیا۔

اور ۱۳۱۲ھ و القعدہ کو امیر شمس الدین قراسنقر منصور نے نائب دیار مصر نے لاجین اور اس کے ساتھ امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا اور مصر و شام میں ان کے اموال و ذخائر کی نگرانی کی گئی اور سلطان نے مصر کی نیابت پر سیف الدین منکوتمر الحسامی کو مقرر کیا اور جن امراء کو اس نے گرفتار کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے خراب کیا تھا اور عادل کے خلاف کتبغا کی بیعت کی تھی اور شیخ کمال الدین الشریشی آیا اور اس کے پاس الشامیہ البرانیہ کی بجائے الناصریہ کی تدریس کا حکمنامہ تھا اور امیر شمس الدین نے سنقر الاعمر وزیر مصر کو پکڑ لیا اور ۱۳۱۳ھ و الحجہ کو ہفتہ کے روز کچھری کو درست کیا اور مصر و شام میں اس کے اموال و ذخائر کی نگرانی کی اور ذوالحجہ

مصر میں باطلان کا کاما کہ ذمیوں میں سے کوئی شخص گھوڑے اور شیر پر سوار نہ اور ان میں جو شخص ان پر سار یا گیا اس سے اسے لے لیا جائے گا اور اس سال سلطان ملک مؤید بن محمد بن داؤد بن ملک مظفر نے جس کا ذکر اس سے پہلے سال ہو چکا ہے لیکن پر قبضہ کر لیا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

مصر کے حنابلہ کا قاضی القضاة:

عزالدین عمر بن عبداللہ بن عمر بن عوض المقدسی الحسنبلی آپ نے سماع حدیث کیا اور مذہب میں مہارت حاصل کی اور مصر میں فیصلہ دیا اور آپ اپنی سیرت اور فیصلہ میں قابل تعریف تھے آپ نے صفر میں وفات پائی اور مقطم میں دفن ہوئے اور آپ کے بعد شرف الدین عبدالغنی بن یحییٰ بن محمد بن عبداللہ بن نصر حرانی دیار مصر کے قاضی بنے۔

شیخ امام حافظ عقیف الدین:

ابو محمد عبدالسلام بن محمد بن مزروع بن احمد بن غزاز المصری الحسنبلی آپ نے آخر صفر میں مدینہ نبویہ میں وفات پائی آپ ۶۲۵ھ میں پیدا ہوئے اور کثیر سے سماع حدیث کیا اور پچاس سال مدینہ نبویہ کے ہمسائے رہے اور ان میں پے در پے چالیس حج کیے اور دمشق میں آپ کا جنازہ غائب پڑھا گیا۔

شیخ شید بن شیخ علی الحریری:

آپ نے حوران کی ہستی بسر میں ۱۳ ربیع الآخر کو جمعہ کے روز وفات پائی اور آپ کا بھائی اور فقراء دمشق سے آپ کے بھائی حسن الاکبر سے تعزیت کرنے کے لیے وہاں گئے۔

الشیخ الصالح المقری:

جمال الدین عبدالواحد بن کثیر بن ضرغام المصری ثم الدمشقی السبع الکبیر اور الغزالیہ کے نقیب آپ نے سخاوی کو سنایا اور سماع حدیث کیا آپ نے آخر جب میں وفات پائی اور جامع اموی میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور شیخ رسلان کے گنبد کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔

واقف السامریہ:

صدر کبیر سیف الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن جعفر بغدادی سامری ہیں سامریہ کا وقف کرنے والا جو دمشق میں الکروسیہ کی جانب ہے اور یہ آپ کا وہ گھر تھا جس میں آپ رہائش رکھتے تھے اور وہیں آپ دفن ہوئے اور آپ نے اسے دار الحدیث اور خانقاہ کے طور پر وقف کر دیا اور آپ دمشق منتقل ہو گئے اور آپ نے اسے دار الحدیث اور خانقاہ کے طور پر وقف کر دیا اور آپ دمشق منتقل ہو گئے اور آپ نے وہاں مدت تک اس گھر میں اقامت رکھی اور قدیم زمانے میں یہ گھر ابن قوام کے گھر کے نام سے مشہور تھا اس نے اسے گھرے ہوئے پتھروں سے تعمیر کیا تھا اور سامری بہت مالدار خوش اخلاق اور حکومت کے ہاں معظم اور اچھی معاشرت والا تھا اس کے اشعار شاندار اور اچھوتے تھے آپ نے ۱۸ شعبان کو سوموار کے روز وفات پائی اور آپ کو بغداد میں وزیر ابن العلقمی کے ہاں بھی بڑا مرتبہ حاصل تھا اور اس نے معتصم کی مدح کی اور اس نے اسے قیمتی سیاہ خلعت دیا پھر آپ شاہ حلب ناصر

کے زمانے میں دمشق آئے اور اس کے ہاں بھی مرتبہ حاصل کیا اور اہل حکومت نے آپ کے ہاں سے پیشگی کی تو آپ نے ان کے متعلق بجز جزی میں ایک قصیدہ تصنیف کیا جس کے باعث آپ نے ان کے خلاف ایک دروازہ کھول دیا اور بادشاہ نے ان سے بیس ہزار دینار کا مطالبہ کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تنقید کی اور آپ کے ذریعے اپنی اعتراض کے قریب ہوئے اور آپ نے حضرت نبی کریم ﷺ کی مدح میں بھی ایک قصیدہ کہا ہے اور حافظہ دیلمی نے آپ کے اشعار میں سے کچھ اشعار لکھے ہیں۔

رصیف میں النقیسیہ کا وقف کرنے والا:

الرئیس نفیس الدین ابوالفداء اسماعیل بن محمد بن عبدالواحد بن اسماعیل بن سلام بن علی بن صدقۃ الحرانی، آپ دمشق میں تعدیل کرنے والے ایک گواہ تھے اور آپ ایک وقت میں قیدیوں کے نگران بنے اور آپ بہت مالدار تھے آپ ۶۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور سماع حدیث کیا اور اپنے گھر کو وقف کر کے دارالحدیث بنا دیا آپ نے ۴۳ ذوالقعدہ کو ہفتہ کے روز ظہر کے بعد وفات پائی اور اتوار کی صبح کو اموی میں جنازہ پڑھے جانے کے بعد آپ کو قاسیون کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔

شیخ ابوالحسن المعروف بالساروب الدمشقی:

آپ کا لقب نجم الدین تھا، حریری نے آپ کے حالات کو بہت طول دیا ہے اور آپ کی کرامات اور علم الحروف وغیرہ میں آپ کی باتوں کو بیان کیا ہے اور اللہ ہی آپ کے حال کو بہتر جانتا ہے۔

اور اس سال قازان نے امیر نوروز کو قتل کر دیا جو اس کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا اور یہ نوروز وہ تھا جس نے اس کی تابعداری کی اور اس نے اسے دعوت اسلام دی پس وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اکثر تاری بھی مسلمان ہو گئے بلاشبہ تاریخوں نے قازان کے دل کو اس کے خلاف مشوش کر دیا اور اسے اس سے برگشتہ کر دیا اور وہ مسلسل اسی کیفیت میں رہا حتیٰ کہ اس نے اسے قتل کر دیا اور ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا جو اس کی طرف منسوب ہوتے تھے اور قازان کے ہاں یہ نوروز تاریخوں کے بہترین امراء میں سے تھا اور اپنے اسلام میں راست باز عبادت گزار اور اذکار و نوافل والا تھا اور البجید رحمہ اللہ نے اس کا قصد کیا اور اسے معاف کر دیا اور اس کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے بتسمیں اور ہیا کل بنائے اور جمعہ اور جماعات میں حاضر ہوئے اور قرآن پڑھے۔

۶۹۷ھ

اس سال کا آغاز ہوا تو الخاقم خلیفہ اور سلطان لاجین اور نائب مصر منکوتمر اور نائب دمشق قبیح تھا اور ۱۰ صفر کو جلال الدین بن حسام الدین نے اپنے باپ کی جگہ دمشق میں قضاء سنبھالی اور اس کے باپ کو مصر طلب کیا گیا تو وہ سلطان کے پاس ٹھہرا اور اس نے اسے شمس الدین السروجی کی بجائے مصر میں حنفیہ کا قاضی القضاة مقرر کیا اور اس نے اپنے باپ کے دونوں مدرسوں الخاقم اور المقدمیہ میں پڑھایا اور مدرسۃ القضاة عین اور الشلبیہ کو چھوڑ دیا اور اہلچلی کے ہاتھ سلطان کے اس معرکہ سے بچ جانے کی خبر آئی جس میں وہ گھر گیا تھا اور خوشی کے شادیا نے بچ گئے اور شہر کو آراستہ کیا گیا اور وہ پولو کھیلتا ہوا اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا حال شاعر کے اس قول کی مانند تھا۔

تو نے گرفت احسان اور معرفت کو جمع کر لیا اور ان سب کو گھوڑا نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کے ہاتھ نائب سلطنت کے لیے حکم اور

خلعت بھی آیا سو اس نے حکم کو پڑھا اور چوکھٹ کو بوسہ دیا اور ربیع الاول میں الجوزیہ میں عزالدین ابن قاضی القضاة تقی الدین سلیمان نے درس دیا اور امام الدین شامی اور اس کا بھائی جلال الدین اور فضاہی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوئی اور تدریس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور اپنے باپ کی ابازت سے اس کی طرف سے فیض کیا۔

اور ربیع الاول میں قاضی القضاة تقی الدین بن دتیب العیدنا راض ہو گیا اور اس نے نئی روز تک مصر میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیا پھر اس نے اس کی رضامندی چاہی اور وہ واپس آ گیا اور انہوں نے اس پر شرط عائد کی کہ وہ اپنے بیٹے محبت کو نائب مقرر نہ کرے اور ۱۰ ربیع الآخر کو جمعہ کے روز مدرسہ معظمیہ میں جمعہ پڑھا گیا اور اس میں اس کے مدرس قاضی شمس الدین بن المعز حنفی نے خطبہ دیا اور اس وقت مشہور ہو گیا کہ بدر الدین بیری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیار مصر میں اس کے اموال کی نگرانی کی گئی ہے اور سلطان نے علم الدین الریداری کے ساتھ حمون کے ٹیلے کی طرف ایک دستہ بھیجا اور اس نے اسے خدا کے فضل سے فتح کر لیا اور اس کی اطلاع ۱۲ رمضان کو دمشق آئی اور خلیلیہ ویران ہو گیا اور وہاں ظہر کی اذان دی گئی اور ۷ رمضان کو بدھ کے دن اس پر قبضہ ہوا تھا پھر اس کے بعد عرش فتح ہوا اور خوشی کے شادیاں بچے پھر فوج، قلعہ حموس کی طرف منتقل ہو گئی اور فوج کے ایک دستہ کو گزند پہنچا جس میں علم الدین سخر طقسبا کی ران میں وہ دو لکڑیاں لگیں جن سے سالوتری گھوڑے کو قابو کرتا ہے اور علم الدین الریداری کے پاؤں میں پتھر لگا۔ اور ۷ اشوال جمعہ کے دن شیخ تقی الدین بن تیمیہ نے جہاد کے لیے وقت مقرر کیا اور اس کے بارے میں ترغیب دی اور مجاہدین کی تحویلوں کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑی اور یہ ایک عظیم الشان بھرپور مقررہ وقت تھا۔

اور اس ماہ میں ملک مسعود بن خضر بن الظاہر بلاد الاشکری سے جہاں وہ اشرف بن منصور کے زمانے سے ٹھہرا ہوا تھا دیار مصر کو واپس آیا اور سلطان نے رسالے کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی تعظیم کی اور اس کا اکرام کیا اور اس سال امیر خضر بن الظاہر نے مصریوں کے ساتھ حج کیا اور ان میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ العباسی بھی شامل تھا اور ماہ شوال میں مدرسین اس مدرسہ میں بیٹھے جسے مصر کے نائب سلطنت نے تعمیر کیا تھا اور وہ المملوک ترمیرہ تھا جو باب القنطرہ کے اندر ہے اور اس سال بلاد سیسی میں دو قلعوں حمیس اور نجم پر قبضہ کرنے کی وجہ سے خوشی کے شادیاں بچے۔

اور اس سال بلاد مصر سے ایک دستہ اپنے اصحاب کی مدد کے لیے بلاد سیسی پہنچا اور وہ تقریباً تین سو جانباز تھے اور ۱۵ رذوالحجہ کو امیر عزالدین ایبک الحموی کو گرفتار کر لیا گیا جو شام کا نائب تھا اور اس کے اہل و اصحاب کے امراء کی ایک جماعت بھی گرفتار ہوئی اور اس سال دمشق میں پانی کی بہت کمی ہو گئی حتیٰ کہ بعض جگہوں میں وہ انسان کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا تھا اور زلزلہ میں بھی چلو بھر پانی باقی نہ رہا اور نہ وہ حسرین کے پل تک پہنچتا تھا اور شہر میں برف کا بھاؤ گراں ہو گیا اور نیل مصر میں بہت زیادہ پانی تھا۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ حسن بن شیخ علی الحریری:

آپ نے ربیع الاول میں بسر بستی میں وفات پائی اور آپ جماعت کے بڑے آدمیوں میں سے تھے اور آپ کے حسن

معاشرت اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں کا ایمان آپ کی طرف تھا آپ ۶۲۱ھ میں پیدا ہوئے۔
صدر کبیر شہاب الدین:

روانہ بن احمد بن عثمان بن ابی کرجم بن ابی الزہرہ اللہ شی بو ابن السلوں کے نام سے مشہور اور دریا بھائی تھا۔ اس نے حدیث پڑھی اور کثیر سے سماع کیا اور یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا اور بہت صدق و خیرات کرنے والا تھا اس نے جمادی الاولیٰ میں اپنے گھر میں وفات پائی اور جامع میں اس کا جنازہ پڑھا گیا اور باب الصغیر میں دفن کیا گیا اور مسجد ابن ہشام میں اس کی تعزیت ہوئی اور آپ نے ایک وقت جامع کی نگہداشت کا کام سنبھالا اور آپ کی سیرت قابل تعریف ہے اور اپنے بھائی کی وزارت کے زمانے میں اسے بڑی وجاہت حاصل تھی پھر یہ پہلے حال کی طرف واپس آ گیا یہاں تک کہ فوت ہو گیا اور اس کے جنازے میں بہت لوگ شامل ہوئے۔

شیخ شمس الدین الایکی:

محمد بن ابی بکر بن محمد الفارسی جو الایکی کے نام سے مشہور ہے آپ جلالین کے مشکل مقامات کو حل کرنے والے ایک فاضل ہیں، خصوصاً اصلین، منطق اور علم الاوائل کے معضلات حل کرتے ہیں اور ایک وقت آپ نے مصر میں مشیخ الشیوخ کو سنبھالا اور اس سے قبل آپ الغزالیہ کے مدرس تھے آپ نے المزہبہستی میں جمعہ کے روز وفات پائی اور ہفتے کو دفن ہوئے اور لوگ آپ کے جنازے میں پیدل چلے ان میں قاضی القضاة امام الدین قزوینی بھی شامل تھے یہ ۴ رمضان کا واقعہ ہے آپ قبرستان صوفیہ میں شیخ شملہ کے پہلو میں دفن ہوئے اور آپ کی تعزیت خانقاہ سمیسیطیہ میں ہوئی اور آپ کے جنازہ میں بہت لوگ شامل ہوئے اور آپ بہت سے علماء کے دلوں میں معظم تھے۔

صدر بن عقبہ:

ابراہیم بن احمد بن عقبہ بن ہبہ اللہ بن عطا البصر اوی آپ نے پڑھایا اور دہرایا اور ایک وقت میں حلب کی قضا سنبھالی پھر اپنی وفات سے قبل مصر کی طرف سفر کیا اور ایک حکم نامہ آیا جس میں حلب کے قاضی القضاة کا ذکر تھا اور جب آپ دمشق سے گذرے تو اس سال کے رمضان میں وہیں فوت ہو گئے آپ کی عمر ۸۷ سال تھی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو شخصیتیں بوڑھی نہیں ہوتیں حرص اور آرزوؤں کا دراز ہونا۔

الشہاب العابر:

احمد بن عبد الرحمن بن عبد المعتم بن نعمۃ المقدسی الحسنبلی، شہاب الدین رویا کی تعبیر کرنے والے آپ نے کثیر سے سماع کیا اور حدیث روایت کی اور آپ خوابوں کی تعبیر میں عجیب آدمی تھے اور آپ کو اس میں مہارت حاصل تھی اور اس بارے میں آپ کی ایک تصنیف بھی ہے جس میں وہ عجیب و غریب باتیں نہیں پائی جاتیں جو آپ سے نقل کی جاتی ہیں آپ ۶۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور القعدہ میں فوت ہوئے اور باب الصغیر میں دفن ہوئے اور آپ کا جنازہ بھر پور تھا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ



التماس سورہ فاتحہ برائے تمام مرحومین

۱ [شیخ صدوق	۱۳ سید حسین عباس فرحت	۲۵ بیگم داغلاک حسین	۳۷ محمد علی
۲ [علامہ مجلسی	۱۴ بیگم وسیہ جعفر علی رضوی	۲۶ سید ممتاز حسین	۳۸ قلام مجاہد بخش
۳ [علامہ اسماعیل حسین	۱۵ سید قلام حسین زیدی	۲۷ بیگم وسیہ اختر عباس	۳۹ بیگم وسیہ شمشاد حسین
۴ [علامہ سید علی نقی	۱۶ سیدہ نازیرہ	۲۸ سید محمد علی	
۵ [بیگم وسیہ عابد علی رضوی	۱۷ سیدہ رضویہ خاتون	۲۹ سیدہ رضیہ سلطان	
۶ [بیگم وسیہ احمد علی رضوی	۱۸ سید نجم الحسن	۳۰ سید مظفر حسین	
۷ [بیگم وسیہ رضا احمد	۱۹ سید مبارک رضا	۳۱ سید باسط حسین نقوی	
۸ [بیگم وسیہ علی حیدر رضوی	۲۰ سید ثبیت حیدر نقوی	۳۲ قلام نبی الدین	
۹ [بیگم وسیہ سید حسن	۲۱ بیگم مرزا محمد ہاشم	۳۳ سید ناصر علی زیدی	
۱۰ [بیگم وسیہ مردان حسین جعفری	۲۲ سید باقر علی رضوی	۳۴ سید وزیر حیدر زیدی	
۱۱ [بیگم وسیہ چار حسین	۲۳ بیگم وسیہ باسط حسین	۳۵ ریاض الحق	
۱۲ [بیگم مرزا اتو حید علی	۲۴ سید عرفان حیدر رضوی	۳۶ خورشید بیگم	